هدیۃ الشیعۃ

تصنیف لطیف

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
زمر ۱۷-۱۸
کتابخانہ عقیدہ
www.aqeedeh.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

یہ کتاب، عقیدہ لائبریری

(www.aqeedeh.com)

سے ڈانلوڈ کی گئی ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ
اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں، وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔

ھدیۃ الشیعہ
(اردو)

تصنیف لطیف

حجۃ اللہ حجۃ الاسلام، آیت من آیات اللہ، رئیس المتکلمین
استاذ الاساتذہ، منبع الحکمۃ ومعدن العلوم
حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نور اللہ
ضریحہٗ وبرد مضجعہٗ (بانی دار العلوم دیوبند)

ناشران

نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ

قیمت: چھتیس روپے/36

- شیعہ کے حافظ قرآن نہ ہونے کے اسباب ص ۱۷۰،۱۶ - آیت استخلاف خلفائے راشدین کی شان میں ص ۹۶ -
- امیر معاویہؓ امام عادل تھے ص ۶۷ - حب اہلبیت ص ۲۲۸ -
- اصطلاح چار یارؓ ص ۷۷ - یزید پلید ص ۲۱۱ -
- انکار امامت حضرت امیرؓ موجب کفر و فسق نہیں ص ۱۵۸ -
- اصحاب امام معاویہؓ ہم پر لعن طعن کرتے ہیں (قول سیدنا علیؓ) ص ۷۸
- جو کچھ اس کتاب میں انبیاءؑ و اہل بیت و اصحاب رسولؐ کی شان میں کوئی حرف ناشائستہ لکھا ہوا ہے میری اس سے ہزار بار توبہ ہے میں نے الزامی جواب دیا ہے ص ۱۱ (قول نانوتویؒ)

نام کتاب .... ہدیۃ الشیعہ

مصنف .... مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

ناشر .... نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور۔

تعداد .... پانچ صد (۵۰۰)

صفحات ۵۳۸

پریس .... معارف پرنٹنگ پریس ۔ لاہور

ملنے کا پتہ .... نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

″ ″ .... مکتبہ نعمانیہ ۔ اردو بازار گوجرانوالہ

سائز .... ۲۰ × ۲۶ / ۸

قیمت .... ۳۶ روپے

فہرست مضامین ہدیۃ الشیعہ

مضمون	صفحہ
تقدیم الکتاب از ناشر	۲
سرسید کے تاثرات مولانا کے بارے میں	۵
سبب تالیف	۹
کتاب کے جواب کی صحیح راہ	۱۰
ایک شبہ کا ازالہ	۱۱
نقل روایات میں مصنف کا رویہ	″
تحفہ اثنا عشریہ پر اعتماد	″
شیعہ کو ہمدردانہ مشورہ	۱۲
شیعہ کی دلیرانہ غلط بیانی	″
عمار علی شیعی کی دروغ گوئی کا ایک دلچسپ پہلو	۱۳
باب ۔ مذہب اہلسنت موافق قرآن مجید وحدیث پاک ہے۔ اور مذہب شیعہ مخالف ہردو	۱۴
اہل سنت اہل حق اور شیعہ اہل باطل ہیں دلائل	″
مضمون آیت پر تفصیلی نظر اور حق تلاوت میں ایمان کا انحصار	″
اہل سنت سے ادائیگی حق تلاوت اور شیعہ کی اس سے قطعی محرومی ۔	۱۵
بروئے آیت قرآنی قرآن کا حفظ ہونا حق ہونے کی نشانی	″
شیعوں کے حافظ نہ ہونے کا واقعات سے ثبوت	″
شیعہ ادائیگی حق تلاوت سے کیوں محروم ہیں۔	۱۶
شیعہ اپنے اساتذہ کے حق میں گستاخ ہیں۔	۱۷
تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے پیرو بھی حصر ایمانی میں شامل ہیں۔	″
آیت کے شان نزول سے بیان مذکور کی تائید	۱۸
ادائیگی حق میں دونوں فرقوں کی اکثریت کا لحاظ	۱۸
شیعوں کی راہ گریز اور اس کا انسداد	۱۹
اہلسنت کی کلام اللہ سے عقیدت اور شیعوں کی نفرت ،	″
شیعوں کی نظر میں کلام اللہ کی حیرتناک بے وقعتی	۲۰
حق تلاوت سے خشوع وخضوع مراد لینے میں نہ شیعوں کی مطلب براری ہے اور نہ یہ احتمال آیت شریفہ پر چسپاں ہے ۔	″
خشوع وخضوع مراد ہو تو ترتیب معانی الٹ جائیگی	۲۱
حق تلاوت سے کثرت تلاوت مراد ہو تو ترتیب معانی درست ہوگی ۔	۲۲
آیت مذکورہ میں ایک شبہ کا ازالہ	″
آیت مذکورہ کے ذیل میں ایک اور فائدہ	۲۳
استدلال مذکورہ پر ایک شبہ کے دو جواب	۲۴
کلام اللہ پر بے اعتباری اپنے پاؤں پر کلہاڑی ہے	۲۵
کلام اللہ غیر معتبر ہو تو حدیث بھی غیر معتبر ہوگی ۔	″
اہل بیت کا عمل کمی بیشی کے خیال کو لغو ثابت کرتا ہے	″
قرآن کا حد درجہ شیوع کمی بیشی پر ضرب کاری ہے	۲۶
قرآن کی بے پناہ شہرت عثمان کی عفت کا نشان ہے	″
قرآن کی حفاظت کا ثبوت خود قرآن مجید سے	۲۷
موجودہ قرآن دو تہائی کم ہے (عقیدہ شیعہ)	۲۸
حفاظت قرآن کے دو غلط مفہوم	۲۹
آلذِکر کے عجیب فوائد	۳۰
حفاظت قرآن کے غلط معنوں کا جواب	۳۱
حفاظت کا شیعی معنی یہود ونصاریٰ کو لب کشائی کا موقع دیتا ہے	۳۲

شیعہ ائمہ کو حلت و حرمت میں مختار ماننا چھوڑیں	
تو نصاریٰ سے مقابلہ ممکن ہے۔	۳۳
تحریف کے خیال کی قرآن بیخ کنی کرتا ہے۔	۳۵
عقیدۂ تحریف قرآن کو کتب منسوخہ کی حیثیت دیتا ہے	″
امام مہدی نزول کے وقت احکام قرآن پر عمل نہ کرینگے	۳۶
تحریف کا انکار اعتراضات سے بچاتا اور ختم نبوت	
پر ایمان پختہ کرتا ہے۔	۳۷
حق کے زور سے ابن بابویہ آخر سنیوں کا ہمزبان ہو گیا	۳۸
آیت مذکورہ سے سنیوں کی فضیلت کا انکشاف	″
آیت سوم کی بصیرت افروز تشریح	۴۱
حزن کے معنی سمجھنے میں بعض نا انصافوں کی فاش غلطی	″
شیعوں کی غلط فہمی کی ایک پرمذاق توجیہ	۴۳
اللہ کی معیت کی وضاحت	۴۴
آیت معیت سے حضرت ابوبکر کی مدد کا ثبوت	″
آیت معیت میں شیعوں کی طرف سے ایک عبارتی	۴۵
دھوکہ اور جواب	″
دارالندوہ کے واقعہ کی اصل شکل	۴۶
ملا عبداللہ مشہدی کی بے اختیارانہ حق گوئی	۴۸
سفر ہجرت میں صدیق کو ساتھ لینے کے وجوہ	″
آیت معیت کی منصفانہ ترجمانی	۵۰
آیت میں شیعوں کی ایک تاویل اور اس کا جواب	۵۱
آیت معیت کے الفاظ بھی شیعوں کو منہ توڑ	
جواب دے رہے ہیں	″
معیت حق صدیق کی ذات کے ساتھ تھی	۵۳
آیت میں معناً کا لفظ صدیق کے رتبہ کا آئینہ دار ہے	۵۴
لاتحزن کی ایک غلط تاویل اور اس کا جواب	″
تقیہ کا عذر لنگ۔	۵۶
لفظ صاحب کی لطیف تشریح اور صحابی و صاحب	۵۷
کا مفہوم	

صاحب بمعنی صحابی نہ ہو تو کچھ قدح نہیں	۵۷
نقل معنی کی حقیقی صورت	۵۸
لفظ صاحب میں بہ نسبت لفظ صحابی زیادہ	
فضیلت ہے۔	۵۹
خلافت صدیقی پر اعتراض اور اس کا جواب	۶۰
باب وعدہ خلافت و استخلاف	۶۲
آیۂ تمکین معتقدات شیعہ کے کسی طرح مطابق	
نہیں	۶۳
جن سے وعدہ تھا انکو تمکین ہی حاصل نہ ہو سکی	
تو وعدہ پھر بھی غلط ہی نکلا۔	۶۴
استخلاف بمعنی توطن نہیں بلکہ بمعنی تسلط ہے	۶۵
آیت سے صرف خلافت ہی نہیں بلکہ ترتیب خلافت	
بھی معلوم ہوتی ہے	۶۶
آیۂ استخلاف کے مصداق صرف خلفائے اربعہ ہیں	۶۷
آیۂ استخلاف کی بنیاد مہاجرین کی قربانیاں ہیں۔	۶۸
آیت استخلاف سے حقیقت خلافت قریش بھی	
ظاہر ہے۔	″
آیت مرقومہ حضرت فاروق کی ثقاہت کی دلیل ہے	۶۹
وصال کے وقت فرمان نبوی کی تعمیل نہ ہو سکنے	
کے اسباب	۷۰
حضرت عمر کی رائے کا وزن	۷۱
کاغذ قلم دوات نہ لانے میں سبھی شریک تھے	
صرف فاروق کیوں؟	۷۲
یہ خواب کہاں سے آیا کہ مقصد نبوی کتابت	
خلافت علیؓ تھا۔	۷۳
کتابت و تحریر خلافت صدیق قرین قیاس ہے	۷۴
خلفائے اربعہ اصالتاً اور دوسرے بطفیل خلفاء	
نعمت خلافت سے نوازے گئے۔	۷۵
ومن کفر شیعوں کے کفران نعمت کی طرف اعجازی اشارہ ہے	۷۶

تبرا حضرت علی کی نہیں، امیر معاویہ کی تقلید و	۷۷
اتباع ہے۔	
الفاظ آیت تحفظ فضیلت صحابہ کے لئے سنگین	
حصار کھینچتے ہیں	۷۸
خلفائے ثلثہ پر ارتداد کی تہمت خدا پر جھوٹ کا	
بہتان بھی ہے	۷۹
ومن کفر کے اصل مصداق	۸۰
باب مناقب صحابہ بذیل تفسیرات آیۂ محمد رسول الخ	″
امت میں آنحضرت کے بعد صحابہ اور رسالت کے	
بعد بغض فی اللہ کا درجہ ہے۔	۸۱
صفات صحابہ میں اشداء کو باقی صفات پر مقدم	
کرنے کی وجہ۔	۸۲
محبوب کے متعلقین کی محبت محبوب ہی کی محبت ہے	″
متعلقین محبوب کی محبت محبوب کی محبت کا جزو ہے	۸۳
بدخواہان سے عداوت محبت کا جزو نہیں، لازم ہے	″
مدح میں ہلکی پھر بڑھیا پھر اور بڑھیا خوبی بیان	
کرنا صحیح ترتیب ہے	۸۴
محبت کرنا آسان اور دشمنی مشکل خصوصاً اقرباء سے	″
نفس و شیطان کی آمیزش بغیر غلط فہمی سے کوئی	
غلطی ہو تو امید ثواب ہے	۸۶
مشاجرات صحابہ کا باعث نفس و شیطان نہیں	
بلکہ بغض فی اللہ تھا۔	۸۷
نفس دب سکتا ہے لیکن اس کا مزاج نہیں بدل سکتا	۸۸
نیکی کی اصل روح۔ اور بدی کی اصل نفس ہے	″
روح عالم ملائکہ کی ایک چیز ہے۔ اور نفس طبقہ	
شیاطین میں سے ہے۔	۸۹
انسان میں نیکی بدی کے مختلف دور ملائکہ اور	
شیاطین کی تقویت اور تاثیر سے ہوتے ہیں	″
نفس دب جائے تو اشداء علی الکفار کا مقام ہاتھ آتا ہے	۹۰

نفس دب جائے تو بھی قابل اعتبار نہیں	۹۰
انسان ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رہ سکتا	″
غلبۂ نفس اور مغلوبیت نفس سے سرزد ہونے والی	
خطاؤں میں بے حد فرق ہے۔	۹۱
اشداء علی الکفار سے خطا ممکن لیکن ان پر تسلط	
شیطان ناممکن۔	۹۲
اشداء اور رحماء کے لئے اخلاص لازم اور ریا ناممکن ہے	″
غلط فہمی کے سبب بڑوں بڑوں سے خطا ہو جاتی ہے	″
امکان خطا کے باوجود اتنی تعریف دلیل غفران و رضا ہے	۹۴
تعریف صحابہ کا ایک مقصد آنے والے دشمنوں کو	
چڑانا اور جلانا بھی ہے	
صحابہ کرام شیعوں کے بھی محسن ہیں۔	۹۵
صحابہ کی تعریف قرآن کی پیشین گوئی ہے کہ آئندہ	
صحابہ کے بدگو پیدا ہوں گے۔	″
صحابہ سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ غیر مشروط ہے	۹۶
ایمان کے معنے اور مراتب یقین	″
علم الیقین۔ عین الیقین۔ اور حق الیقین	۹۷
محبت حق الیقین کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے	۹۸
صحابہ حق الیقین کے مراتب پر فائز اور حب	
فی اللہ و بغض فی اللہ میں راسخ تھے	″
صحابہ کا مقصد صرف رضائے الٰہی تھا	۹۹
صحابہ کی محبت و تسلیم سے اوپر کسی محبت و تسلیم	
کا درجہ نہیں۔	۱۰۰
حق الیقین کے مراتب میں تفاوت ہے۔	″
باہمی مناقشات رحماء بینہم کے منافی نہیں ہیں۔	۱۰۱
صحابہ کی رنجش کا سبب بھی محبت تھی	″
جن روایات پر تشیع کی بنیاد ہے ان کے راویوں کی	
ثقاہت کا حال	۱۰۲
آیت ہجرت میں رضائے الٰہی کا مدار صرف ہجرت پر ہے	۱۰۴

ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ میں ایک عجیب فرق ۱۰۴
آیت السابقون میں صرف ہجرت مدینہ منورہ مراد ہے ۱۰۵
آیۂ ہجرت سے صرف رضائے الٰہی ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کا ایمان اور اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ۱۰۶
دوام جنت کی خوشخبری سے بڑھ کر حسن خاتمہ کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ 〃
آیات فضائل صحابہ میں شیعہ جو قدح کریں گے وہی خارجی اہل بیت کے بارے میں کرینگے۔ 〃
صحابہ کے لئے قیامت میں رسوائی نہیں اور کفار و فساق کے لئے رضائے الٰہی نہیں۔ ۱۰۷
صحابہ کے مشاجرات نہ کفر تھے نہ فسق کیونکہ دونوں رضائے الٰہی کے منافی ہیں۔ ۱۰۸
عقیدۂ تفضیل ائمہ پر آیت اعظم درجۃ کی ضرب کاری ۱۰۹
باب عقیدۂ بدا کی تفصیل میں۔ ۱۱۰
بدا کی پرخار وادی اور علمائے شیعہ کا اضطراب 〃
بدا کے ایک معنے 〃
بدا کے دوسرے معنے 〃
بدا کے تیسرے معنے 〃
بدا کی تین قسمیں ۱۱۱
بدا اور نسخ میں ایک اشتباہ کا ازالہ 〃
بدا کی تینوں قسمیں ایک دوسرے کو لازم ہیں ۱۱۲
عقیدہ بدا کے نتائج۔ (۱) چاردہ معصوم کی مغفرت مشکوک ۱۱۳
امام آخرالزماں کی طویل روپوشی اندیشناک ہے 〃
پسر امام کو امام بنانے میں خدا کو شاید بدا واقع ہوا ہو ۱۱۴
امام زماں کو شاید بدا کی وجہ سے خدا معزول کر چکا ہو 〃
عقیدہ بدا کا استیصال قرآن مجید سے ۱۱۵
قواعد عقائد شیعہ کی رو سے خدا سے خطا ممکن۔ معصوم سے ناممکن 〃
بدا کا عقیدہ رکھنے والوں کیلئے حضرت جعفر کی بددعا ۱۱۶
حق واضح ہونے کے بعد ماننا ضروری ہے۔
پھر کسی اور بات کا انتظار حماقت ہے۔ ۱۱۷
بدا جیسے واہی عقیدہ کی غلط بنیادیں ۱۱۸
ابتلا و امتحان سے مقصود خداوندی قطع حجت ہے نہ کہ تحصیل علم 〃
امتحان بغرض قطع حجت کی ایک قرآنی مثال 〃
بعثت انبیاء اور تکالیف شرعیہ کی وجہ بھی قطع حجت بنی آدم ہے ۱۲۰
دوزخی اور جنتی پہلے ہی طے ہیں۔ ۱۲۲
اَخبارُکُم کے تفسیری فوائد۔ ۱۲۳
جیسے بعض جگہ بالاتفاق ماضی سے مجازاً مستقبل مراد ہے ۱۲۴
اسی طرح بعض جگہ مستقبل سے بھی ماضی مراد ہے 〃
حوادث آئندہ یقینیہ کو ماضی اور وقائع مخفیہ ماضیہ کو مجازاً مستقبل سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔ اس کی مثال ۱۲۵
ازلی سعادت و شقاوت کی عام فہم مثال ۱۲۶
تینوں زمانے مجتمعۃً موجود ہیں فنا نہیں ہوئے۔ ۱۲۷
سب زمانے احاطۂ خداوندی میں ہیں ۱۲۸
ماضی و مستقبل بھی خدا کے لئے حال کا حکم رکھتے ہیں مگر باہم مقدم مؤخر ہیں۔ 〃
کلام الٰہی میں ماضی و حال و استقبال کے استعمال کی ترتیب ۱۲۹
وقائع عالم قدیم نہیں ہو سکتے کیونکہ مستمر نہیں ۱۳۰
حصول علم کے دو طریقے۔ بالواسطہ و بلاواسطہ 〃
اکثر ایک چیز کا علم بواسطہ اور بے واسطہ دونوں ساتھ آتے ہیں۔ ۱۳۱
کبھی علم بواسطہ علم بے واسطہ میں محو ہو جاتا ہے 〃
کبھی دو چیزوں کا علم بے واسطہ یا ایک کا بے واسطہ دوسرے کا بواسطہ بھی اکٹھے ہی حاصل ہو جاتے ہیں 〃
بے واسطہ اور بواسطہ حاصل ہونے والے علم الٰہی میں کوئی تقدم تاخر نہیں۔ ۱۳۲
کلام الٰہی میں ماضی و حال علم بے واسطہ سے تعبیر ہے اور استقبال علم بالواسطہ سے۔ 〃
بنی آدم کے علوم چونکہ بواسطہ ہیں، اسلئے بصیغہ استقبال (بواسطہ) تکلم فرمایا۔ ۱۳۳
اگر علوم بے واسطہ سے تکلم فرماتے تو وہ بنی آدم پر حجت نہ ہوتے۔ 〃
محو و اثبات کی بحث اور علم الٰہی کے دو دفتر ۱۳۴
عقیدۂ بدا کا قرآن مجید سے مضحکہ خیز ثبوت 〃
علم الٰہی قدیم، غیر متغیر، محیط ہے ۱۳۵
عقیدہ بدا خدا کے لئے جہل مرکب تجویز کرتا ہے ۱۳۶
عقیدۂ بدا تمام موجودات کو ایک طرح خدا پر فضیلت دیتا ہے 〃
تمام عالم علم الٰہی سے محو و اثبات کا دفتر ہے 〃
لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ کی عجیب تفسیر ۱۳۷
محو و اثبات علم الٰہی میں نہیں، لہٰذا بدا کی گنجائش بھی نہیں ۱۳۸
محو و اثبات احکام میں ہو تو حذاقت ہے بدا نہیں ۱۳۹
عقیدۂ بدا پر تیسرا استدلال اور اس کے جوابات ۱۴۰
لفظ میثاق کی تفسیر ۱۴۲
بدا کے لئے کذب لازم ہے۔ ۱۴۴
مخاطب کی غلط فہمی سے علم الٰہی میں بدا ثابت نہیں ہو سکتا ۱۴۵
آیۂ میثاق کی دو دیگر تفسیریں اور بدا کا استیصال ۱۴۶
خاتمۂ مباحث بدا ۱۴۷
بدا کے ضمن میں ائمہ کے علم غیب پر بحث ۱۴۸
علم ماکان وما یکون تسلیم کرنے میں مساوات لازم ہے 〃
ایک عجیب تفسیری لطیفہ ۱۴۹
بفرض اگر علوم غیب ائمہ کے لئے ثابت بھی ہو تو بدا کا خدشہ دور نہیں ہوتا۔ ۱۵۰
مناقب صدیق رض ۱۵۲
صدیق رض کی شجاعت اور استقامت ۱۵۳
مقام تعریف مقام تصریح ہوتا ہے۔ نہ کہ مقام اخفا ۱۵۴
مناقب عمر رض بزبان امیر رض ۱۵۶
باب عقیدۂ تقیہ۔ عقیدۂ تقیہ اور اس کے عقلی و نقلی مباحث ۱۵۷
تقیہ شیعہ اپنی روایات کے آئینہ میں ۱۵۸
موت پر اختیار، علم غیب، بے انتہا شجاعت، پھر تقیہ کیوں؟ 〃
حضرت امیر رض نے وفات کے بعد صدیق کے مناقب حلفاً بیان کئے۔ اس وقت خوف بھی نہ تھا۔ ۱۵۹
حکایات تقیہ کی کتب شیعہ، بزور تکذیب کرتی ہیں ۱۶۱
انبیاء اور ائمہ کا منصب حق گوئی اور صبر و تحمل ہے ۱۶۲
تقیہ اگر فرض تھا تو امام حسین کی شہادت معصیت ہوگی۔ ۱۶۳
امام کا اپنی کرامت سے حضرت عمر کو مرعوب کر دینا 〃
تقیہ از روئے عقل و نقل و عرف ۱۶۵
تقیہ از روئے کلام اللہ ۱۶۶
تقیہ جنت سے محرومی کا سبب ہے، ۱۶۷
خوف کفار سے سست ہونا ممنوع ہوا تو تقیہ تو دور کی بات ہے 〃
تقیہ سبب عتاب ہے نہ کہ موجب ثواب۔ ۱۶۸
انبیاء خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ 〃
خاتم الانبیاء کو تبلیغ کا تاکیدی امر ۱۶۹
انبیاء اور ان کے نائبین، سب کا مقصد انذار و تبشیر ہے 〃
آنحضرت کی بعثت کا مقصد ہی اظہار دین تھا ۱۷۰
تبلیغ دین انبیاء، علماء، ائمہ پر فرض ہے۔ ۱۷۱
آنحضرت کی مکی زندگی تقیہ کا استیصال ہے۔ ۱۷۳
صبر کے فضائل اور ترغیب جس سے تقیہ کی حقیقت کھلتی ہے ۱۷۴

جہاں اظہار حق نہ ہو سکے ہجرت واجب ہے	۱۷۴
اکراہ میں بھی اظہار حق افضل ہے	۱۷۵
سیدنا ابراہیم کے کسی واقعہ سے اخفاءِ دین ثابت نہیں	۱۷۶
اخفائے علاقہ زوجیت اخفائے دین نہیں ہے۔	۱۷۷
بچاؤ اور تقیہ میں عظیم فرق	۱۷۸
حضرت امیر زبزعم شیعہ سنت احمدی وموسوی وابراہیمی کسی پر بھی عمل پیرا نہ ہو سکے	۱۷۹
دوران خلافت میں بھی امیر پر تقیہ واجب تھا۔	۱۸۰
خلافت امیر میں تقیہ کی بہتان کا پس منظر	〃
حضرت امیر وسائل رکھتے ہوئے بھی اظہار دین نہ کر سکے	۱۸۱
صدیق نے بے سروسامانی میں اظہار حق کیا۔	۱۸۲
مقربان الٰہی کا طریقہ اظہار حق کرنا اور جفائیں اٹھانا ہے	۱۸۳
تقیہ عرف اور دستور کی کسوٹی پر	۱۸۴
حضرت صدیق کو صدیق نہ کہنے والے کے لئے حضرت جعفر کی بد دعا	۱۸۵
امام جعفر پر تقیہ حرام تھا	〃
امام جعفر کی بد دعا سے حقانیت اہلسنت ظاہر ہو گئی	۱۸۸
امام جعفر پر ایک اعتراض جو خودکشی کی نوعیت رکھتا ہے	۱۸۹
نقل خط مولوی عمار علی شیعی	۱۹۱
جواب خط	۱۹۰
نبات طیبات از روئے کلام اللہ شریف	۱۹۸
نبات طیبات کی تعداد از روئے کتب شیعہ	۱۹۹
مذکور نہ ہونا معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے	۲۰۰
عمار علی کی تاریخ دانی	۲۰۱
مسلمان عورتوں کو قید کفار سے رہائی دلانے کا حکم	۲۰۲
ذی النورین کے فضائل اور شہادت کی تفصیل	۲۰۳
عمار علی کی فنون عربیہ میں مہارت	۲۰۴
ذی النورین کے بچاؤ کے لئے صحابہ اور اہلبیت کی جانکاہی۔	۲۰۶
ذی النورین کے لئے امیر کی مدافعت	۲۰۸
حضرت امام کا کوئی معاملہ ظاہر داری نہ تھا	۲۰۹
دفاع عثمان کے لئے دیگر صحابہ کا رویہ	〃
حضرت علی پر بزدلی کا بہتان	۲۱۰
حضرت علی تمام دنیا پر بھاری تھے	۲۱۱
حضرت علی (بزعم شیعہ) شجاعت میں بے مثل اور اپنی موت پر قابو یافتہ تھے	〃
حضرت علی نے پوری زندگی خوف وذلت سے گزاری	۲۱۲
حضرت علی باوجود بے مثل شجاعت کے (بزعم شیعہ) سیدہ کو فدک نہ دلا سکے	۲۱۳
حضرت ام کلثوم کے نکاح کی بحث	۲۱۴
فاروق سے ام کلثوم کا نکاح حضرت عباس نے پڑھا تھا	۲۱۶
بزعم شیعہ حضرت عباس اعراف میں ہوں گے	۲۱۷
محبوب رسول اعراف میں اور یہودی ونصرانی جنت میں	〃
حضرت علی کی خاموشی بوجہ رضامندی تھی	۲۱۸
فاروق اگر کافر ہوں تو امام پہلے ہوں گے۔ معاذ اللہ	〃
تزویج ام کلثوم کا کتب شیعہ سے ثبوت	۲۱۹
شیعہ کو اہلبیت سے محبت نہیں صحابہ سے عداوت ہے	۲۲۰
حب علی اگر کافر کو جنت میں لے جائے تو تبرا بھی لے جائے گی	〃
حضرت ام کلثوم سے فاروق کی اولاد	۲۲۲
باب مباحث فدک	۲۲۳
حب اہل بیت وحب صحابہ ایمان کے دو پر ہیں	۲۲۴
حب اہلبیت وصحابہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں	〃
شیعوں نے عترت میں سے بعض کی تکریم کی اور اکثر پر تبرا کیا۔	۲۲۵
اہل بیت سے مراد کون ہیں۔	۲۲۶
خاندان امام کو عبا میں لے کر دعا کرنے کی وجہ	۲۲۷
شیعہ اولاد فاطمہ کی اکثریت کے دشمن ہیں	۲۲۹
شیعہ کی امیر سے محبت جو دشمنی سے بھی بدتر ہے	۲۳۰
انبیا ائمہ سے بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں	۲۳۱
افضلیت انبیاء کتب شیعہ سے	〃
شیعہ نے خدا اور ائمہ کی گواہی صدیق کے بارے میں رد کر دی	۲۳۳
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کج فہموں کے لئے عبرت ہے۔	۲۳۵
بالفرض اگر صدیق سے گناہ ہوا تو وہ نیکی بن چکا ورنہ ائمہ تعریف نہ فرماتے۔	〃
گناہ سے توبہ پر جنت میں داخلہ سب کو مسلم ہے	۲۳۶
نیکیاں زیادہ ہونے پر جنت میں داخلہ متفق علیہ ہے	۲۳۷
مہاجرین اولین سے جنت عدن، مغفرت، رضا کا وعدہ ہو چکا۔ اور خدا وعدہ خلاف نہیں	۲۳۸
حضرت کلیم کا بچھڑے کو جلانا مبنی برحکمت تھا	۲۳۹
غصب فدک پر آیۂ ذاالقربیٰ سے استدلال	۲۴۰
غصب فدک کے بہتان کا تاریخی جائزہ	〃
آیت ذاالقربےٰ مکیہ ہے مکہ میں فدک کہاں تھا؟	۲۴۱
کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا مراد ہے؟	۲۴۲
ذاالقربےٰ سے سیدہ اور حقہ سے فدک مراد ہو تو کئی محذور لازم آئیں گے۔ پہلا محذور خویش پروری	〃
دوسرا محذور بلاغت کی مخالفت تیسرا اتقیا اقربا پر ظلم	۲۴۳
چوتھا آنحضرت کی طرف ادائیگی حقوق میں کوتاہی کی	۲۴۴
نسبت۔ پانچواں محذور بنی ہاشم کے لئے خمس حرام	۲۴۵
چھٹا بعد وفات سید جو غنائم آئیں وہ ان کی ملک نہ تھیں تو حقہ کیوں فرمایا۔	۲۴۶
ساتواں مال غنیمت ائمہ کے لئے حرام ورنہ دیگر مستحقین کے لئے بھی جائز	〃
آٹھواں سیدہ کے لئے صرف فدک، اغیار کے لئے سب کچھ	〃
نواں۔ خدا پر بے انصافی کا الزام	۲۴۷
اہلسنت کے ہاں روایت کے صدق وکذب کا معیار قرآن مجید ہے	۲۴۷
روایت فدک آیت کے سیاق وسباق کے مخالف ہے	۲۴۸
وآت ذاالقربی میں خطاب خاص وخطاب عام ہے	۲۵۰
حقہ کا معنی فدک کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔	۲۵۲
ابن سبیل اور مسکین بھی استحقاق میں ذاالقربےٰ کے ہم پلہ ہیں۔	۲۵۳
آت ذاالقربےٰ اگر مدنی ہے تو واعلموا کی طرف اشارہ ہے۔	۲۵۴
فصل۔ کتاب ومصنف کتاب کے قابل قبول ہونے کی چھ شرطیں۔	۲۵۶
اہلسنت کی کتب میں اہل تشیع کے الحاقات	۲۶۰
اہلسنت کا نظام حفاظت	〃
مصنف معتبر ہو تو ضروری نہیں کہ تصنیف بھی معتبر ہو	۲۶۲
مصنف تحفہ قدس سرہ کی ایک عبارت	〃
عمار علی نے بعض کتب شیعہ بھی اہلسنت کی طرف منسوب کر دیں۔	۲۶۴
علامہ سیوطی کی تصانیف پر مصنف کتاب کی رائے	۲۶۵
واقدی کے بارے میں ائمہ محدثین کی رائے۔	۲۶۷
عمار علی کی تاریخ دانی	۲۶۸
فدک فئی تھا موہوب ومملوک نہ تھا	〃
فدک کے مختلف تاریخی دور	۲۶۹
ہبہ اور عطاء میں فرق	۲۷۲
اہل شیعہ کی مستندات رطب ویابس سے زیادہ نہیں	۲۷۳
اہل سنت نے جو روایات بغرض تردید نقل کی ہیں شیعہ ان کو سند بناتے ہیں۔	〃
درمنثور کے حوالہ کی حقیقت	۲۷۵
سیوطی نے اس روایت کو موضوع سمجھ کر نقل ہی نہیں کیا	۲۷۷

فدک کے معاملہ میں حضرت علی کا رویہ اس روایت کے بطلان کی تیسری دلیل ہے	۲۷۸
اہل شیعہ کی طرف سے حضرت علی کے رویہ کی پہلی تاویل	〃
از روئے قواعد شیعہ سیدہ کا مطالبہ فدک غلط تھا	۲۸۰
قواعد شیعہ کی رو سے حضرت علی کا خلافت قبول کرنا بھی درست نہ تھا۔	۲۸۱
حضرت علی کے رویہ کی دوسری تاویل۔ اور اس کا جواب	۲۸۲
تیسری تاویل اور اس کا جواب	۲۸۳
چوتھی تاویل اور اس کا جواب	۲۸۴
خلیفہ چہارم کے پاس خلیفہ اول کی نسبت اعوان و انصار کی کثرت	۲۸۵
کتب اہل سنت میں دعوائے سیدہ برائے فدک بروایت ضعیف بھی مذکور نہیں	۲۸۶
روایت ہبہ کے غلط ہونے کی دو دلیلیں	۲۸۷
کتب محولہ کے مؤلفین نے صحت کا التزام نہیں کیا۔	۲۸۹
تقیہ کے پردے میں اہل شیعہ کی خطرناک خیانت	۲۹۰
لسان المیزان میں چند فریب کاریوں کی نشان دہی	۲۹۲
دعوئے فدک کی روایت اگر صحیح بھی ہو تو بھی کام نہیں چلتا۔	۲۹۴
شیعوں کی پیش کردہ روایات سے بشرط صحت بھی ہبہ فدک ثابت نہیں ہوتا۔	۲۹۶
لفظ عطاء، ہبہ اور عاریت میں مشترک ہے اس پر مسلمہ حدیث سے استدلال	۲۹۷
لفظ عطاء کو بمعنی ہبہ بنانے کی ناکام کوشش	۳۰۱
تعین معانی کے لئے قرائن کی بحث	۳۰۲
فدک کے لئے سیدہ کی شہادت بھی نامکمل تھی۔	۳۰۳
حضرت زید کے بارے میں دریدہ دہنی اور اس کا جواب	〃
فدک کے بارہ میں حضرت زید کا قول ہی صحیح ہے	۳۰۵
شیعہ قرآن و حدیث کے کسی لفظ کے معنی متبادر مراد نہیں لے سکتے۔	۳۰۶
روایت فدک منقطع ہے	۳۰۷
مشکوٰۃ کی روایت مرفوع متصل ہے۔	۳۰۸
فدک تادم آخر خاتم الانبیاء کے تصرف میں تھا	۳۰۹
اگر فدک ورثہ تھا تو شخص واحد کا قبضہ بقیہ ورثاء پر ظلم تھا۔	۳۱۰
دعوائے ہبہ بغیر قبض مسلم نہیں علامہ حلی کا بیان	۳۱۱
دعوائے ہبہ فدک کے بطلان پر احادیث طرفین سے استدلال۔	〃
مسئلہ شہادت اور شاہدین کی تعداد پر محققانہ بحث	۳۱۴
سیدہ تو ضابطہ شہادت کی زیادہ پابند ہونی چاہیئے	۳۱۶
منہج الکرامت کی روایت کے مطابق حضرت صدیق نے فدک سیدہ کو واپس دے دیا تھا	۳۱۸
حضرت عمرؓ پر عمار علی کا بہتان	۳۱۹
حضرت صدیق کے حضرت جابر کو بغیر شہادت کے مال دینے کے وجوہ	〃
حضرت جابر کو نہ دینے میں خلاف وعدہ کا احتمال آنحضرت کی طرح عاید ہوتا ہے۔	۳۲۱
شیعوں کی اہل بیت اور نصاریٰ کی حضرت عیسےٰ سے ایک جیسی محبت ہے۔	۳۲۶
اگر ام ایمن اور امام کی گواہی اتنی اہم ہے تو خلفاء رسول اور قرآن و ائمہ اہل بیت کی گواہی صحابہ کے بارے میں کیونکر اہم نہ ہوگی	۳۲۸
سیدہ سے گواہی طلب کرنا خطاء اجتہادی تھی جو باعث قدح نہیں۔	۳۳۰
حضرت سجاد اگر باوجود ابلیس کے کلی تصرف کے مومن ہیں تو ابوبکر صدیق بطریق اولےٰ ہیں	۳۳۱

فصل حدیث ما ترکناہ صدقۃ کی تحقیق انیق	۳۳۲
گواہوں کی شرعی تعداد اور آنحضرت کا تادم آخر قبضہ صدیق کی برات کا مضبوط سامان ہے۔	۳۳۳
حدیث مذکور کلام اللہ کے عین مطابق ہے	۳۳۶
شیعہ کا ما ترکناہ صدقۃ پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۳۷
یوصیکم اللہ سے آنحضرت مستثنےٰ ہیں، اسکے دلائل	۳۴۱
آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے استثناء کی دیگر نظیریں	۳۴۳
حدیث مذکور مخصص آیۂ توریث ہے نہ کہ معارض۔	۳۴۶
جیسے آنحضرت فانکحوا ما طاب سے مستثنےٰ ہیں۔ ایسے ہی یوصیکم اللہ سے ہیں	۳۴۷
یوصیکم اللہ کی مخصص دوسری آیت بھی ہے۔	۳۴۹
آنحضرت فدک کے مالک نہ تھے متولی تھے۔	۳۵۱
آیت کے ہر لفظ سے فدک کا مملوک ہونا ظاہر ہے	۳۵۴
لام تملیک کے لئے ہو تو اموال فیٔ بغیر مملوکہ خدا ہونگے	۳۵۵
آیت کا مقصد بیان تملیک نہیں ہے	〃
آیت میں لام تملیک کے معنے لینے میں مفاسد	۳۵۸
آپ کی ملک میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ زندہ ہیں	۳۶۰
خدا کی مالکانہ شان آپکو اتنی مشاہد تھی۔ کہ اپنی ہر چیز کو عاریت یقین کرتے تھے۔	〃
ایک شبہ کا ازالہ	۳۶۱
آیت میں لام بیان مصارف کے لئے ہے	۳۶۲
شیعہ کا اعتراض کہ آیت کا مقتضےٰ زمین کی تقسیم تھا۔ اور آپ آمدنی تقسیم فرماتے رہے۔	۳۶۳
اعتراض کا جواب کہ اموال فیٔ وقف ہیں نہ کہ ملکیت	۳۶۵
فیٔ اور صدقات کا ایک دقیق فرق	۳۶۶
معصوم سے خطاء سرزد ہونا محال نہیں	۳۶۷
اموال فیٔ آپ کی ملک نہ تھے تیسری دلیل	۳۶۸
مصارف مندرجہ آیت کی تعیین و استحقاق کی باریک حکمت	〃
مصارف فیٔ کی ترتیب لفظی کی حکیمانہ تشریح	۳۶۹
اموال فیٔ آپ کی ملک نہ تھے چوتھی اور پانچویں دلیل	۳۷۰
چھٹی دلیل	۳۷۱
ساتویں دلیل	۳۷۳
ذوالقربےٰ کو اگر فیٔ کا مالک مانیں تو دو خرابیاں موجود ہیں۔	۳۷۴
ما ملکت یمینک سے دعوائے وقف پر اشکال اور اس کا جواب	۳۷۵
وقف کا معنی کیا ہے؟ اور کونسی اشیاء وقف کے قابل ہیں	۳۷۷
اشیائے منقولہ میں سے پھل اور غذا وقف کے قابل نہیں	۳۷۸
سواریاں اور کپڑے بھی وقف کے قابل نہیں۔	۳۷۹
امام ابو حنیفہ کا اشیاء منقولہ کو غیر قابل وقف کہنے کی وجہ	۳۸۰
صاحبین کے اشیاء منقولہ کو وقف کہنے کی وجوہ	۳۸۱
صاحبین کی رائے بھی مقصود کے مخالف نہیں	〃
اشیاء منقولہ کا وقف فقراء مساکین کو مفید ہی نہیں	۳۸۲
بعض اشیائے منقولہ جو حاجت براری نہیں کرتیں مگر ان میں قابلیت ہے۔	۳۸۴
ما ملکت یمینک کے لفظی فوائد	۳۸۵
اموال فیٔ میں آنحضرت کے حصہ کی نوعیت	〃
مصارف کے مقرر کرنے کی وجہ اہل مصارف کی ناداری ہے	۳۸۷
مما افاء اللہ کے لغوی فوائد	۳۸۹
فیٔ کے معنی کی تعیین	〃
آنحضرت سے فہم قرآنی میں غلطی ناممکن تھی کیونکہ اصلاح کے لئے وحی جاری تھی	۳۹۰
آیۂ ما افاء اللہ یوصیکم اللہ کی مخصص ہے	۳۹۱
یوصیکم اللہ فدک کو شامل ہی نہیں۔	۳۹۲
یوصیکم اللہ کی جیسے بہت سی احادیث مخصصہ ہیں ایسے ہی ما ترکناہ بھی ہے۔	〃
بعض آیات اور روایات شیعہ میں کلی تضاد	۳۹۳
قول قابل اتباع ہے فعل میں خصوصیات کے احتمالات ہیں	۳۹۴

حدیث لانورث تفسیر دمبین آیت ہے اور روایت شیعہ مخالف	۳۹۵
اگر ائمہ نے روایت فدک بلا واسطہ آنحضرت بیان کی ہے تو دو خرابیاں لازم آئیں۔	۳۹۶
حدیث لانورث اگر غلط بھی ہو تو بھی فدک ہاتھ نہیں آتا۔	۳۹۷
فصل. وراثت انبیاء پر بحث کردہ مالی ہے یا علمی؟	۳۹۸
وورث سلیمان میں وراثت مالی مراد نہیں۔	۴۰۲
وراثت سے مراد علم دین ہے (بروایت ائمہ شیعہ)	۴۰۳
سیاق وسباق آیت سے بھی وراثت علمی ظاہر ہے	〃
کلام اللہ میں وراثت کو صرف علم کے لئے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔	۴۰۴
کلام اللہ میں وراثت بمعنے قائم مقام	۴۰۵
وراثت بمعنے حاوی ومسلط	۴۰۶
وراثت علمی اگر معنی مجازی ہو تو مجاز متعارف ہے	۴۰۸
کلینی کی روایت جس میں وراثت علمی کی صراحت ہے	۴۰۹
حضرت زکریا صرف خلیفہ صالح چاہتے تھے (سورہ مریم)	۴۱۱
حدیث لانورث حضرت صدیق کے لئے متواتر سے بڑھ کر تھی۔	۴۱۶
روایت کے فنی درجات ان رواۃ کے لئے ہیں جنہیں آنحضرت سے سماع اور رویت حاصل نہیں	۴۱۷
روایت لانورث کے راوی دس بارہ صحابی ہیں۔	〃
اہل شیعہ کے نزدیک حضرت علی اور حذیفہ کا اعتبار لازمی ہے۔	۴۱۸
بخاری شریف میں حدیث لانورث بروایت حضرت امیر	۴۱۹
احادیث وآیات میں کوئی تخالف نہیں، بے عقلی سے کہیں وہم ہو جاتا ہے۔	۴۲۲
روایات شیعہ سے لانورث کی تائید	۴۲۴
صادق اور صدیق کی روایت کا فرق	۴۲۶
کلینی کی دوسری مؤید حدیث	۴۲۷
تارک الدنیا اور زاہد غاصب نہیں ہو سکتا۔	۴۲۹
ترکہ نبوی میں تمام اہل بیت کا عمل	〃
آنحضرت نے سیدہ کو یہ حدیث نہ بتائی۔ کیونکہ وہ بزعم شیعہ علم غیب جانتی تھیں۔	۴۳۴
صرف صدیق سے حدیث بیان کرنے کی چار حکمتیں	۴۳۵
حکم خدا چھپانے کی ایک مثال (بروایت شیعہ)	۴۴۰
سیدہ کو سمجھانے پر صدیق نے فدک واپس کر دیا تھا	۴۴۵
مسلم شریف کے حوالہ کی حقیقت	۴۴۸
امام کا حضرت عباس کو بے دخل کر دینا عدم وراثت پر کھلی دلیل ہے۔	۴۵۱
حضرت عباس وعلی نے بحلف حدیث صدیق کی تصدیق کی۔	۴۵۲
خائن وغیرہ الفاظ مبالغۃً حسب محاورہ استعمال ہوئے	۴۵۴
حضرت عمر کا غصہ مبالغہ کی کھلی دلیل ہے۔	۴۵۵
مبالغہ کلام اللہ میں بطور محاورہ	〃
حضرت عباس نے وہی الفاظ امام کے حق میں کہے جو حضرت عمر نے ان کی نسبت کہے۔	۴۵۸
حضرت علی اور حضرت عباس خطاءً بدگمان ہوئے	۴۶۰
امام کی اتباع میں شیعہ اگر صدیق کو برا کہیں، تو حضرت عباس کی اتباع میں امام کو بھی کہیں۔	۴۶۱
ترکہ نبوی کے میراث ہونے پر استدلال۔ اور اس کے جوابات	۴۶۲
حضرت علی وعباس نے بھول سے مطالبہ کیا۔ اور بھولنا عیب نہیں۔	۴۶۸
صدیق سے عم وابن عم کی بدگمانی بشریت کی وجہ سے تھی۔	۴۷۱
قرآن فہمی میں تمام امتی آنحضرت کے محتاج ہیں۔	۴۷۲

وارث اور یتیم سے سرور عالم مستثنیٰ ہیں۔	۴۷۲
حضرت فاطمہ بھی قرآن فہمی میں آنحضرت کی محتاج تھیں	۴۷۳
اگر کسی ایک بات کے جاننے سے فضیلت ہو تو خضر حضرت موسےٰ سے افضل ہوتے۔	۴۷۴
سیدہ نے سماع حدیث کے بعد ندامت سے بات چیت بند کی	۴۷۵
سماع حدیث کے بعد سیدہ کو کلام کی حاجت ہی نہ رہی	۴۷۶
وَجَدَتْ کی لفظی تشریح	〃
وجدت کے صلہ پر بحث	۴۷۷
اہل کمال کے کلام کا وہ محمل تلاش کیا جائے جس سے حسن ظن قائم رہے	〃
سیدہ صدیق سے بوجہ غلطی آزردہ ہوئیں۔	۴۷۸
حضرت موسیٰ غلطی سے حضرت ہارون پر ناراض ہوئے	۴۷۹
بالفرض اگر صدیق ہی کی غلطی تھی تو توبہ کر لی	〃
بسلسلہ برات صدیق روایت کے چند فائدے	۴۸۱
روایات اہل سنت میں سیدہ کی خوشنودی کا بیان موجود ہے۔	۴۸۷
جنازہ میں شرکت سے روکنے کا افسانہ	۴۸۸
سیدہ کی وصیت میں عام ممانعت تھی کسی کی تخصیص نہ تھی۔	〃
سیدہؓ کا جنازہ صدیق ہی نے پڑھایا	۴۹۱
خدا اور رسول راضی ہوں تو سیدہ کی ناراضی سے کچھ نقصان نہیں۔	۴۹۴
بضعۃ منی سے اشکال اور اس کے جوابات	۴۹۵
بضعۃ منی کا شان ورود حضرت علیؓ ہیں نہ کہ صدیق۔	〃
پیغام نکاح گناہ نہ تھا مگر سیدہ کو کو بوجہ بشریت غصہ آیا۔	۴۹۷
خلاصہ جواب طعن فدک۔	۴۹۹

ھر قسم کے

قرآن مجید مترجم ومعرّا، اور تفاسیر عربی وفارسی

اور اردو

نیز کتب درس نظامی کے علاوہ ہر قسم کی کتابیں و

قاعدے، سیپارے اور تبلیغی نصاب وغیرہ

بہترین کتابت وطباعت سے مزین

ملنے کا پتہ :- نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

اعتذار

از

ناشر

بِسۡمِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ۔

أَمَّا بَعۡدُ! زیر نظر کتاب "ھدیۃ الشیعۃ" کے بارہ میں کچھ لکھنا غیر ضروری بلکہ بے ادبی ہے کیونکہ اس کتاب کے مصنف حجۃ الاسلام استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہٗ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں اور ان کا نام نامی اس کے مستند ہونے کی پوری ضمانت ہے۔

دراصل یہ کتاب ایک شیعہ عالم مولوی عمار علی صاحب کے خط کا مفصل جواب ہے جس میں مسئلہ خلافت اور مسئلہ فدک کے موضوع پر بحث فرما کر حضرتؒ نے اہلسنت کے موقف کو خوب واضح فرمایا ہے۔ یہ کتاب حضرت نانوتویؒ کے وہبی علوم کا مظہر ہے۔ یہ کتاب ۱۲۸۴ھ میں تصنیف ہوئی اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہوئے۔ لیکن اس وقت کی طباعت میں پیراگراف اور عنوانات نہیں تھے جس کی وجہ سے استفادہ مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب سابق خطیب مسجد ہیڈ کوارٹرز کراچی کو کہ انہوں نے پوری کتاب میں پیراگراف اور عنوانات اس خوبی سے لگائے کہ کتاب کے سارے مضامین فہرست کے آئینے میں نظر آنے لگے اور کتاب کی ذاتی جاذبیت نمایاں ہو گئی۔ نیز مولانا موصوف نے اس بات کی بھی پوری کوشش فرمائی کہ حضرت مصنفؒ کی اصل عبارت میں تصرف بھی نہ کیا جائے۔

مولانا موصوف نے عربی عبارات کے تراجم بھی ساتھ دے دیئے ہیں تاکہ اردو خواں حضرات کے لئے بھی استفادہ آسان ہو جائے۔

عنوانات صرف اصل مضمون کی مناسبت سے لکھے گئے ہیں اور پوری کتاب کی اصل عبارت جوں کی توں ہے۔ یہ فہرست والا ایڈیشن مولانا محمد اسلم صاحب نے تقریباً ۱۹۶۲ء میں اپنے مکتبہ حقانیہ کراچی سے شائع کیا تھا لیکن اب عرصے سے نایاب تھا اس لئے اس کو جدید طباعت کے ذریعہ اب "نعمانی کتب خانہ لاہور" سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول و منظور فرمائے آمین۔

بندۂ ناچیز بشیر احمد ناظم نعمانی کتب خانہ، لاہور

تائید و ترغیب خادم اہلسنت مولانا بشیر محمد علوی

وحدت روڈ۔ لاہور

۱۵ ذی الحجہ ۱۳۹۷ھ مطابق ۲۷ نومبر ۱۹۷۷ء

تقدیم الکتاب

از ناشر:-

الحمدللہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے محض اپنے فضل وکرم سے میرے جیسے بے بضاعت اور کم سواد طالب علم کو اس عظیم الشان علمی یادگار کے احیا، کی توفیق بخشی۔ ایک مدت تک تو طباعت کا خیال ہی خیال رہا۔ کیونکہ طباعت سے پہلے خود کتاب کا موجود ہونا بھی ضروری ہوا۔ اور کتاب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کان لم یکن۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک علم دوست بزرگ تشریف لائے۔ اور کچھ کتابیں میرے سامنے رکھدیں۔ کہ ان کی جلد بندی مطلوب ہے۔ کتابیں دیکھیں، تو ان میں وہ مقصود بھی موجود تھا جس کی خلش عرصہ دراز سے دل میں رہتی تھی۔

اس وقت تو ان کو بہت اچھا کہہ کر رخصت کیا، اور پھر مختلف تدابیر عمل میں لانی پڑیں جن سے وہ بزرگ بہت منت سماجت کے بعد کتاب دینے پر آمادہ ہو گئے۔ کام بڑا تھا۔ جس کے لئے بڑی ہمت درکار تھی۔ اور یہاں ضعف ہی ضعف تھا۔ کتاب پڑی رہی اور سوچ بچار میں کافی وقت گذر گیا۔ اس درمیانی وقفہ میں ایک بڑے ادارہ نے طباعت کا ارادہ کیا۔ اور کتاب بھی لے لی مگر کچھ عرصہ بعد مصروفیت کا عذر کر کے واپس کر دی گویا

ع:- قرعۂ فال بنام من دیوانہ زدند

جس طرح کتاب ہاتھ آئی۔ ہاتھ سے نکلی۔ نکل کر پھر ہاتھ آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا۔ کہ اب پس وپیش کی مزید گنجائش نہیں۔ کام شروع ہونا چاہیئے۔ لیکن جب کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ تو معلوم ہوا۔ ع۔ کہ عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکلہا۔ کیونکہ کتاب مسلسل تھی۔ کوئی پیراگراف کوئی عنوان یا فصل اور باب وغیرہ اس میں موجود نہ تھا۔ جیسا کہ متقدمین کا طریقہ تھا۔ اور یہ طریقہ اس وقت کے لئے ناموزوں بھی نہ تھا، وہ لوگ

محنتی تھے۔ کتابوں کے کیڑے تھے علوم کے قدردان تھے عالی ہمت تھے مطالعہ اور کتب بینی ان کے لئے تفریح ونشاط کے ذرائع تھے۔

مگر اب جبکہ ہمتیں پست ہوچکیں۔ ذہنی سکون واطمینان بجائے علمی مشاغل کے جھوٹی روایتوں اور قصوں میں تلاش کیا جانے لگا۔ تو ضروری ہوا کہ اب علوم کو سہل وخوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ شائقین کو استفادہ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس لئے ایک صاحب کی خدمات حاصل کی گئیں کہ وہ کتاب کی تبویب وتصحیح کریں مگر شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا عن ظہر الغیب ہی لکھا۔ یعنی کتاب دیکھے بغیر اپنی علمی قوت اور زور سے لکھا۔ یہ ایک نئی مشکل تھی جس سے بجاؤ کی یہی صورت نظر آئی۔ کہ دست خود دہان خود پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ تبویب کا کام خود کرنا پڑا مضامین کی مناسبت سے چند ابواب قائم کئے۔ اور ان کے ذیل میں عنوانات لکھے۔

مگر اس کے باوجود بھی کتاب کے مضامین کا احاطہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ کتاب کی علمی شان کچھ اتنی وسیع اور عالی ہے کہ ہر دو سطر کے بعد ایک نیا استدلال، نیا نکتہ، نیا مضمون موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کثرت سے عنوانات نہیں لکھے جاسکتے تھے۔ اس لئے کتاب کی وسعت اور جامعیت کو فہرست بھی تمام وکمال پیش نہ کر سکے گی ہاں تشویق وترغیب کا کام ضرور دے گی

کتاب میں مصنف قدس سرہ کی اپنی ایک خاص شان جلوہ گر ہے۔ سوز وگداز اس درجہ ہے۔ گویا تڑپ رہے ہیں، کہ مخاطبین حق کو کیوں قبول نہیں کرتے، یا مصنف خود ہی ان کے قلوب میں کسی طرح یہ حقائق کیوں نہیں ڈال سکتے۔ علوم عالیہ کی اس رفعت کے باوجود تنزل کا یہ حال ہے کہ بے انتہا بلندیوں سے اتر کر مشقت کے ساتھ ایک بات کو عام فہم اور سادہ بنا کر پیش فرما رہے ہیں۔ آمد کا یہ حال ہے کہ مضامین ہاتھ باندھے چلے آرہے ہیں۔ اور بات سے بات پیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔ مگر اس اعلیٰ علمی شرف کے باوجود ہر جگہ تواضع اور انکسار کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں تعلّی اور ادّعا نہیں ہے۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تمام مباحث میں ادب واحترام بہت ہی نمایاں ہے۔ ورنہ آج کل تو

[illegible] دین اور قلم کی جولانیوں کی نذر ہو چکا ہے

کتاب کی خصوصیات کے بارے میں اگر کچھ عرض کیا جائے۔ تو سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت تو یہی ہوگی۔ کہ بانی دار العلوم قدس سرہٗ کی تالیف ہے۔ اور یہ کسی عقیدت مندی کا اظہار نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت ہے کیونکہ مولانا کی علمی اور تحقیقی رفعت و امتیاز کے اپنے اور پرائے سب ہی قائل تھے۔ اور ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے۔ کہ استدلال میں دونوں پہلوؤں کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی روایت کے ساتھ درایت اور نقل کے ساتھ عقل کا سلسلہ پوری کتاب میں قائم ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ عرف اور محاورہ بھی مدنظر ہے۔

تیسری خصوصیت صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تفسیر و تشریح ہے جو سراپا الہامی ہے۔ آیات کے لفظی اور معنوی فوائد ایسے عجیب و غریب ہیں۔ کہ بڑی بڑی تفاسیر ان سے خالی ہیں۔ اور مالا عین رأت ولا اذن سمعت کے مصداق ہیں۔ چوتھی خصوصیت بعض ایسی آیات اور احادیث پر محققانہ بحث ہے۔ جن کو فریق ثانی استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مگر اس بحث کا امتیاز یہ ہے۔ کہ مصنف قدس سرہ کی تحقیق کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث یا آیت کو فریق ثانی نے اپنی دلیل کیسے سمجھ لیا ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ نکات و حکم کا بیان اس پر مزید ہے۔ جو انسانی علم و ادراک کا شکار نہیں بلکہ محسوس طور پر عطائے ربانی ہے۔

پانچویں خصوصیت کتاب کے مباحث و مضامین کا تنوع اور توسع ہے جس کے ضمن میں ذیلی علوم و معارف کافی مقدار میں آگئے ہیں جو بے حد قیمتی اور نادر و نایاب ہیں۔ جن سے کتاب کی افادی حیثیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ کا یہ ارشاد بالکل بجا اور درست ہے۔ کہ ھدیۃ الشیعہ میں تحفہ بمع زوائد ہے۔ چھٹی خصوصیت کتاب کی سلاست اور سادہ بیانی ہے۔ جو مولانا قدس سرہٗ کی باقی کتب کے مقابلہ میں بالکل نمایاں ہے۔ کتاب کا اکثر حصہ روزمرہ کی زبان ہے۔ بعض مقامات میں (جو بہت قلیل بلکہ اقل ہیں) علمی زبان کی وجہ سے کچھ دشواری پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ کہ خالص فنی مسائل کے بیان میں یہ دشواری ہر ایک

کو پیش آتی ہے۔

آخر میں اپنی اس حقیر کاوش کے متعلق یہ عرض ہے۔ کہ اس امر کی کوشش تو پوری پوری کی گئی۔ کہ عنوانات کو کتاب کے ساتھ کامل ارتباط و مناسبت ہو۔ اور کتاب کی علمی شان کا عکس اور پرتو ہوں مگر چہ نسبت خاک را بعالم پاک؟۔ کہاں یہ کتاب اور اس کی رفعت اور کہاں ہم اور ہماری کاوش؟ بس مقصد اتنا تھا کہ پڑھنے والے کو کچھ اندازہ ہو جائے۔ کہ کتاب میں کیا ہے۔ وہ کسی قدر انشاء اللہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوں جی چاہتا ہے۔ کہ سوانح قاسمی میں سے سرسید کا وہ بیان نقل کر دیا جائے۔ جس میں مولانا سے اظہار عقیدت کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا نانوتویؒ سرسیدؒ کی نظر میں

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی وفات پر سرسید مرحوم نے "علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ" کی اشاعت مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۰ء میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں حضرت نانوتوی کے متعلق سرسید نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے، وہ الفاظ معاصرانہ چشمک سے مبرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتویؒ کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کا جو مقام متعین کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ عقیدتمندانہ جذبات کے غلو سے قطعاً پاک ہیں

کسی ایسے شخص کا اپنے کسی ایسے معاصر کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو اس شخص کے عقائد و افکار اور رجحانات سے شدید اختلاف رکھتا ہو، ظاہر ہے کسی بے لاگ حیثیت کا حامل ہو سکتا ہے، یہ حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کا اندازہ تصفیۃ العقائد کی اس مراسلت سے ہو سکتا ہے۔ جو ان حضرات کے مابین ہوئی ہے۔ اس مراسلت میں سرسید اپنے ایک دوست (منشی محمد عارف صاحب) کو خط میں لکھتے ہیں۔

"اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لاویں تو میری سعادت ہے میں ان کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا"[1]

[1] تصفیۃ العقائد صفحہ ۳ مکتوب سرسید بنام منشی محمد عارف

مذکرہ بالا مکتوب کے جواب میں سرسید کے ان ہی دوست کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ

"ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنائی سید صاحب (سرسید) کی اولوالعزمی اور دردمندیٔ اہل اسلام کا معتقد ہوں۔ اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں تو بجا ہے مگر اتنا یا اس سے زیادہ ان کے فساد عقائد کو سن سن کر ان کا شاکی اور ان کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں[1]۔"

اس مختصر تقریب کے بعد سرسید کا متذکرۂ صدر مضمون درج ذیل ہے۔

"افسوس ہے کہ جناب ممدوح (حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ) نے ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء کو ضیق النفس کی بیماری میں بمقام دیوبند انتقال فرمایا، زمانہ بہتوں کو رو رہا ہے۔ اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا لیکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جانشین نظر نہ آوے۔ نہایت رنج اور غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علما میں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنے علم و فضل اور تقوے اور ورع میں معروف اور مشہور تھے، ویسے ہی نیک مزاجی اور سادہ وضعی اور مسکینی میں بھی بے مثل تھے۔ لوگوں کو خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد اسحٰق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے مگر مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری اور تقویٰ اور ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحٰق صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ۔

بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمر میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے انہوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں، ابتدا ہی سے آثار تقوے اور ورع اور نیک بختی اور

[1] تصفیۃ العقائد صفحہ ۶ مکتوب حضرت نانوتوی رح بنام منشی عارف صاحب ۱۲

خدا پرستی کے ان کے اوضاع اور اطوار سے نمایاں تھے اور یہ شعر ان کے حق میں بالکل صادق تھا ؎

بالائے سرش ز ہوشمندی ٭ می تافت ستارۂ بلندی

زمانہ تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے، ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان زد اہل فضل و کمال تھے، ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا۔ اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبہ کا دل بنا دیا تھا، خود بھی پابند شریعت اور سنت تھے۔ اور لوگوں کو بھی پابند شریعت اور سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کو خیال تھا۔ انہیں کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ کچھ خواہش پیر و مرشد بننے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اضلاع شمال و مغرب میں ہزارہا آدمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتے تھے

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے۔ ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفسانی یا ضد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے بلاشبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے۔ اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے۔ اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا۔ اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا کسی شخص کو مولوی محمد قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا برا نہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے

کام کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے خدا کے واسطے برا جانتے تھے مسئلہ حب للہ اور بغض للہ کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔ اس زمانہ میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوں گے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے۔ ان کا پایہ اس زمانہ میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیز رح سے کچھ کم ہو، الّا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحٰق سے بڑھ کر نہ تھا۔ تو کم بھی نہ تھا۔ درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے۔ اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم بہ نسبت اس کے کہ عملی طور پر کوئی کام کرے۔ زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت و افسوس کے کہہ کر خاموش ہو جائیں یا چند آنسو آنکھ سے بہا کر اور رومال سے پونچھ کر چہرہ صاف کر لیں بلکہ ان کا فرض ہے۔ کہ ایسے شخص کی یادگار کو قائم رکھیں،

دیوبند کا مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگاری ہے۔ اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر ان کی یادگاری کا نقش جما رہے۔

(نقل بأصلہ از علی گڈھ انسٹیٹیوٹ گزٹ

مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۰ء صفحہ ۴۶۷ و ۴۶۸)

نوٹ:۔ فہرست کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلحمدُ لِلّٰہِ رَبِّ العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین والصّلوٰۃ والسّلام علیٰ رسولہ سیدنا محمّد نبی الرحمۃ وآلہ وازواجہ واھل بیتہ وذریتہ واصحابہ اجمعین۔

سببِ تالیف | بعد حمد و صلوٰۃ کے بندہ ہیچمدان گمنام محمد قاسم نام متخلص نحاکپاء علماء ناظران اوراق کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ اواخر رجب ۱۲۸۳ھ بارہ سو تراسی ہجری میں مخدوم العلماء مطاع الفضلاء مجمع الکمالات منبع الحسنات زیب طریقت حامی شریعت فخر احباب افتخار اصحاب ملجاء انام مرجع خاص و عام معلّم قوانین اطاعت و انقیاد محرک سلسلہ رشد و ارشاد جامع کمالات ظاہری و باطنی مخدوم مناو مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی دام رشدہ وارشادہٗ نے ایک خط متضمن بعضے خرافات شیعہ جو مولوی عمار علی صاحب کی طرف سے بنام میر نادر علی صاحب ساکن کرتھل نواح الور تھا، بلکہ ہیچمدان کے پاس بایں غرض بھیجا کہ ان خرافات کے جوابات لکھ کر روانہ خدمت مولانا ممدوح کروں۔ اتفاقات سے ان ایام میں حسب ایما بعض احباب کہ ان سے اشتراک نسبی بھی حاصل ہے اوقات فرصت میں درباره اثبات توحید و رسالت بدلائل عقلیہ اوراق سیاہ کرتا تھا، سو کچھ تو اس وجہ سے، اور کچھ بوجہ کاہلی طبع زاد، اس کے جوابات کا لکھنا سخت دشوار معلوم ہوا اور پھر بوجہ ہیچمدانی اور بے سرو سامانی اور کثرت مشاغل روزمرہ اس خیال سے اور بھی دل تنگ ہوتا تھا۔ القصہ بہر طور یہ کار دشوار تھا مگر مولانا ممدوح کے ارشاد سے ناچار تھا لہٰذا تحریر مضامین توحید و رسالت کو اور وقت پر موقوف رکھ کر خط مذکور کے پہنچنے سے دو تین روز ہی بعد تحریر سابق کے عوض میں خط مذکور کے جوابات لکھنے شروع کئے۔ مگر کچھ تو ہیچمدانی اور بے سرو سامانی اور کچھ قلت فرصت اور کچھ سرگردانی اس لئے ایک دفعہ تو نہ بن پڑا، پر اوقات متفرقہ میں لکھ لکھ کر پانزدہم صفر ۱۲۸۴ھ بارہ سو چوراسی میں تمام کیا اور بعد اختتام۔ ھدیۃ الشیعۃ، اوراق کا نام رکھا۔

انتخاب نام کا راز اور وجہ اس نام رکھنے کی حالانکہ یہ رسالہ بظاہر موید اہلسنت ہے اور اس وجہ سے ہدیہ اہلِ سنت کہنا مناسب تھا، یہ ہے کہ بہ نسبت اہل سنت شیعوں کے حق میں یہ رسالہ زیادہ تر مفید ہے، اہلِ سنت کے لئے تو اس میں اتنا ہی فائدہ ہے کہ کچوں کے لئے مفید یقین اور پکوں کے لئے باعث اطمینان ہے، پر شیعوں کے حق میں اگر انصاف کریں تو ذریعہ حصولِ ایمان ہے، کیونکہ ان اوراق میں اگر استدلال ہے تو تین چیزوں سے استدلال ہے۔ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ کتب معتبرہ شیعہ یا دلائل عقلیہ واضحۃ الدلالات سو ان تینوں کا مسلّم ہونا شیعوں کے نزدیک مسلّم

کتاب کی کھلی صداقت مگر یہ سنکر بوجہ گمنامی احقر شاید کسی کو یہ بدگمانی ہو کہ استدلال سبھی کرتے ہیں، پر استدلال کرنا کسی کسی کو آتا ہے، سو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ رسالہ موجود ہے۔ ہمارا کہنا باور نہ کیجئے۔ اس رسالہ ہی کو دیکھ لیجئے۔ صاحبو دیوانہ ہوں و لیکن بات کہتا ہوں ٹھکانے کی۔ ببرکت اہل بیت کرام اور صحابہ عظام امیدیوں ہے کہ انشاء اللہ منصفان فہمیدہ آفریں ہی کہینگے اور کوئی کہے تو یہ کہے گا

گاہ باشد کہ کودکِ ناداں

بغلط بر ہدف زند تیرے

سو یہ سب سچ ہے۔ اپنے آپ کو کون نہیں جانتا۔ غرض اپنی نسبت جو کچھ کہئے بجا ہے پر اس رسالہ کے مضامین کی حقانیت کا دعوےٰ بھی بیجا نہیں۔ انشاء اللہ بعد ملاحظہ معلوم ہو جائے گا۔

کتاب کے جواب کی صحیح راہ ہاں نادان متعصب اگر دو چار باتوں میں تکرار کریں، تو نادانوں کا کام ہی یہی ہے، ان کی زبان سے قرآن تو چھوٹا ہی نہیں یہ ہیچمداں تو کس شمار میں ہے۔ البتہ دانشمند ذی علم ایسا کریں، تو ہمیں بھی شکایت ہے کیونکہ کسی رسالہ یا کسی کتاب کے جواب کے یہ معنی ہیں کہ تمام استدلالات کو باطل کر دیجئے۔ جیساکہ اس ہیچمداں نے بہ نسبت خط مولوی عمار علی صاحب کیا ہے چنانچہ انشاء اللہ واضح ہو جائے گا ورنہ ایک دو بات تو ہر کسی کی قابل گرفت ہوتی ہے جناب من بشر ہوں اور بشر بھی سب سے کمتر، خدا نہیں ہوں نہیں جو غلطی کا احتمال نہ ہو، بھول چوک سے انکار نہیں کیا جاتا، پر کتاب کی صحت اور اعتبار باعتبار اکثر کے ہوتی ہے۔

سو اگر کسی صاحب کو خیال جواب ہو تو بندہ ہیچمداں کی روش پر چلیں یعنی ہر مضمون کے ہر پہلو پر گرفت کریں نہیں تو اس سے بھی کیا کم کہ موافق قواعد علم مناظرہ ہر دعوے کے استدلال پر اعتراض

کریں ورنہ دو چار باتوں کی تغلیط سے کام نہیں چلتا۔ اس کا تو میں بھی خود مقر ہوں کہ خطا و نسیان سے مبرا نہیں کیا عجب ہے، کہ کچھ غلطی ہوگئی ہو القصہ اہلِ انصاف سے امید توی ہے کہ قطع نظر پریشانی تقریر اس رسالہ کے دعووں اور دلائل پر حرف گیر نہ ہوں۔ بلکہ آفرین اور تحسین ہی سے پیش آئیں۔

ایک شبہ کا ازالہ اور اگر بہ نسبت انبیاء و مرسلین یا بزرگان اہل بیت و اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس رسالہ میں کوئی حرف نامناسب دیکھ کر الجھیں تو مجھے اس سے بری الذمہ سمجھیں الباً مذکور کہیں کہیں ناچار ہی بغرض الزام شیعہ آگیا ہے اس کا بار انہی کی گردن پر ہے۔ یہ سب انہوں نے ہی کرایا ہے خدا شاہد ہے کہ ایسے عقائد سے میں بہزار جان و بہزار زبان بیزار ہوں۔ محبت بزرگان مذکور کو اپنی سعادت اور ان کے حسنِ اعتقاد کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں مگر مردمان فہمیدہ سے یوں امید ہے کہ میرے عذر سے بیشتر ہی بشہادت مذہب مجھے معذور سمجھیں۔

نقل روایات میں مصنف کا رویہ ہاں بوجہ بے سروسامانیٔ احقر کسی شیعہ کو نقل روایات میں کچھ تامل ہو تو البتہ چند وجہ سے بجا ہے، اول تو کتب شیعہ کسے میسر سنیوں کو کیا غرض جو فراہم کریں شیعوں کو بحکم مثل مشہور "اہل البیت ادری بما فیہ" یعنی گھر والے گھر کی بات کو خوب جانا کرتے ہیں۔ بلحاظ خوبیٔ مضامین سنیوں کے دینے میں دار و گیر اور طعن و تشنیع اور مضحکہ کا اندیشہ پھر کوئی سنی لائے تو کہاں سے لائے۔ جو کوئی روایت مفید مطلب سنیاں کسی رسالہ میں درج کی جاتے دوسرے یہ کتابیں اگر فرض کرو ملیں بھی تو مجھ سے بے سروسامان کے ملنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں، کیونکہ اپنی کتابیں جب پاس نہ ہوں تو دوسروں کی کتابیں کیا ہونگی تیسرے نقل مشہور ہے۔ "المرء یقیس علی نفسہ" شیعوں کی دروغ مذہبی نے شیعوں کے نزدیک سنیوں کا اعتبار بھی نہیں رکھا پھر حسب مثل مذکور اگر شیعہ اس سنی مشرب کو بھی جھوٹا سمجھیں تو سمجھ کی بات ہے۔ بالجملہ بوجوہ مذکور خاص کر وجہ اول اس بات میں کسی شیعہ کو تامل ہو تو بجائے خود ہے

تحفہ اثنا عشریہ پر اعتماد سو اس لئے یہ استبداز بھی عرض پرداز ہے کہ "الصِّدقُ یُنجی والکِذبُ یُهلِكُ" یعنی سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں تباہی، واقعی اس بے سروسامان کے پاس اس قسم کا سامان کچھ نہ تھا، پر ایک تحفہ اثنا عشریہ تھا اور جب تحفہ تھا تو جاننے والے جانتے ہیں کہ سب کچھ تھا۔ موافق مصرعہ مشہور

کافی ہے تسلّی کو تری ایک نظر بھی

اور کتابیں نہ سہی۔ ایک تحفہ ہی بہت ہے کیونکہ مؤلف تحفہ حجۃ اللہ فی العالمین خاتم المحدثین و المفسرین

[illegible] المتکلمین زبدۃ المناظرین مولانا شاہ عبد العزیز علیہ الرحمۃ کے نام کے سنی تو دیوانے ہیں پر علماء شیعہ بھی دل ہی دل میں کچھ نہیں کہتا، ان کے تبحر و تحقیق کو بہ نسبت دونوں مذہبوں کے اپنے دل میں تو خوب ہی جانتے ہیں۔ زبان سے کہیں یا نہ کہیں۔ سو جو روایت روایات کتب شیعہ میں سے اس رسالہ میں منقول ہوئی ہے ماخذ اس کا یا متن تحفہ مطبوعہ دہلی ہے، یا اس کے حواشی ہیں جو غالباً منہیہ معلوم ہوتے ہیں۔ سو تحفہ کا حوالہ اہل انصاف کے نزدیک خود ان کتب کے حوالے سے کم نہیں جن کا نام اس رسالہ میں لکھا گیا۔ اسی وجہ سے اس احقر نے بے تامل ان کتب کا حوالہ رقم کر دیا ہے۔

شیعہ کو ہمدردانہ مشورہ اور صاحب تحفہ کی راست بازی اور تبحری کے بھروسے منصفان شیعہ کی خدمت میں عرض پرداز ہوں کہ فقط میری بے سروسامانی کے خیال سے بے دماغی نہ فرمائیں نقل کو اصل سے مطابق کر دیکھیں، اکثر کتب منقول عنہا کتب مشہورہ معتبرہ شیعہ ہیں: نادر الوجود کمیاب نہیں اس کا اندیشہ نہ کریں کہ مطابقت ہوئی تو ماننا پڑے گا۔ خدا نے خود فرمایا ہے "مَنْ یُّضْلِلِ اللّٰہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ"۔ پھر کیا اندیشہ ہے، خدا کی فرمائی ہوئی باتوں میں تو یہ بات پائی نہیں جاتی۔ کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ماننا ہی پڑے۔؟ اس گنہگار ہیچمداں کی بات میں یہ بات کہاں۔؟

معہذا حق تو ماننے ہی کے لئے ہے۔ اگر حق کو تسلیم ہی کر لیا تو کیا نقصان ہے۔ الغرض تطبیق میں کاہلی نہ کریں، بعد مطابقت اگر فرق نکلے تو وہ میرے ذمہ

شیعہ کی دلیرانہ غلط بیانی مگر میں جانتا ہوں کہ میرے بے کہے شیعہ اس بات کو جانتے ہونگے، کون نہیں جانتا کہ اہلسنت کے نزدیک جھوٹ بولنا خصوصاً دین کے مقدمہ میں سخت ممنوع اور منجملہ کبائر ہے ہم وہ نہیں کہ مثل مولوی عمار علی صاحب مشار الیہ پیشوا و پیش امام شیعہ کہ وہ بظاہر مولوی عمار علی صاحب سونی پتی معلوم ہوتے ہیں غلط اور موضوع کو صحیح اور ضعیف کو قوی اور غیر معتبر کو معتبر کہدیں یا محض بے اصل کے جھوٹ سچ کوئی اصل گھڑ دیں چنانچہ ناظران رسالہ ھٰذا پر واضح ہو جائے گا کہ مولوی صاحب موصوف نے خط مذکور میں کیا کیا ستم کئے ہیں۔ ہم کو یہ گمان تھا کہ شیوۂ دروغ بندی زمانہ سابق کے علماء شیعہ پر ختم ہو چکا، مگر غنیمت ہے کہ انکے خلف الرشید اب تلک بہت باقی ہیں۔ دعوے ہبہ فدک حضرت زہراؓ کی طرف سے سنیوں کی معتبر کتابوں کے حوالے سے بیان کرنا اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہن دختران رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو آنحضرت صلی اللہ سے منقطع

کرنا یہ مولوی عمار علی صاحب جیسے مقتدا و پیشوا شیعہ ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ متابعت بزرگان ایسے ہی بزرگواروں کا کام ہے۔

اگر جھوٹ ہی بولنے کو جی چاہتا تھا تو ایسا بولنا تھا کہ پیش جا سکتا اور کسی کے خیال میں آ سکتا مگر ایسا طوفان کہیں نہیں سنا تھا کہ ایک شخص کے سنی ہو جانے کے اندیشہ سے نہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمائے اور نہ آئمہ معصومین کا کچھ پاس و لحاظ کیا حضرت ام کلثوم بنت سیدۃ النساء کے خلیفہ ثانی سے نکاح کو ذکر نہ کرنا تو اس پر بھی تبکلف محمول ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کو ذکر نہیں کیا تو باقیوں سے انکار بھی تو نہیں کیا، پر یہ بات کہ حضرت رقیہ وغیرہا رضی اللہ عنہن دختران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ تھیں اور حضرت زہراء کا دعوائے ہبہ فدک کرنا اہلسنت کی معتبر کتابوں میں ہے ایسا دروغ صریح ہے کہ کسی احتمال صحیح پر کسی طرح منطبق نہیں ہو سکتا چنانچہ بعد ملاحظہ رسالہ ھٰذا انشاء اللہ میرے اس قول کی صحت بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ یہ وہی مثل ہے "دروغ گویم برروئے تو"۔

مولوی صاحب کی دروغ گوئی کا ایک دلچسپ پہلو لیکن بغور دیکھئے تو مولوی صاحب کی بھی اس میں کچھ تقصیر نہیں، آخر مذہب اہل سنت بشہادت کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور مذہب شیعہ بشہادت کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر غلط ہے۔ اور باوجود اس کے پھر اپنے پیشواؤں کو دیکھا کہ مذہب شیعہ کو حق اور مذہب اہل سنت کو باطل کہتے ہیں، تو مولوی صاحب موصوف بحسن اعتقاد بزرگان یہ سمجھ بیٹھے کہ حق غلط ہی باتوں کو کہا کرتے ہیں، اور کیونکر نہ سمجھیں۔ آخر مولوی صاحب عمدۂ علماء شیعہ ہیں۔

بعد ازیں کلام اللہ کی تلاوت کا جو بھولے چوکے اتفاق ہوا تو سورہ احزاب میں یہ آیت نکل آئی۔ واللہ لا یستحی من الحق یعنی اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا چونکہ مولوی صاحب کو بزعم خود کمال اتباع خداوندی مدنظر ہے تو اپنے عندیہ میں غلط باتوں سے پرہیز کرنا خلاف اخلاق خداوندی سمجھ کر جھوٹ بولنے کی شرم طاق میں اٹھا دھری اور بے ساختہ مثل پیشوایان قدیم (کہ ان کی متابعت بھی بزعم مولوی صاحب موجب سعادت ہے اور حضرات آئمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے حق میں بددعائیں کی ہیں اور ان کو جھوٹا تبلایا ہے اور ان کی باتوں سے رنج اٹھایا ہے) انہوں نے بھی افترا پردازیوں پر کمر باندھی تاکہ ان کی متابعت کے صدقے حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہم کی دعا نہیں تو بددعا ہی میں شریک ہو جائیں)۔

رس کی رس کی اے سکھی تیرے دونوں سبد سہائے ٭ ٹھنڈی تتی نیر جوں دونوں آگ بجھائے

شعر: کچھ نہ کچھ تعلق ہم سے ... کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی

باب

مذہب اہلسنت موافق قرآن مجید و حدیث پاک ہے، اور مذہب شیعہ مخالف ہر دو

اہل سنت اہل حق اور شیعہ اہل باطل ہیں۔ دلائل

تفصیل اس بات کی کہ اہلِ سنت کا مذہب موافق ثقلین یعنی کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے اور شیعوں کا مذہب مخالف ثقلین، اور یہ بات کہ پیشوایان شیعہ کے حق میں حضرات ائمہ نے کیا کیا کچھ کہا ہے اس رسالہ مختصر میں سما نہیں سکتی لیکن بطور نمونہ ایک ایک دو دو باتیں عرض کرنی ضرور پڑیں، اہل انصاف اسی سے سمجھ جائیں گے، مشتے نمونہ خروارے بعد ازاں اس خط کی تردید مناسب وقت کی جائیگی۔ مخدوم من کلام اللہ میں سورۂ بقر میں پہلے سیپارہ میں یہ آیت ہے۔

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰھُمُ الْکِتٰبَ یَتْلُوْنَہٗ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ اُولٰٓئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ وَمَنْ یَّکْفُرْ بِہٖ فَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ط	حاصل اس کا یہ کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اسکو پڑھتے ہیں جو حق ہے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو منکر ہوگا اس سے سو انہیں کو نقصان ہے

اس آیت کے مضمون کے دیکھنے کے بعد تصور میں نہیں آتا کہ کسی کو دربارہ حقیت مذہب اہلِ سنت شک رہے اور جب اس میں شک نہ رہا۔ تو اس کا پہلے یقین ہوجائیگا کہ مذہب شیعہ باطل ہے۔

مضمون آیت پر تفصیلی نظر اور حق تلاوت میں ایمان کا انحصار

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ آیت ہرچند بعض اہلِ کتاب کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس آیت میں گو کسی کی شان میں نازل ہو کتاب اللہ پر ایمان لانے کو انہیں میں منحصر کردیا ہے جو اسے خوب پڑھتے ہیں حق پڑھنے کا جب یہ بات انہیں میں منحصر ہوئی تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ پر ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس کو خوب تلاوت کیا کرے کوئی سی خدا کی کتاب کیوں نہ ہو توراۃ ہو یا انجیل یا قرآن شریف۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ذہین آدمی کوئی مشکل بات جلد سمجھ جائے اور خوب سمجھے۔ اور دوسرا اس کی تعریف میں یوں کہیں کہ بات کو ذہن سے سمجھتے ہیں، تو گویہ تعریف اسی کے سنانے کے لئے کی گئی ہے پر حقیقت میں سارے ہی ذہینوں کی تعریف ہے

سو نسبت قرآن شریف کے یہ نشانی سوا اہل سنت کے اور کسی فرقے میں پائی نہیں جاتی خصوصاً شیعہ کہ ان کا تلاوت کرنا تو سب ہی جانتے ہیں۔

اہل سنت سے ادائیگی حق تلاوت اور شیعہ کی اس سے قطعی محرومی

یہاں تک کہ کلام اللہ کے یاد نہ ہونے میں ضرب المثل ہوگئے ہیں سو اس کا باعث بجز اس کے اور کیا ہے کہ جیسی تلاوت چاہیئے ان سے ویسی تلاوت نہیں ہوسکتی۔ جسقدر کلام اللہ کے پڑھنے میں محنت چاہیئے ان سے محنت نہیں ہوسکتی باقی اہل سنت کا ایسا تلاوت کرنا، جیسا تلاوت کا حق ہے۔ عیاں ہے اور عیاں راچہ بیان، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ پڑھتے پڑھتے بزبان ہوجاتا ہے۔

بروئے آیت قرآنی قرآن کا حفظ ہونا حق ہونے کی نشانی

اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جتنے فرقے اہل اسلام میں معدود ہیں ان میں سے جونسا فرقہ حقانی ہوگا۔ اسی کو کلام اللہ یاد ہوگا۔ اور دنکو یاد نہیں ہوسکتا، ورنہ لازم آئے کہ باطل پر ہوکر ممدوح خداوند کریم ہوں۔ سو بحمد اللہ تعالےٰ یہ دولت نصیب اہل سنت ہوئی۔ ماسوا ان کے اور سب فرقے اس نعمت عظمےٰ سے محروم رہے چنانچہ آج تک مسموع نہیں ہوا، کہ سوائے اہل سنت کے کسی اور کو روافض وخوارج میں سے یاد ہوا ہو اور فرقوں کا تو ہندوستان میں وجود ہی نہیں، پر سوائے اہل سنت، روافض البتہ بکثرت ہیں کوئی قصبہ اور کوئی شہر نہ ہوگا کہ وہاں ان کے غول کے غول نہ ہوں، علاوہ بریں نواح لکھنؤ اور اطراف دکن اور اضلاع سندھ میں باوجود کثرت کے تسلط بھی انہیں کا ہے یہاں تک کہ اسی باعث سے تشیع کو ہندوستان میں کمال درجہ کو شیوع حاصل ہوا، ہزاروں عالم شیعہ مذہب موجود، پر حافظ نام کو کوئی دیکھا نہ سنا اور کسی کے ذمہ اگر شیعوں نے حفظ قرآن کی تہمت لگا بھی دی تو اسے یوں ہی کہتے ہوئے سنا کہ یاد تو تھا پر آج کل کچھ کچا ہوگیا ہے اسلئے فی الحال سنانے سے معذور رہوں۔ اور جو سنانے پر آئیں بھی تو ایک ایک سیپارہ کے سنانے پر آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک جلسہ میں یا دو جلسہ میں پڑھ کر ادھر سے ادھر کردیں۔

شیعوں کے حافظ نہ ہونے کا واقعات سے ثبوت

منجملہ حفاظ شیعہ مولوی جعفر علی صاحب پیش امام دہلی جو ورع و تقوےٰ و علم و فضل میں مجتہد زمانہ نہیں تو مجتہد ثانی تو بیشک و شبہ ہیں ان کے حفظ کی یہ کیفیت ہے کہ رمضان شریف میں غدر سے پہلے بچشم خود اس احقر نے دیکھا ہے کہ جلسہ تلاوت قرآن میں جو دن کو نواب حامد علی خاں کی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ مثل دیگر حضار شیعہ مذہب حمائل میں

دیکھ کر پڑھتے تھے پھر بھی دو جگہ غلط پڑھ گئے۔ اور خداوند کریم کی حق نمایاں دیکھئے کہ اسی جلسہ میں حفاظ اہلِ سنت جو بطور سیر آجاتے تھے اور اہل تشیع دب کر ان کو بھی پڑھنے کے لیے کہتے۔ تو وہ بر زبان ہی پڑھتے تھے۔ مگر تاہم دیدہ عبرت شیعہ کشادہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک شخص سنی المذہب مولوی حافظ عبدالعزیز نام ساکن نجیب آباد کہتے تھے کہ میں کچھ کتب درسیہ میں سے مولوی جعفر علی صاحب سے پڑھا کرتا تھا۔ اتفاقاً کچھ اس کا مذکور آگیا۔ کہ شیعوں کو کلام اللہ یاد نہیں ہوتا، سنکر فرمانے لگے کہ تم سنوگے؟ میں نے عرض کیا کیا مضائقہ ہے، اگر ایک دو جلسہ میں ہو، یا یوں کہا کہ زیادہ زیادہ پڑھئے تو کیا مضائقہ ہے، مگر پھر مولوی صاحب کہاں تھے۔ بخیر اس کے نہ بن پڑی کہ ایک ایک سیپارہ ہر روز سن لیا کرو، جائے غور ہے کہ ایک ایک سیپارہ روز تو بعضے بعضے بندگان خدا از سرنو یاد کر سکتے ہیں؟ وہ حافظ ہی کیا ہوا کہ جس نے ایک جلسہ میں کلام اللہ نہ پڑھ لیا، اور میں جانوں کہ مولوی صاحب سے ایک ایک سیپارہ بھی نہ سنایا جاتا، یہ بھی ایک دھمکی تھی، مولوی عبدالعزیز صاحب مذکور یوں سمجھ کر کہ شاید اب یاد کر کر سنادیں اور پھر یاد نہ رہے، ہو اتنی بات میں سردست میرا دعویٰ تو غلط ہو جائے گا یا دو چار سیپارہ ان کو یاد ہوں اور ان کو جوں توں سنا کر پھر کچھ حیلے بہانے لے دیں، اور ان کو کہنے کو جگہ ہو جائے اس بات پر چپکے نہ ہوئے اور نیز یہ بھی مرکوز خاطر ہو گا کہ سب پر عیاں ہو جائے کہ مولوی صاحب کو یاد نہیں، ان کا حافظ کہنا ایک حرف غلط ہے کہ منجملہ اور دروغوں کے زبان زد شیعہ ہو گیا۔ اور اگر مر مار کر ایک دو نے بالفرض بفرض محال کچا پکا یاد بھی کر لیا، تو غیرت مندان شیعہ کے لئے تو یہی بات ڈوب مرنے کو بہت ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک ایک شہر بلکہ بعضے بعضے ایک قصبہ میں اہل سنت میں سو سو بلکہ زیادہ زیادہ حافظ ہوتے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ بعضے بعضے قصبات میں اہلسنت ہی کے برابر برابر شیعی ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت میں سینکڑوں حافظ ہوتے چلے جاتے ہیں اور شیعوں میں ایک بھی نہیں ہوتا، چنانچہ سہارنپور اور پانی پت اور کرانہ میں یہی حال ہے اور وجہ اس یاد نہ ہونے کی (حالانکہ مقتضاء طعن اہل سنت یہ تھا کہ کلام اللہ چھوڑ شیعی تفسیر کبیر بھی یاد کر لیتے) یہی بات ہے کہ جیسا تلاوۃ کا حق ہوتا ہے ان کو میسر نہیں آتا۔

شیعہ ادائیگی حق تلاوت سے کیوں محروم ہیں شیعوں کو کلام اللہ سے طبعی لگاؤ نہیں

اور باعث اس کا واللہ اعلم یا تو یہ ہے کہ طبائع انسانی وحیوانی باعتبار غذا کے جیسے مختلف ہیں کہ کسی کو میٹھا بھاتا ہے۔ کسی کو نمکین کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ کسی کو نفرت۔ انگریزوں کو عطر لگیں تے متنفر اور مچھلی کے اچار سے جسے سونگھ بھی لیجئے تو دماغ چھوڑ جان کی خیر نہیں رغبت، پاخانہ کے کیڑے گندگی میں خورم و شاد و عیش و آرام سے رہیں اور خوشبو سونگھیں تو مر جائیں۔ ایسے ہی باعتبار امور دینی کے جو غذا ارواح ہیں۔ ارواح بنی آدم مختلف ہیں۔ کسی کو رغبت ہے کسی کو نفرت، کسی کو لذت آتی ہے کسی کی جان نکل جاتی ہے۔ سو حضرات شیعہ کو بھی کلام اللہ پر محنت کرتے موت نظر آتی ہے

شیعہ اپنے اساتذہ کے حق میں گستاخ اور بے ادب ہیں

اور یا یہ ہے کہ جو شاگرد استاد کی خدمت میں گستاخ ہوتا ہے عادت الٰہی یوں جاری ہے کہ علم سے بہرہ ور نہیں ہوتا، وجہ اس کی شاید یہ ہو کہ شکر پر وعدہ مزید نعمت ہے، چنانچہ فرمایا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر شکر کروگے تو البتہ ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو اس صورت میں بشہادت عقل کفران پر زوال نعمت متفرع ہونا چاہیئے ادھر حدیث میں ہے مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ یعنی جو کوئی آدمیوں کا شکر نہ کریگا وہ اللہ کا بھی شکر نہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ہر چند منعم حقیقی خداوند کریم ہے پر دولت علم بواسطہ استاد ہی حاصل ہوتی ہے اور نعمت عظمیٰ کلام اللہ کے استاد حضرات صحابہ ہیں جنہیں سے خلیفہ اول اور ثالث کو تو بوجہ تالیف مصنف مجازی کہیئے تو بجا ہے پھر ان گستاخوں کو یہ نعمت عظمےٰ عطا ہو کیوں کر۔؟

تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے سوا بھی حصر ایمانی میں شامل ہیں

مگر جیسے اشارہ خداوندی سے نکتہ مذکورہ معلوم ہوا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا ان لوگوں میں منحصر ہونا جو خوب ہی تلاوت کرتے ہیں اور جو حق تلاوت ہے وہ بجا لاتے ہیں، تو یہ نسبت ان لوگوں کے ہے جو کلام اللہ کی تلاوت میں تو مقصر ہیں اور بانہمہ اپنی ہی سمجھ کے موافق اس پر عمل کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے حق میں جو ان کے اتباع و توابع ہیں اور مطلق کم پڑھنے والوں کی یا بالکل نہ پڑھنے والوں کی نسبت حصر نہیں۔ کیونکہ وجہ اس حصر کی ان لوگوں میں جو حق تلاوت ادا کریں۔ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو کسی کتاب کو کثرت سے دیکھے بھالے گا وہی اس کو خوب سمجھے گا اور اس کی حقیقت کو پہنچے گا۔ اور کتاب اللہ پر ایمان اسی کا نام ہے کہ اس کے احکام اور مضامین کو حق سمجھے جو لوگ ان لوگوں کے متبع ہوں گے کہ وہ جیسا تلاوت کا حق ہے تلاوت کیا کرتے تھے اور اس سبب سے اس کی اصل حقیقت کو پہنچ گئے ہیں اور ان کے تلانے موافق عمل کرینگے وہ بھی ایمان سے محروم نہ ہوں گے اور فرقہ مشار الیہا بلفظ وَمَنْ يَكْفُرْ میں داخل نہ ہونگے، ہاں جو

شخص اس کی تلاوت میں مقصر رہا اور بے تقلید کسی اور کے اپنی ہی سمجھ کے موافق اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تو ایسی محنت والے تو قانون انگریزی میں بھی بہکتے ہیں، جس میں چنداں دقائق نہیں ہوتے، کلام اللہ کو جو مخزن تمام علوم اور مجموعہ جملہ دقائق ہے کیا خاک سمجھیں گے بلکہ بالیقین کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے، سو ایسے لوگ جو کتاب اللہ کچھ کہے اور وہ کچھ کہیں، گو اپنے عندیہ میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہوں کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور ان پر یہ قول خداوندی سراپا مطابق ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ یعنی جو لوگ کتاب اللہ پر ایمان نہ لائے۔ سو وہی ٹوٹے میں ہیں اور اس آیت میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا یعنی خدا تعالیٰ اس قرآن سے بہت لوگوں کو بہکا بھی دے ہے۔

آیت کے شان نزول سے بیان مذکور کی شہادت | اور اس تقریر کی صحت کا موید قطع نظر اس کے کہ ظاہر ہے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو کتاب اللہ کو خوب تلاوت کیا کرتے تھے اور اس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں جو اس کتاب میں تھیں خوب یاد ہو گئی تھیں اور انکے مطالب کے سب پہلو ان کے ذہن نشین ہو گئے تھے اسی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں ہر طرح کے ان اوصاف کو آپ پر مطابق پایا اسمیں اختلاف ہے کہ وہ کتاب کونسی تھی تورات یا انجیل؟ اور وہ لوگ کون تھے یہود یا نصاریٰ۔

ادائیگی حق تلاوت میں سنی اور شیعہ فرقوں میں اکثریت کا لحاظ | بایں ہمہ یہ بھی اہل فہم پر روشن ہے کہ ہیئت مجموعی کی رو سے تمام فرقہ اہلسنت اور علیٰ ہذا القیاس تمام فرقہ شیعہ ایک گنا جاتا ہے۔ سو ہیئت مجموعی اہلسنت کو جد الحاظ کیجئے اور ہیئت مجموعی شیعہ جد ابیش نظر رکھئے۔ اور دیکھئے کہ اس فرقہ میں کثرت تلاوت اور تلاوت کا جیسا حق ہے پائی جاتی ہے یا فرقہ شیعہ میں اور ہیئت مجموعی کی رو سے سب کا ایک ہی حال ہوتا ہے ایک کی بات دوسرے کی طرف منسوب ہوتی ہے تھوڑی ہے تو تھوڑی اور بہت ہے تو بہت ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کے احوال کو تمام عالم مجموعہ کی طرف یعنی اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہاتھ میں کچھ تکلیف ہو تو یوں کہا کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، یا قلانا بیمار ہے، علیٰ ہذا القیاس، میں نے کسی کو مارا یا مجھکو کسی نے مارا میں نے کسی کو دیکھا یا مجھکو کسی نے دیکھا یہ ساری اضافتیں جزء کی کل کی طرف باعتبار مجموعہ کے ہوتی ہیں، یعنی مجموعہ کو ایک سمجھ کر جزء کے حال کو کل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مہذا الاکثر حکم الکل سب ہی کا سنا ہوا جملہ اور سب ہی کے نزدیک مسلم ہے اکثر کی بات و صفات کل ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے سو اکثر دینداران اہلسنت بکثرت تلاوت میں مشغول رہتے ہیں بخلاف شیعہ کہ ان کا حال

خود عیان ہے۔

شیعوں کی ایک راہ گریز اور اس کا انسداد | اس تقریر کے بعد شاید فاضلان شیعہ اپنے بچاؤ کی یہ سبیل کریں کہ حق تلاوت کے ہمارے نزدیک یہ معنے ہیں کہ بخشوع و خضوع و حضور قلب تدبر آیات تلاوت کی جائے۔ سو اس بات کی سنیوں میں ہونیکی اور شیعوں میں نہ ہونے کی کیا دلیل ہے اس لئے بندہ کمترین بھی بطور پیش بندی یہ گذارش کرتا ہے کہ موافق مثل مشہور ہمارا ادھر بھی لکھا ہے اس بات کے تسلیم سے بھی ہمیں انکار نہیں کیونکہ خشوع و خضوع کا باعث بجز حسن عقیدہ یا کثرت تلاوت بہ نسبت کلام اللہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا حسن عقیدت کا باعث خشوع خضوع ہونا تو ظاہر ہے رہی کثرت تلاوت سو اس کی یہ وجہ ہے کہ اکثر بنی آدم خدا سے غافل دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ساعت دو ساعت کے ذکر یا تلاوت سے ان کی غفلت اور رغبت زائل نہیں ہوتی، ہاں تدریجاً دراز تک اگر ذکر کی مشق کیجئے تو مثل اور کاموں کے البتہ بعد دیر یاد داشت اور حضور کا ملکہ پیدا ہو جائیگا اس وقت خشوع و خضوع آپ پیدا ہو جائے گا مگر ان فرقوں کو ذکر کرنے والے اور تلاوت کرنیوالے ہی جانیں تو جانیں شیعی کیا جانیں۔؟

اہل سنت کو کلام اللہ سے حسن عقیدت ہے شیعوں کو نہیں | خیر غرض یہ ہے کہ باعث خشوع و خضوع یا حسن عقیدت ہے یا کثرت تلاوت، بلکہ دونوں مل کر باعث حصول خشوع و خضوع ہوتے ہیں۔ سو حسن عقیدت کا ان لوگوں کے دلوں میں ہونا معلوم جو کلام ربانی کو بیاض عثمانی سمجھتے ہوں ہاں اہلسنت کے لئے جو کلام اللہ کو بلا کم و کاست و تغیر و تبدل حرفاً حرفاً بجنسہٖ کلام اللہ منزل سمجھتے ہیں، جتنا کہئے تھوڑا ہے معہذا موافق نقل عربی اَلْاِنَاءُ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ یعنی برتن میں سے وہی چیز چھلک کر نکلے گی جو اس کے اندر ہوگی۔ احوال شیعوں اور سنیوں کو مقابل کر کے دیکھ لیجئے کس کو اس کلام سے زیادہ اعتقاد ہے اہلسنت کا حال تو ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ حرز جان سمجھتے ہیں اور جہاں شیعی جزدانوں اور مکانوں میں رکھتے ہیں سنی بوجہ محبت سینوں میں اور جانوں میں رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ کی تعلیم و تعلم سے زیادہ اور کسی چیز کی تعلیم و تعلم کا اہتمام نہیں۔ سب میں پہلے بچوں کو کلام اللہ ہی پڑھاتے ہیں اور تا مقدور حفظ ہی کراتے ہیں، کلام اللہ کے سامنے کسی کی نہیں سنتے یہاں تک کہ احادیث کو بھی اس پر مطابق کر کے دیکھتے ہیں اگر موافق کلی تو فبہا ورنہ موافق مثل مشہور کالائے زبون بریش

خاوند اس کو راویوں کے سر مارتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ راوی کا قصور ہے القصہ عقل و نقل کی کسوٹی اور دین و دنیا میں امام سمجھتے ہیں چنانچہ سب جانتے ہیں۔ باقی رہے حضرات شیعہ ان کی بے اعتقادی بھی اسی درجہ کی ہے اور کیونکر نہ ہو، علامہ کلینی اپنی کتاب کافی میں جو شیعوں کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، وہ وہ روایتیں رقم فرماتے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے کلام اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ بالکل جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے شائقین کی نظر سے انشاء اللہ جلد ہی گذرتی ہیں

شیعوں کی نظر میں کلام اللہ کی حیرت ناک بے وقعتی

بالجملہ کلام اللہ کی بے اعتباری تورات و انجیل کی بے اعتباری سے بھی چند نمبر زیادہ ہی ناظرین روایات مشار الیہا انشاء اللہ اس قول کو آپ تسلیم کریں گے غرض نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ کلام ربانی کا نام ہی ان کی اصطلاح میں بیاض عثمانی ہو گیا ہے۔ اور اپنے آپ بے کہے سنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ منجملہ ثقلین کلام اللہ کے ساتھ تو ہمیں تمسک میسر نہیں ادھر تلاوت کلام ربانی کے انداز اور مجلس مرثیہ و کتاب خوانی کی تعظیم و توقیر کے موازنہ سے خود ظاہر ہے کہ شیعوں کے دل میں کلام اللہ کی مرثیوں کے برابر بھی قدر و منزلت نہیں گو زبان سے نہ کہیں ورنہ اس کے کیا معنی کہ کلام اللہ کے پڑھنے والے کو بھی حقہ پی لینے میں کچھ دریغ نہ ہو اور محفل مرثیہ و کتاب میں کیا مقدور جو کوئی حقہ کی طرف دیکھ بھی سکے، بہر حال اکثر شیعہ اس بات پر شاہد ہیں کہ کلام اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں چنداں نہیں گو اقل قلیل اہل سنت میں بھی ایسے ہوں کہ ان کا حال ان کے قال کے موافق نہ ہو مگر یہی کثرت تلاوت اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں یہ تو شیعوں کے اقرار سے بھی بفضلہ تعالے نصیب اہلسنت ہی ہوا ہے۔

حق تلاوت سے خشوع و خضوع مراد لینے میں شیعہ کی مطلب براری ہے اور نہ یہ احتمال آیت شریفہ پر چسپاں ہوتا ہے

القصہ اگر علماء شیعہ حق تلاوت کو بمعنی خشوع و خضوع رکھیں تو ہمیں تو کچھ انکار نہیں کیونکہ خشوع و خضوع بھی اگر ہے تو اہل سنت ہی میں ہے پر اس کو کیا کیجئے کہ نظم و نسق کلام اللہ اسی طرف ہے کہ حق تلاوت سے کثرت تلاوت ہی مراد ہے کیونکہ اول تو حق تلاوت یتلونہ کا مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق سب جانتے ہیں کہ بمعنی فعل مذکور یا اس کے اقسام میں سے ہوتا ہے سو کثرت تلاوت تو بیشک اقسام تلاوت میں سے ہے پر خشوع و خضوع داخل تلاوت نہیں بلکہ امور خارجیہ میں سے ہے، کون نہیں جانتا کہ تلاوت زبان کا کام ہے اور خشوع و خضوع دل کے احوال میں سے ہے اور یہ بھی نہ سہی اُولٰئِکَ

یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ کا اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ پر محمول کرنا اس بات کو مقتضی ہے کہ ایمان تلاوت موصوف پر متفرع ہو چنانچہ جو لوگ فنون بلاغت سے آشنا ہیں وہ اس بات سے بھی آشنا ہیں اور اسی واسطے یؤمنون بصیغہ استقبال فرمایا آمنوا نہ فرمایا۔

حق تلاوت سے خشوع و خضوع مراد لینے کی صورت میں ترتیب معانی کا الٹ جانا

طرفہ یہ ہے کہ در صورتیکہ حق تلاوت بمعنی خشوع و خضوع ہو معاملہ برعکس ہو جائے گا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایمان سے یا تو معنے مشہور مراد لیجئے یا بمعنی کمال انقیاد و تسلیم جسے ایمان کامل کہتے ہیں رکھیے یا تصدیق معانی مقصودہ جو مراد خداوندی ہی قرار دیجیے سو بہر صورت معاملہ برعکس ہے ایمان بمعنی مشہور یعنی تصدیق لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خضوع و خشوع سے پہلے ہونا تو کسی پر مخفی ہی نہیں سب جانتے ہیں کہ ایمان ہی سے بقدر ایمان خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے نہ کہ برعکس۔ رہا ایمان بمعنے کمال انقیاد سو وہ بھی اسی طرح خضوع و خشوع تلاوت سے مقدم ہے کیونکہ وہ سبب ہے، اور یہ مسبب علیٰ ہذا آیت

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔

(وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں انکے دل اللہ کی یاد سے سُن لو اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل)

بھی اسی طرف مشیر ہے کہ ایمان کامل باعث کثرت ذکر اور موجب حصول اطمینان قلب جو عین توجہ الی اللہ و حضور قلب ہے، ہوتا ہے کیونکہ اطمینان قلب کا حاصل ہونا بجز نفوس مطمئنہ کے جو کامل الایمان ہوتے ہیں متصور نہیں چنانچہ بدیہی ہے باقی رہا ایمان بمعنی تصدیق و علم مراد خداوندی، سو وہ بھی بشہادت آیت

اِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

(اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔)

حال خضوع سے جو اس آیت میں بضمن تَرٰۤى اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ مذکور ہے مقدم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب سنیں وہ لوگ کہ جن کا اوپر ذکر ہے اس کلام کو جو رسول پر نازل کی گئی ہے تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں بسبب اس کے کہ جان لیا انہوں نے حق بات کو۔ سو اس سے یہ بات صاف روشن ہے کہ انہوں نے کلام اللہ کو سنکر مضامین حق دریافت کیے اس سبب ان کا یہ حال ہو گیا کہ آنسوؤں کا تار بندھ گیا ہے یعنی بسبب حق کے دریافت

ہو جانے کے انکے دلوں میں خشوع وخضوع پیدا ہوگیا، نہ یہ کہ رونے اور خشوع وخضوع کے باعث ان کو حق بات معلوم ہوگئی ہو غرض در صورتیکہ حق تلاوت بمعنی خشوع وخضوع ہو تو یہ طور ترتیب بالعکس ہوئی جاتی ہے۔

حق تلاوت سے کثرت تلاوت مراد لینے کی صورت میں ترتیب معانی کا ٹھیک اور درست رہنا

ہاں اگر حق تلاوت سے کثرت تلاوت مراد ہو، تو تینوں صورتوں میں ترتیب بطور خود رہے گی۔ کیونکہ بے ایمانوں اور ضعیف الایمانوں کو تو کثرت تلاوت موجب آگاہی حقائق ودقائق کلام ربانی ہی ہوتی ہے اور باعث ہدایت اور رفع شکوک اور سبب حسن عقیدت جو عین ایمان ہے ہو جاتی ہے۔ سو اگر ایمان سے بمعنی مشہور مراد ہو تو بایں طور کثرت تلاوت باعث حصول ایمان ہے اور اگر کمال ایمان مراد ہے تب بھی یہی بات ہے۔ کیونکہ کثرت تلاوت سے دم بدم غفلت زائل ہوتی جاتی ہے اور لمحہ بلمحہ ملکۂ یادداشت اور حضور قلب ترقی پکڑتا ہے اور صفائے آئینہ قلب کی زیادتی اور انوار تجلیات کے ہجوم کا باعث ہو جاتی ہے اس وجہ سے تصدیق قلبی محکم اور مستحکم ہو جاتی ہے اور کمال انقیاد پیدا ہوتا ہے، باقی رہا ایمان بمعنی علم مراد خداوندی سو اس کا کثرت تلاوت پر متفرع اور مترتب ہونا تو سب ہی پر ظاہر ہے، کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کا کثرت سے مطالعہ کرنے والا اس کے مطلب کو بہ نسبت ان لوگوں کے جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اکثر صحیح ہی سمجھتا ہے

آیت مذکورہ میں ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اب ایک شبہ باقی رہا وہ یہ ہے کہ آیت اَلَّذِیْنَ آتَیْنٰھُمْ سے ایمان کا تلاوت موصوف پر متفرع ہونا ہر چند ظاہر ہے چنانچہ مبتدا کو بقید مذکور مقید کرنا اور اُولٰٓئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ کا اس پر محمول کرنا اور یُؤْمِنُوْنَ کہنا اور آمَنُوْا نہ کہنا سب اسی طرف مشیر ہیں مگر احتمال یہ بھی تو ہے کہ بطور معلوم تلاوت کرنا ایمان کی فقط علامت ہو۔ اور ترتب اور تفرع کا کچھ لحاظ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ بعضی اشیاء کی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان اشیاء ہی کے سبب پیدا ہوتی ہیں جیسے دھواں دور سے جہاں سے آگ نظر نہ آتی ہو، آگ کی علامت ہے اور آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا وجود آگ کے وجود کی فرع ہے آگ کا وجود اس کے وجود کی فرع نہیں۔ سو ایسے ہی اگر تلاوت موصوف، ایمان کی علامت بھی ہو اور پھر ایمان ہی سے پیدا بھی ہوتی ہو اور بغرض بیان علامت ہی جناب باری نے یہ فرمایا ہو تو کیا ہرج ہے، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عمدہ توجیہ کو چھوڑ کر ایسے احتمال ضعیف کو لینا اول تو یہی دلیل کم فہمی ہے خصوصاً خدا کے کلام میں کہ اس میں بالاتفاق اگر ہوگی تو عمدہ توجیہ مراد خداوندی ہوگی دوسرے

یَتْلُوْنَہٗ لیکن اس کا کیا جواب کہ بیان علامت سے تو غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ شے جس کی یہ علامت ہے متمیز اور متبین ہو جائے، سو جب تک علامت خود متمیز اور متبین نہ ہوگی تب تک بیان علامت بیکار ہے خدا کے کلام میں بیہودہ بیکار باتوں کا ہونا منجملہ محالات ہے، اور چونکہ خشوع وخضوع امر مخفی ہے اس کو علامت ایمان مقرر کرنا تعریف مجہول بالمجہول اور تشریح مخفی بالمخفی کی قسم میں سے ہے البتہ کثرت تلاوت ایک امر محسوس ہے اس کو اگر علامت کہیے تو زیبا ہے اور پھر قطع نظر اس کے مفید ترتیب مذکور معہذا خضوع و خشوع کو باعتبار عادت کے مستلزم، چنانچہ مذکور ہوا۔ سو اس صورت میں علامت ہونا بھی صحیح ہوگیا اور خضوع وخشوع کی طرف بھی اشارہ ہوگیا اور ترتیب وتفریع بھی ہاتھ سے نہ گئی اور حق تلاوت کا مفعول مطلق ہونا بھی صحیح و درست رہا اور کسی طرح کی تکلیف کی ضرورت نہ پڑی،

آیت مذکورہ کے ذیل میں ایک اور فائدہ

جب اس شبہ کی تردید سے فراغت پائی تو ایک اور فائدہ گوش گذار اہل فہم ہو وہ یہ ہے کہ قید آتَیْنٰھُمْ سے یوں خیال میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب نہیں دیگئی یعنی اس کو مانتے ہی نہیں، چہ جائیکہ مانکر غلط سمجھ جانا، ان لوگوں میں سے اگر کوئی حافظ ہو جائے تو مضائقہ نہیں، یا یوں کہیے کہ اس کو ایسی تلاوت جسے تلاوت کا حق کہتے ہیں میسر آجائے تو آجائے، پر ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب ملی ہے یعنی انہوں نے انکو تسلیم کیا، کثرت تلاوت وہاں ہی ہوگی جہاں حق ہی حق ہوگا کچھ کبھی نہ ہوگی کیونکہ کثرت تلاوت جسے تلاوت کا حق کہتے ہیں، علامت ایمان ہے تو فقط انہی کی نسبت ہی جو اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، نہ کہ ہر کسی کے حق میں، اس صورت میں یہ جو مشہور ہے کہ برنس نصرانی کو کلام اللہ یاد تھا۔ کیا عجب ہے کہ صحیح ہو۔ بہر حال بعلامت یَتْلُوْنَہٗ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بشارت اُولٰٓئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ فرقہ اہلسنت کے لیے ہے اور حضرات روافض منجملہ وَمَنْ یَّکْفُرْ بِہٖ فَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ہیں جس کے یہ معنے ہیں اور جو لوگ کتاب اللہ سے پھر گئے سو وہی ٹوٹے میں ہیں۔

اس ایک آیت کی طرح اور بھی آیت قرآنیہ مذہب اہلسنت کو حق اور مذہب شیعہ کو باطل قرار دیتی ہیں بغرض اجمال فقط ایک پر اکتفا کی گئی۔

اب التماس یہ ہے کہ سوا آیت مذکورہ آیات کثیرہ حقیقت مذہب اہل سنت، اور بطلان مذہب شیعہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کیونکر دلالت نہ کریں جس قدر عقائد مخصوصہ مذہب شیعہ اور فروع خاصہ مذہب مذکورہ ہیں، تمامہا مخالف کلام اللہ ہیں۔ اور مذہب اہلسنت سراپا کلام اللہ پر مطابق، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ بسبب تلاوت کے حق ادا کرنے کے اہلسنت تو مغز سخن ربانی کو پہنچے اور شیعہ بسبب

[illegible] کہ کثرت تلاوت [illegible] ان کو میسر آئی، دقائق کلام اللہ کو نہ سمجھے مگر چونکہ آیت مذکورہ کے ذکر کرنے سے [illegible] معلوم ہو گیا۔ تو اہل عقل بالاجمال سمجھ جائیں گے کہ بیشک آیات ربانی مخالف مذہب شیعہ [illegible] مذہب اہل سنت تمام موافق قرآن مجید۔ تو قطع نظر اس کے کہ آیت مذکورہ حقیت مذہب اہلسنت و بطلان مذہب شیعہ پر جداگانہ بھی دلالت رکھتی ہے چنانچہ ملاحظہ تقریر بالا سے واضح ہو جائیگا اور کیت کے ذکر سے بھی حقیت مذہب اہلسنت اور بطلان مذہب شیعہ پر دلالت کرتی ہے چونکہ اس وجہ سے یہ آیت اور آیات کی بھی نیابت کرتی ہے تو اس کو کیا بیان کیا گویا سب ہی کو بیان کر دیا اس وجہ سے اور آیات کے بیان سے مقتصر ہوں معہذا اگر تمام آیات مخالف مذہب شیعہ کو لیجئے تو ایک دو نہیں جو سہل ہو بکثرت بلکہ اکثر آیات کلام اللہ عقائد و احکام در اصول و فروع مذہب شیعہ کو رد کرتی ہیں اور مذہب اہلسنت کی حقیت اور حقانیت پر شاہد ہیں، اس رسالہ مختصر میں سب کی گنجائش کہاں؟ خصوصاً جبکہ بقدر فہم انکی شرح بھی کیجئے اور ان سے اہلسنت کی حقانیت اور ان کے مذہب کی حقیت اور اہل تشیع کے مذہب کے بطلان پر استدلال بھی لائیے۔

استدلال آیت مذکورہ پر شیعوں کی طرف سے ایک پر شکوہ شبہ لہذا ایک ہی آیت پر کہ وہ ایک ہی سب کے قائم مقام اور مفید خاص و عام ہے اکتفا کر کے اس قدر اور گذارش کرتا ہوں کہ شاید کسی شیعی المذہب کو اس آیت کی ہدایت کو سنکر بسبب کجی طبیعت اور ضلالت طبع زاد اور تعصب نہاد یہ شبہ ہو کہ یہ آیت ہے تو کیا ہوا ایک جملہ قرآنی ہے سو قرآن کا نعوذ باللہ منہ کیا اعتبار ہمارے اعتقاد کے موافق کمی کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ بیشی اور افزائش اور تبدیلی الفاظ بھی ظہور میں آئی ہے۔ پھر عجب نہیں کہ یہ آیت بھی منجملہ الحاقات اہل سنت ہو وے

شبہ کا ایک پہلو سے جواب سو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ مذہب محققین شیعہ اس بات میں یا تو یہ ہے کہ کلام اللہ میں نہ کمی ہوئی نہ بیشی، چنانچہ استاد علامہ کلینی حضرت صدوق اس کے قائل ہیں یا یہ ہے کہ کمی تو ہوئی ہے زیادتی نہیں ہوئی۔ غرض زیادتی کا نہ ہونا اجماعی۔ اور آیت مرقومہ سے انکار نہیں ہو سکتا مگر یہ چونکہ دونوں مذہب مخالف مرویات کلینی ہیں جو اصح الکتب شیعہ ہے۔ اور نیز ذہن نشین اکثر شیعہ بھی یہی ہے کہ کلام اللہ میں کمی زیادتی دونوں ہوئی ہیں۔ ادھر ہمارے بعض مطالب مذکورہ بھی اسی پر مبنی ہیں اس جواب پر قناعت نہیں ہو سکتی۔

شبہ کا دوسرے پہلو سے جواب اس لئے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ اور شیعوں کے مذہب کے بطلان

ہی کی دلیل ہے۔ بحمد اللہ باقرار شیعہ اتنا تو معلوم ہوا کہ مذہب تشیع کا اعتبار نہیں کیونکہ ماخذ احکام دین سب میں اول کلام اللہ ہی تھا۔ جب اس کا اعتبار نہیں تو جو باتیں شیعی بزعم خود کلام اللہ سے ثابت کرتے ہیں اگر بفرض محال ثابت بھی ہو جائیں تو بدرجہ اولی قابل اعتبار نہ ہوں گی۔

کلام اللہ پر بے اعتباری ظاہر کرنا خود اپنے خیال کی بیخ کنی ہے معہذا ثقلین جو متفق علیہ طرفین ہے اس بات پر شاہد ہیں کہ کلام اللہ اور عترت دونوں کے ساتھ تمسک رہے گا تو گمراہی پیش نہ آئے گی۔ پھر جب کلام اللہ سے جو موافق حدیث مذکور دونوں میں اعظم ہے تمسک میسر نہیں تو بشہادت عقل سلیم ہدایت بھی نہیں سراپا گمراہی ہے۔ غرض حضرات شیعہ اگر یہ احتمال پیش کریں تو یہ تو اور الٹے اپنے ہی پاؤں میں تیشہ مارنا ہے۔

کلام اللہ پر سے اعتبار اٹھ جانا احادیث پر سے اعتبار کو پہلے کھو دیتا ہے ادھر بالبداہت اور بالاجماع کسی فرقے کی کوئی حدیث اس درجے کو شائع و ذائع نہیں ہوئی جس درجے کو کلام اللہ شائع ذائع ہوا ہے اور نہ اس طرح سے کسی حدیث کے سارے راوی اس کی روایت میں متفق اللفظ پھر جب کلام اللہ کا اعتبار نہیں اس کا کاہے کو ہوگا۔ پھر جس میں راویان احادیث شیعہ کے احوال کو اور ان احادیث کے تعارض کو دیکھئے تو بے اعتباری میں نہایت ہی کو پہنچ جائیں گی۔ بہر حال اگر یہ شبہ علماء شیعہ پیش کریں اور اکثر مواقع میں پیش کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت تخفیف تصدیع ہے۔

ع۔ عدد شود سبب خیر گر خدا خواہد

کلام اللہ میں کمی و بیشی کا خیال تلاوت اور حفظ قرآن کا خاتمہ کر دیتا ہے معہذا شیعوں ہی کے اقرار سے ہمارا وہ دعوے جو تقریر شرح آیت مسطورہ میں گذرا ہے۔ خدا ساز ثابت ہو گیا کیونکہ جب قرآن میں اس درجہ کمی و بیشی ہے تو پھر جسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن ہی نہ ہوا۔ اب اگر شیعی اسے یاد بھی کرلیں۔ اور تلاوت کا جیسا حق ہے ویسی طرح تلاوت کریں تب بھی فی الواقع تلاوت قرآن اور حفظ قرآن نہ ہوگا

حضرات اہل بیت کا عمل قرآن میں کمی و بیشی کے خیال کو لغو ثابت کرتا ہے دوسرے تمام روایات امامیہ میں موجود ہے کہ تمام اہلبیت اسی قرآن کو پڑھتے تھے اور اسی کے عام و خاص سے تمسک کرتے تھے اور بطور استدلال اسی قرآن کی آیات کو پیش کرتے تھے اور اسی کی آیات کی تفسیر کرتے تھے اور حضرت امام حسن عسکری کی طرف جو تفسیر منسوب ہے تو اسی قرآن کی ہے لفظاً لفظاً اور اہل بیت اپنے لڑکوں اور بندیوں اور خادموں اور

اہل و عیال کو بھی قرآن تعلیم فرماتے تھے۔ اور اسی قرآن کے پڑھنے کا نمازوں میں حکم فرماتے تھے

قرآن کا حد درجہ شائع ہونا خود اس میں کمی و بیشی کے خیال پر ضرب کاری لگاتا ہے

معہذا قرآن مجید کا موافق نزول کے لوگوں کو پہنچانا اور ان کو سکھانا باجماع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ فرض تھا اور یقیناً معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کوئی مشرف باسلام ہوتا تھا، اول کلام اللہ سیکھتا تھا۔ بعد ازاں لوگوں کے سکھانے میں مشغول ہوتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہزاروں نے کلام اللہ سیکھ لیا تھا، چنانچہ بعضے بعضے غزوات میں ستر ستر حافظ شہید ہوئے ہیں بعد ازاں آج تک تمام اطراف میں یہاں تک کہ دیہات میں اہل اسلام کلام اللہ کی تلاوت کو سب عبادتوں میں بڑھ کر سمجھتے ہیں اور رات دن نماز میں اور نماز سے باہر کلام اللہ کے پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ہر لڑکے کو اول جو مکتب میں بٹھلاتے ہیں تو سب سے پہلے کلام اللہ ہی یاد کرانا شروع کراتے ہیں۔ بالجملہ قرآن مجید مثل کلینی و تہذیب نہیں کہ براہ تقیہ کسی کونے میں صندوق میں مقفل بند رہے کبھی تنہائی میں ڈرتے ڈراتے کہ مبادا کوئی سنی نہ آجائے ایک دو صفحہ مطالعہ کر لیا اور پھر ایسے کثیر الوجود کہ ہر شہر و دیار میں سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ کلینی تہذیب کو ہندوستان میں تلاش کیجئے تو کہیں کہیں نکلے گی علی ہذا القیاس ایران میں سمجھئے کیونکہ اول تو رعایا سلطانی میں اہل سنت بکثرت ہیں سنا تو یوں ہے کہ شیعوں سے زیادہ ہوں۔ آئندہ خدا جانے، اور شیعوں میں سے بھی کلینی و تہذیب نہ ہر کسی کے کام کی نہ ہر کوئی اسے سمجھے جو خواہ مخواہ بہم ہی پہنچائے، باقی سوا ان کے اور ممالک میں کلینی و تہذیب کا پتہ تو کیا ملے نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ بااینہمہ اگر ایک دو نسخہ کہیں مل بھی جائے تو بیشتر غلط ملتے ہیں، صحیح تو قسمت ہی سے ملتا ہے بخلاف کلام اللہ کے ہر دیار میں بکثرت موجود۔ یہاں تک کہ کوئی کتاب کسی مذہب کی ہو یا کسی علم عقلی کی ایسی کثیر الوجود نہیں پھر عام و خاص کو اس کی ضرورت ایک ایک گھر میں متعدد کلام اللہ رکھے ہوئے ہیں۔ حفظ و تصحیح کا یہ اہتمام کہ ہزاروں حافظ حرف حرف گنا ہوا زبر زیر کی تعداد معلوم رسم خط میں بیسیوں کتابیں موجود، پھر بااینہمہ کسی عاقل کی عقل میں آسکتا ہے کہ کلینی اور تہذیب میں تو الحاق نہ ہونے پائے اور شیعوں کے نزدیک من کل الوجوہ معتبر اور معتمد رہے اور اصح الکتب کہلائے اور کلام اللہ میں الحاق ہو جائے۔ اور اس کا کچھ اعتبار نہ رہے۔

قرآن مجید کی بے پناہ شہرت عقل کے نزدیک خلیفہ ثالث کے دامن کو الزام سے پاک کر دیتی ہے

جس زمانہ فرض کیجئے

کہ اس میں فلانے شخص نے کلام اللہ میں سے کم کر دیا یا اس میں کچھ بڑھا دیا۔ جیسے شیعوں کو خلیفہ ثالث کی طرف بدگمانی ہے تو ایک دو کلام اللہ میں بڑھایا گھٹایا ہوگا تمام ملک عرب اور ملک روم اور ملک ایران اور یمن کے مصاحف میں (کہ ان کے خلیفہ ہونے سے پہلے یہ تمام ممالک تحت تصرف اسلام آچکے تھے اور سوائے ملک عرب کے کہ وہ سارا کا سارا مسلمان ہو چکا تھا اور ممالک کے باشندوں میں سے بھی لکھو کھا آدمی مسلمان ہو چکے تھے اور قرآن کو فرمان خداوندی سمجھ کر ہر کوئی حرز جان سمجھتا تھا اور مجموعہ ایمان تصور کر کے اس کی یادگاری اور تلاوت میں مشغول تھا کمی و بیشی ہرگز قرین عقل نہیں، علاوہ بریں اس زمانہ میں حفاظ کی نوبت لکھو کھا کو پہنچی تھی خلیفہ ثالث نے ان کے سینوں سے کیونکر نکال دیا ہوگا۔ کہ تمام عالم میں قرآن محرف ہی مروج ہو گیا ان وجوہ کے نظر کرنے کے بعد اہل عقل کا تو یہ کام نہیں کہ قرآن مجید کی نسبت اس بات کے قائل ہوں کہ اس میں کچھ کمی یا بیشی وقوع میں آئی ہو اور جب قرآن مجید اس درجہ کو صحیح اور معتبر ہوا، کوئی کتاب اس کے ہمسنگ نہیں اور تفسیر امام حسن عسکری میں اول سے آخر تک تمام آیات بجنسہا موجود ہوئیں تو اول تو آیت اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْکِتٰبَ الخ سے استدلال کرنا صحیح اور درست ہوا۔

قرآن کی حفاظت کا ثبوت خود قرآن کی زبانی

دوسرے اگر کلام اللہ ہی کی آیات سے کلام اللہ کے بجنسہٖ محفوظ ہونے پر استدلال کریں تو درصورتیکہ طریقہ استدلال صحیح ہو واجب التسلیم ہوگا۔ اس لئے کلام اللہ کو جو ہم نے تجسس کیا تو آیات کثیرہ اس پر شاہد نکلیں کہ کلام اللہ تا ہنوز موافق نزول کے بجنسہٖ باقی ہے کسی قسم کا تغیر یا تبدل اس میں وقوع میں نہیں آیا۔ نہ کمی ہوئی اور بیشی ہوئی۔ نہ کسی لفظ کے عوض میں دوسرا لفظ مشہور و معروف ہو گیا۔ سب کو لکھ کر اس مضمون کو ثابت کیجئے۔ اس کی تو گنجائش نہیں۔ فقط ایک آیت کا لکھنا ضروری سمجھ کر ایک ہی پہ اکتفا کرتا ہوں سورہ حجر میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ یعنی ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ فقط اب جائے غور ہے کہ باوجود اس پختہ وعدہ کے جو مؤکد بچند تاکید ہے۔ چنانچہ واقفان علم معانی واقف ہیں۔ پھر نہ جانے خلیفہ ثالث نے کیا ستم کئے ہیں۔ کہ قرآن اصلی کا بالکل نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ اللہ کیا کچھ قدرت و طاقت تھی کہ نعوذ باللہ خدا کی بھی نہ چلنے دی۔ سورتیں کی سورتیں نکال ڈالیں اور آیتیں کی آیتیں بدل دیں۔ زہے نصیب اہلسنت جن کے ایسے پیشوا ہوں۔

شیعوں کے غلط خیال کے شرمناک نتائج

باقی رہا یہ احتمال کہ خداوند ذوالجلال وعدہ کر کے پھر گئے ہوں۔ سو یہ خیال خود محال ہے۔ خداوند صادق القول ایسی تاکیدوں سے وعدہ محکم فرمائے اور پھر پھر جائے اور حفاظت نہ کرے معہذا کلام اللہ ہی میں یہ بھی آیت ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ———— یعنی۔ اللہ تعالےٰ ہرگز خلاف وعدہ نہیں کرتا

مگر شاید کسی شیعہ مذہب کو یہ احتمال پیش آئے کہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں یا جس کو یوں کہیئے کہ اس نے کلام اللہ میں کمی وبیشی کی ہے اس کے زمانہ میں خداوند کریم ٹول گیا ہو یا اپنے وعدہ کو بھول گیا ہو، سو اس کا جواب خداوند کریم نے اپنے آپ کلام اللہ میں فرما دیا ہے۔ آیت الکرسی تو شیعوں کو بھی یاد ہو گی اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ یعنی نہ اونگھ ہی خدا کو آ دباتی ہے اور نہ نیند ہی ادھر سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یعنی تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں یوں ارشاد ہے لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى۔ نہ بھکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے۔ اس آیت نے اس احتمال کو بھی مرتفع کر دیا کہ خداوند کریم نے نگہبانی قرآن کا قصد تو کیا ہو، پر تدبیر میں غلطی ہوئی ہو، یا بوجہ غلطی قرآن کے بدلے کسی اور چیز کی حفاظت کر بیٹھے ہوں جب یہ سب احتمالات مرتفع ہو چکے تو اب اس غلام خاندان نبوی کی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام حضرت شیعہ کی خدمت میں یہ گذارش ہے کہ بعد اس وعدہ محکم اور عدم موانع کے جو خداوند کریم سے حفاظت نہ ہو سکی تو بجز اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے نزدیک خلیفہ ثالث میں (نعوذ باللہ من ہذا القول) خدا سے بھی زیادہ زور اور بل تھا کہ خدا کا ارادہ پیش نہ گیا درحالیکہ تم خلیفہ ثالث کے اس قدر معتقد ہو کہ خدا کو بھی اتنا نہیں سمجھتے تو خلیفہ ثالث ہی کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہو لیتے (نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد) اگر یہی تمہارے خیال ہیں تو خدا تعالےٰ کے ساتھ ہو کے کیا پورا پڑے گا مبادا قیامت کو خلیفہ ثالث تمہیں بھی خدا تعالےٰ کی حفاظت سے نکال کر کبھی کبھی کے بدلے لینے لگے اور خدا کو شیعان علی سے شرمانا پڑے۔

اسی سلسلے میں کلینی کی افترا پردازی اور مرتبہ قرآن میں خلل اندازی

یا یوں کہو کہ یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے اور کلینی جو تمہارے نزدیک اصح الکتب ہے، اس کی یہ روایت سراسر بہتان اور دروغ ہے۔

عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله اِنَّ القرآنَ الَّذِی جَاءَ بِهٖ جبرئیل الی محمد

یعنی ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ وہ قرآن جو حضرت جبرائیل رسول اللہ

صلی اللّٰه علیہ وعلٰی آلہ وسلم سبعة عشر الف آیات

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اس کی سترہ ہزار آیتیں تھیں۔ فقط

اب دیکھیئے کہ یہ کلام اللہ جو اب موجود ہے اسمیں کل قریب چھ ہزار آیتوں کے ہیں تو شیعوں کی اس روایت کے موافق کوئی دو تہائی کلام اللہ چوری گیا، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ خداوند کریم ذمہ کش حفاظت نہ ہوتے۔ اس کی حفاظت کے بھروسے اُمتیانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے فکر ہو بیٹھے، ورنہ بہت ہوتا تو اتنا ہی نقصان ہوتا جتنا توراۃ و انجیل میں ہوا تھا۔ سو جو لوگ کہ توراۃ و انجیل کی تحریف کے اثبات کے درپے ہوئے ہیں وہ بھی یوں نہیں کہتے کہ توراۃ و انجیل میں اتنا کچھ نقصان ہوا ہے بلکہ بعد تحقیق یوں معلوم ہوتا ہے کہ علماء یہود و نصاریٰ نے قدر قلیل کمی بیشی کی ہے۔ سو وہ بھی جہاں کہیں کوئی بات مسلمانوں کے مفید مطلب دیکھی ہے یا کوئی ایسا حکم ہوا ہے کہ اس کے مروج رہنے میں امراء کو دشواری ہوئی ہے ایسی جگہ امراء سے کچھ لے دیکر بدل دیا ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ القصہ حسب مقولہ شیعہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس اہتمام اور اس انتظام کے کہ قرآن مجید کی خداوند کریم نے خود حفاظت کی۔ قرآن مجید غیر محفوظ اور غیر معتبر ہونے میں توریت و انجیل سے بڑھ گیا۔ حالانکہ ان کا حافظ محافظ نہ خدا تھا نہ کوئی پیغمبر، ہاں علماء دنیا پرست کہ آیات خداوندی کا بیچ دینا، اور احکام کا بدل ڈالنا۔ اور تحریف کا کرنا ان کا کام ہی تھا، اس کے فقط پڑھنے پڑھانے والے اور جاننے پہچاننے والے تھے۔ حافظ و نگہبان ہونا کجا۔ شاید اس فرقہ کے نزدیک کلام اللہ کے توراۃ و انجیل سے بڑھ کر ہونے کے یہی معنی ہیں۔ کہ بے اعتباری میں ان سے بڑھا ہوا ہے۔

حفاظت قرآن کے دو لچر احتمالات اور انکے دندان شکن جوابات

یہاں علماء شیعہ دو احتمال پیش کریں۔ تو کریں۔ ایک تو یہ کہ کلام اللہ لوحِ محفوظ میں محفوظ ہے، دوسرا یہ احتمال کہ غار سر من رائے میں حضرت امام مہدی حافظ قرآن موجود ہیں۔

سو اوّل احتمال کا پوچ ہونا تو ظاہر ہے اول تو یہ ہے کہ اگر بالفرض اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا یہی مطلب ہے، تو ہمیں کیا۔ ہم سے اس وعدہ کرنے کے کیا معنے، ہمارے مفید مطلب تو یہ بات ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرتے جو ہمارے پاس ہے۔ تاکہ احکام خداوندی کے معلوم ہونے میں

کچھ شک و شبہ نہ رہتا۔ دوسرے وہاں کی حفاظت کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر لوحِ محفوظ تک کسی بے دین کی دسترس ہوتی تو البتہ حفاظت کا موقع بھی تھا۔ تیسرے آیت مذکورہ اول تنزیل کا ذکر فرمایا بعد ازاں حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس ترتیب سے بلاغت شناسانِ قرآنی کو خود معلوم ہے۔ کہ قرآن منزّل کی حفاظت مدِ نظر ہے نہ کہ اس قرآن کی جو لوحِ محفوظ میں محفوظ ہے۔ چوتھے اگر یہی مطلب ہے تو یہ فضیلت تو تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں کیا فوقیت ہوئی معہذا یہاں حفاظت کا وعدہ کیا وہاں نہ کیا۔ اس کا کیا ثمرہ نکلا۔ پانچویں یہ ہے کہ اس آیت میں اسماء قرآنی میں سے ذکر کو ذکر کیا۔ لفظ قرآن یا کتاب وغیرہ ذکر نہ فرمایا تو یہ بھی اسی غرض سے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن میں امکان کمی و بیشی تغیر و تبدل کا کسی کو احتمال باقی نہ رہے۔

قرآن مجید کے نام ذکر کا موقع استعمال اور اس کی مفید تشریح چونکہ بات تمہید طلب ہے تو ہمیں لازم ہے کہ اس کی تمہید بیان کر کے اصل مطلب کو روشن کر دکھلائیں، اس لئے یہ گذارش ہے کہ بسبب اعتبارات اور اوصاف مختلفہ اور حیثیات متعددہ کے ایک ایک چیز کے متعدد نام ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ نام اپنے اپنے موقع ہی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا مثلاً ایک شخص کسی کا باپ بھی ہوتا ہے اور کسی کا بیٹا بھی اور علیٰ ھٰذا القیاس کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا کسی کا چچا کسی کا بھانجا کسی کا ماموں ہوتا ہے۔ غرض ایک شخص ہے اور اس کے القاب بہت ہیں، پر وہ سب القاب یکساں برابر نہیں بولے جاتے اپنے اپنے موقع میں مستعمل ہوتے ہیں بیٹا اپنے باپ کو بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتا۔ گو وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اسی طرح باپ بیٹے کو باپ کہہ کر نہیں پکار سکتا اگرچہ وہ اپنے بیٹے کا باپ ہے دوسری مثال یہ ہے کہ ایک حاکم کلکٹر بھی ہوتا ہے، مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، مگر چونکہ کلکٹری، مجسٹریٹی کا کام مختلف اور جدا جدا ہے تو کلکٹری کے کاغذات میں بلقب کلکٹر لکھتے ہیں اور مجسٹریٹی کے کام کاغذات میں بلقب مجسٹریٹ اور برعکس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن شریف کے بھی بہت سے القاب اور اسما ہیں اور ہر ایک لقب کا مدار ایک جدا اعتبار اور نئے نئے اوصاف پر ہے۔ قرآن تو بلحاظ مقروء ہونے کے کہتے ہیں یعنی قرآن کو قرآن اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کی قرأت کا اتفاق ہوتا ہے اور مصحف اور کتاب بایں لحاظ کہتے ہیں کہ اس میں صحف یعنی اوراق ہوتے ہیں۔ اور ان اوراق میں اس کو لکھتے ہیں، علیٰ ھٰذا القیاس ذکر بایں وجہ کہتے ہیں، کہ غافلوں اور جاہلوں کیلئے

مذکر اور گنہگاروں کے واسطے پندِ دلبند ہے یعنی باعث یادگاری یاد ہے اور پندِ خداوندی ہے۔ سو اس لقب کا استعمال جب ہی صحیح ہوگا، کہ مقابل میں غافل و جاہل و گنہگار ہوں۔ مگر سب جانتے ہیں کہ موصوف بوصف غفلت و جہل و گناہ اگر ہے تو یہ انسان ہے ملائکہ ان عیوب سے مبرا ہیں تو جب تک کلام اللہ لوحِ محفوظ میں تھا، اس لقب کا بولنا صحیح نہ تھا کیونکہ اس موقع میں نہ کوئی غافل تھا نہ جاہل تھا نہ گنہگار تھا وہاں تک اگر رسائی تھی تو فقط ملائک کو تھی۔ سو ان کو ان باتوں سے کچھ سروکار ہی نہیں ہاں جب نوبت تنزیل کی پہنچی اور معاملہ حضرت انسان سے پڑا تو البتہ اس لقب کا استعمال صحیح ہوا کیونکہ غرض انزال و تنزیل سے یہی ہے کہ غافلان نوعِ بشر کے لئے مذکر اور واعظ ہو۔ پھر جب اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ فرمایا، تو ضمیر اسی لفظ کی طرف راجع فرمائی اس لئے لازم پڑا کہ حفاظت بھی اسی موقع میں ظہور میں آئے کہ جہاں اس لقب کا استعمال صحیح ہو۔

دوسرے سوال کا مسکت جواب باقی رہا دوسرا احتمال، اس کا یہ حال ہے کہ اول تو حضرت امام مہدی کا غارِ سرمن رائے میں مخفی ہونا ہی ایک افسانہ غلط ہے جب کلام اللہ کا باوجود اس قدر تواتر کے کچھ اعتبار نہ رہا ایسی روایات بے سروپا کا جن کے راوی فقط دو چار مکار ہوں کیا اعتبار اور درصورتیکہ وہ بات بھی قرین قیاس نہ ہو تب تو قابل قبول عقل کسی عاقل کے نزدیک بھی نہیں اور جن روایات سے حضرت امام مہدی کا یہ افسانہ مردی ہے وہ کچھ ایسی ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کمتر بایں ہمہ یہ بات تو ہرگز متصور ہی نہیں کہ حضرت امام مہدی کو کلام اللہ یاد ہو، یہ کام تو اہلسنت جماعت کا ہے حضرت امام مہدی کو ان کا تشبہ کا ہے کو گوارا ہوگا مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ ہاں ان کے پاس کلام اللہ ہو۔ اور حضرت امام اس کلام اللہ کو لیکر اسی اندیشے سے اس غار میں جا چھپے ہوں کہ مبادا ان کے پاس کا کلام اللہ معتقدان خلیفہ ثالث کی نظر نہ پڑ جائے تو البتہ ایک ٹھکانے کی بات ہے لیکن اہل فہم سے سوال ہے کہ یہ احتمال پہلے احتمال سے اس بات میں کیا کم ہے کہ ہمارے حساب سے ویسا ہی لوحِ محفوظ میں ویسا ہی غارِ سرمن رائے میں، نقل مشہور ہے ویسا ہی کنواں ویسی ہی کھائی، بلکہ بلحاظ وجہ پنجم اس کلام اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہی نہیں جو بزعم شیعہ حضرت امام کے پاس ہو اہل فہم کے نزدیک اس کا ذکر کرنا ہی صحیح نہیں ذکر کہنا تو جب صحیح ہو کہ امتی اسے پڑھیں پڑھائیں غارِ سرمن رائے میں کون جائے اور کون اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ وعدہ ہے تو اسی کلام اللہ کی حفاظت کا ہے

کیونکہ اس کا ذکر بعینا ظاہر ہے پھر حضرت امام کا کلام اللہ اگر ایسی کلام اللہ کے موافق ہے۔ تو فبہا ورنہ اس صورت میں حضرت امام ہی کا کلام اللہ غلط ہوگا بالجملہ ایسے لغویات کو خداوند کریم کی طرف نسبت کر کے مفت دین اسلام کو بٹا لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ عجب تماشہ ہے۔ کہ جناب باری نے وعدہ حفاظت تو اس لئے کیا تھا کہ امت محمدی کو کل کو درباره علم احکام کچھ دقت نہ پیش آئے دین محمدی میں کوئی رخنہ نہ پڑے یہ دین قیامت تک برابر روشن رہے۔ مگر افسوس کہ تاہم وہی خرابی کی خرابی (برسر) رہی نعوذ باللہ غار سرمن رائے میں محفوظ ہونے کے یہ معنے ہوئے کہ خداوند کریم حفاظت کے وقت اتنا بھی نہ سمجھے کوئی اجنبی آدمی سنے گا تو کیا کہے گا۔

شیعوں کا لغو خیال یہود اور نصاریٰ کے لئے مقابلے کے لئے ایک راہ کھولتا ہے

ہماری صلاح یہ ہے کہ اس بات کو شیعہ کسی یہودی نصرانی کے سامنے تو زبان پر بھی نہ لائیں، ہمارے سامنے کہیں تو شاید ہم بپاس اتحاد کلمہ گوئی یوں سمجھکر کہ شیعوں کی خفت فی الجملہ اپنی ہی خفت ہے سکوت بھی کر جائیں کیونکہ اول تو یہودیوں کو اس قسم کی خرافات کو سن کر اس بات کے کہنے کی گنجائش ملے گی کہ ہماری تورات بھی آخر لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سوائے اس کے سورہ احقاف سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے پاس تورات بجنسہ موجود تھی اور اس میں بنی آدم کی طرح انہوں نے کچھ تغیر و تبدل نہ کی تھی ورنہ وہ یوں کہتے

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

"یعنی بیشک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسے کے بعد تصدیق کرنیوالی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے۔ یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے"

سو اس بات کا یقین کہ کلام اللہ تورات کی تصدیق کرتا ہے جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو تورات کے بجنسہ ہونے کا یقین ہو یا کلام اللہ تورات محرف کا مصدق ہو سو دوسرا احتمال تو شیعوں کے نزدیک بھی غلط ہے کیونکہ جنات نے جو کلام اللہ سنا تھا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ حضرت عثمان رضؓ سے یا ایسے ہی کسی اور سے نہ سنا تھا۔ اور اگر یہودیوں کی پرخاش کا کچھ اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ سمجھکر کہ کچھ تورات بجنسہا باقی ہو اور فقط اس میں تحریف نہ ہونے کا ان کو ایسا یقین ہو جیسے امامیہ کو الحمد اور قل ہو اللہ کے بجنسہ ہونے کا یقین ہے فخریہ یوں کہنے لگیں کہ ہمارا قرآن تو غار سرمن رائے میں محفوظ ہے تمہاری تورات بتلاؤ کہاں محفوظ ہے یا اتفاقات سے وہ آیات سنی ہوں

جو تورات کی ان عبارات کے جواب تک صحیح وسالم ہیں۔ موافق اور مطابق ہیں اور فقط اسی توافق اور تطابق کے باعث انہوں نے کلام اللہ کو مصدق تورات سمجھا ہو تو اس صورت میں ہو سکتے ہے کہ تورات محرف بھی ہو اور کلام اللہ غار سرمن رائے میں محفوظ ہو اور اس وجہ سے کلام اللہ کو تورات پر فوقیت ہو اور یہود سے نہ شرمائیں لیکن قطع نظر اس کے کہ یہ فوقیت کس درجہ کو ناکارہ فوقیت ہے مشکل ہی رہے گی۔

اگر یہود سے بالاجیت بھی گئے تو نصاریٰ ان کی نہیں چلنے دینگے

یہودیوں سے بالاجیت بھی گئے۔ تو انگریزوں سے کس منہ سے بات کرینگے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ انجیل باتفاق شیعہ وسنی آسمان چارم پر زندہ موجود ہیں۔ غار سرمن رائے میں تو حضرت امام کو اس بات کا بھی شاید اندیشہ ہو کہ مبادا کوئی معتقد خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ پھرتا پھراتا یہاں نہ آنکلے اور ان کے کلام اللہ کو چھین کر جلادے یا معاذ اللہ دشمنان امام کو شہید کردے اور جو مصلحت کہ اخفا اور خفا سے تھی ہاتھ سے نکل جائے۔ حضرت عیسیٰ السلام تو بے کھٹکے ہیں چوتھے آسمان تک کس کے مقدور جو جا کے بھٹکے ہاں البتہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ان سے یوں کہا جائے۔ حضرت عیسیٰ کا اول تو حافظ انجیل ہونا غیر مسلم ہو۔ مگر یہی بعینہ احتمال بہ نسبت حضرت امام موجود ہے بلکہ بدرجہ اولیٰ کیونکہ حضرت عیسے علیہ السلام پر خود انجیل نازل ہوئی، ان کو یاد نہ ہونا نہایت مستبعد بخلاف حضرت امام کے کہ قرآن ان پر نازل نہیں ہوا معہذا کلام اللہ کے یاد ہونے میں اہلسنت کی مشابہت لازم انجیل کے یاد ہونے میں کوئی خرابی نہیں، دوسرے ہم نے مانا حضرت عیسے علیہ السلام نازل بھی ہوں گے اور ان کو انجیل یاد بھی ہو لیکن چونکہ انجیل منسوخ ہو چکی اور بعد نزول عیسے علیہ السلام وہ یاد ہونا کچھ مفید نہ ہوگا بخلاف حضرت امام کے کہ ان کا کلام اللہ کا یاد رکھنا بعد ان کے خروج کے کام دے گا۔ اور شیعان علی کو جو مدت دراز سے بناچاری بیاض عثمانی پر عمل کرتے ہیں کلام اللہ اصلی ہاتھ آئے گا اور دیرینہ تمنا پوری ہوگی۔

عیسائیوں سے نبرد آزمائی کے لئے اس عقیدہ سے دست برداری لازم ہے کہ حلت وحرمت کی تبدیلی ائمہ کے دست قدرت میں ہے

مگر یہ تدبیر جب مفید ہے کہ شیعہ ہمارا کہنا سر دھریں اور اس اعتقاد سے کہ اماموں کو تبدیل احکام حلت اور حرمت وغیرہ کا اختیار ہے اول اس سے دست بردار ہوں

ورنہ ادر کی اس روایت پر قلم پھیر دیں

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّدًا بِالْوَحْدَانِيَّةِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ فَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوَّضَ أَمْرَهُمْ إِلَيْهِمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُنَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُنَ ۔	حاصل اس روایت کا یہ ہے، محمد بن سنان بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام ابوجعفر یعنی امام محمد باقر کے پاس تھا اتفاق سے میں نے شیعوں کے باہم مختلف ہونے کا ذکر چھیڑا یعنی یہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شیعان علی دین میں باہم مختلف ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد بن سنان اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیشہ سے اکیلا تھا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں پھر پنجتن کو پیدا کیا پھر ہزار دھر کے اور اشیاء کو پیدا کیا اور پنجتن کے سامنے سب کو موجود کیا اور پنجتن کی اطاعت ان کے ذمہ رکھی اور ان کے کاروبار سب پنجتن کے حوالہ فرمائے۔ سو وہ جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں۔ فقط۔

الغرض اس روایت کے سیاق سے اختلاف شیعہ کی وجہ یہ نکلی کہ پنجتن میں کسی نے ایک بات حلال رکھی تو دوسرے نے اسے حرام کر دی۔ سو کوئی ان کا مقلد ہو گیا کوئی ان کا۔

دوسری روایت کلینی کی بھی اسی روایت سے ہمزبان ہے اس سے بھی دست برداری لازم ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ دِيْنَهُ فَقَالَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا فَمَا فَوَّضَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى رَسُوْلِهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا۔	اس کا حاصل یہ ہے کہ محمد بن حسن میثمی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ میں نے انکو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کھایا اور سیدھا جیسا اپنا جی چاہے تھا بنایا پھر اپنا دین ان کے سپرد کیا اور کلام اللہ میں سورۂ حشر میں سب کو حکم دیا کہ جو کچھ رسول دے یعنی کچھ فرمائے اسے قبول کرو اور جس سے منع کرے اس سے ہٹے رہو سو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا وہی ہمارے بھی سپرد کیا

پہلی روایت سے فقط پنجتن ہی کا اختیار در باب تبدیل احکام معلوم ہوتا تھا اور اس روایت سے ثابت ہوا کہ وہ اختیار اور اماموں کو بھی حاصل ہے اس لئے کہ جو تفویض اول روایت میں تھی وہی اس روایت میں بھی ہے سو وہی معنے بلاشک مراد ہوں گے۔

بے اصل روایات کی بے بنیاد توجیہ

مگر شاید کوئی شیعہ مذہب اس کی یہ توجیہ کرے کہ اس تفویض اور تحریم اور تحلیل کے یہ معنی ہیں کہ وہ اجتہاد کر کے لوگوں کو احکام بتلا دیں آخر اہل سنت بھی تو انبیاء اور علماء کے اجتہاد کے حجت ہونے کے قائل ہیں۔ شیعہ اگر چار دہ معصوم کے اجتہاد کے معتبر ہونے کے قائل ہو گئے تو کیا گناہ ہوا۔ یا یہ توجیہ گھڑیں کہ خداوند کریم نے ان کو سب کی استعدادیں اور قابلیتیں دکھلا کر چنانچہ ظاہر عبارت روایت اول یہی ہے۔ پنجتن کو حکم دیا ہو کہ ان کی استعداد و ل کے موافق جو کچھ سمجھ میں آئے احکام مقرر کر دو۔ سو اگر یہ ہو تو کیا خرابی ہے لیکن اہل عقل پر پوشیدہ نہ ہو گا کہ اجتہاد کی تاویل کرنی تو بعینہ ایسی ہے جیسے کہا کرتے ہیں من چہ میگویم و طنبورِ من چہ میگوید چنانچہ استعداد والے خود سمجھتے ہیں کہ اس توجیہ کو عبارت روایت اول سے کچھ علاقہ نہیں۔ نیز مخالف مذہب شیعہ ہے کہ وہ ائمہ کی نسبت اجتہاد کی تہمت لگانی موجب منقصت سمجھتے ہیں ان کی فرمائی ہوئی باتیں سب منجملہ وحی آسمانی سمجھتے ہیں، باقی رہا استعدادوں کو دکھلا کر کارخانہ دین کا سپرد کر دینا اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو شیعہ تو تسلیم نہ کریں گے اثنا عشریہ چھوڑ تمام امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کو تمام احکام کی تبدیلی کا اختیار ہے۔ اگر استعداد پر ہی مدار کار ہے تو تبدیل کے اختیار کے کیا معنے! جیسی استعداد ہو ویسا ہی حکم ہونا چاہیئے بدلا کیوں چاہیئے بہر حال کوئی توجیہ بن نہیں پڑتی۔

تفویض کے خیال کی قرآن بیخ کنی کرتا ہے۔

اگر جواب مذکور سے سرخرو ہونا مدنظر ہے تو اس روایت کو زیر قلم کریں اور ہرگز کچھ اندیشہ نہ کریں۔ کیونکہ جناب باری کا بھی یہ حکم اسی طرف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام اللہ کی شان میں کلام اللہ ہی میں یوں فرماتے ہیں" تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ "۔ مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ میں ہر چیز کا بیان ہے ہم نہیں سمجھتے تو کیا ہوا سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب کلام اللہ ہی میں سب کچھ آ گیا تو تفویض کہاں رہی بلکہ اس صورت میں تو لازم ہے کہ جو کچھ حضرت نے یا ائمہ نے فرمایا ہو وہ شرح قرآن مجید ہو، اپنے اختیار سے کچھ نہ فرمایا ہو۔

تفویض کا خیال قرآن کو کتب منسوخہ کی حیثیت دیتا ہے

القصہ ہماری صلاح یہ ہے کہ ان دونوں روایات پر قلم پھیر کر پھر جواب مذکورہ بالا سے انگریزوں وغیرہ اعداء دین کے مقابل میں امید سرخرو ہونے کی رکھیں نہیں تو ان کے منہ میں بھی زبان ہے سنیوں کو تو بوجہ اتحاد ملت کے کچھ لحاظ بھی ہو گا۔

انہیں کیا لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ وہ یوں کہنے لگیں کہ ہماری انجیل اگر کلام اللہ سے منسوخ ہو گئی ہے تو سارے احکام تو منسوخ نہیں ہوئے آخر اخلاق کی باتیں اور بہت سے احکام حلت اور حرمت کے بدستور باقی ہیں اور عقائد میں تو مسلمانوں کے مقولہ کے موافق کچھ فرق پڑا ہی نہیں حضرت آدم کے وقت سے لے کر اب تک وہی عقائد چلے آتے ہیں چنانچہ کلام اللہ میں سورۂ مائدہ میں خود موجود ہے

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ	یعنی نازل کی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سچی کتاب کہ وہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرے ہے

سو تمہارے کلام اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اماموں نے مناسب وقت دیکھ کر بہت سے احکام تبدیل و تغیر کر دیئے چنانچہ پہلی روایت سے یہ خوب طرح واضح ہوا ہے کیونکہ اختلاف شیعہ کی وجہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے یہی بیان کی ہے پھر حضرت امام مہدی کے پاس اگر وہ کلام اللہ محفوظ بھی ہو تو کیا حاصل وہ دین تو بدل ہی گیا کوئی اور ہی کلام اللہ بنانا چاہئے نہیں تو آیسا ہی قصہ ہے جیسا حضرت عیسیٰ تمہارے عقیدے کے موافق آخری زمانہ میں نازل ہوں گے اور باوجودیکہ انجیل کے حافظ ہیں پھر بسبب اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کے انجیل پر عمل نہ کرینگے بلکہ کلام اللہ پر عمل کرینگے

تفویض کی شکل میں بطور حضرت امام مہدیؑ کے وقت قرآن کی وہی حیثیت ہو گی جو انجیل کی بوقت نزول حضرت عیسیٰ ہو گی۔

باقی رہا یہ احتمال کہ شاید حضرت امام مہدی انہیں احکام پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کئے ہوئے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن بابویہ قمی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرے ہے

وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخٰى بَيْنَ الْاَرْوَاحِ فِي الْاَزَلِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْاَجْسَامَ بِاَلْفَيْ عَامٍ فَاِذَا قَامَ قَائِمُ اَهْلِ الْبَيْتِ وَرِثَ الْاَخَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰخَا بَيْنَهُمَا فِي الْاَزَلِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْاَخَ مِنَ الْوِلَادَةِ۔	یعنی حضرت امام ابو عبداللہ نے جو حضرت امام جعفر علیہ السلام کا لقب ہے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں روحوں کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے روحوں میں آپس میں بھائی بندی کرا دی ہے۔ سو جب امام مہدی نکلیں گے ازل کی بھائی بندی کے حساب وراثت جاری فرمائیں گے اور جو نسل کی رو سے بھائی ہو گا اسے وراثت نہیں دلائیں گے۔

اب دیکھئے کہ اس روایت سے صاف یوں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کلام اللہ کے احکام کے موافق بالکل عمل کریں گے اور یہ حکم جو نسبی بھائی کے وارث ہونے کا ہے اسے موقوف کر دینگے اور اس روایت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بھائیوں کی وراثت کا حکم جو سورۂ نساء میں یوصیکم اللہ کے رکوع میں ہے وہ کوئی خلیفہ ثالث کی نعوذ باللہ کچھ کرتوت نہیں بلکہ عین حکم الٰہی ہے ورنہ اس کے موقوف ہونے کی حضرت امام مہدی کے وقت پر کیا تخصیص تھی الغرض جب تک اثنا عشریہ اس مذہب سے کہ امام کو سب احکام منسوخ کر دینے کا اختیار ہے دست بردار نہ ہوں گے تب تک انگریزوں کے سامنے اپنے کلام اللہ کے محفوظ ہونے کے مقدمہ میں جو آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ سے مستفاد ہوتا ہے منہ نہ کر سکیں گے۔

تفویض سے انکار میں نصاریٰ و یہود سے گلو خلاصی ملنے کے علاوہ ختم نبوت پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔

اور ہماری اس صلاح کے ماننے میں فقط ان کا ہی فائدہ نہیں کہ نصاریٰ اور یہود سے جیت جائیں نہیں بلکہ لفظ خاتم النبیین جو سورۂ احزاب میں ہے اس پر بھی ایمان درست ہو جائے گا نہیں تو یہودیوں کی طرح یہ عتاب ان پر بھی رہے گا اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ یعنی کیا تم تھوڑی سی کتاب پر تو ایمان لاتے ہو اور تھوڑی پر نہیں لاتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات تو انبیاء میں سے بھی کسی کسی کو میسر آتی ہے کہ نئی شریعت لائے اور پہلے احکام بدل جائیں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہوئے سب تورات ہی پر عمل کرتے رہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات میسر نہیں آئی کہ خدائے دین کا مقدمہ انہیں سپرد کر دیا ہو بلکہ جو کچھ انہوں نے احکام مقرر کئے سب حسب فرمان خداوندی مقرر کئے۔ حضرت موسےٰ اور حضرت عیسیٰ تو درکنار کلام اللہ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود سید المرسلین محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہ تھا کیونکہ سورۂ انعام میں یہ آیت موجود ہے قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا الآیۃ جس کا حاصل یہ ہے کہ کہدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں پاتا ہوں میں اس چیز کے جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر مگر فلانی اور فلانی اس آیت کے مضمون سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حرام کرنے و حلال کرنیکا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا حلت حرمت کا مدار وحی پر ٹھہرا دوسری جگہ آیا ہے اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ حاصل اسکا یہ ہے کہ سوا خدا کے اور

نبی حاکم نہیں اور اگر بالفرض خدا نے امت کے احکام ان کے سپرد بھی کر دیئے ہوں تب بھی ہمارے امام کچھ ان سے اس بات میں کم نہ رہے اور یہی احکام کی تبلیغ کے لئے رسول اور نبی ہوا کرتے ہیں چنانچہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے۔

یَا اَیُّھَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ | یعنی اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے

الغرض اس طریق سے یہود اور نصاریٰ کی پرخاش سے بھی نجات ہو جائے گی اور اپنا ایمان بھی درست ہو جائے گا

حق کے زور سے ابن بابویہ آخر سنیوں کا ہمزبان ہو گیا

اور شاید کچھ یہی سوچ سمجھ کر شیخ صدوق اعنی ابن بابویہ نے کتاب الاعتقادات میں اس عقدے سے ہاتھ اٹھایا اور ہمارے نزدیک اس حساب سے وہ صدوق اسم بامسمیٰ ہو گئے۔ مگر سنیوں سے دامن چھڑانے کے لئے سب اہل تشیع کی طرف سے نیابتہً یوں کہہ اٹھے مَنْ نَسَبَ اِلَیْنَا اَنَّا نَقُوْلُ اِنَّہٗ اَکْثَرُ مِنْ ذٰلِکَ فَھُوَ کَاذِبٌ۔ یعنی جو یوں کہے کہ شیعہ یوں کہیں ہیں کہ کلام اللہ اس سے زیادہ تھا جو اب لوگوں کے پاس ہے اور جس کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں وہ جھوٹا ہے، انہوں نے چاہا تھا کہ سنیوں کو جھوٹا بنائیں پر خدا سچوں کو سچا ہی کرتا ہے خداساز علامہ کلینی نے اس دروغ کا بار اپنے سر اٹھایا یا یوں کہیے علامہ صدوق کو جھوٹا بنایا چنانچہ ان کی روایت کلام اللہ کے سترہ ہزار آیت ہونے کے باب میں اوپر مرقوم ہو چکی، کسی نے سچ کہا ہے حق [illegible] زبان جاری شود۔ خیر کہاں تک حضرات شیعہ کی نا انصافی اس باب میں بیان کیجئے مضمون کے لئے اس قدر بھی بہت ہے ہمیں کوئی عاقل منصف ایسا نظر نہیں آتا جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ سے بجز اس کے کچھ اور معنی سمجھے کہ اس میں ہرگز کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ثالث ہو یا خلیفہ اول و دوم،

آیت مذکورہ سے سنیوں کی فضیلت کا انکشاف

بلکہ انصاف سے دیکھیے تو بشہادت صرف اس آیت میں سنیوں کی بڑی فضیلت نکلتی ہے۔ شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ جو کام کسی کے اہتمام اور انتظام اور حکم سے ہوا کرتا ہے اگرچہ حقیقت میں اسے اور ہی کوئی کرے پر عرف میں وہ مہتمم ہی کی طرف اور منتظم اور حاکم ہی کی جانب منسوب ہوا کرتا ہے۔ مثلاً کوئی بادشاہ کسی رسالہ یا پلٹن کو خزانہ کی حفاظت کے لئے مقرر کرے۔ سو رسالدار یا صوبہ دار دس پانچ سپاہیوں کو پہرہ پر

مقرر کر دیتے ہیں اور پھر نوبت بنوبت اور نمبر بنمبر دار اس پہرہ کو بدلتے رہتے ہیں اور آپ آرام کرتے ہیں اور سپاہی پہرہ دار چوروں قزاقوں کو دفع کرتے رہتے ہیں اب دیکھئے کہ حقیقت میں محافظت سپاہی پہرہ دار کرتے ہیں پر چونکہ رسالداروں اور صوبہ داروں کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو بڑی سرکاروں میں رسالداروں اور صوبہ داروں ہی کا نام ہوتا ہے اور سپاہیوں کا کیا ہوا رسالداروں اور صوبہ داروں ہی کا کیا سمجھا جاتا ہے۔ اس واسطے اگر کہیں ایسے موقع پر کوئی معرکہ کا کام بن پڑتا ہے تو گو سپاہیوں کو بھی قدر قلیل انعام ملے پر رسالداروں اور صوبہ داروں کو بیش قرار انعام ملتا ہے۔ اور عہدوں کی ترقی ہوتی ہے اسی طرح سنی بھی موافق حکم الٰہی کے اس خزانہ بیش بہا کی محافظت کرتے ہیں اور چونکہ اوراق میں فقط خوب حفاظت نہ ہو سکتی تھی تو اس لئے اس کو اپنے سینوں میں گویا جان کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بے دینوں اور شیاطین کو اس کے چرانے کی دسترس نہ ہو سو الٹے چور کوتوال کو ڈانڈیں شیعہ سنیوں ہی کو چور بتانے لگے سو یہ وہی مثل ہے نیکی برباد گناہ لازم اگر شیعوں سے سنی کچھ انعام واکرام اس خدمت کا مانگتے جب ہی یہ تہمت لگائی ہوتی خدا کے دینے میں اتنا بخل کیوں ہے تیل جلے سرکار کا کلیجہ پھٹے مشعلی کا۔ ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں تو کلام اللہ کی محافظت سنی ہی کرتے ہیں ایک ایک بستی میں بعضی بعضی جا پانچ پانچ سو حافظ موجود ہیں مگر چونکہ یہ ان کی حفاظت موافق ارشاد خداوندی کے ہے تو یہ ان کا کیا خدا ہی کا کیا سمجھنا چاہیے اور سنیوں کو ملازم خاص اور محکوم باختصاص سمجھئے اس لئے خداوند کریم نے اس محافظت کو اپنی طرف نسبت کیا اور یہ فرمایا وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن شیعوں کو محکومان نافرمان کی مانند جانئے بلکہ بمنزلہ باغیوں کے یا چوروں کے قرار دیجئے کیونکہ یہ فرقہ محافظان کلام ربانی کے جو ایک خزانہ بے بہا ہے دشمن ہیں اور خزانوں کے محافظوں کے قزاق اور باغی اور چور ہی دشمن ہوتے ہیں غرضکہ یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ بھی باواز بلند یہی کہتی ہے کہ مذہب اہل سنت حق ہے اور مذہب شیعہ باطل۔ پر سننے کے لئے کان شرط ہیں، جن کانوں پر خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِھِمْ وَعَلٰی سَمْعِھِمْ کی مہر لگی ہوئی ہو یعنی یہ مضمون ان پر صادق آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے وہ کیا سنیں اور کس کی سنیں مگر ہمیں اپنی طرف سے سمجھانے میں قصور نہ کرنا چاہیئے جیسے شیخ صدوق

ایک بات مان اٹھتے ہیں ایسے ہی شاید مولوی معمار علی صاحب یا کوئی اور عالم یا جاہل اس بات کو بھی مان جائے مگر چونکہ متعصب کو حق بات کا ماننا برچند کتنی ہی صاف و روشن کیوں نہ ہو بہت دشوار ہوتا ہے تو اس تقریر کو سنکر شاید کوئی شیعہ مذہب یوں کہنے لگے ہم نے مانا کہ کلام اللہ سارا کا سارا صحیح اور سنیوں کی روش کی خوبی بھی اس سے ہویدا پر یہ تو کہیں نہیں کہ ابوبکر کو بھی ماننا ہی چاہیئے۔ اس لئے یہ آیت سوم مع اپنے ماحصل کے لکھی جاتی ہے تیسری آیت

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا	یعنی تم لوگ اگر ہمارے پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوگا اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے پہلے بھی اس کی اس نے مدد کی ہے جب کہ کافروں نے اسے نکال دیا تھا جبکہ ایک دوسرا اور ایک اس کے ساتھ اور تھا جب دونوں غار میں تھے کہ جس وقت وہ اپنے ساتھ دینے والے سے یوں کہتا تھا کہ تو غمگین مت ہو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے

اس آیت میں بنظر انصاف غور کیجئے۔ اور منہ زوری کو چھوڑیئے دیکھئے یہ آیت کدھر کو لئے جاتی ہے سنیوں کی طرف کھینچتی ہے یا شیعوں کے گھر کا راستہ بتلاتی ہے ہمیں اس جگہ مرزا کاظم علی صاحب لکھنوی کا مقولہ جو بڑے متبحر علماء شیعہ میں سے تھے اور قدوۃ الزماں مولوی دلدار علی صاحب مجتہد بھی ان کے معتقد تھے یاد آتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اور کسی کو تو جس کسی کا جو کچھ جی چاہے سو کہے پر خلیفہ اول کا برا کہنے والا تو ہمارے نزدیک بھی کافر ہے اہل محفل میں سے کسی نے عرض کی کہ قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں، مذہب تو اس کے خلاف ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کہتا ہوں خدا کہتا ہے۔ صحابی اور صاحب کے معنے میں کچھ فرق نہیں۔ سو خدا بھی خلیفہ اول کے صحابی ہونے کا گواہ ہے کیونکہ صاحب کے لفظ سے جو اس آیت میں موجود ہے شیعوں سنیوں کے اتفاق سے ابوبکر صدیق ہی مراد ہیں سبحان اللہ اہل انصاف ایسے ہوتے ہیں جیسے مرزا کاظم علی صاحب تھے اور وہ کچھ ایسے ویسے نہ تھے علم و زہد میں شیعوں کے نزدیک وہ بھی شہرہ آفاق تھے کونسا عالم شیعہ مذہب ہے جو ان کو نہیں جانتا اور ان کو نہیں مانتا اور ان کا بھی اس بات میں کچھ قصور نہیں اس آیت کو جس پہلو سے پلٹ کر دیکھئے کہیں گنجائش گفت و شنود کی نہیں ہر طرف

سے سنیوں ہی کا مطلب نکلتا ہے۔

آیت سوئم کی بصیرت افروز تشریح شرح اس معما کی یہ ہے کہ اوّل تو لفظ صاحبہ جو اس میں ہے وہ عربی زبان میں صحابی کے ہم معنے ہے دوسرے لفظ لا تحزن جس کا یہ مطلب ہے کہ غمگین مت ہو۔ وہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق عاشق صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن با اخلاص تھے ورنہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی بلکہ محل خوشی تھا کہ ان کے دشمن موافق عقیدہ شیعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوب قابو میں آئے ہوئے تھے کفار جو اس وقت پاس آگئے تھے پکار کے بھی نہیں تو کسی قسم کی کھڑکی ہی سہی انہیں مطلع کر دیتے تاکہ نعوذ باللہ منہا وہ اپنا کام کرتے اگر کہیں انصاف کی آنکھیں مول ملیں تو ہم حضرات شیعہ کے لئے مول لیں اور ان کو دیں تاکہ وہ کچھ تو پاس رفاقت خلیفہ اوّل کریں

۵۔ جو پاس مہر و محبت یہاں کہیں ملتا تو مول لیتے ہم ایک اپنے مہرباں کیلئے

اور جو یہ بھی نہ ہو تو یہی سمجھیں کہ ان کو اس وقت اپنی جان کا خوف نہ ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کا افسوس رہا اور غم ہوا تو اس بات کا کہ دیکھئے یہ دشمن حق یعنی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر بیٹھیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی فرمائی اور فرمایا کہ غم کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو غمگین مت ہو۔

حزن کے معنی سمجھنے میں بعض غیر منصفوں کی فاش غلطی اس جگہ بعضے ناانصاف یوں کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو اس وقت اپنی جان کا ہراس تھا کچھ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا غور کرنے کی جگہ ہے اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ خداوند کریم کو نعوذ باللہ عربی بولنی بھی نہیں آتی فصاحت و بلاغت تو درکنار اور یہ جو کلام اللہ کے اعجاز بلاغت کا شہرہ ہے یہ فقط یاروں کی گھڑی ہوئی باتیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی عربی جانتے ہیں وہ بھی اتنی بات تو جانتے ہیں کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ اور فراق محبوب یا تمنا کے فوت ہو جانے کے محل میں استعمال کرتے ہیں اور جہاں جان پر بنتی ہے اور ڈر کا مقام ہوتا ہے خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں کلام اللہ سے زیادہ تو کوئی کتاب عربی زبان کی فصیح اور بلاغت آمیز نہیں دیکھئے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور خداوند کریم نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے عرض کی کہ یہ میری لاٹھی ہے چلتے پھرتے اس پر

ہمارا رکھوں ہوں اور بکریوں کے لئے اس سے پتے جھاڑوں ہوں اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ادھر سے حکم ہوا کہ اسے ڈالیوانہوں نے جو ڈالا تو وہ ایک اژدھا تھی یہ الٹے پاؤں ایسے بھاگے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اس وقت خداوند کریم نے فرمایا۔

اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ۔	یعنی تو ادھر آ اور ڈر مت میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس اژدہا سے اپنی جان کا اندیشہ ہوا تب بھاگے اسی لئے خدا نے تسلی فرمائی۔ کہ ڈر مت یوں نہ فرمایا لَا تَحْزَنْ یعنی رنجیدہ نہ ہو اور اسی طرح جب انہوں نے ایک قبطی کو مار ڈالا اور فرعون کے لوگوں نے ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ وہاں سے ڈر کے بھاگے اس موقع میں فرمایا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یعنی نکلے موسےٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سوا اس کے اور بیسیوں جگہ خوف کا لفظ کلام اللہ میں موجود ہے جہاں کہیں ہے یہی معنی ہیں اور جہاں غم کا مقام دیکھا وہاں ہی حزن کا لفظ استعمال کیا ہے سوائے یوسف میں جس موقع میں حضرت یعقوب غم فراق یوسف میں ہائے یوسف ہائے یوسف کہا کرتے تھے اور انہیں یاد کیا کرتے تھے اور حضرت یعقوب کے اور بیٹوں نے یوں کہا۔ کہ تم یوسف کو یاد ہی کرتے کرتے مرجاؤ گے حضرت یعقوب کی طرف سے یہ جواب منقول ہے۔ اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ یعنی میں اپنے رب سے اپنی پریشانی اور اپنا غم کہوں ہوں بلکہ بہت سی آیات سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ حزن کے اور معنی ہیں اور خوف کے اور معنے ہیں ایک دوسرے کی جگہ نہیں بولا جا سکتا۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا یعنی جب کہ مسلمان مرنے لگتے ہیں تو فرشتے رحمت کے ان پر اترتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو اور نہ تم غمگین ہو اگر خوف اور حزن کے دونوں کے ایک معنی ہوتے تو مکرر کہنے کی کیا ضرورت تھی صحیح یہی ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے خوف اسے کہتے ہیں کہ کچھ آگے کو اندیشہ ہو اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے غم خوشی کے مقابلہ میں بولتے ہیں خوف اطمینان کے مقابلہ میں خوشی اور اطمینان اور غم اور خوف کے معنی بیان کرنے میں مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا یہ کونسی مشکل مخفی باتیں ہیں جنہیں کوئی

نہ سمجھتا ہو پر کیا کیجئے ایسے ناانصافوں سے پالا پڑا ہے کہ شاید اب بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے لہٰذا اتنا اور کہنا پڑا کہ جب کسی کا کوئی مرجاتا ہے تو اس پر جو حالت پیش آتی ہے اسے غم تو کہتے ہیں پر خوف اور ڈر کوئی نادان بھی نہیں کہتا، ہاں مرنے سے پہلے جس موقع میں موت کا اندیشہ ہوتا ہے اس اندیشہ کو البتہ خوف کہتے ہیں پر رنج کوئی نہیں کہتا اگر کسی کا لڑکا کسی دیوار پر چڑھ جائے اور وہاں سے اندیشہ گر کر مرجانے کا ہو تو اس اندیشہ کو البتہ خوف کہتے ہیں لیکن کوئی نادان بھی اسے غم نہیں کہتا۔ القصہ غم عین مصیبت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور خوف مصیبت کی آمد آمد کی کیفیت کا نام ہے۔ ایک کو دوسرے سے کچھ لگاؤ نہیں جو حضرات شیعہ ہٹ دھرمی کر کے لَا تَحْزَنْ کے معنے لَا تَخَفْ گھڑ لیں۔

شیعوں کی کج فہمی کی ایک پُرمذاق توجیہ

مگر ایک طرح وہ بھی سچے ہیں ان کے یہاں تو قاعدہ کلیہ ہے کہ الٹے معنے سمجھتے ہیں مولوی عمار علی صاحب نے ناحق کے معنے حق سمجھے چنانچہ اس کا بیان گذر چکا اور تمام شیعوں نے محافظوں کا نام چور رکھا علیٰ القیاس یہاں بھی اگر وہ ایسا کریں۔ تو سنیوں کو کیا شکایت ہے بلکہ خوش ہونے کی جگہ ہے کیونکہ اصل مطلب میں تو شریک ہی نکلے لفظوں اور اصطلاح ہی کا فرق رہا سو یہ کیا بڑی بات ہے مصرع

ہر کسے را اصطلاح دادہ ایم۔

حاصل تمہارے ان کے اختلاف کا یہ نکلا حق کا نام ان کی اصطلاح میں ناحق ہے اور محافظ کا نام ان کی اصطلاح میں چور اور حزن کا نام ان کے نزدیک خوف ہے مگر جیسے کوئی نگرینہ نابینا مسلمانوں کی محفل میں کسی کو کسی کی نسبت بابا کہتے ہوئے سنا ہے تو اپنی اصطلاح کے موافق اس وقت انگریزی بیٹی کے معنے اور بنیادادا کے معنے سمجھتا ہے ایسے ہی حضرات شیعہ نے اگر لَا تَحْزَنْ کے معنے لَا تَخَفْ کے سمجھ لئے تو ان کا کچھ قصور نہیں سنیوں کو لازم ہے کہ ان کی اصطلاح کے موافق ان سے باتیں کریں آخر حدیث میں تو یہ مضمون ہے کَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ یعنی لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے موافق گفتگو کیا کرو اور اگر بپاس خاطر شیعہ لَا تَحْزَنْ کو بھی ہم بمعنے لَا تَخَفْ ہی سمجھیں تب بھی ہمارا چنداں نقصان نہیں ہمارا ادھر بھی لکھا ہے اس لئے کہ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اے ابوبکر مت ڈر۔ سو ظاہر ہے کہ ابوبکر جو خوفناک ہونگے

اوران کو اپنی جان کا کھٹکا ہوگا تو اسی سبب سے ہوگا کہ کفار کو ان کے ساتھ دشمنی ہوگی اور وہ دشمنی بھی بوجہ اسلام اور ایمان ہوگی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے کیا معنے اور وہ بھی پھر اسقدر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا تو مسلمانوں کی طرفداری اور حمایت کرتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ اور اس قسم کے کلمات سے کلام اللہ بھرا ہوا ہے سب کا ماحصل یہی ہے کہ اللہ اچھوں کے ساتھ ہے مومنوں کے متقیوں کے اچھے کاموں کے کرنیوالوں کے ساتھ ہے کہیں اوّل سے آخر تک کلام اللہ میں یہ نہیں کہ اللہ کافروں کے مرتدوں کے منافقوں کے ساتھ ہے۔

اللہ کی معیت کی وضاحت اور کوئی کہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے مومن ہو یا کافر کلام اللہ میں موجود ہے اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ۔ یعنی اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ جب ہر چیز کو محیط ہوا تو ہر چیز کے ساتھ بھی ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساتھ ہونا دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہی اکھٹے ایک مکان میں رہنا اس میں فقط تن بدن کا ساتھ ہوتا ہے اگرچہ دلوں میں فرق ہو، اس قسم کی ہمراہی تو طوطے اور زاغ کی سی ہے۔ دوسرا دلوں سے ساتھ رہنا جیسے کوئی بادشاہ کسی بیکس کو جس کے سب دشمن ہوں یوں کہے کہ تو اندیشہ نہ کر ہم تیرے ساتھ ہیں اس کے یہی معنے ہوتے ہیں کہ ہمیں تیرا خیال ہے ہمارے دل میں تیرا دھیان رہے گا ہم تیری حمایت پر ہیں۔ اس صورت میں کچھ لازم نہیں کہ بادشاہ اور وہ ایک مکان میں ہوں تو وہ اس کے ساتھ ہو نہیں تو نہیں ہاں البتہ تا مقدور امداد و اعانت چاہیئے۔ سو جہاں کہیں اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ یا اسی طرح اور کچھ آیا ہے تو اس سے دوسرے معنے مراد ہیں چنانچہ سب جانتے ہیں نہیں تو اس میں متقیوں ہی کی کیا تعریف نکلی اور انہیں کی کیا تسلی ہوگی۔ سو خاص کر اس آیت میں تو محض تسلی ہی کے لئے یہ کہا گیا ہے اور اوپر سے مدد گاری ہی کا بیان ہے۔

آیت معیت سے حضرت ابوبکرؓ کی مدد کا ثبوت باقی یہ کوئی شبہ کرے کہ اوپر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا بیان ہے، ابوبکر صدیق کی مدد تو نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو بازاری بلکہ جولاہے کی لونڈیاں بھی جانتی ہیں کہ غلام کی امانت اور اس کی رسوائی وہ میاں ہی کی رسوائی گنی جاتی ہے انگریزوں کی رعیت کو اور ملازموں کو اگر ان کے غنیم ستاتے ہیں تو انہیں کیوں اتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ فوج کشی کرتے ہیں اور ہزاروں آدمیوں کا خون کراتے ہیں معہذا ہم نے غدر کے

ایام میں دیکھا ہے کہ جس نے تحصیلدار یا پولیس دار کو بچا لیا تھا وہ خیر خواہ سرکار گنا جاتا تھا سو ابوبکر صدیق کی مدد گاری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مدد گاری ہے اسی لئے ہمارے سناتے وقت تو یوں فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اور مدد کے وقت دونوں ہی کی مدد کی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو جو خدا کی مدد کی اطلاع کی تو یوں کی اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا یعنے خداوند کریم خبر رسانی میں اس قصہ کی تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں فقد نصرہ اللہ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانے وقت مدد کی اور جس وقت کہ مدد کی تو دونوں کی مدد کی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدد کی اطلاع کی تو یوں کی اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا یعنی اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے اور چونکہ ایک لفظ یعنے معنا سے دونوں کی مدد گاری کا بیان فرمایا اور دو لفظ نہ کہے یعنی مَعِیْ وَمَعَکَ نہ فرمایا جس کے یہ معنے ہوتے کہ خدا میرے بھی ساتھ ہے اور تیرے بھی ساتھ ہے تو اس سے اور بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح سے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تھا سو اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ شیعہ بھی بنا چاری ہمارے شریک ہوں کہ خداوند کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امداد اور عنایت اور محبت اور اعانت سے تھا تو حضرت صدیق کے ساتھ بھی اسی انداز سے سمجھنا چاہیئے معہذا لفظ ثَانِیَ اثْنَیْنِ جس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا یعنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ضمیر مفعول الا تنصروہ سے حال واقع ہوا ہے۔ سو اس صورت میں یہ لفظ بھی بآواز بلند یہی کہتا ہے کہ حضرت صدیق بھی مدد گاری خداوندی میں شریک ہیں۔

آیت معیت میں شیعوں کی طرف ایک عبارتی دھوکا اور اس کا جواب اور اگر شیعہ یوں کہنے لگیں، کہ یہ لفظ اَخْرَجَهُ الَّذِیْنَ کے ساتھ مربوط ہے اور اس کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے اور یہ مطلب ہے کہ جس وقت کفار نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالا تھا اس وقت وہ اکیلے نہ تھے ان کے ساتھ ان کا ایک رفیق بھی تھا اور اس کو نصرت سے کچھ تعلق نہیں نصرت سے تعلق جب ہو کہ اس لفظ کو لفظ نَصَرَهُ اللّٰهُ سے علاقہ ہو تو اس تقدیر پر ہماری طرف سے یہی جواب ہے

شکر بدہان تو چشم بدروشن دل ماشاد

اگر یہ مطلب ہو تو ہماری عین تمنا ہے کیونکہ اتنا تو شیعوں کو معلوم ہوا کہ کفار کو جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی ویسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی عداوت تھی باقی کوئی یوں کہے کہ ابوبکر صدیق کو تو کفار نے نہیں نکالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمراہ لے لیا تھا۔ سو اس کا جواب شیعہ دیں کیونکہ یہ معنی تو ہم نے انھیں کی طرف سے بیان کئے ہیں اور اگر ہمیں سے پوچھتے ہو۔ تو ہمیں سے سنئے۔ جناب من بشہادت کلام اللہ کفار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے نہیں نکالا کہ ہاتھ پکڑ کر باہر کر دیا ہو یا دھکے دینے کا اتفاق ہوا ہو مثلاً

دار الندوہ کے واقعہ کی اصل شکل

بلکہ صورت یہ ہوئی تھی کہ دار الندوہ میں جو ابوجہل کی بیٹھک کا نام تھا اور وہ خانہ کعبہ کے پاس تھی جہاں اب حنفی مصلے بنا ہوا ہے اور اب وہ جگہ داخل حرم محترم ہوگئی ہے وہاں کفار مجتمع ہوئے اور اس بات کا مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنا چاہیئے یا مار ڈالنا مناسب ہے یا کہیں انہیں نکال دیجئے اس مشورہ کی اطلاع خداوند کریم نے اپنے حبیب مکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو کر دی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رفیق دلی سمجھ کر ساتھ لیا اور غار ثور میں تشریف لے گئے پھر تین دن کے بعد سواری اور راہ کا بندوبست کر کے دونوں صاحب مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے چنانچہ اس بات کی طرف بطور اختصار سورۂ انفال میں جناب خداوند کریم اشارہ فرماتے ہیں

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

یعنی وہ بھی یاد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار تیرے ساتھ مکر کرنا چاہتے تھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں ادھر وہ یہ مکر کر رہے تھے ادھر خدا ان کے ساتھ مکر کر رہا تھا یعنی تجھے اطلاع کر دی پھر غار میں تیری حفاظت کی یہاں تک کہ مدینہ منورہ خیریت سے پہنچا دیا اور کیوں نہ ہو اللہ تو سب سے زیادہ مکر جانتا ہے۔

اس قصہ کو غور کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں نکالا تھا اور اگر یوں کہئے کہ ایذا کے درپے ہونا نکالنا ہی ہے تو ابوبکر صدیق کے ہونے کی انہیں کونسی راحت تھی بلکہ اس سے پہلے بھی انہیں تو نکال دیا تھا نہ ابن دغنہ انھیں ہٹا کے لائے۔ اور کفار سے ان کے باب میں گفت وشنود کرے نہ وہ ہٹیں یہ روایت سنیوں کی کتابوں میں تو موجود ہی ہے پر عقل بھی یوں ہی کہے ہے کہ یوں ہوا ہو تو کچھ عجب نہیں کیونکہ خداوند کریم نے اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا کے ضمن میں اس بات سے متنبہ کر دیا کہ ابوبکر صدیق سے بھی کفار دشمنی رکھتے تھے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیوں تسلی کرتے اور خدا کیوں ان کے ساتھ ہوتا اور ہمیں تو اتنا بھی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس تقریر کے سننے کے بعد یقین یوں ہے کہ شیعہ اس احتمال کو زبان پر بھی لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اس لئے ساتھ لیا تھا کہ وہ کہیں کفار کو اطلاع نہ کر دے کیونکہ اس احتمال کی جڑ بنیاد تو اس آیت کے ہر ہر لفظ نے ایسی اکھاڑی ہے کہ شیعہ اپنے سر کو قیامت تک پیٹیں تو نہ جمے گی معہذا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ ایسے کم فہم نہ تھے انکی عقل کا تو ایک عالم دیوانہ ہے کیا وہ اتنی بھی نہ سمجھے کہ اس اندیشہ کے سو دفیعہ ہیں کہ ابوبکر صدیق کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اول سے اطلاع ہی نہ کرتے کہ میں غار ثور میں جا کر چھپوں گا تو ابوبکر صدیق رضی کچھ شیعوں کے امام تو نہ تھے کہ ان کو علم ما کان وما یکون یعنی ازل ابد کے سب وقائع کی خبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلاتے یا نہ تبلاتے اُن کو آپ اطلاع ہو جاتی ماسوا اس کے تقیہ تو ایسے وقت میں ضرور ہی ہو جاتا ہے چنانچہ شیعوں کے نزدیک ایک تقیہ کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں چھپ جانا بھی ہے خیر یہ قصہ تو تقیہ کی اصل جیسی ہی سو ہے انشاء اللہ آگے معلوم ہو جائے گا۔ پر شیعوں کے مذہب کے موافق تو ایسے وقت میں تقیہ فرض ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنا مباح، بلکہ ضرور چنانچہ اماموں نے جو اصحاب ثلثہ یا اور صحابہ کی تعریف کی ہے اور وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کو شیعہ یوں کہتے ہیں کہ اماموں نے بوجہ تقیہ جھوٹ کہدیا تھا نعوذ باللہ منہا۔

القصہ حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جھوٹ بول کر ابوبکر کے دل سے غار ثور کی طرف جانے کا احتمال نکال دیا ہوتا کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ان کو ساتھ لیا۔ اور ایک جان کا وبال خرید اتنا ہوتے تو بے کھٹکے ہوتے ان کے ساتھ وہ اندیشہ جس اندیشہ کے لئے انہیں ساتھ لیا تھا اور دو بالا ہو گیا اگر وہ کسی بہانہ سے وہاں سے نکل کر کفار کو اطلاع کر دیتے تو بظاہر کون مانع تھا جس وقت کفار وہاں آکھڑے ہوئے اس وقت بول اٹھتے تو وہی مثل ہو جاتی کہ مینھ سے بھاگے پرنالے کے نیچے جا کھڑے ہوئے دھوپ سے بچے پر آگ میں گر پڑے۔ القصہ اگر ابوبکر کے ساتھ لینے میں یہی مصلحت تھی تو یہ تو مصلحت سے کوسوں دور ہے

ملا عبداللہ مشہدی کی بے اختیارانہ حق گوئی

اسی واسطے ملا عبداللہ مشہدی نے اظہار الحق میں لاچار ہو کر انصاف کی راہ سے یہی کہا کہ نفس الامر تو یوں ہے کہ یہ احتمال بہت ہی بعید ہے مگر وہ نقل مشہور ہے کہ ستر برس کا رام جی میں بیٹھا ہوا نکلتے ہی نکلے ہے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ حق بول اٹھیں اور اپنے بیگانہ کا کچھ لحاظ نہ کریں اب ہم سے سنئے کہ ملا عبداللہ مشہدی کا کہنا سب بجا اور درست اور اس کے حق ہونے میں کچھ شک نہیں اور اس وجہ سے اگر ان کی کتاب کو اظہار الحق کہیں تو پھبے ہے اور ہم کو بھی اس بات کی تسلیم سے انکار نہیں اگرچہ ملا مذکور شیعہ مذہب ہیں۔ ع ۔ متاع نیک ہر دوکان کہ باشد

مگر ستم تو یہ ہے کہ شیعہ حتی کہ علماء بھی باوجود یکہ ملا عبداللہ مذکور کو اپنا مقتداء دین سمجھتے ہیں اس بات میں ان کی بھی نہیں سنتے ہر چند ملا مذکور آخر کو یہی کہہ اٹھے کہ عجب کیا ہے جو خلیفہ اول کو جناب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم نے ہمرہی و ہمدمی کے لئے اس لئے اختیار کیا ہو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا تھا اور اکثروں سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور اکثر ملازم خدمت نبوی صلے اللہ علیہ وسلم رہتے تھے لیکن کیا امکان جو حضرات شیعہ روبراہ ہوں بلکہ عجب نہیں کہ مجتہد الزماں کے یہاں سے ان کے لئے بھی حکم تبرا صادر ہو

سفر ہجرت کی حقیقت حال

خیر کوئی مانے یا نہ مانے پر دل سب کا سنی ہوں یا شیعہ یہی گوا ہی دیتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا ہمراہ لے جانا فقط اس وجہ سے تھا کہ ان کو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر مشیر اور معین اور مددگار سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محب

خاص اور ہمدم بااختصاص جانتے تھے اور کیوں نہ سمجھیں شیعہ سنی کون نہیں جانتا کہ انہوں نے ابتدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے کفار کے ہاتھ سے کیا کیا ایذائیں سہیں۔ اور کسقدر جفائیں اٹھائیں اور کس قدر مال لٹایا اور کیا کیا کرد کھلایا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو مول لیا اور قید کفار سے چھڑا کر آزاد کیا اور علی ہذا القیاس اللہ اور رسول کی خوشنودی کی اور سب اپنا خانماں برباد کیا پس بدرصورت ان کے مکہ میں چھوڑ جانے کے ایک تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین کامل تھا کہ کفار ان کو اور مجھے یکساں سمجھتے ہیں جو کفار نابکار نے میرے لئے تجویز کیا ہے ان کے لئے ہے انہوں نے بیشتر کفار سے مقابلہ کیا ہے اور ان کو بارہا یہ وعظ و پند کیا ہے کہ دین اسلام دین حق ہے بت پرستی چھوڑ دو اگر سعادت مدنظر ہے اتباع نبوی اختیار کرو اگر ان کو یہاں ہی چھوڑ گیا تو کفار ان کو ہرگز زندہ نہ چھوڑینگے۔ ہاں عمر کو اگر ساتھ نہ لوں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ ان سے کفار کو چنداں پرخاش نہیں اور بایں ہمہ ان کے طرح طرح کے لحاظ پاس ہیں منجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ ابوجہل کے جو رئیس کفار ہو بھانجے ہیں باقی اور اصحاب کو کفار نگونسار کچھ راس و رئیس دین و ایمان نہیں سمجھتے پھر تیسرا ان کے بچاؤ کے اور بہت وجوہ ہیں پر ابوبکر کی رفاقت کفار کی آنکھوں میں خار ہے ان کو دیکھ دیکھ لہو کے گھونٹ پیتے ہیں یہ اگر مارے گئے تو بڑا رکن ایمان و اسلام ڈھ جائے گا۔ اور ایسا رفیق شفیق اور ایسا مخلص کہ اس کا اخلاص و محبت دل میں اثر کرتا ہے ہاتھ سے جاتا رہیگا۔ بایں ہمہ ایسے سفر پرخطر میں بے رفیق کے نہیں گذرتی۔ پھر رفیق بھی ایسا چاہیے۔ کہ نہ جان سے دریغ ہو نہ پاس آبرو ہو زن و فرزند کی محبت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب ہو اور تیسرا گرم و سرد زمانہ دیکھے ہوئے تجربہ کار سیر و سفر مرد ہو شیار یگانہ روزگار بلند ہمت عالی فطرت یار بے تکلف محب صمیم راز دار قدیم ہو جس سے دل کی بات کھلے، دل خالی ہو غم و حیرانی و وحشت و پریشانی اس کی صحبت سے دور رہو۔ سو مجموعہ ان اوصاف کا سوا جناب صدیق کے کسی اور میں نہ پایا اسی لئے عین دوپہر کے وقت آپ ان کے گھر تشریف لائے اور حاضری پکوا کر دونوں مخدوم عالم اور خادم ہمدم رونق افروز غار ثور ہوئے اور عبداللہ بن ابی بکر کو کہ فرزند ارجمند پسر کلان حضرت صدیق کے تھے جاسوسی کے لئے مقرر کیا کہ مشورہ کفار سے جو کچھ وہ درباب طلب و تلاش حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں شب کو آگاہ کرتے رہیں

واقعہ سے شیعوں کی خام خیالی کا جواب اگر خاندان صدیقی کو کچھ بھی عداوت ہوتی تو یہ معاملے کہیں ہو سکتے اور اگر بالفرض والتقدیر بفرض محال ایسے مشورے پیش بھی آتے تو اس سے بہتر کینہ کشی کا وقت ان کے پھر کونسا ہاتھ آتا انعامِ کفار جدا لیتے اور اپنا کام جدا کرتے حضرات شیعہ ہی اپنی کتابوں کو دیکھ کر فرمائیں کہ ہیں نے اس قصہ میں کیا جھوٹ ملا دیا ہے بسر مو اگر فرق پائیں تو جو چاہیں سو کریں۔ منصفوں کو تو بے اس کے کہے نہیں بن پڑتی کہ ایسے وقت کی ہمدمی اور ہمرہی اور اِس اہتمام اور انتظام سے ان کا ساتھ لینا ایسی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالےٰ عنہ کا اس شب بستر پر سو رہنا بھی اِس کے ہمسنگ نہیں ہو سکتا۔

غدر میں سب نے دیکھا ہوگا کہ تلاشی کے وقت اگر مجرم نہیں ملا تو حکام نے ان لوگوں سے کچھ پرخاش نہیں کی جو اس مقام پر ملے ہاں جس کو رفیق و مددگار مجرم دیکھا اس کو بھی مجرم ہی سمجھا ہائے افسوس کہ خدا تعالےٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حضرت صدیق کے حق میں مقبول نہ ہو، فقط اس شرم سے کہ مسلمان کہلاتے ہیں اگر خدا کے کلام کو نہ مانیں گے تو جواب کیا دیں گے۔ اس آیت کو جبراً کرہاً اگر سر دھرتے ہیں تو ہزار طرح کی نامعقول تاویلیں گھڑتے ہیں پر چند مفتریان سیہ باطن تیرہ دروں کی گھڑی گھڑی باتوں کو ایسا دل و جان سے بے حیلہ وحجت قبول کرتے ہیں کہ اگر اس کے قبول کرنے کو کلام اللہ کے قبول کرنے سے موازنہ کریں تو کلام اللہ کا تسلیم کرنا اسکے پاسنگ بھی نہیں ہوتا۔

آیت معیت کی منصفانہ ترجمانی ہمیں اس میں شک بھی نہیں کہ حضرات شیعہ کے دل میں اس آیت سے اول وہلہ یہی معنی آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اگر اس وقت رنج تھا تو یہی تھا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے بس و بیکس ہیں میں ایک تن تنہا کیا کر سکتا ہوں مبادا دشمنان دین جو پاس پاس کو پھرتے ہیں اِس طرف کو جھانک اٹھیں اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہلاک کر جائیں اور ہماری حسرتیں اور تمنائیں سب دل کی دل میں رہ جائیں مگر چونکہ کمال درجہ کی بے بسی اور بے سر و سامانی کو امداد و اعانت لازم ہے چنانچہ کلام اللہ میں ہے۔

حَتّٰیٓ اِذَا اسْتَیْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا	یعنی جب کہ ناامید ہو گئے رسول اور انہیں یہ وہم ہوا کہ یہ وعدے جو درباب نصرت اور مددگاری کے ہم سے تھے مبادا خیال شیطانی ہوں ہم اپنی غلط فہمی سے اسکو وعدہ خداوندی سمجھتے ہوں۔ آئی ان کو ہماری مدد۔

اِس مایوسی میں جو حضرت ابوبکر کو باعتبار ظاہر کے پیش آئی تھی نزول امداد ہوا اور یہ بشارت ہوئی کہ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا اے ابوبکر مایوس اور غمگین نہ ہو تسلی رکھ ہمارے ساتھ خدا ہے القصہ اس وعدہ صادق نے ظہور فرمایا اور کفار نگونسار کے شر سے ان دونوں بندگان خاص کو بچا کر بحفظ تمام مدینہ میں پہنچایا اور پھر دین کو یہ رونق دی کہ اظہر من الشمس ہے سو دعا دینی چاہیئے ابوبکر صدیق کی جان کو کہ نہ وہ اتنے غمگین ہوتے نہ اس کا یہ ثمرہ مترتب ہوتا کہاں ان کے صدقہ سے یہ نصرت ہو کہاں ملک ایران وغیرہ قبضہ کفار سے چھوٹیں اور شیعوں کو ٹھکانہ ملے مگر اس نااہلی کو دیکھئے کہ شکرانہ کے بدلے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے محسن کے ساتھ نہ کرے

ع۔ مرا بخیر تو امید نیست بد مرسان

آیت معیت میں شیعوں کی ایک اور مضحکہ خیز تاویل اور اس کا بطلان اس مقام میں بعضے متعصب لاچار ہو کر بہت پیچ و تاب کھا کر شاید کہیں تو یہ کہیں کہ واقعی اس زمانہ تک تو ابوبکر ایسے ہی تھے جیسے خدا کے کلام سے سمجھا جاتا ہے مگر وہ بات پھر نہ رہی ہوگی، یہ شبہ اس قابل نہیں کہ کوئی اس کے جواب کی طرف متوجہ ہو بلکہ شیعوں کو لازم ہے کہ اس بات کو منہ پر نہ لائیں۔ مبادا کوئی ہندو انگریز سن کر یوں بکنے لگے کہ ایسے خدا ہی کو سلام ہے جسے چار دن کے بعد کی خبر نہ ہو اور اگر بفرض محال حسب گفتار شیعہ نقل کفر کفر نباشد خدا کو ابوبکر صدیق کے ان اطواروں کی جو ان سے بعد میں ظہور میں آئے خبر نہیں بھی تھی اور بھولے چوکے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی تب لازم تھا کہ اپنی اس بات کی پچ کرتا اور جوں توں ابوبکر صدیق کو راہ راست پر لاتا خدا تھا کچھ ناخدا تو نہ تھا۔ کہ باد مخالف میں لاچار ہو کر بیٹھ رہے بندوں کو تو اپنی بات کی پچ ہوتی ہے خدا تو خدا، ابوبکر صدیق کے حق میں تو یوں کہا کہ ہم اسکے ساتھ ہیں اور ادھر یوں سنایا کہ لَاتَبْدِیْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ یا مَایُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ دونوں آیتوں کا یہی مطلب ہے، کہ خدا کی بات بدلی نہیں جاتی اور پھر تس پر ابوبکر کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک شیطان نے اسے آ دبایا، یا یوں کہیئے نعوذ باللہ خدا ساتھ تو تھا پر خدا سے شیطان کے مقابلہ میں کچھ نہ ہو سکا تَعَالَی اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِیْرًا بجز شیعوں کے اور کسے یہ دلیری ہے کہ ایسی بات منہ پر لا سکے۔

آیت معیت کے الفاظ بھی شیعوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اول تو اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا یہ ایسا جملہ ہے کہ عرب کے محاورہ کے موافق اس میں سے ہمیشگی کی بو آتی ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں اور فن بلاغت کے قواعد سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں بلکہ اتنی بات تو یقین یوں ہے مولوی عمار علے

صاحب بھی جانتے ہوں دوسرے ہم نے مانا اس جملہ سے کچھ ہمیشگی نہیں نکلتی پر اتنی بات تو شیعوں کو بھی تسلیم کرنی ہی پڑے گی کہ اس وقت خاص میں تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضؓ اس خدا کی ہمرہی اور ہمدمی میں شریک تھے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کبھی علیحدہ ہو گئے ہوں اور ان کی ہمری اور طرفداری چھوڑ دی ہو سو اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا۔ میں رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو دائمی نکلا اس صورت میں ابو بکر صدیق کا حصہ بھی دائمی ہوگا کیونکہ دونوں کے حصے رلے ملے ہوئے ہیں بٹے ہوئے نہیں ایک مع کا لفظ دونوں کے واسطے ہے دو لفظ جدا جدا نہیں یعنی مَعِیَ و مَعَکَ نہیں فرمایا تیسرے ہم اس سے بھی درگذرے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ شیطان کا مقولہ سورہ صٓ میں یوں منقول ہے

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ	یعنی شیطان قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی میں سب بنی آدم کو بہکاؤں گا مگر جو تیرے چھٹے ہوئے بندے ہیں تو نے انہیں اپنے لئے چھانٹ لیا ہے۔

کیونکہ وہ میرے دست قدرت سے باہر ہیں وہ تیری پناہ میں آگئے ہیں سو چونکہ تو ان کے ساتھ ہے اور وہ تیری پناہ میں ہیں وہاں میرا کچھ قابو نہیں چل سکتا اور سورہ حجر میں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کے بعد بطور تصدیق کے شیطان کے مقولہ کے جواب میں خداوند کریم کی طرف سے یوں ارشاد ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ یعنی شیطان کو کہا جاتا ہے کہ تو اس بات میں سچا ہے جو میری پناہ میں آگئے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چل سکتا اب بعد اس کے غور فرمایئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پناہ خداوندی میں آجانا تو اس آیت ہی سے ثابت ہے یعنی اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا سے صاف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو صدیق اکبر پناہ خداوندی میں آگئے اور خدا کے دربار میں اور حرز میں گویا داخل ہو گئے پھر بعد اس کے جو وہاں سے نکلے تو شیطان کے نکالے تو نکل ہی نہیں سکتے اور کس نے نکالا اور اگر یوں کہیئے کہ خدا ہی نے اپنی پناہ سے نکالدیا تو یہ خیال خود غلط ہے کیونکہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی	یعنی اللہ تعالےٰ اپنی راہ و رسم کو کسی قوم کے ساتھ

یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ	جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے طور و انداز کو نہ بدل دیں

معیت حق صدیق کی ذات کے ساتھ تھی اور خود حضرت ابو بکر صدیق بے اغوا شیطانی اور بے استدراج خداوندی اپنی روش بدل لیں یہ محالات میں سے ہے اس واسطے کہ یہ بدیہات میں سے بلکہ اظہر من الشمس ہے کہ ہر قسم کے کام کے لئے ایک استعداد ہے۔ داد و دہش کے لئے سخاوت چاہیئے۔ مارنے مرنے کے لئے شجاعت چاہیئے۔ سو ایسے ہی برے کام اور گناہ کی باتوں کے لئے بھی ایک استعداد اور قابلیت چاہیئے۔ سو وہ قابلیت اگر تھی تو خدا نے چھانٹا ہی تھا کس خوبی پر نعوذ باللہ خود کلام ربانی ہی میں موجود ہے۔

اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔	یعنی بری چیزیں بروں کے لئے اور برے بری چیزوں کے لئے اور اچھی چیزیں اچھوں کے لئے اور اچھے اچھی چیزوں کے لئے۔

بلکہ اس موقع میں جو یوں ارشاد ہوا اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا۔ یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ان سے جدا نہ ہوگا۔ سو وجہ اس کی یہ ہے اگر اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ یعنی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے بعد لفظ لَا تَحْزَنْ کے فرماتے تو یوں بھی گمان ہوتا کہ اللہ کی ہمرہی ایمان کے ساتھ مشروط تھی۔ جب ایمان گیا ہمرہی بھی ساتھ گئی اور درصورتیکہ بے کسی شرط کے ہمرہی ہو تو وہ دائمی ہوگی اس میں زوال کا احتمال نہیں۔ قرابت کی وجہ سے جو ارتباط ہوتا ہے وہ قابل زوال نہیں ہوتا اور آپس کی دوستی میں جو بوجہ اخلاق اور احسانات باہمدگری کے ہوتے ہیں وہ جب ہی تک رہتے ہیں کہ اخلاق اور احسان باقی رہیں اسی واسطے دوستی ٹوٹ جاتی ہے رشتہ نسبی نہیں ٹوٹتا القصہ نسب کے حقوق جان کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوستی کے حقوق احسان کے ساتھ سو چونکہ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا فرمایا ہے اور اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وغیرہ جو کسی وصف پر دلالت کرے نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ ابو بکر کے ساتھ خدائے تعالےٰ کی ہمرہی جان کے ساتھ ہے کسی وصف کے ساتھ نہیں پھر اگر خدا کی ہمرہی بدل جاتے تو موافق آیت مذکورہ بالا اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ الْآیۃ کے کسی وصف میں تغیر آنا ضرور ہے اور جب اوصاف کے تغیر اور تبدل پر معیت

اور پھر ہی میں بھی تغیر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ معیت اور پھر ہی ان اوصاف ہی کے سبب تھی بے وجہ نہ تھی اس صورت میں لازم آوے گا کہ خدا سے بڑی چوک ہوئی کہ اُس وصف کا نام نہ لیا یا خداوندکریم بھول گیا اور اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُؤمِنِیْن کی جگہ مثلاً اِنَّ اللّٰہ مَعَنَا فرمادیا نعوذ باللہ من سوء الفہم خداوندکریم اور چوک جائے یا بھول جائے خدا کی تو یہ شان ہے جیسے کلام اللہ میں آیا ہی لَا یَضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسٰی یعنی حضرت موسےٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب نہ چوکے نہ بھولے،

آیت میں معنا کا لفظ حضرت ابوبکر صدیق کے رتبہ کا آئینہ دار ہے | انصاف اگر ہو تو اِس لفظ مَعَنَا سے یوں سمجھ میں آتا ہی کہ ابوبکر صدیقؓ کا رتبہ کچھ لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کے ہے جو ایک قسم کی معیت اِن دونوں کے واسطے خداوندکریم نے بیان فرمائی۔ سو یہ بات بجز اس کے نہیں ہو سکتی کہ صدیق اکبر ان کو کہا جائے اور تمام اُمت محمدی اور سوا اُس کے اور امتہائے ماسبق سے ان کو افضل سمجھا جائے۔ جب کہیں ان کے رتبہ اور مقام کی حد اعلےٰ مقام نبوت کی سرحد اسفل سے متصل ہو اور یہ لیاقت بہم پہنچے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں شریک ہوں۔ سو یہ بات شیعہ سنی سب جانتے ہیں کہ ایسا مقام جو مقام نبوت سے متصل ہو بجز صدیقیت اور کوئی نہیں کیونکہ کلام اللہ میں بعد انبیاء کے صدیقین ہی کو ذکر کرتے ہیں سو اِس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی امت کے صدیق اکبر کا رتبہ اس نبی کے رتبہ سے متصل ہی نیچے ہوتا ہے سو چونکہ حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اور نبیوں کی نبوت سے بالاتر ہے تو اس امت کے صدیق اکبر کا رتبہ اپنی امت کے صدیقوں کے مرتبہ سے تو بڑھ کر ہی ہو اور امتوں کے صدیقوں کے مرتبہ سے بھی بالاتر ہوگا۔ اب بس کیجئے کہ منصفوں کے لئے یہ بھی بہت ہی اور متعصبوں کو خداوندکریم اگر سمجھائے تو شاید مانیں ہم جیسوں کی کاہے کو مانیں گے مگر ہمیں بطور نصیحت اس قدر کہنا لازم ہے کہ خداوندکریم جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے دشمنوں کی خیر نہیں ہوتی۔

شیعوں کی ایک اور راہ گریز اور اس کی ردک تھام | اس کے بعد کوئی کہے گا تو یہی کہے گا کہ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا حقیقت میں خدا کا مقولہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہی خداوندکریم فقط ناقل اور راوی ہے کچھ اپنی طرف سے نہیں فرماتے جو کچھ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت صادر ہوا اسے بعینہٖ نقل کردیا جیسے فرعون کا اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلٰی کہنا یعنی میں تمہارا بڑا رب

ہوں۔ یا ابلیس کا اَنَا خَیْرٌ مِّنْہُ کہنا یعنی میں آدم سے بہتر ہوں بعینہٖ نقل کردیا ہے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہرچند رسول ہیں لیکن پھر بھی انسان ہیں اور یہ مثل مشہور ہی اَلْاِنْسَانُ مُرَکَّبٌ مِنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْیَانِ سو اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے کچھ غلطی ہوگئی ہو تو کیا بعید ہے جواب اس کا یہ ہے کہ واقعی شیعوں کیلئے یہ بات بڑی مایۂ افتخار ہے لازم تو یوں ہے کہ عید باباشجاع سے اِس کی خوشی کم نہ ہو اگرچہ کسی سنی ہی کی تبلائی ہی مطلب کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنالیا کرتے ہیں۔ سنی تو ان کے قدیمی استاد ہیں اور استاد بھی کونسے جن سے کلام اللہ سیکھا جس کا رتبہ حقیقی باپ سے بھی بڑھکر یہ بات بھی اگر ان سے سیکھ لی تو کیا مضائقہ ہے مگر اتنا کہنا میرا بھی ماننا چاہیئے کہ سورہ نجم کو ساری کی ساری نہیں تو اتنے ہی کلمہ کو ساقط کردو۔

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوٰی اِنْ ھُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی۔ | یعنی ہمارا پیغمبر جو کچھ ہمارے حوالہ سے کہے ہے وہ کچھ اپنے جی سے نہیں تراش لیتا بلکہ وہ نری وحی ہے

اس میں کسی طرح کا رلاؤ نہیں نہ کچھ دخل فصل ہی نہ وہم کا یا عقل کا کچھ دخل ہی خلیفہ ثالث نے امیرالمومنین علی مرتضےٰ وصی رسولِ خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے کلمات اور آیات کیا سورتیں کی سورتیں جو خلافت پر دلالت کرتی تھیں کلام اللہ سے نکالدیں تم اس کی پاداش میں ایک آیت جو فی الجملہ اثبات فضیلت خلیفہ اول میں کارآمد ہی اگر نکالڈالو تو از قبیل جَزَاءُ سَیِّئَۃٍ سَیِّئَۃٌ مِّثْلُھَا کے ہوگی بلکہ اس سے بھی کم کیونکہ اس آیت کے معنے تو فقط اتنے ہی ہیں کہ بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے سو یہاں برابری کیا۔ آدھوں آدھ کی بھی نسبت نہیں تقریباً گیارہ ہزار آیت کے بدلے میں ایک آیت کو کون برابر کردے گا اور پھر وہ بھی ایسی کہ اس کے جاتے رہنے سے کوئی حق تلف نہیں ہوتا خلیفہ ثالث نے تو یہ کمال کیا کہ اتنی آیتیں بھی نکالدیں اور آیتوں کو نکال کر عوام کی آنکھوں میں حضرت علی رضؓ کا حق بھی نہ رکھا۔ خیر یہ بات تو دور جا پڑی حاصل یہ ہی کہ آیت وَمَا یَنْطِقُ الخ صاف اِس بات پر دلالت کرتی ہی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا کہا خدا ہی کا کہا ہے خاصکر ایسی بات کہ جو منجملہ اخبار غیب ہے کیونکہ خدا کی معیت تو کچھ آنکھوں سے نظر نہیں آتی بلکہ اخبار غیب میں سے بھی اول قسم۔ اس لئے آیت اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا ہمسنگ آیات متشابہات ہے ان میں عقل کو کسی طرح دخل نہیں ہو سکتا جو کوئی یونہی کہے کہ عقل کے وسیلے سے بہت سے وقائع آئندہ کی اطلاع ہو جاتی ہی

خسوف کسوف اکثر واقفانِ علم ہیئت کو معلوم ہو جاتے ہیں سو اگر ایک واقعہ بالفعل کی کچھ اطلاع عقل کے وسیلے سے ہو گئی ہو تو کیا عجب ہاں اگر کوئی حکم حلت حرمت کا ہوتا تو البتہ اسمیں اجتہاد کی گنجائش بھی احتمال ہو سکتا تھا کہ جیسے پچھلے اماموں نے اجتہاد کئے ہیں اگر کسی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو تو کیا عجب، چنانچہ سنی اجتہاد نبی کے قائل ہیں مضمون اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا میں کوئی احتمال بجز اس کے نہیں کہ جو کچھ آپ کی زبان پر جاری ہوا وہ سب القائے ربانی تھا کوئی احتمال مفید مطلب شیعہ اس آیت کے پاس تک بھی نہیں پھٹکتا چسپیدگی تو چیز دیگر، حق یہی ہے کہ اگر ابوبکر حسب اعتقاد شیعہ مقبولان بارگاہ الٰہی میں سے نہ ہوتے اور انجام ان کا ارتداد اور کفر پر ہوتا تو اول تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی ہی نہ فرماتے کیا ضرورت پڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھوٹ بولتے ۔

تقیہ کا عذر لنگ اور تقیہ کو کوئی کہے تو اول تو تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں اندیشہ کسی قسم کا ہو۔ ابوبکر صدیق کچھ پہلوان نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمزور نہ تھے ان میں تو ایک پہلوان کیا بہت سے پہلوانوں کا زور تھا۔ تنہائی میں ابوبکر کے مار ڈالنے کا بہت عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا وہاں کون پوچھتا تھا مار کر کہیں چل دیتے۔ دوسرے تقیہ کرنا تھا تو تلطف اور اخلاق زبانی کفایت کرتے تھے۔ سو وہ کچھ تسلی اور تشفی ہی کے الفاظ میں منحصر نہیں ہم جیسے مخص گفتگو کا سلیقہ نہیں بہت سے تلطف کے الفاظ تراش سکتے ہیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تو افصحُ العربِ والعجم تھے اور اگر تسلی ہی کے الفاظ کی ضرورت تھی تو اور بہت سی صورتیں تھیں اس جھوٹ کی کیا ضرورت تھی اور نعوذ باللہ منہا ہم سے تو نہیں کہا جاتا۔ اگر شیعوں کے کہے موافق جھوٹ ہی بولنا تھا تو کچھ توریہ کر لینا تھا۔ اگر ان اللہ معنا کی جگہ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فرما دیتے تو تسلی کی تسلی ہو جاتی بات کی بات بن جاتی ان کی تسلی ہو جاتی آپ جھوٹ سے بچ جاتے، ابوبکر نعوذ باللہ اگر منافق تھے تو یوں سمجھ جاتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور اپنا رفیق سمجھتے ہیں اور اگر مومن تھے اور پھر مرتد ہو گئے تو اپنے کلام میں سچے رہتے خدا کی طرف بھول چوک کا احتمال نہ ہوتا کیونکہ جب تک وہ مومن رہے جب تک اللہ تعالے بھی ان کے ساتھ رہے۔ جب ان کے دل سے ایمان نکل گیا۔ خدا نے بھی ان کی ہمرہی چھوڑ دی ۔

لفظ صاحب سے متعلق لطیف و دقیق تشریح اور صحابی و صاحب کا مفہوم اس تقریر کے بعد ایک تنبیہ پر خاتمہ کرتا ہوں۔ اتنا یاد رہے کہ شاید بعضے عقل کے دشمنوں کو یہاں یہ خلجان پیش آئے۔ کہ کلام اللہ میں یوں ارشاد ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ۔ | یعنی نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی زبان وہی تھی جو اس کی قوم کی زبان تھی

سو جناب رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موافق اس قاعدہ کے عرب کے محاورہ میں گفتگو کرتے ہوں گے اور چونکہ اس بات کی علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تفہیم مطالب میں فرق نہ ہو تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کلام اللہ بھی عرب کے محاورے میں ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ صاحب عربی زبان میں فقط بمعنی ہمراہی ہے اس کو صحابی کے ہم معنی سمجھنا ایک طرح کی ناانصافی ہے کیونکہ صحابی تو اصطلاح شرع میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ ایمان سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر یا بہت دیر رہا ہو اور بعضے علماء کا یہ مذہب ہے کہ طول صحبت بھی شرط ہے بہر حال ایمان داخل مفہوم صحابی ہے سو لفظ صاحب اول تو اصطلاح میں معروف نہیں۔ بلکہ اصطلاح شرع میں لفظ صحابی مستعمل ہوتا ہے دوسرے مسلّمنا کہ صاحب بھی مستعمل ہو لیکن کلام اللہ تو عرب کے محاورہ موافق اترا ہے اصطلاح کے موافق نہیں اترا تیسرے ہم نے مانا کلام اللہ سے ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا بھی ثابت ہوا اور اس وجہ سے بدلالت التزامی ان کے ایمان کا بھی پتہ لگا مگر کوئی یہ تو بتلائے کہ اس آیت سے تادم مرگ ان کا ایمان پر قائم رہنا کہاں سے نکلا۔ سو جو شخص ان کے ارتداد کا قائل ہو اس آیت سے اس کا التزام معلوم۔

صاحب بمعنی صحابی نہ ہو تو بھی کچھ قدح نہیں جواب اس وہم کا یہ ہے ان کا ایمان اور پھر ایمان پر قائم دائم رہنا تو بایماء کلمات طیبات إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ اور إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اوپر مرقوم ہو چکا۔ حاجت تکرار نہیں پھر جب ایمان تو یوں ثابت ہوا اور ہمدمی اور مصاحبت لفظ صاحبہ سے ثابت ہوئی تو صحابیت میں کیا کسر باقی رہ گئی جس کا انتظار ہے اس صورت میں اگر صاحب مرادف صحابی بھی نہیں تو نہ ہو معہذا لفظ صاحب کا مشہور ہونا اور صحابی کا اصطلاح شرع میں مشہور ہونا تو باعتبار اس زمانہ کے ہے

اور اگر اس زمانہ میں بھی یونہی تھا تو یہ ایسا قصہ ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام محمد مشہور تھے اور حضرت عیسےٰ علیہ السلام نے جو آپ کی بشارت دی تو احمد کے نام سے بشارت دی۔ چنانچہ سورۂ صف میں مذکور ہے القصہ جب دو لفظ مرادف اور ہم معنے ہوا کرتے ہیں گو ایک مشہور ہو مگر کبھی گاہ اس کی جگہ دوسرا لفظ بھی بول دیا کرتے ہیں، باقی یہ کہنا کہ کلام اللہ عربی محاورہ میں ہے اس کا کسے انکار ہے پر اس کے یہ معنے نہیں کہ جو لفظ کلام اللہ میں ہے اس کے وہی معنی مراد ہیں جو عرب کی زبان میں اس کے معنی تھے۔ صلوٰت زکوٰۃ۔ صوم۔ حج یہ جتنے اس قسم کے الفاظ ہیں سب کے سب اپنے معانی اسی سے منقول ہیں اور اصطلاح شرعی مراد ہے سو ایسے ہی لفظ صاحبہ کو سمجھنا چاہیے

نقل معنی کی حقیقی صورت اور قاعدہ کلیہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ نئے احکام لاتا ہے اور ایک کارخانہ ہی نیا ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے نئے نئے مضمون پیش آتے ہیں کہ اس کو اور اس کے توابع کو ان کی تفہیم کی اکثر ضرورت پڑتی ہے مگر چونکہ وہ احکام اور وہ مضامین پہلے سے معلوم نہیں ہوتے تو ان کے مقابلہ میں کوئی لفظ موضوع اس زبان میں نہیں ہوا کرتا ناچار آپ وضع کرنا پڑتا ہے لیکن ہر زبان کا دستور ہے کہ جب اس زبان کے مشاقوں کو کسی نئی وضع کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہی الفاظ مستعملہ میں سے کسی ایسے لفظ کو مقرر کر لیتے ہیں کہ اس کے معنیٔ اول سے نئے معنے کو کچھ مناسبت ہو۔ چنانچہ واقفان فن عربیت کو لفظ صوم صلوٰۃ کے دونوں معنوں قدیم اور جدید کے تصور سے یہ عقدہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ سو ایسا ہی لفظ صاحب اور لفظ صحابی کو سمجھئے مگر چونکہ لفظ صاحب کے اصلی معنی کی تفہیم کی بھی اکثر ضرورت پڑتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس اس لفظ کے معنے شرعی کی بھی اہل زبان کو اکثر ضرورت ہوتی ہے تو بایں لحاظ فرق کے لیے صاحب کو اکثر پہلے معنوں میں بولتے ہیں اور صحابی کو اکثر دوسرے معنوں میں مگر بایں ہمہ صاحب دوسرے معنوں میں بھی اطلاق کیا جاتا ہے لیکن اضافت کے وقت چونکہ توہم التباس نہیں رہتا تو لفظ صاحب ہی کو اصطلاح شرع میں استعمال کرتے ہیں چنانچہ جو لوگ احادیث پر اور خطب ائمہ پر عبور رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ القصہ اصطلاحات شرع سے کلام اللہ خالی نہیں بلکہ جو لفظ کہ شرع میں کسی معنے کے لیے مقرر ہے جب وہ کلام اللہ

یا حدیث میں پایا جائے گا تو معنی شرعی ہی مراد ہوں گے احتمال معنی اصلی کا کرنا محض سفاہت ہوگی صوم صلوات زکوٰۃ سے کلام اللہ میں معنی شرعی کے مقابل میں مستعمل ہوا ہے اور اس سے معنی لغوی مراد لینے درایت سے بہت دور ہیں اور سلمنا کہ لفظ صاحب سے جو صاحبہ میں ہے معنی شرعی مراد نہ ہوں تب عرفی معنے اس لفظ کے وقتیکہ یہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف ہو معنی شرعی کے مطابق ہوں گے کیونکہ کفار زمانہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں جو اہل زبان تھے جب اس لفظ کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کرتے تھے اور اس سے کسی کی طرف اشارہ کرنا مدنظر ہوتا تھا تو یہی معنے مراد لیتے تھے کہ فلانا شخص ہمارے ساتھ سے نکل گیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ اور ان کے زمرہ میں داخل ہو گیا ہمارے دین سے نکل بھاگا محمدی دین اختیار کر لیا۔ اس مضمون کا ماحصل علماء شیعہ فرمائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر جائے حیف ہے کہ کفار تک اس لفظ سے وقت اضافت یہی معنے سمجھتے ہوں حالانکہ ان کی اصطلاح نہیں۔ نہ سمجھیں تو حضرات شیعہ نہ سمجھیں مگر ہم جانیں بزعم خود اچھا کرتے ہیں۔ کفار سے مطابقت اور موافقت تو آخر ممنوعات شرعی میں سے ہے اور یہ کیا ابھی تو شروع ہے رفتہ رفتہ کفار سے یہ خلاف پیدا کریں گے کہ برخلاف ان کے صوم وصلوٰۃ وغیرہ الفاظ سے بلکہ سارے کلام اللہ سے حتی القدر کچھ اور ہی معنے سمجھا کریں گے اور ہم اس سے بھی درگذرے صاحب کے لغوی ہی معنے ہیں اور کسی طرح معنی شرعی کے مراد لینے کی گنجائش نہیں تب لفظ لَا تَحْزَنْ اور اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا کو کہاں رکھو گے صاحب کے لفظ سے نہیں ان دونوں سے ایمان ثابت ہو گیا چنانچہ اوپر مذکور ہو چکا بہر حال ان کا صحابی ہونا بطور اصطلاح شرع کے اس آیت سے ثابت ہو گیا

لفظ صاحبہ میں بہ نسبت لفظ صحابی زیادہ فضیلت ہے! بلکہ ہمارے نزدیک اس صورت میں اور دنی فضیلت ہو جائے گی۔ لفظ صاحب سے اصطلاح شرعی مراد ہوتی تو وہ بات ہرگز نہ ہوتی شرح اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں صاحب کے لفظ سے جو ہمرہی مراد ہوگی تو اسی ہمرہی کی طرف اشارہ ہوگا جو اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ سے ثابت ہوتی ہے چنانچہ لفظ اذ جو اِذْ يَقُولُ میں ہے وہ پہلے اِذْ کا جو اِذْ هُمَا میں ہے بدل ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری نصرت اس وقت ہوئی جب دونوں غار میں تھے اور پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے یوں کہہ رہے تھے اور یہ تو ظاہر ہے۔ کہ

ایسے وقت کی ہمراہی اسی کا کام ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مخلص نہ ہو اور سچ بھی تو ہے۔ ابوبکر صدیق کی جانبازی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں خاص کر اس وقت دشوار کی ہمراہی اور رفاقت ایسی نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے۔ اگر خداوند کریم اس کی طرف اشارہ نہ فرماتے تب کچھ حاجت نہ تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ رفاقت اور ان کا اخلاص ایسا شہرۂ آفاق ہو رہا ہے کہ ضرب المثل ہو گئے ہیں شیعہ زبان سے انکار کریں تو کیا ہوا دل میں ان کے بھی یہی ہے کہ ابوبکر صدیق کے برابر دنیا میں کوئی کسی کا رفیق نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے رفیقوں میں کچھ ان کا رتبہ بڑھ کر نہیں دیکھتے نہیں بلکہ جس کی رفاقت اور اخلاص نہایت کو پہنچ جاتے ہیں تو عرف میں اسے شیعہ سنی ہندو مسلمان سب یار غار کہتے ہیں رفاقت میں ایسا رتبہ کہ ضرب المثل اور مشبہ بہ ہو جائے بجز اس کے نہیں ہو سکتا کہ اوروں کی رفاقت کو ان کی رفاقت کے ساتھ ایسی نسبت ہو جیسے نور چہرہ کو نور قمر یا نور خورشید کے ساتھ نسبت ہو کون نہیں جانتا کہ کجا آفتاب کجا آدمی کا چہرہ۔ آدمی کیسا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو آفتاب کے نور سے لاکھوں درجہ کم اس کا نور رہتا ہے اس کے شرف کے لئے یہی بہت ہو کہ اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی اوروں کی رفاقت اور دوستی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور دوستی سے بمدارج کم سمجھنا چاہیے ان کو یہی شرف بہت ہے کہ ان کے ساتھ اوروں کو تشبیہ دیتے ہیں اور جس کی رفاقت اور دوستی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو یار غار کہتے ہیں القصہ اس تقدیر پر وہ صحابہ میں بھی فرد اکمل ہوں گے اور کیوں نہ ہوں۔ زبان خلق نقارۂ خدا، ان کا یار غار ہونا اور صدیق ہونا سب عام و خاص پر روشن ہے دوست و دشمن سب ان کو اسی لقب سے پکارتے ہیں اب یہاں بس کیجئے۔

شیعوں کی طرف سے خلافت صدیقی پر نکتہ چینی | مگر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر افضل بھی ہوئے تو کیا ہوا خلافت تو بظاہر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کا حق تھا کیونکہ وہ چچا کے بیٹے اور داماد تھے اور مشہور ہی کہ داماد بمنزلہ فرزند ہوتا ہے تو اس صورت میں خلافت بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اگر پہنچتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچتی ابوبکر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے کون ہوتے تھے جو خلافت دبا بیٹھے اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے اپنے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ

کر دینا تھا وہ بھی نہ ہوا وصیت کی تو خلیفہ ثانی کے لئے کی۔

جواب | سو اس توہم کا جواب اول تو یہی ہے کہ خلافت کو سلطنت پر قیاس کیجئے۔ تو البتہ یہی توہم پیدا ہوتا ہے لیکن اہل فہم پر پوشیدہ نہ ہوگا کہ خلافت نبوت ارکان دین میں سے بھی رکن عظیم اور سلطنت دنیا کے امور میں سے بھی نہایت درجہ کو تقبیح پھر جب حقیقت دنیا اور دین ہی میں اتنا تفاوت ہو کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا تو اس کے اعلےٰ درجہ اور اس کے اعلےٰ درجہ میں کچھ لگاؤ ہی نہ ہوگا جو ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جائے

ع۔ ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

ہاں خلفائے انبیاء کو اگر خلفائے علماء اور خلفاء فقرا پر قیاس کیا جائے تو البتہ قیاس کا موقع بھی ہے علم و فقر بھی امور دینی میں سے ہیں مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ خلافت علم اور خلافت فقر میں یگانگت اور قرابت کی وجہ سے ترجیح نہیں ہوتی فضیلت اور کمالات کے باعث ترجیح ہوتی ہے چنانچہ لفظ خلافت ہی خود اس بات پر دلالت کرتا ہے اسلئے خلافت بمعنی نیابت ہو اور نیابت کا استحقاق اس کے لئے ہوتا ہے جو کہ منیب کا کام دے سکے اور اگر چند آدمی موصوف بایں صفت ہوں تو وہ ان میں مقدم ہوگا جس میں کمالات اور فضائل منیب اوروں سے زیادہ تر ہوں گے بموجب حضرت صدیق اکبر کی فضیلت مابعد انبیاء کے سب پر ثابت ہو گئی تو پھر حضرت علی مرتضےٰ رضی اللہ عنہ کے حق کے ہونے کے کیا معنے، ہاں یہ مسلّم کہ خلافت کی لیاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رکھتے تھے لیکن افضل پھر افضل ہی باقی رہا دبا بیٹھنا ہم پوچھتے ہیں کہ جب سب میں زیادہ استحقاق خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضہ ہی میں ہوا تو خلافت کو اگر دبا ہی لیا تو کیا بیجا کیا!! اپنا حق تھا دوسروں کا حق چھینتے تو جائے گرفت بھی تھی۔ معہذا واقفان فن سیر جنکو حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہونے کے قصے کی خبر ہے خود جانتے ہیں کہ انہوں نے خلافت خود دبائی تھی یا بجبر و اکراہ ان کو سر دھرنی پڑی۔ باقی رہا حضرت عمر کا خلیفہ کر دینا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خلافت میں قرابت کو مداخلت نہیں ورنہ حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین رضی اللہ عنہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مقدم تھے۔ رہا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا عورت ہونا اور علی ہذا القیاس حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا لڑکا ہونا موافق آئین سلطنت کچھ مانع جانشینی حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نہ تھا سلطنت

ہیں بوقت ضرورت اکثر عورتوں اور لڑکوں کو قائم مقام کر دیتے ہیں گو اور ہی کوئی نگراں حال رہتے
القصہ اگر حال نبوت مثل حال سلطنت دنیا ہے اور قرابت باعث ترجیح ہے تو حضرت علی رضی اللہ
عنہ پھر بھی مستحق نہ تھے نہ وقت وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان کا حق تھا نہ اپنی خلافت
کے وقت اس وقت حق تھا تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا تھا اور اگر حال نبوت مثل حال سلطنت
نہیں اور قرابت کو اس میں کچھ دخل نہیں بلکہ افضلیت باعث تقدیم ہونی چاہیئے تو پھر حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ کر دیا تو کیا بیجا کیا۔ کسی اپنے کو کر دیتے یا حضرت عمر انکے
نزدیک اوروں سے افضل نہ ہوتے تو البتہ جائے اعتراض تھی۔

باب

وعدہ خلافت و استخلاف

معہذا کلام اللہ سے بھی یہی نکلتا ہے کہ جو کچھ ہوا بجا ہوا اور یہی عین صواب تھا اگر یقین
نہ ہو تو یہ آیت چہارم موجود ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ
الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِي
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

یعنی وعدہ کیا ہے اللہ نے بعضے ان لوگوں سے
جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور اچھے اچھے عمل کئے
لیکہات کا کان کو زمین کا خلیفہ اور بادشاہ
بنا دے گا جیسا ان سے پہلوں کو اور ان کے لئے
اس دین کو جو ان کے لئے اللہ تعالےٰ نے چھانٹ
رکھا ہے اور پسند کر رکھا ہے خوب جما دیگا اور انکو
بعد اسکے کہ اندیشہ اور خوف رہا کرتا تھا امن دے گا
کہ وہ پھر میری ہی عبادت کیا کرینگے اور کسی کو ذرہ
برابر عبادت میں میرا شریک نہ کرینگے اور جو لوگ
بعد اس نعمت کے کفران نعمت کریں اور ناشکری
کریں وہی ہیں اصلی فاسق طاعت سے نکلے ہوئے

اس آیت کا حاصل یہ ہوا جو کلام اللہ کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی ہیں۔ اور جو نہیں سمجھتے وہ
ترجموں سے مطابق کر دیکھیں آج کل سینکڑوں ترجمے کلام اللہ ملتے ہیں کچھ کمی نہیں۔

آیۂ تمکین متعقدات شیعہ سے کسی طرح مطابق نہیں

اب میری سنئے یہ وعدہ ہر کسی سے نہیں ہوا اس
زمانہ کے مومنوں سے ہوا ہے یعنی صحابہ سے ہوا ہے کیونکہ الَّذِيْنَ آمَنُوا کے بعد مِنْكُمْ بھی
بڑھایا ہے۔ اس کا حاصل یہی ہوا کہ یہ وعدہ انہیں سے ہے کہ جو تمہارے زمانے میں مومن ہیں
پچھلوں کو اس لفظ کے ذکر کرنے سے اس وعدہ سے علیحدہ کر دیا ہے تو اب حضرت امام مہدی
کا تسلط روئے زمین پر اس وعدہ سے علیحدہ ہے اور پھر تس پر یہ وعدہ بھی اس زمانہ کے تمام
مومنوں سے نہیں ہوا بلکہ بعضے سے چنانچہ لفظ مِن جو مِنْكُمْ میں ہے اس کا ماحصل یہی ہے
بلکہ جب لفظ مِن ضمیر کے اوپر داخل ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہوگا یا ابتدا کے معنی ہوں گے۔ جو
اس جگہ ابتدا کے معنے کسی کے نزدیک بن ہی نہیں سکتے۔ تو بیشک بعض ہی کے معنی ہوں گے کیونکہ
بیان کیلئے تو فصحا کے کلام میں ضمیر پر آتا ہی نہیں اور اگر بالفرض بفرض محال یوں ہی کہیں کہ مِن
یہاں بیان کے لئے ہے اور اس کا ہم ہرگز خیال نہ کریں کہ کلام اللہ خدا کا کلام ہے اور وہ بھی معجز
نظام کسی ایسے گنوار ہندوستانی کا نہیں کہ ہدایت النحو وغیرہ رسالے عربی زبان کے پڑھ کر عربی کی
ٹانگ توڑنے لگے تب بھی شیعوں کی مشکل ہی رہے گی اس صورت میں تمام صحابہ مراد ہونگے حتی
کہ خلفاء ثلثہ بھی اس لئے کہ جب تک تو وہ بھی مسلمان ہی تھے مرتد نہ ہوئے تھے اور اگر وہ منافقین
میں سے تھے اور کبھی مسلمان ہوئے ہی نہ تھے تب بھی وہ تو داخل ہی رہیں گے جو ان کے عقیدہ کے
موافق بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مرتد ہوئے ہیں اور جو آیات مرتدین کے بیان میں
آئی ہیں شیعوں کے نزدیک ان کے حق میں وارد ہوئی ہیں اس صورت میں اوّل تو یہ لازم آئے گا
کہ جو جو مرتد ہو گئے ان سے اس بات کا وعدہ تھا کہ ان کے لئے دین پسندیدہ کو جما دینگے وعدہ
کر کے خدا نے خلاف وعدہ کیا کیونکہ اگر خدا دین کو جما دیتا تو پھر نفس اور شیطان سے کہیں اکھڑ سکتا
جو وہ مرتد ہو گئے۔ معہذا ان کے حال میں یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ وعدہ پورا
ہوگا اس وقت وہ میری ہی عبادت کرینگے یہاں تک ذرہ برابر کسی کو میری طاعت میں شریک نہ
کرینگے۔ یا یوں کہیئے کہ یہ بھی ایک وعدہ ہے اخبار نہیں بہرحال اس صورت میں لازم آئے گا کہ تادم

بازپسین وہ اسی حال پر تھے جن کے انعام میں یہ وعدہ ہوا تھا یعنی ایمان اور عمل صالح چنانچہ اہل فہم وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ باعث اس وعدہ کا ایمان اور عمل صالح ہیں پھر نہ معلوم کہ باوجود ان سب باتوں کے وہ کیونکر مرتد ہو گئے دو حال سے خالی نہیں یا یوں کہو کہ خدا نے خلاف وعدہ کیا یا خدا سے آئندہ کی خبر میں غلطی ہوئی۔

جن سے وعدہ تھا ان کو تمکین ہی حاصل نہ ہو سکی لہٰذا وعدہ پھر بھی غلط نکلا

اور یہ سب سہی اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ سے وہ چار پانچ صاحب ہی مراد ہیں جو بزعم شیعہ بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مسلمان رہے اور مثل دیگر صحابہ مرتد نہ ہوئے اس صورت میں مِنْ اگر مِنْکُمْ میں بیان کے لئے ہوگا تو بیشک ان سب کے ساتھ اس وعدہ کا پورا ہونا چاہیئے کیونکہ وہ سب صاحب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان ہو لئے تھے حالانکہ ان میں سے یہ سب وعدے سوا حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی کے لئے پورے نہیں ہوتے حضرت ابوذر غفاری اور سلمان فارسی اور حضرت بلال بلکہ حسنین رضی اللہ عنہم تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حال تو ظاہر ہی ہے اور حضرت امام ہمام سبط اکبر کا حال یہ ہے کہ چھ مہینہ کے لئے وہ خلیفہ تو ہو گئے پر چاہیئے ان کو کسی طرح کی تمکین دین حاصل ہوئی ہو ہرگز ظہور میں نہیں آئی۔ خاصکر شیعوں کے نزدیک کیونکہ امیر معاویہ جو ان کے نزدیک بالاتفاق کفار اور منکرین امامت ائمہ میں سے ہیں تمام خلافت پر غالب اور مستولی تھے اور پھر امن تو ہرگز میسر ہی نہیں آیا نہیں تو خلافت ہی کیوں ان کے حوالہ کرتے اور کیوں ساری عمر تقیہ میں گذارتے اور حضرت علی مرتضےٰ رضی اللہ عنہ کو بھی سنیوں کے نزدیک خلافت اور تمکین کچھ حاصل تھی شیعوں کے نزدیک تو ہرگز حاصل نہیں کیونکہ دین شیعہ اس زمانہ میں بھی مخفی ہی رہا اور حضرت کو تقیہ ہی کئے بنی۔ شیخین کی تعریف ہی کیا کئے یہ کبھی نہ ہوا کہ کھل کھیلیں اور بے کھٹکے ہو کر خلوت جلوت میں برابر یکساں گذاریں چنانچہ اس کی سند آگے انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہو جائیگی۔ اور علےٰ ہذا القیاس امن موعود یعنے کفار کے شر سے حضرت امیر کو بھی بطور شیعہ حاصل نہیں ہوا وہی امیر معاویہ ہمیشہ تنگ کرتے رہے اور آپ کے ہاتھ سے اکثر ملک نکال لیا بہرحال سب سے اگر وعدہ ہو تو کلام

بالکل لغو ہو جائے گا۔

استخلاف بمعنی توطن کسی طرح موزوں نہیں

اور اگر مِنْ کے بیانیہ ہونے کے ساتھ استخلاف کو بھی بمعنی توطن لیجئے جیسا کہ بعض علماء شیعہ نے تاویل کی ہو اور بمعنی تسلط نہ لیجئے تو قطع نظر اس کے کہ مِنْ کا ضمیر پر بیانیہ ہونا خلاف استعمال عرب ہے، اول تو یہ مشکل ہے کہ استخلاف کے ساتھ جب لفظ فِی الْاَرْضِ ہوتا ہے تو تسلط ہی کے معنے مراد ہوتے ہیں دوسرے اس صورت میں قید وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ محض بے معنی ہو جائے گی زمین میں توطن تو صالح اور فاسق کو برابر حاصل ہوتا ہی۔ بلکہ فساق کو بوجہ احسن بلکہ اٰمَنُوْا کی قید بھی بیکار ہی نظر آتی ہے کیونکہ کفار کے توطن میں کیا کمی ہے القصہ ان لغویات سے کلام اللہ کی تفسیر کی جاتی ہے یہ نہیں جانتے کہ لغو کلام کا کلام اللہ میں ہونا منجملہ محالات ہے۔

استخلاف بمعنی تسلط ہے بدلالت فی الارض

اور بعضے علماء شیعہ بہت کوشش کر کے یہ بات نکال کر لائے ہیں کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سے حضرت امیر مراد ہیں اور جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے ہے یا حضرت امیر اور ان کی اولاد مراد ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ قطع نظر اس بات کے کہ جمع سے واحد مراد لینا بے ضرورت بیجا ہے اور باوجودیکہ جمع کے معنی بن سکیں واحد کے معنی مراد لینے اہل سخن کے نزدیک بالقطع ممنوع ہے شیعہ اس کا کیا جواب دینگے کہ تمکین دین اور زوال خوف تو کسی کو بھی میسر نہیں آیا اس لئے ضرور ہوا کہ مِنْکُمْ کے مِنْ کو تبعیضیہ قرار دیجئے اور استخلاف سے تسلط مراد لیجئے مگر چونکہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جمع ہے تو کم سے کم تین تو ہونے ضرور ہوئے اور زیادہ ہوں تو فبہا۔

القصہ ابتداء اس آیت کے اتنی بات نکلی کہ صحابہ سے خداوند کریم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے کم سے کم ایسے تین شخصوں کو کہ وہ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہوں گے ضرور ہم خلیفہ بنا کر روئے زمین کو انکے تسلط میں کر دینگے اور اس دین کو جو علم الٰہی میں اس سے بہتر کوئی دین نہیں اور خدا نے ازل سے انہیں کے لئے چھانٹ کر رکھا، ان کے واسطے جما دیں گے کہ ان کے جیتے جی اس میں رخنہ نہ پڑے گا اور ان کے خوف و ہراس کو کہ جو کفار سے رکھتے تھے بالکل امن اور اطمینان سے بدل دینگے پھر بعد اس کے یا تو وعدہ میں دخل ہے یا فقط بطور اخبار بالغیب کے

بیان کرتے ہیں کہ وہ باوجود ان خرخشوں کے جو ایسی خلافتوں کو لازم ہیں ہرگز عبادات میں سستی نہ کریں گے اور پھر وہ عبادت بھی ایسی اخلاص کی ہوگی کہ ہرگز اس میں بوئے شرک اور ملاؤ ریا کا نہ ہوگا

آیت استخلاف کی صحیح تفسیر | اب اس کمترین کی التماس حضرات شیعہ کی خدمت میں یہ ہے کہ وعدہ الٰہی میں تو تخلف ہو ہی نہیں سکتا سو جن کے ساتھ اس وعدہ کا الفاظ ہو میں آئے وہی مصداق ان اوصاف مذکورہ کے ہوں گے اور وہ بیشک بشہادت خداوندی ایمان کامل اور اعمال صالح رکھتے ہوں گے بلکہ سب قرآن وامثال میں ان دو باتوں میں بڑھے ہوئے ہوں گے کیونکہ جب ایمان اور عمل صالح کے انعام میں یہ نعمتیں ملی ہیں تو انہیں کو ملی ہوں گی جن کا ان دو کمالوں میں نمبر اول ہوگا ورنہ نعوذ باللہ خدا کے یہاں بھی بڑا اندھیر ہے کہ استحقاق کسی کا ہو اور انعام کسی کو مل جائے سینتوں کے طور پر تو خدا کو اختیار بھی ہے کہ کسی کا حق کسی کو دیدے لیکن اسکی حکمت کی شان یہی ہے کہ جس چیز کو کسی کے لائق دیکھے اسے ہی دے اور یہی معنے ہیں اس کے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس آیت کے معنی بھی محققین کے نزدیک یہی ہو سکتے ہیں۔

اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی۔ یعنی ہر چیز کو اسی کے مناسب طور پر پیدا کیا پھر آئندہ مناسب ہی مناسب کاموں کی انہیں سوجھائی لیکن شیعوں کے نزدیک خدا کو اختیار نہیں کہ کسی کا حق کسی کو دیدے اس لئے کہ ان کے نزدیک خدا پر عدل واجب ہے اس صورت میں ممکن ہی نہیں کہ جن کو خدا نے خلیفہ بنایا وہ اوروں سے خلافت کے استحقاق میں کم ہوں بلکہ ان کا فائق ہونا استحقاق خلافت میں ضرور پڑا۔

نہ صرف استحقاق خلافت بلکہ ترتیب خلافت کا پتہ بھی اس آیت سے چلا | اور نیز اسی تقریر سے یہ بھی نکل آیا کہ ان میں سے جو ایمان میں اور عمل صالح میں دوسروں سے بڑھ کر ہوگا وہ اس انعام میں مقدم رکھا جائے گا کیونکہ تقسیم انعام کی خوبی یہ ہے کہ اول نمبر والے کو اول دیں مگر چونکہ یہ انعام خلفائے راشدین پر ہوا اور یہ وعدہ خلفائے اربعہ کے ساتھ بترتیب معلوم وفا ہیں آیا تو بشہادت خداوندی معلوم ہوا کہ یہ اصحاب اربعہ ایمان اور عمل صالح میں اوروں سے بڑھ کر تھے اور وہ بھی استدرکان کے ہوتے قابلیت اس انعام خاص کی ان کے سوا کسی میں نہ تھی اور باہم ترتیب

خلافت ایک دوسرے سے ایمان اور عمل صالح میں مقدم تھا۔ اول اول اور دوم دوم سوم سوم اور چہارم چہارم

آیت استخلاف کا مصداق صرف خلفاء اربعہ ہیں | اور بعد اس کے ہر چند حضرت سبط اکبر امام ہمام امام حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ خلفاء راشدین میں معدود ہیں مگر ان کو جو خلافت پہنچی تو اس وعدہ کے سبب نہیں پہنچی کیونکہ انکو قبل نزول اس آیت کے کسی دن خوف ہوا تھا وہ زمانہ انکے لڑکپن کا تھا دشمنوں سے اندیشہ بڑوں کو ہوتا ہے لڑکوں کو نہیں ہوتا بلکہ وصول اس نعمت کا ان تلک زائد از قدر وعدہ تھا اسی لیے ان کی خلافت کے لئے تمکین اور جماؤ لازم نہ ہوا باقی رہے امیر معاویہ ہر چند ان کو بظاہر تمکین میسر آئی لیکن حقیقت میں وہ تمکین دین نہ تھی تمکین ملک وسلطنت تھی چنانچہ واقفان فن سیر پر پوشیدہ نہیں کہ خلفاء اربعہ کے اطوار اور انداز اور امیر معاویہ کے اطوار اور انداز میں زمین آسمان کا فرق تھا ان کی گزران فقراء اور زاہدانہ تھی اور امیر معاویہ کا طور ملوک کا ساتھا اس لئے اہل سنت ان کو باوجودیکہ صحابی سمجھتے ہیں خلفا میں نہیں گنتے ملوک میں شمار کرتے ہیں لیکن ملوک ملوک میں بھی فرق ہے ایک نوشیرواں تھا ایک چنگیز خاں۔ سو یہ ہر چند ملوک میں سے تھے لیکن اس کے یہ معنے ہیں کہ خلفاء راشدین کے مقابلے میں دنیا دار معلوم ہوتے تھے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور انبیا کے مقابلہ میں مالدار معلوم ہوتے ہیں نہ یہ کہ ظلم وستم کے روادار تھے غربا کے حق میں ستمگار تھے ان کا حلم اور رعایا پروری اور دلجوئی خلائق شہرہ آفاق ہے معہذا ایران لوگوں میں سے نہیں کہ جن کو قرار واقعی کفار سے کبھی خوف ہوا ہو، یہ بات فقط مہاجرین اولین کے حق میں صادق آتی ہے نہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بات پیش آئی کہ امیر معاویہ کو اور مہاجرین اولین میں سے بھی جیسا خوف خلفاء اربعہ کو ترتیب ہوا ہے اور کسی کو پیش نہیں آیا چنانچہ کتب تاریخ سے خوب واضح ہے یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ انعام مذکور خاص انہیں کو ملا اور یہ وعدہ انہیں کے ساتھ ظہور میں آیا کیونکہ یہ خوف اصل سے بوجہ ایمان اور عمل صالح تھا کفار کی دشمنی کی بنا دیکھئے وہ انہیں دو باتوں پر تھی پھر جس میں ایمان اور عمل صالح زیادہ ہوگا دشمنی کفار بھی اسی کے ساتھ زیادہ ہوگی خوف کفار بھی اسی کو زیادہ ہوگا دوسرے محبت اور اخلاص جو ایمان اور عمل صالح کا خلاصہ ہیں خوف ہی کے وقت معلوم ہوتے ہیں اور خوف ہی سے پرکھے جاتے ہیں تو جس کو اس قسم کا خوف زیادہ ہوگا اسی

میں ایمان لا کر عمل صالح بھی زیادہ ہو گا القصہ خوف کفار مہاجرین اولین کو ہوا نہ حضرت امام ہمام امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کفار سے کیا اندیشہ تھا حضرت امام ہمام رضی اللہ عنہ اس زمانہ تک لڑکے تھے امیر معاویہ جب تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔

آیت استخلاف کی بنیاد مہاجرین کی قربانیاں ہیں

اس آیت کے مضامین میں غور کیجیے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ باعث اس وعدہ کا فقط یہ ہوا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مہاجرین اولین نے باوجود بے سروسامانی اور ذلت اور خواری کے جو ابتدا اسلام میں تھی ایک جم غفیر اور گروہ اعظم کفار کی مخالفت محض خدا کی رضامندی اور دین کی ترویج کے لئے اختیار کر کے اپنی جانیں جلائیں اور ان کو اپنا دشمن بنا کر طرح طرح کی ایذائیں ان کے ہاتھ سے اٹھائیں سالہا سال خوف و خطر میں گذارے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ نوبت اس کی آئی کہ گھر سے بے گھر ہوئے زن و فرزند سب کو چھوڑ کر جلاوطن ہوئے پھر اس پر بھی چین نہ ملا نوبت قتل قتال کی پہنچی مدتہائے دراز تک کفار نگونسار فوج کشی کرتے رہے اور جو چڑھ کر نہیں آئے تو مسلمانوں کے فکر سے تو خالی بھی نہیں رہے اسمیں بہت سے مہاجرین میں سے اور نیز ان کی ہمراہی میں بہت سے انصار شہید ہوئے جب خداوند کریم عالم الغیب والشہادت کو ان کا کامل امتحان ہو گیا تو رحمت الٰہی کو ان کی اس جان کاہی اور جان گدازی پر جوش آیا لازم پڑا کہ ان کی اس جان نثاری اور جانبازی کی مکافات اس دار دنیا میں بھی کی جائے اس لئے جس جس قسم کی کلفتیں انہیں پیش آئی تھیں اس کے مقابل کی نعمتیں ان کو ملیں اور اس کے مکافات کی راحتیں ان کو عطا ہوئیں تسلط کفار جو ان کے حق میں باعث تمام آزار اور سبب ہمہ تکلیفات تھا استخلاف سے مبدل ہوا کفار کے تسلط کے باعث جو نماز روزہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور ذکر خداوندی سے ممنوع تھے اور اس سبب سے حسرتہا گوناگوں دل میں رکھتے تھے بلکہ باعث جلاوطنی کا بھی حقیقت میں یہی تھا اس کے عوض میں تمکین دین ملی اور خوف کے عوض میں امن عطا ہوا اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اہل بیت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چند شرف گوناگوں رکھتے ہیں لیکن فقط اس شرف کو استحقاق خلافت میں دخل نہیں یہ اس جان کاہی اور جاں گدازی کا ثمرہ ہے جس کا مذکور ہوا۔

آیت مذکورہ سے شئت خلافت قریش کا راز بھی کھل گیا

اور خلافت کے مخصوص ہونے کی وجہ بھی نسبت

قریش کے معلوم ہو گئی یعنی یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ خلافت حق قریش ہے انصار کو اس میں کچھ دخل نہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ خلافت حقیقت میں انعام اور مکافات میں مہاجرین کی جانفشانیوں کے ملی ہے چونکہ مہاجرین قریش میں سے ہیں اس لئے انہیں میں منحصر رہنی چاہیئے ہاں جو کہ انصار اور اعوان خلفاء ہوا کرتے ہیں جیسے قاضی وغیرہ وہ البتہ نصرت کے صلہ میں انصار میں سے ہونے چاہیئں اور یہ بھی مکرر روشن ہو گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو جو خلافت ملی ہے۔ تو وہ خلافت نہیں جو وعدہ کے سبب ملی ہے اور نیز یہ بھی اہل فہم و انصاف پر صاف روشن ہو گیا کہ ان کے زمانے میں ان کے ہاتھوں سے جو کچھ دین کے مقدمہ میں ظہور میں آیا اور اس نے رواج پایا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو فدک کا نہ دینا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا متعہ کا منع کرنا اور تراویح کی تاکید اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمعہ میں ایک اذان کا بڑھا دینا وہ سب منجملہ دین پسندیدہ اور مصداق مضمون ارتضٰی لھم ہے علی ہذا القیاس جس مسئلہ پر ان کے زمانہ میں ان کی وجہ سے اجماع و اتفاق ہو گیا وہ لاریب حق و صواب ہے اس سے جو منحرف ہے وہ دین پسندیدہ خداوندی سے منحرف ہے اور جو اس کا منکر ہے وہ حق کا منکر ہے۔

آیت مذکورہ حضرت فاروق کی نزاہت کی دلیل ہے

اور نیز قطع نظر اس کے کہ جملہ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ حقیت خلافت خلفاء ثلثہ پر بوجہ احسن دلالت کرتا ہے اور شیعوں کے اس توہم کو کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے جو ایام مرض وفات میں کاغذ قلم دوات منگایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ آنے دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے نوشتہ ہی کے لکھنے کو منگایا تھا بیخ و بنیاد سے اکھاڑتا ہے جملہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ سے بھی اہل فہم کے نزدیک یہ توہم زائل ہو گیا کیونکہ خلافت خلفاء ثلثہ جب خلافت موعودہ ہوئی تو ان کی خلافت کی تمکین بھی منجملہ تمکین دین پسندیدہ ہو گی، ہاں اگر خلافت امور دینی میں سے نہ ہوتی تو البتہ اس استدلال کی گنجائش نہ تھی۔ سو شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ حضرت امیر اور ان کی اولاد رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طالب دنیا کہنا پڑے گا نعوذ باللہ منہا غرض یہ طعن اور نیز اور بہت سے مطاعن جو شیعی اور خارجی

بسبب اپنی تیرہ درونی کے حضرات خلفاء راشدین پر کرتے ہیں مندفع ہو گئے اگرچہ طعن اور سوا اس کے اور مطاعن بنظر غور اہل بصیرت کے نزدیک معترضوں کی تیرہ درونی سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ دربارۂ فدک تو اوراق مابعد سے انشاء اللہ یہ حال واضح ہو جائے گا تفصیل اس اجمال کی بہ نسبت جملہ مطاعن کے اس جا پر اگر بے موقع اور بے جا نہ ہوتی تو لبعد رِ گنجائش وقت درجِ اوراق کرتا مگر چونکہ کاغذ دوات قلم کے نہ آنے دینے کا طعنہ بھی بزعم شیعہ کلانترین مطاعن خلفاء راشدین ہے تو بنظر تسکین خاطر بعض بنی نوع اگرچہ اس بحث میں بے موقع ہے مختصر مختصر عرض کرتا ہوں تا کہ اس بڑے طعن کا اندفاع موجب اندفاع دیگر مطاعن صغیرہ ہو جائے۔

فرمان نبوی کی تعمیل نہ ہوسکنے کے اسباب حضرت من اول تو کسی روایت میں یہ نہیں کہ کاغذ قلم دوات کے آنیکے مانع اول حضرت عمر ہی تھے البتہ جب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ الصلوات و التسلیمات نے کاغذ دوات قلم منگانیکو فرمایا تو حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے حاضرینِ مجلس کی رائے اس وقت مختلف ہوئی کسی نے کہا کہ امتثال امر ہی کیجیے کوئی بولا کہ اس شدتِ مرض میں یہ تکلیف نہ دیجئے۔ اس ردّ وکد میں ایک شور برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ آیا کہ یہ ارشاد مربیانہ اور مشفقانہ ہے بطور ایجاب نہیں جس کی تعمیل واجب ہو کیونکہ خداوند کریم اس سے پہلے فرما چکا ہے۔

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ

یعنی حجۃ الوداع کے دن خداوند کریم کی طرف سے یہ بشارت آئی کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لئے پورا کر دیا اور تمام کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت

پھر جب خداوند کریم دین کو کامل کر چکا ہو تو اب یہ امر کسی نئے امر دینی کے لکھوانے کے لئے تو نہیں ہی ہو نہ ہو اسی کی تفصیل ہوگی سو یہ بات چنداں ضروری نہیں جو اس امر کی تعمیل واجب ہو بلکہ بوجہ شفقت کاملہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں سو جب باوجود شدت مرض کے آپنے ہمارے لئے یہ تکلیف گوارا فرمائی تو کیا اس کی مکافات یہی ہو کہ ہم بھی آپ کے لئے اس تکلیف کو

گوارا کریں بلکہ مقتضے ادب یہی ہے کہ آپ کے فرمانے کا کچھ خیال نہ کیجئے اور اس دفعہ کو جانے دیجئے اور سچ بھی تو ہے اگر کسی کا باپ بھوک کی شدت میں آپ تو نہ کھاتے اور بیٹے کو بوجہ شفقت اپنے حصہ کے کھانے کو فرماتے تو کیا مناسب ہے کہ فرزند عاقل دیدہ دانستہ پدر مہربان کو بھوکا چھوڑ کر سب نگل جائے بلکہ ایسے وقت میں مقتضائے ادب یہی ہے کہ والد مہربان کا کہنا نہ مانے اور اس نافرمانی ہی کو اپنی سعادت جانے غرض حضرت عمر نے بوجہ مذکور اور نیز بایں غرض کہ کسی طرح یہ شور موقوف ہو جائے حَسْبُنَا کِتَابُ اللّٰہِ کہا یعنی کافی ہے ہم کو قرآن شریف پھر اس تکلیف کے دینے کی کیا ضرورت؟ اور اگر کسی کتاب نادر الوجود کی کوئی ایسی روایت جو حضرت عمر کے مانع اول ہونے پر اس طرح دلالت کرے کہ اس میں گفت و شنید کی گنجائش باقی نہ رہے کوئی شیعہ پیش بھی کرے تو قطع نظر اس کے کہ وہ روایت واقعی صحیح ہے۔ کوئی جعلسازی نہیں تب بوجہ مذکور کوئی گرفت کی بات نہیں بہر حال منشاء اس اعتراض کا قلت فہم و فراست اور نقصان عقل و درایت ہے اور انجام کو دیکھا تو حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی۔ آخر جب یہ شور ہوا تو خود رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس تمام مجمع کی نسبت یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اگر کاغذ دوات قلم کے منگانے کا ارشاد پیام خداوندی ہوتا اور ضروری اور واجب ہی ہوتا تو مکرر آپ بتاکید فرماتے اور علےٰ ہذا القیاس اگر یہ شور جیسا حضرت عمر نے سمجھا موجب آزار خاطر حضرت سید الابرار صلے اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو کھڑے ہو جانے کو نہ فرماتے۔

حضرت عمرؓ کی رائے کا وزن بلکہ یوں کہیئے کہ جیسے اور بہت مواقع میں باوجود رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے حضرت عمر کی رائے خدا کی مرضی کے موافق نکلی ہے اور اسی وجہ سے ان مواقع میں ان کی رائے کے موافق وحی آئی اگر وحی نہ آتی تو بوجہ مخالفت رائے نبوی اہل اسلام کے نزدیک حضرت عمر سے برا کوئی نہ تھا یہاں بھی حضرت عمر کی رائے خداوند کریم علیم حکیم کی مرضی کے موافق تھی ورنہ جیسے کفار کی تکذیب کے وقت وحی آسمانی شاہد صدق رسول ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی تھی یہاں بھی وحی آتی اور آپ کی رائے کی تصدیق ہو جاتی، ہاں اتنی کمی رہ گئی کہ بعد اس واقعہ کے حضرت عمر کی تصدیق کے لئے وحی نازل نہ ہوئی غالباً پندرہ سولہ واقعہ کی تصدیق کو کافی سمجھ کر ایک اس واقعہ میں بغرض تصدیق عمری وحی نازل نہ فرمائی اور نیز یہ واقعہ بدلالت آیت

مذکورہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ چنداں ضروریات دینی میں سے نہ تھا چنانچہ مذکور ہوا۔ اور باین
ہمہ آخر زمانہ حیات نبوی میں جو وقت کمال توجہ الی اللہ اور استغراق تام کا ہے کیا مناسب تھا
کہ ایسے امور غیر ضروریہ کی طرف اپنے نبی کو مصروف کیا جائے باین وجہ غالباً اس واقعہ میں وحی ربانی جو
مصدق عمر اور شاہد حقیقت قول خلیفہ دوئم ہو جائے نہ آئی ورنہ یہ وہمات خود مندفع ہو جاتے
بالجملہ یہ حضرت عمر کا بولنا تو عقل سلیم کے نزدیک قابل تعریف ہے اور اس پر بھی بوجہ تیرہ درونی اور
بغض ذاتی کے اگر کوئی برا کہے جائے تو اس کا جواب بجز اس شعر کے اور کچھ نہیں

ع چشم بداندیش کہ برکندہ باد — عیب نماید ہنرش در نظر

کاغذ قلم دوات نہ لانے میں سبھی شریک تھے صرف فاروق کیوں؟ اور اگر ارشاد نبوی کو درباره طلب کاغذ و
قلم و دوات شفقت پر محمول کرنا کسی تعصب کو بحکم المرء یقیس علیٰ نفسہ کے تعصب نظر آئے
اور باوجود اس توضیح کے اس ارشاد کو ارشاد وجوبی ہی کہے جائے تو یہ اعتراض فقط حضرت عمر
ہی پر نہ ہوگا بلکہ اس کے یہ معنے ہوئے کہ تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اس جرم میں حضرت عمر کے
شریک نکلے اور وہ قصہ ہو گیا مرگ انبوہ جشنے دارد بلکہ اہل بیت اس تقصیر میں اول درجہ کے
تقصیر دار ہوئے کیونکہ اول تو مریض کی امرونہی کے مخاطب اس کے گھر والے ہی ہوا کرتے ہیں
دوسرے حضرت عمر تو غیر تھے عیادت کے لیے ساعت دو ساعت کے لیے آگئے تھے اگر ان کی نشست
کے وقت کچھ اندیشہ تھا تو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھر کون مانع تھا آخر اس قصے کے بعد رسول اللہ
صلے اللہ علیہ وسلم کئی روز زندہ رہے بلکہ غور سے دیکھیے تو درصورتیکہ اس ارشاد کو ارشاد ایجابی
اور امر وجوبی کہیے جیسے شیعوں کا جی چاہتا ہے تو پھر جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعوذ
باللہ اس جرم کے شریک ہوئے کیونکہ جس قدر ہم پر اطاعت خدا و رسول واجب ہے اس سے زیادہ نبی
پر تبلیغ احکام واجب ہے چنانچہ آیت

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	اس پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ حاصل آیت مذکور کا یہ ہے کہ اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور اگر یہ کام نہ کروگے تو پھر تم نے کوئی پیغام بھی خدا کا نہ پہنچایا۔ انتہی

اور ادھر سب سے سنا ہوگا کہ نزدیکاں را بیش بود حیرانی چنانچہ اشارات کلام اللہ و حدیث بھی اس پر
شاہد ہیں تو اب لاجرم یہی کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ احکام اس سے زیادہ
واجب ہے کہ ہم تم پر تعمیل احکام اور ادھر یہ بھی ظاہر ہے کہ تبلیغ جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ احکام کا
بیان بھی کیا جائے اتنی بات کو کہ کاغذ دوات قلم لاؤ میں تمہیں وہ باتیں لکھدوں کہ اگر ان پر عمل کرو
تو گمراہ نہ ہو تبلیغ حکم کہنا اسی کا کام ہے جو برائے نام ہی انسان ہے اور عقل سے محروم اور دانش
سے ناکام ہے الغرض اس صورت میں حضرت عمر سے اگر تقصیر بھی ہوئی تو اتباع نبوی پھر بھی ہاتھ سے
نہیں گیا اگر حضرات شیعہ جناب سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیمات اور اہل بیت کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت اس تقصیر کو نعوذ باللہ منہ تجویز کر سکیں تو ہمیں بھی حضرت عمر کے
اس وورگناہ گاری کا چنداں رنج نہیں اول تو مرگ انبوہ جشنے دارد۔ دوسرے

ع شادم کہ از رقیباں دامن کشاں گذشتے — گو مشت خاک ماہم برباد رفتہ باشد

شیعوں کو یہ خواب کہاں سے آگیا کہ منشا نبوی تحریر مسند خلافت حضرت علی تھا معہذا دوات قلم کاغذ کے منگانے
سے یہ کہاں لازم آگیا کہ فرمان خلافت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ہی تحریر فرماتے ظاہر عبارت
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو تقاضا کرتا ہے کہ دین اسلام کی باتوں کا خلاصہ جو تمام ارکان کی جڑ
ہو تحریر فرماتے یا احکام دین میں سے وہ احکام کہ ان کی تعمیل کو تمام احکام کی تعمیل لازم ہو لکھواتے
چنانچہ آپ کا یہ فرمانا کہ ان پر عمل کروگے تو گمراہ نہ ہوگے اس بات پر گواہ ہے سو کسی ایک کی خلافت
معین کرنے میں یہ بات ظاہر ہے کہ حاصل نہیں ہوتی یوں تاویلیں گھڑنے کو ہر کسی کے منھ میں
زبان ہے اور اگر بتکلف اس مضمون کو حضرت علی کی خلافت کو لازم بھی سمجھتے تو پھر کب تک؟ حضرت
علی کے بعد پھر کچھ نہیں حالانکہ روایت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پھر کبھی گمراہی
پیش ہی نہ آئے گی اور یہ بھی نہ سہی بپاس خاطر شیعہ ہم نے اس پر بھی خاک ڈالی اور اسی کو
تسلیم کیا کہ فرمان خلافت کی تحریر ہی مدنظر تھی لیکن پھر بھی یہ کہاں سے نکل آیا کہ حضرت علی ہی کی
خلافت کی تصریح کے لیے حضرت سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کو یہ اضطراب تھا کہ بدلیل نقلی و
عقلی فرمان خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مرکوز خاطر حضرت سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم تھا نقل
کی بات پوچھتے تو صحاح اہل سنت میں کچھ ایسا موجود ہے کہ حضرت سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم

نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جی میں تھی کہ ابوبکر کے لئے لکھدوں تاکہ کسی تمنا والے کو پھر تمنا باقی نہ رہے مگر نہ خدا کو سوا ابوبکر کے کسی کی خوشی ہے نہ مومنین اُن کے سوا کسی اور کے روادار انتہیٰ۔

فرمان نبی سے خلافت صدیقی کی طرف اشارہ سمجھا جائے تو عین قرین قیاس ہے

غرض اس روایت کا ماحصل اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کہ اگر لکھنے کا ارادہ تھا۔ تو ابوبکر صدیق کے لئے تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے نہ تھا اور عقل سے پوچھتے ہو تو سنئے کہ دستور کے موافق آپ کو غالبا یہ اندیشہ ہوگا کہ حضرت علی کو بوجہ قرابت شاید خیال جانشینی ہو۔ اور اُنکے احباب و اقارب اس باب میں ساعی ہوں تو اس صورت میں حق حقدار یعنی ابوبکر کو نہ پہنچے گا اور اس قسم کا خیال بہ نسبت ابوبکر اہل عقل کے نزدیک متصور نہیں نہ قرینہ ہے نہ احتمال وراثت ہی ہو تو حضرت علی ہی کی نسبت ہو بالجملہ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیچ و تاب تھا اور اس قدر اسکی مدافعت میں اضطراب تھا سو بحمد اللہ بزعم شیعہ آپ کا یہ خیال بھی راست ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ خواستگار خلافت رہے پھر اُس پر آپ کی پیشین گوئی بھی صحیح ہوئی خداتعالی کو اور مومنوں کو سوا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور کوئی پسند ہی نہ آیا القصہ اگر لکھنے کا ارادہ تھا تو حضرت ابوبکر کے لئے تھا حضرت عمر کی شکایت کریں تو صدیقی کریں شیعیان حضرت علی کو کیا کام مگر وہ نقل ہے کہ بھوکے کو دو اور دو چار روٹیاں ہی سمجھ میں آتی ہیں اور بلی کو خواب میں چھیچھڑے ہی نظر پڑتے ہیں کوئی بات کیوں نہ ہو حضرات شیعہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اماموں کی امامت ہی نظر آتی ہے۔ خیر اس جگہ یہ بات اتفاقی تھی مطلب اصلی یہ تھا کہ جملہ وَلَيُمَكِّنَنَّ سے بالاجمال تمام مطاعن خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کا جواب نکلتا ہے اب یہاں بس کیجئے کہ خلافت خلفاء ثلثہ بوجہ احسن اس آیتہ سے ثابت ہوگئی اور ان کا فضل و کمال اور اُنکی بزرگی کما ینبغی اس آیت سے ظاہر ہوگئی ادھر سنیوں کے مذہب کی حقیت اور اُنکی حقانیت اور شیعوں کے خیال و گمان کا بطلان اور اُن کے طریقہ کی مذمت بخوبی روشن ہوگئی۔

خلفاء نعمت خلافت سے اصالۃً نوازے گئے، دوسرے ان کے طفیلی تھے

مگر تنبیہ کے لئے اس قدر اور گذارش ہے کہ اس آیت میں اوّل کلمہ لَهُمْ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں دین پسندیدہ اُنہیں اشخاص کے لئے جمایا جائے گا جو خلیفہ بنائے جائینگے اور یہ نعمت عظمی اولاً بالذات انہیں کو عطا ہوگی جو خلیفہ ہوں گے مقصود اصلی وہی محبوب ہوں گے اور دں کو وہ دولت اگر ملیگی تو انہیں کے تصدق ملیگی مگر استخلاف اور تبدیل خوف میں ان کا اصل الاصول ہونا عام فہم سمجھکر الفاظ موجودہ پر اکتفا فرمایا پر دین کا ایک کے لئے اصلی ہونا اور باقیوں کیلئے اُس کا تصدق ہونا چونکہ ایسا عام فہم نہ تھا کہ شیعہ بھی مان جائیں تو لَيُمَكِّنَنَّ کے بعد لفظ لَهُمْ بھی بڑھایا غرض اُس عہد میں اور بھی گر اُس دین پر ہونگے تو وہ انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہوگا اس سے یہ ثابت ہوا کہ تسلط اہل اسلام اور تمکین دین پسندیدہ اور ازالہ خوف اور تبدیل امن جو کچھ تھا سب کا سب اصل میں انہیں چار یار کے لئے تھا لیکن جیسے کسی امیر کی کوئی دعوت کرتا ہے تو اُس امیر کے اقربا اور اُسکے حشم خدم کی دعوت بھی اُس امیر کے طفیل میں کر دیتا ہے پھر جو امیر مذکور کو کھلاتے پلاتے ہیں اُس کے اقربا اور حشم خدم کو بھی وہی کھلاتے ہیں فرق ہوتا ہے تو اصالت اور تبعیت کا اور اعزاز و اکرام کا ہوتا ہے ایسے ہی یہ نعمت عظمیٰ اور دولت جلیلہ خلافت وغیرہ بھی ہر چند اصل میں انہیں چار یار کے لئے ہیں لیکن انکے طفیل میں اس نعمت عظمی سے تمام اصحاب بہرہ ور ہوئے جو صحابہ کہ کبھی غربا عرب اور فقرا صحابہ میں معدود تھے وہ بھی مناصب حکومت پر مامور ہوتے تھے اور کفار پر تحکم اور حکمرانی تو ہر کسی کو حاصل تھی ادنیٰ ادنیٰ صحابی کا ناز امرا اہل کتاب کو اٹھانا پڑا القصہ نعمت خلافت ہر چند بالاصالت چار یار ہی کے لئے تھی مگر سب ہی اُس میں شریک تھے اور ساری نعمتوں سے جو اس آیتہ میں مندرج ہیں صحابہ اور غیر صحابہ بطفیل خلفاء اربعہ حسب لیاقت بہرہ ور ہوئے اس میں صحابہ کو بمنزلہ اقربا سمجھئے اور اُن میں بھی ان کو جو وقت نزول اس آیتہ کے مشرف باسلام و ایمان ہو لئے تھے زیادہ تر قریب سمجھئے پھر مہاجرین اولین

کو سب سے اقرب بلکہ بمنزلہ حقیقی بھائیوں کے مقرر رکھئے اور تابعین کو بجائے اتباع اور غلام کے تصور کیجئے اس صورت میں یہ نعمت گو سب میں مشترک ہو گی لیکن اعزاز واکرام میں درجہ بدرجہ فرق ہوگا۔

وَمَنْ كَفَرَ سے شیعہ کے کفران نعمت کی طرف اشارہ ہے جو اعجاز قرآنی ہے

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خویش واقارب اگر بطفیل امیر کے نعمت سے کامیاب ہوتے ہیں تو امیر کچھ ان سے خواستگار شکرگذاری یا طالب خدمت گاری نہیں ہوتا ہاں غلام اور خدام اور زلہ برداروں کی طرف البتہ جو یہ نظر رہتی ہے سو اُن میں سے قدرشناس اور عاقل اور سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ خدمت گذاری اور شکرگذاری سے پیش آتے ہیں او نجبد اصل اور ناقدر ہوتے ہیں وہ شکرگذاری تو درکنار الٹے اپنے آقائے نعمت اور وسیلہ راحت کی جڑ کاٹنے کے درپے ہوتے ہیں۔

سو اس نعمت عظمٰی خلافت کا حال بھی یہی ہوا کہ ہرچند خلفاء اربعہ کے صدقہ میں اس زمانہ تک کے اہل اسلام کامیاب ہیں جس قدر دین کو وسعت اور شوکت ہوئی یا اب ہے حقیقت میں سب انہیں کی خلافت کا پھول پھل ہے لیکن صحابہ کے زمانہ سے لیکر آجتک جیسے اس نعمت کے شکرگذار ہیں ویسے ہی اس زمانہ سے لیکر آجتک کافر نعمت بھی برابر چلے آتے ہیں مگر چونکہ علم الٰہی تو وقائع گذشتہ اور وقائع آئندہ کو برابر محیط ہے تو بطور اخبار بالغیب کے اُن کافران نعمت کی طرف بھی اشارہ کرنا ضرور پڑا تاکہ خلفاء اربعہ کی بزرگی اور ان کے اعداء کی برائی قرار واقعی ثابت ہو جائے اور اُن کا اور انکے اعداء کے مرتبہ کا حال سب کو بخوبی واضح ہو جائے اسی واسطے بعد اتمام وعدہ اور بیان حال خلفاء اور صحابہ کے جو آگے ہونے والا تھا انسا اور ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ یعنی جو کہ طفیلی اور تابع خلفا کے اس نعمت میں ہوں اور پھر حق نعمت نہ پہنچائیں اور خدمت گاری اور اطاعت فرمان تو درکنار زبان سے شکرگذار تک نہ ہوں بلکہ الٹے بدی سے پیش آئیں تو وہ اصل فاسق ہیں کہ کوئی فاسق ان کے برابر نہیں اور یہ تو خود ظاہر ہے کہ اس آخر آیتہ کے مصداق بجز شیعہ اور نواصب اور خوارج

اور قاتل خلیفہ ثانی اور قاتلان خلیفہ ثالث اور قاتل حضرات امیر رضی اللہ عنہم کے اور کوئی معلوم نہیں ہوتا مگر چونکہ شیعی ان کے دشمن ہیں جو اس نعمت کے حق میں اصل اصول ہیں تو اس فسق میں جو اس ناشکری کا ثمرہ ہے سب میں پیشرو ہوں گے اگرچہ کسی اور وجہ سے وہ دو فرقے اوروں سے بڑھ جائیں۔

اور امیر معاویہ اور بعضے اور صحابہ گو مخالف حضرت امیر رضی اللہ عنہ رہے لیکن ان کا بگڑنا ایسا تھا جیسا بھائیوں کا بگڑنا کیونکہ وہ اور چار یار اس نعمت خلافت میں بمنزلہ امیر اور غریب بھائیوں کے ہیں کہ باوجودیکہ سب اپنے امیر بھائی کے طفیلی ہوتے ہیں پھر اس سے بگڑتے رہتے ہیں غرض شکررنجی برادرانہ کو ہرچند ایک دوسرے کا طفیلی ہو کفر نعمت نہیں سمجھا جاتا اس کو عرف میں ناز کہتے ہیں اسی واسطے اگر ایک بھائی کو دنیا میں ثروت ہو جاتی ہے اور اس کے اور بھائیوں کو اس کے طفیل سے ہمچشموں میں عزت اور گونہ ثروت حاصل ہو جائے تو خوبی اُسی کی سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی جس کے سبب طفیلی ہوتے ہیں اپنے اور بھائیوں سے منت اور سماجت پیش آیا کرے نہ کہ غرور اور تکبر کیا کرے بلکہ اُس کے بھائی اگر اُلٹے تحکم کریں تو سب سہے اور مدارات سے پیش آئے اور مکافات کے درپے نہو اور نہ ان سے انتقام لے بلکہ اگر کوئی شخص اس کے متوسلوں میں سے ان سے کسی قسم کی پرخاش کرے تو یہ سمجھا دے کہ میرے بھائی ہرچند مجھ سے منحرف ہیں پھر بھائی ہیں اور تم ہرچند دوست ہو پھر غیر ہو۔

القصہ حق شناسوں کا دستور یہی ہے کہ باہم کی شکررنجیوں کی وجہ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ غیر (خاص کر اپنے نوکر غلام) اُنکو ایذا پہونچائیں بلکہ خدا اگر کچھ لیاقت دین یا دنیا کی دیتا ہے تو اسکی جفا اُٹھاتے ہیں اور زبان پر نہیں لاتے بلکہ الٹے احسان کیا کرتے ہیں ہاں اگر اپنا نوکر یا غلام اُن کی اہانت یا ایذا کے درپے ہوتا ہے تو اسکو البتہ سزا دیا کرتے ہیں۔

شیعوں کا شیوۂ تبرا بازی امیر کی اتباع سے نکال کر ان کا قدم امیر معاویہ کی تقلید پر جما ہے

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ اصحاب امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں تو آپ نے اپنے لشکریوں کو انکی لعن کرنے سے منع فرمایا چنانچہ شیعوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے افسوس کہ شیعوں نے امیر معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرا اپنا شیوہ بنایا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا اتباع نہ کیا کہ کسی کو برا نکہیں مگر ان کے کہاں نصیب جو حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اتباع اختیار کریں، اس نعمت کے لائق سنی ہی تھے ؎

شہپر زاغ و زغن زیبائے صید و قید نیست ؞ ایں کرامت ہمرہ شہباز و شاہین کردہ اند

سبحان اللہ کیا کلام معجز نظام ہے کہ کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا صحابہ سے وعدہ کیا اور ان کے فضائل اشارت اور نیز صراحت سے بیان کر کے منکران صحابہ کی جدا خبر لی پھر وہ بھی کچھ ایسی طرح کہ دشمنان صحابہ پر سر سے لے کر پاؤں تک برابر مطابق آئے۔

الفاظ آیت تحفظ فضیلت صحابہ کے لئے سنگین حصار کھینچتے ہیں

ہاں اگر یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیْئًا نہ ہوتا یا وَمَنْ کَفَرَ کے پیچھے لفظ بَعْدَ ذٰلِکَ نہ ہوتا تو بظاہر تاویل کی گنجائش رہتی کہہ سکتے کہ صحابہ بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے عقیدہ کے موافق مرتد ہو گئے تھے وَمَنْ کَفَرَ سے وہی مراد ہیں اور کفر سے کفر حقیقی مقصود ہے کفران نعمت مراد نہیں مگر خدا سے کہیں کوئی بات رہ سکے ہے اہل فہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ ایسا ایمان اور عمل صالح جو خداوند کریم کو بھی پسند آئے اور اس کے امتحان میں عمدہ نکلے یہاں تک کہ اس پر انعام ہے مبدل بکفر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایسا ایمان اور عمل صالح بجز ان لوگوں کے میسر نہیں آتا جن کے حق میں شیطان تو یوں کہے اِلَّا عِبَادَکَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِیْنَ یعنی اے خدا میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوا تیرے چھٹے ہوئے بندوں کے اور خداوند کریم کا یوں ارشاد ہو اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ یعنی اے ابلیس میرے جو کامل اور چھٹے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں بلکہ کلام اللہ سے تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ مخلصین یعنی چھٹے ہوئے مومنوں کا گناہوں سے محفوظ ہونا یا معصوم ہونا لازم ہے کیونکہ آیہ لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ میں حضرت

یوسف علیہ السلام کے گناہوں سے بچا دینے اور بچے رہنے کی وجہ یہی فرمائی کہ وہ مخلصین میں سے تھے پھر جب خلفاء اربعہ جن کا مخلصین میں سے ہونا ابھی مرقوم ہوا محفوظ یا معصوم ہوئے تو مصداق وَمَنْ کَفَرَ کیونکر ہو سکیں گے۔

اس کے بعد جو لوگ کچھ قلیل مایۂ فہم رکھتے ہیں ان کے لئے وَلَیُمَکِّنَنَّ لَھُمْ دِیْنَھُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَھُمْ بڑھایا۔ تا کہ صحابہ کی نسبت اپنی زبان و دل کو آلودۂ گستاخی نہ کریں اور اس طرح اپنے دین و ایمان کو برباد نہ کریں اور ان کی لعنت کی سزا میں ہماری لعنت کے مستحق نہوں لیکن اغبیاء اور جہال کے سمجھانے کے لئے بھی کوئی بات ضرور چاہیئے تھی اسلئے جملہ یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیْئًا زیادہ فرمایا تا کہ احتمال ارتداد بھی باقی نہ رہے اور بسبب اپنی تیرہ دردنی اور کم فہمی کے اپنی ہجو کو جو وَمَنْ کَفَرَ سے شروع ہے صحابہ کے اوپر مطابق نہ کرنے لگیں واقعی یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیْئًا نے احتمال ارتداد کو جو بطور فرض محال پیش آتا تھا بیخ و بنیاد سے اکھاڑ دیا کیونکہ اس میں ان کے آخر حال تک کی خبر دیدی، سو جو کچھ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وہ سب خلفاء اربعہ میں بوجہ اتم ظہور میں آیا۔ یہاں تک کہ شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خلفاء ثلثہ خصوصاً حضرت عمر ظاہر شریعت کی پاسداری اور ترویج دین اور زہد و تقویٰ کی رعایت بہت کرتے تھے چنانچہ شریف مرتضیٰ نے تنزیہ الانبیاء والائمہ میں بلکہ اور علماء نے بھی اس بات کو واضح لکھا ہے اگرچہ اپنی بدی سے باز نہیں آئے اور موافق مثل مشہور المرء یقیس علی نفسہ کے وجہ اس کی یہ تراشی ہے کہ یہ سب لوگوں کے دکھانے کو تھا لیکن جملہ یَعْبُدُوْنَنِیْ اور نیز اس جملہ کا ماقبل جب ان کے اخلاص پر دلالت کرے تو پھر موافق مثل مشہور الرافضی نوارہ لعنت اندمی خیز دو بر دمی ریزد یہ رسوائی اور بدگوئی انہیں کے سر رہے گی۔

خلفائے ثلثہ پر ارتداد کی تہمت خداتعالیٰ پر دروغ گوئی کی تہمت ہے

معہذا لفظ بَعْدَ ذٰلِکَ نے امامیہ کے مونہہ کو بالکل سیاہ ہی کر دیا ہے کیونکہ اگر بالفرض بغرض محال خلفاء ثلثہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتد بھی ہوئے تو نعوذ باللہ خدا نے اتنا بھی نہ سمجھا جتنے شیعہ سمجھے چاہیئے تھا وَمَنْ کَفَرَ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا اور کہدیا وَمَنْ کَفَرَ

بَعْدَ ذٰلِكَ جس سے دروغ گوئی کی تہمت اپنے ذمہ لگی اور اگر وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ بجائے خود ہے تو شیعوں کے مفید مطلب نہیں بلکہ مضر ہے کیونکہ اگر وَمَنْ كَفَرَ سے اصحاب ثلثہ ہی مثلاً مراد ہیں تو ان کا کفر بعد اتمام نعمت موعودہ ہونا چاہیئے تو اس صورت میں انکار امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو شیعوں کے نزدیک بمجرد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم صحابہ خصوصاً خلفاء ثلثہ سے ظہور میں آیا کفر لازم نہ آوے سو اول تو یہ شیخ چلی کا گھر بنا بنایا ڈھ جائیگا کہ انکار امامت اور انکار رسالت دونوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے دوسرے خلفاء ثلثہ کے استحقاق خلافت کے انکار سے جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے خود کافر بننا پڑیگا خیر اس صورت میں ہمیں بھی شکایت نہیں ؎

شادم کہ از رقیباں دامن کشاں گذشتے ٭ گو مشت خاک ما ہم برباد رفتہ باشد

وَمَنْ كَفَرَ کے اصلی مصداق بالجملہ صحیح یہی ہے اور صحیح کیوں نہو، سیاق یہی کہتا ہے۔ کہ مصداق وَمَنْ كَفَرَ اعداء خلفاء ہیں خلفاء نہیں ہوسکتے اور کفر سے کفران نعمت مراد ہے کفر حقیقی نہیں گو تبکلف بن سکے کیونکہ اسوقت مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو شخص ایسی ایسی امدادیں خدا کی طرف سے بنسبت دین محمدی کے دیکھے اور پھر بھی کفر ہی اختیار کرے تو وہ اصلی فاسق ہے لیکن نعمت کے مقابلہ میں کفران نعمت ہی ہوا کرتا ہے کفر حقیقی کا موقع نہیں ہوتا غرض صحیح یہی ہے کہ مَنْ كَفَرَ کے مصداق اعداء خلفاء ہیں لیکن ہم نے رعایت کی تھی کہ کفران نعمت مراد رکھا وہ اس کمی سے ناخوش ہیں تو اس گھاٹے کو پورا کرلیں اور اپنے آپ کو کافر حقیقی ہی سمجھیں ع رضا و ما ہمہ آنست کان رضا شماست ٭

بَابُ

مناقب صحابہ بدلیل تفسیرات آیۂ محمد رسول اللہ

یہاں پہونچکر شاید بعضے شیعہ مذہب یوں حجت کریں کہ ہم نے مانا اصحاب ثلثہ خلیفہ برحق اور اپنے اپنے زمانہ میں افضل الناس تھے لیکن بعد ان کے جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو اسوقت موافق اشارات آیۂ وعد اللہ الخ کے وہ افضل الناس اور خلیفہ برحق ہوں چنانچہ اس بات کے سنی بھی معتقد ہیں تو اس صورت میں

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اُن کے مخالفین کیوں کر مقبولان بارگاہ الٰہی ہوں حالانکہ اہل سنت سب صحابہ کے خواہ انہوں نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی یا نہ کی معتقد ہیں خصوصاً طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ کو تو بشر بالجنۃ بھی جانتے ہیں اس لئے لازم پڑا کہ کلام اللہ کی شہادت ان بزرگواروں کے لئے ادا کی جائے اور منشاء غلطی حضرات شیعہ کا بیان کیا جائے سورۂ فتح میں خداوند کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باب میں یوں ارشاد فرماتا ہے

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ۔

حاصل اس آیۃ کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں ساحر کاہن نہیں اور انکے ہمراہی کافروں پر تو بڑے تیز و تند اور ایکدوسرے کے ساتھ نرم اور ایک دوسرے کے دوست تو انہیں دیکھے تو رکوع میں جھکے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی سے غرض ہے ان کے چہروں میں علامتیں موجود ہیں سجدہ کے اثر سے۔

اس امت میں حضورؐ کے بعد صحابہ کا درجہ ہے اور رسالت کے بعد بغض فی اللہ کا۔ یہاں تک آیۃ کے معنوں کا بیان تھا اب اس ہیچمدان کی سنئے کہ اول جناب باری تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی بعد میں اصحاب کی تو قرینہ عقلیہ سے معلوم ہوا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت میں اصحاب کا رتبہ ہے علیٰ ہذا القیاس جو وصف کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہوگا اس کے بعد اس وصف کا رتبہ ہوگا جو صحابہ کی مدح میں بیان ہوا ہوگا مگر ہم نے جو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں رسول اللہ کا لفظ ہے اور اصحاب کی مدح میں اشداء علی الکفار رحماء بینهم تو اس لف ونشر سے معلوم ہوا کہ بعد رسالت کے رتبہ بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کا ہے کیونکہ بغض فی اللہ یعنی خدا کے سبب کسی سے 11

عداوت کرنی یہ بعینہ وہی شدت علی الکفار ہے اور حب فی اللہ بعینہ رحماء بینہم کا ترجمہ ہے اس اشارہ سے زیادہ تر تصدیق اس حدیث کی ہوگئی جو سنیوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ جس شخص نے خدا واسطے دیا اور خدا واسطے کسی سے ہاتھ کو کھینچ لیا اور خدا واسطے کسی سے محبت اور خدا واسطے کسی سے بغض رکھا تو بیشک اس نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا واقعی سنیوں کی حدیثیں سب کلام اللہ پر مطابق آتی ہیں پر شیعوں کی حدیثوں کا حال یہ ہے کہ کلام اللہ کچھ کہتا ہے اور ان کی حدیثیں کچھ ایک دو حدیثیں جو بیان کی گئیں انکا حال ناظرین رسالہ ہذا پر پوشیدہ نہ رہے گا۔

صحابہ کی منقبت میں اشداء علی الکفار کو باقی اوصاف پر مقدم کرنیکی حکمت | یہاں ایک لطیفہ قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں جہاں کہیں حب فی اللہ بغض فی اللہ کا بیان آیا ہے تو حب فی اللہ کو مقدم کیا ہے اور کلام اللہ میں بغض فی اللہ پر جو لفظ دلالت کرتا ہے یعنی اشداء علی الکفار اسے مقدم بیان کیا حکمت اس میں کیا ہے؟ اس کم فہم کے فہم میں یوں آتا ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ دونوں آثار کمال محبت خداوندی میں سے ہیں یعنی جب کسی کو خداوند کریم سے محبت کمال درجہ کی ہوگی تو وہ محبت چاروں طرف کو پھیلے گی جہاں جہاں خدا کے ساتھ کسی چیز کو کچھ خصوصیت ہوگی تو اس خصوصیت ہی کے موافق اس چیز سے بھی محبت ہوگی۔

محبوب کے متعلقین کی محبت محبوب ہی کی محبت ہے۔ | مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی آدم میں سے خدا کے ساتھ زیادہ علاقہ اور اختصاص ہے تو جس شخص کو خدا کے ساتھ محبت کامل ہوگی اور اس علاقہ کو سمجھے گا تو بیشک اس کو بعد خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت ہوگی علی ہذا القیاس جسکو بعد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے خدا سے زیادہ اختصاص ہوگا تو محب خداوندی کو بھی اس سے اسی قدر محبت ہوگی علی ہذا القیاس مکانات میں مثلاً خانہ کعبہ کو زیادہ تر اختصاص ہے تو محب خداوندی کو بیشک سب مکانات سے زیادہ خانہ کعبہ سے محبت ہوگی پھر اس کے بعد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کا رتبہ ہے اسکے بعد بیت المقدس کا تو اس شخص کو بھی علی حسب المراتب محبت ہوگی اسیطرح اعمال اور اخلاق اور عادات میں خیال کرلو الغرض جتنا کسی چیز کو جناب باری سے قرب ہوگا اتنا ہی محبان خداوندی کو اس چیز سے علاقہ ہوگا۔

متعلقین محبوب کی محبت محبوب کی محبت کا جزو ہے | مثلاً ظاہر کی محبت میں ظاہر ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہوجاتی ہے تو اس کے اقربا اور خیر خواہوں بلکہ کوچہ کے رہنے والونکے ساتھ بھی محبت ہوجاتی ہے سو جیسے روشندانوں میں گو دھوپ بمقدار روشندان کے آتی ہے ایسے ہی محبت بھی بمقدار علاقہ محبوب متعلقان محبوب سے پیدا ہوجاتی ہے مگر جیسے جو دھوپ باہر ہوتی ہے اسی کا ٹکڑا اندر ہوتا ہے اور جو نور خارج از دیوار ہے اسی نور کا شعبہ اندر ہے ایسے ہی متعلقوں کی محبت بھی محبوب ہی کی محبت کا شعبہ ہوتا ہے اور اسی کا ٹکڑا اسکو سمجھنا چاہیے۔

بدخواہان محبوب کی دشمنی محبت کا جزو نہیں اسکا لازم ہے | بخلاف بدخواہان محبوب کی عداوت کے کہ وہ محبوب کی محبت کو لازم ہوتی ہے اس کا ٹکڑا اور اس کا شعبہ نہیں ہوتی یعنی جو لوگ کہ محبوب کے بدخواہ ہوتے ہیں ان سے بتقاضا محبت محبوب عداوت ہونی لازم ہے مگر یہ عداوت محبوب کی محبت کا ٹکڑا اور اس کا شعبہ بلکہ ہمجنس تک نہیں ہاں اسکو لازم ہے جیسے دھوپ کو بشرطیکہ دیوار وغیرہ کوئی شے نور کے روکنے والی حائل ہو سایہ لازم ہے حالانکہ اس کے ہمجنس تک نہیں اس قیاس پر جو لوگ اعداء خدا ہوں گے محبان خداوندی کو ان سے عداوت لازم ہوگی لیکن بہرحال یہ عداوت غیر محبت ہے اگرچہ اسکو لازم ہے ہاں اولیاء خدا اور مقربان الٰہی کی محبت وہ حقیقت میں خدا ہی کی محبت کا ٹکڑا ہے کوئی غیر شے نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی مدح اور ثنا بیان فرمائی وہاں تو مقدم کو مقدم رکھا موخر کو موخر اور خداوند کریم حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی تعریف نہیں فرماتے بلکہ اُن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جن میں یہ وصف پائے جاتے ہیں

کسی کی مدح میں پہلے ہلکی پھر بڑھیا پھر اور بڑھیا خوبی بیان کرنا صحیح ترتیب ہے

اور دستور یوں ہے کہ کسی صاحب کمال یا موصوف باوصاف مختلفہ کی اگر تعریف کیا کرتے ہیں تو اُس کے کمالات میں سے کمتر کو پہلے لیا کرتے ہیں بعد میں اس سے زیادہ کو پھر بعد میں اس سے زیادہ کو تا ہر وصف کی قدر اور عزت ہو ورنہ اگر ترتیب کو بالعکس کر دیجئے تو بعد عمدہ اوصاف کے سن لینے کے کمتر اوصاف کیا قدر رہ جائے گی جو محل تعریف میں بیان کیا جائے غرض یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ اوصاف کی خوبی اور برائی تو اصلی ہے اور اوصاف والوں کی بھلائی بُرائی اوصاف کے سبب سے ہے درصورتیکہ اوصاف کی بھلائی بُرائی بیان کی جائے تو اول کو اول بیان کیا جائے اور دوم کو دوم اور درصورتیکہ اوصاف والے کی بھلائی بُرائی مدنظر ہو اور اُس شخص کے اوصاف بہ ترتیب ذکر کئے جائیں تو ترتیب مذکور کو منعکس کر دینا چاہیئے ہاں جہاں دو چیز کا فرق مراتب باعتبار مجموعۂ اوصاف کے دریافت کیا جائے یعنی کس میں زیادہ اوصاف ہیں اور کس میں کم اور کس میں عمدہ تر ہیں اور کس میں نہیں تو یہ حقیقت میں اوصاف ہی کی تعریف ہے اس لئے انکی ترتیب وہی ہوگی جو اوصاف کی ترتیب ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول ذکر کیا بعد میں صحابہ کا مذکور شروع کیا القصہ صحابہ کی تعریف میں ادنیٰ وصف جو بیان کیا گیا ہے تو اشداء علی الکفار ہے یعنی وہ کافروں پر بڑے ہی تیز و تند ہیں۔

محبت کرنا آسان ہے اور دشمنی دشوار خصوصاً اقربا سے

اور چونکہ محبت کرنا آسان ہے کیونکہ طبعی بات انسان کی یہ ہے کہ جب کوئی اس سے محبت کرے تو یہ بھی اسکی طرف مائل ہو تو اس صورت میں خدا واسطے کی محبت سے ایمان خوب نہیں پرکھا جاتا ہاں عداوت کرنی البتہ دشوار ہے کہ عداوت کے ثمرہ میں دوسرا بھی عداوت ہی سے پیش آئے گا محبت تو کر معلوم ہوا اگر کسی کو خدا واسطے کسی سے بغض ہو تو یہ نشان کمال ایمان ہی سمجھا جائے گا خاصکر خدا واسطے کی عداوت بھی اقربا سے کہ یہ دشوار در دشوار ہے سو درصورتیکہ مطلق عداوت نشان کمال ہو تو اقربا کی عداوت تو نشان اکملیت

سمجھنا چاہیئے۔

اور ہم جو قرینہ مقام کو لحاظ کرتے ہیں تو محل اقربا ہی کی عداوت کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ماسبق کی آیۃ یعنی لَقَدْ صَدَقَ اللّٰہُ رَسُوْلَہُ الرُّءْیَا صحابہ کرام کی تسلی اور تسکین خاطر کے لئے نازل ہوئی ہے سو جس غم کے سبب تسلی کی جاتی ہے وہ غم یہی تھا کہ غزوہ حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ معظمہ سے صلح کرکے مراجعت فرمائی اور صحابہ کی آرزوئیں خاص کر مہاجرین کی جو در باب جہاد کفار سینوں میں لبریز تھیں دلوں کی دلوں میں رہ گئیں اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں اس سفر کے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم جمیع جماعت امن چین سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور اس خواب کے باعث باین خیال کہ اسی سال میں ہم مکہ میں داخل ہوں گے صحابہ کے دل میں یہ سرور بھرے ہوئے تھے کہ کچھ کہا نہیں جاتا وہ سب کا سب حسرت و غم سے بدل گیا اس وقت صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوتی تو آب تیغ صحابہ کفار مکہ کو غرقاب فنا کر دیتی پاس قرابت کس کا اور شفقت نسبی کجا وہی مہاجرین جو مکہ والوں میں سے کسی کے بھتیجے تھے فقط جوش محبت خداوندی اور نیازمندی رسولؐ میں انہیں اپنے اقربا کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے اور آیۃ ماسبق اور آیۃ محمد رسول اللہ الخ سب باہم چسپیدگی میں دست و گریباں ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو یوں تو ہر کافر دشمن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب آتا تھا لیکن اس آیۃ میں زیادہ تر اسی غیظ و غضب کی طرف اشارہ ہے جو انکو کفار مکہ پر اس قصہ میں پیش آیا سو ان میں سے مہاجرین انہیں کفار کے اقربا میں سے تھے تو انکے حق میں لفظ اشداء علی الکفار نشان اکملیت ایمان کا سمجھنا چاہیئے اور درصورتیکہ ادنیٰ وصف ان کا اسبات پر گواہی دیتا ہے کہ انکا ایمان کامل تو کیا اکمل ہے تو اعلیٰ اوصاف تو اعلیٰ ہیں اور چونکہ مومنان کامل الایمان گنے چنے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ایسی سہل بات نہیں کہ دخل در معقولات کی طرح ہر کوئی کمال ایمان حاصل کرے۔

صحابہ بشہادت کتاب اللہ نفس وشیطان پر بھی اشد تھے لہٰذا ان کی گمراہی کا خیال بھی گمراہی ہے۔

معہذا قرینہ اس بات کا کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر فرمایا پھر صحابہ کا اثبات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اس امت میں اول نمبر ہے اور صحابہ کا دوم تو ہم بالیقین سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اول قسم کے مخلصین میں سے تھے کہ شیطان بھی اُنکے اغواء سے کانوں پر ہاتھ دہرتا تھا بلکہ یہاں نظر کہ شیطان راس ورئیس کفار ہے اور صحابہ اشداء علی الکفار ہیں تو شیطان پر اور بھی اشد ہونگے علی ہذا القیاس نفس اعدا دین میں سے بلکہ سب میں بڑھ کر ہے۔ شیطان بھی اُسی کے سہارے اپنا کام کرے ہے وہ اگر نہ مانے تو شیطان کیا کرے بہرحال نفس وشیطان سے اُنکی عداوت اور بھی زیادہ ہوگی اور ان دونوں پر وہ اور بھی اشد ہونگے کیونکہ لبغض فی اللہ یعنی خدا کے دشمنوں سے عداوت بقدر دشمنی ہوتی ہے جتنی دشمنوں کی دشمنی زیادہ اتنا ہی لبغض فی اللہ زیادہ سو اور مخلصین پر شیطان کا فقط بس نہ چلتا تھا مگر کچھ اندیشہ بھی نہ تھا صحابہ سے اسکی کور بھی دبتی تھی عجب نہیں کہ اُن سے بھاگتا پھرتا ہو۔

سو یہی وجہ ہوگی کہ حضرت عمر کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا تھا۔ کیوں کہ وہ سب صحابہ میں کافروں کے باب میں زہر قاتل تھے ان کے حق میں اشداء علی الکفار ہونا سب میں زیادہ صادق آتا تھا بھلا شیطان جن سے خود بھاگے انہیں کیا گمراہ کرے گا شیطان کو ایسی جگہہ اپنی ہی پڑجاتی ہے اور نفس جن سے دبے وہ کس سے دبیں گے آدمی .. اور دں سے جو دبتا ہے تو اس نفس ہی کے پتے دیتا ہے اسی واسطے یہ لازم پڑا کہ ایسے لوگوں کی عبادات میں کچھ فرق نہ پڑے اعمال میں کسی قسم کا رلاؤ ریا وغیرہ کا نہ ہو کیونکہ ان سب بیماریوں کی جڑ یہی دو آسیب تھے جب یہی قابو میں آگئے پھر کیا کسر باقی رہ گئی۔

نفس وشیطان کی آمیزش بغیر غلط فہمی سے کوئی غلطی ہو تو امید ثواب ہے۔

ایسے وقت اگر برا کام ہوتا ہے تو فقط بسبب غلط فہمی کے ہوتا ہے اس لئے اس میں بھی ثواب ملنا چاہیے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے جو سر کے

بال غصے میں پکڑ کر کھینچے حالانکہ حضرت ہارون کی کچھ تقصیر نہ تھی ہرگز عقل سلیم کے نزدیک داخل جرائم نہیں یہ نہیں کہ اس پر کسی قسم کا مواخذہ ہو بلکہ امید ثواب ہے کیونکہ باعث اس کا فقط خدا کی محبت اور لبغض فی اللہ ہوا اور چونکہ یہ دونوں اوصاف محمودہ میں سے ہیں بلکہ اعلیٰ اقسام میں سے اور ادہر اعمال کا مدار سے پر فقط صورت پر نہیں ورنہ سب کی نمازوں کا برابر ہی ثواب ہوتا تو ہم کو یقین کامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پر ثواب ملے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بعد اطلاع غلطی کی بوجہ غلطی ندامت ہونی ضرور ہے سو اس ندامت سے یہ نہیں لازم کہ وہ کام ایسا بُرا ہو کہ انکو اس پر عذاب ہو بلکہ وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ کام تو حقیقت میں برا ہوتا ہے پر نیت کے غلبہ سے اچھا ہو جاتا ہے جیسے دھول دھپہ اصل سے برا ہوتا ہے لیکن یاران غمگسار کا دھول دھپہ بھی بسبب اس کے کہ از راہ محبت ہوتا ہے موجب نشاط خاطر محزون ہوتا ہے۔

مشاجرات صحابہ کا باعث نفس وشیطان نہیں بلکہ لبغض فی اللہ تھا

الغرض صحابہ کرام کے سامنے جب نفس وشیطان مغلوب ہوئے تو اسوقت اگر کوئی کار بے موقع انسے صادر ہوا ہو تو بوجہ غلط فہمی صادر ہوا ہو گا اس صورت میں گو وہ کام برا تھا لیکن چونکہ بری طرح سے نہیں ہوا اور شیطان ونفس کو جو برے کاموں کی اصل اور بنیاد باندھنے والے ہیں اس میں دخل نہیں ملا بلکہ قوت ایمانی ہی باعث اس کا ہوئی ہے تو اب بوجہ غلبہ نیت اور قوت ایمانی ان کاموں کی برائی ایسی مغلوب ہوگئی ہے جیسے ماشہ دو ماشہ برابر میٹھے یا نمک کا اثر کنوئیں یا دریا میں۔

سو جیسے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون پر غصہ ہونے اور انکے بال پکڑ کر کھینچنے کا باعث فقط لبغض فی اللہ تھا ایسے ہی مشاجرات صحابہ بھی لبغض فی اللہ پر مبنی ہوں لیکن جیسے حضرت موسیٰ سے یہ غلطی ہوئی کہ اُس لبغض فی اللہ کو بے موقع صرف کر دیا ایسے ہی صحابہ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہو کہ جوش لبغض فی اللہ میں مثلاً چوک گئے اور بگاڑ بیٹھے اور حقیقت الامر کو نہ سمجھے تو اس صورت میں ان پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ ماجور ہوں گے ہاں اگر لبغض فی اللہ یا کوئی اور صنف محمود باعث اس کا نعل کا نہیں ہوا کہ بلکہ کوئی ایسا

امر ہے کہ اس پر ثواب نہیں ہو سکتا فقط ان قسم کے افعال مباح ہوتے ہیں تو البتہ ثواب تو مترتب نہ ہوگا لیکن بسبب غلط فہمی کے ماخوذ بھی نہ ہوں گے۔

نفس دب سکتا ہے لیکن اسکا مزاج نہیں بدل سکتا | اور احتمال یہ بھی ہے کہ گہرہ بیگاہ اقل قلیل بمقتضائے بشریت کوئی حرکت ناشائستہ صادر ہوئے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہرچند شیطان کو مخلصین پر قابو نہیں رہتا اور نفس بھی مغلوب اور مقہور ہو کر ان کا اس طرح مطیع فرمان ہو لیتا ہے جیسے ہاتھی باوجود اس عداوت کے کہ اسکو آدمیوں سے ہے مغلوب اور مقہور ہو کر آدمیوں کی ہر طرح سے اطاعت کرتا ہے لیکن جیسے ہاتھی پھر ہاتھی ہے آدمیوں کے غلبہ سے آدمی نہیں بن گیا کبھی نہ کبھی اپنی عادات اصلی پر آجاتا ہے ایسے ہی نفس کو غلبۂ ایمان اور وصولت محبت الٰہی کے باعث مقہور اور مغلوب ہو گیا ہے لیکن پھر نفس ہے وہ طبع زاد برائی اور گناہوں کی رغبت کہاں جائے۔

نیکی کی اصل روح اور بدی کی اصل نفس ہے۔ | تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جیسے بدن چاروں قسم کی کیفیات یعنی حرارت برودت یبوست رطوبت کے پائے جانے سے یہ دریافت ہوا ہے کہ بیشک بدن ان چاروں کیفیات کی اصلوں سے یعنی آگ ہوا پانی خاک سے مرکب ہے ایسے ہی بلحاظ اس بات کے کہ آدمی کے دل میں کبھی نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے کبھی بدی کی جانب یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت ان دونوں کی اصلوں سے مرکب ہے لیکن جیسے اربع عناصر میں سے ہر ایک میں ایک کیفیت خاص ہے کہ اس کے مخالف اس میں نہیں پائی جاتی اور اگر پائی بھی جائے تو عارضی ہوتی ہے جیسے پانی کا گرم ہو جانا ایسے ہی نیکی اور بدی کی اصل میں بھی ان دونوں میں سے ایک ایک ہونی چاہئے اور دوسری آجائے تو وہ عارضی ہے جب یہ بات مسلم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کی اصل کا نام ہم روح کہتے ہیں اور بدی کی اصل کا نام نفس اور روح میں کیفیت اصلی نیکی ہوگی مغلوب ہو کر اگر بدی اس سے صادر ہو تو وہ عارضی ہے اور نفس کی اصلی خاصیت بدی ہوگی اور مغلوب ہو کر نیکی کرنے لگے تو وہ عارضی سمجھی جائے گی۔

اِنسان میں نیکی و بدی کے مختلف دو ملائکہ اور شیاطین کی تقویت و تاثیر سے ہوتے ہیں | پھر جیسے بدن کے اربع عناصر میں ہر ایک کو اس کے ہمجنس سے تقویت ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح اور نفس کو بھی اپنے اپنے ہمجنس سے یعنی ملائکہ اور شیاطین سے تقویت ہوتی ہے چنانچہ بعض احادیث بھی اس پر شاہد ہیں اور بزور عقل بھی ہم یوں ہی یقین کرتے ہیں کہ اوقات مختلفہ میں یہ نیکی اور بدی کے خیال کا غلبہ بوجہ ملائکہ یا بوجہ شیاطین ہوتا ہو ورنہ جو انداز طبع زاد تھا وہی رہتا غرض طبعی کیفیت اگر جاتی ہے تو کسی خارجی شے کے غلبہ سے جاتی ہے سو نیکی کے خیال کا غلبہ بظاہر سلمان بجز اعانت ملائکہ متصور نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس مسی کی جانب توجہ کی زیادتی بجز تاثیر شیاطین معقول نہیں۔

شرح عالم ملائکہ کی ایک چیز ہے اور نفس طبقہ شیاطین میں سے ہے | اس جگہ سے ہم یوں قیاس کرتے ہیں کہ جیسے حرارت غریزی کے وسیلے سے ہم یوں دریافت کرتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں ایک جزو ناری بھی ہے اور پھر اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس کی اصل کرہ ناری ہے خدا نے اپنے زور قدرت سے اسے یہاں لاکر قید کر دیا ہے ایسے ہی نیکی کے ارادہ کے وسیلے سے اول تو ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ آدمی میں کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ اس کی اصلی خاصیت نیکی ہے اور دوبارہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل طبقہ ملائکہ ہے جن کی شان میں خداوند کریم یوں ارشاد فرماتا ہے لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَآ اَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ یعنی خدا کی نافرمانی کرتے ہی نہیں جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں سو اس کا ماحصل یہی ہے کہ ان کی اصلی خاصیت نیکی ہے ایسے ہی انسان کے دل میں بدی کے ارادہ اور خواہش کے وسیلے سے اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جز ایسا ہے کہ اس کی اصلی خاصیت بدی ہے اور پھر یوں خیال میں آتا ہے کہ اس کی اصل طبقہ شیاطین ہے جن کے حق میں جناب باری تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّہٖ کَفُوْرًا حاصل یہ کہ شیاطین اپنے رب کے قدیمی نافرمان ہیں سو اس کا ماحصل یہی ہے کہ ان کی اصلی خاصیت بدی اور نافرمانی ہے۔ القصہ روح عالم الملکوت کی ایک چیز ہے اور نفس طبقہ شیاطین سے ہے۔ خداوند کریم نے اپنے زور قدرت سے ان کو ایک جگہ ایسا جمع کر دیا ہے۔ جیسا طوطی اور زاغ کو ایک قفس میں بند کر دیں۔

نفس اگر دب جائے تو اشداء علی الکفار کا مقام ہاتھ آتا ہے سو اگر کسی وقت نیکی کا خیال غالب ہو اور اس وجہ سے اعمال صالحہ صادر ہوں اور اس ترکیب سے روح کی تاثیر نفس پر ایسی طرح عارض ہو جائے جیسے برتن کے نیچے آگ جلانے کی ترکیب سے آگ کی تاثیر پانی پر عارض ہو جاتی ہے اور اس کی تاثیر اصلی کو جو ٹھنڈک ہے، دبا لیتی ہے تو اس صورت میں نفس بھی روح کے کام ایسے ہی دینے لگے گا جیسے بہت گرم پانی آگ کا کام دے یعنے بدن کو جلا دے علے ہذا القیاس اگر نفس روح پر غالب آ جائے گا تو روح نفس کی تبعیت میں نفس کے کام دینے لگے گی کیونکہ ترکیب میں یہی ہوتا ہے کہ یا یہ غالب ہو یا وہ ہو چنانچہ اجسام میں یہی حال رہتا ہے کبھی کسی خلط کا غلبہ کبھی کسی خلط کا غلبہ بہرحال اگر روح غالب ہو گی تو ایسے وقت میں روح کو بنسبتہ نفس کے اشداء علی الکفار میں سے سمجھنا چاہیئے۔ اور اس وقت میں شیطان کا بالکل اختیار اٹھ جاتا ہے اور وہ تسلط اور حکومت جو پہلے تھی۔ باقی نہیں رہتی۔

نفس دب جائے تو بھی قابل اعتبار نہیں لیکن جیسے کسی شخص پر ہمیں ایسا اختیار تو نہو، جیسے نوکر یا غلام پر ہوتا ہے مگر تاہم اپنی طرف سے اپنے جی کی بات سوجھایا کرتے ہیں وہ مانے یا نہ مانے ایسے شیطان بھی اپنی حسب مرضی کہنے سے یعنی وسوسہ ڈالنے سے باز نہیں آتا بہرحال جن کا نفس مقہور اور مغلوب ہو جاتا ہے وہ روح کی تبعیت میں اچھے کام کرنے لگتا ہے لیکن پھر نفس نفس ہی ہے۔ جیسے پانی کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو آخر پھر پانی ہے۔ اول تو آگ کے بجھانے میں ویسا ہی ہے جیسا ٹھنڈا پانی دوسرے یہ حرارت عارضی ہے اور عارضی چیز کا کیا اعتبار، ابھی آگ جلانی چھوڑ دو یا چولھے پر سے اتار کر ذرا رکھ دو پھر وہی ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہے اسی طرح جہاں نفس کی خبرداری سے ذرا غفلت ہوئی۔ پھر وہی اپنیوں پر آ جاتا ہے

انسان ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رہ سکتا اور ہر وقت ایک سا حال رہنا محالات عادی میں سے ہے۔ خصوصاً انسان سے جس کی شان میں جناب باری تعالےٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا یعنی حضرت آدم کی شان میں یوں ارشاد ہے کہ آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ کیونکہ جو جو اوصاف حضرت آدم علیہ السلام میں تھے۔ تھوڑے بہت سب بنی آدم میں ہونے چاہئیں وجہ اس کی یہ ہے کہ توالد و تناسل میں نوعیت باقی رہتی ہے اسی واسطے آدمی کے

آدمی اور گھوڑی کے گھوڑا اور گدھی کے گدھا پیدا ہوتا ہے اور جب نوعیت باقی رہے تو جو وجہ نوعیت کے باقی رہنے میں نظر آتی ہے یعنے توالد تناسل وہی بعینہ اور اوصاف کے حق میں بھی سمجھنی چاہیئے بالجملہ سب اوصاف آدم علیہ السلام نسلاً بعد نسلاً کم و بیش سب آدمیوں میں ہوتے ہیں چنانچہ مشہور بھی ہے اَلْوَلَدُ سِرٌّ لِاَبِیْهِ اور جب بے ثباتی بھی سب آدمیوں میں ہوئی تو پھر ایک حال پر رہنا کجا اس صورت میں لازم پڑا کہ ہمیشہ نفس کی محافظت یکساں نہ ہو بلکہ کبھی کبھی اس کی نگاہداشت میں فرق پڑے اور نفس اپنی خاصیت کی طرف مائل ہو، اور کوئی نہ کوئی قصور سرزد ہو، باقی رہی یہ بات کہ کوئی نفس کی حقیقت کو بدل کر روح بنالے یہ خود محالات میں سے ہے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ یعنے خدا کے پیدا کئے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔

غلبۂ نفس اور مغلوبیت نفس سے سرزد ہونے والی خطاؤں میں بے حد فرق ہے الغرض کوئی صورت ایسی نہیں کہ انسان خطا اور قصور سے بے اندیشہ ہو جائے۔ لیکن اس حال کا قصور اس قصور کے برابر نہیں کہ نفس اپنی خاصیت اصلی پر ہو اور اس پر روح کا ذرہ برابر اثر نہ ہو بلکہ الٹا اس کا روح پر اثر ہو کیونکہ پہلی صورت میں آدمی کا کچھ قصور نہیں اس کا کام اتنا ہے کہ روح کو غالب کر دے اور نفس کو مغلوب، روح کی خاصیت نفس کی خاصیت کو دبا بیٹھے یہ اس کے اختیار میں نہیں کہ نفس کو بدل کر روح بنا دے یہ اس کے اختیار میں نہیں کہ مدام ایکساں حال رہے پھر جب اس کے اختیار میں یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں اور جس قدر اس کا اختیار تھا اس قدر کر گذرا، تو پھر لائق اس کے ہے کہ معاف کیا جائے چنانچہ خداوند کریم خود فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی اللہ کسی کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس لئے ہمیں یقین کامل ہے کہ اس وقت کی خطائیں ہرچند خطائیں ہیں لیکن بسبب عموم رحمت اور وعدہ مذکور کے معاف کی جائیں۔

اب سنئے کہ انبیاء سے جو لغزشیں ہوئی ہیں تو شاید اس قسم کی ہوں جن پر عتاب ہوا ہے اور احتمال ہے کہ بسبب ان کے علو رتبہ کے موافق مثل مشہور "نیکاں را بیش بود حیرانی" انکی زلات سب از قسم غلط فہمی ہوں اور اوروں کو گو اس پر ثواب ملے پر ان کو اس پر عتاب ہو۔ لیکن

صحیح اول ہی بات معلوم ہوتی ہے بہر حال ہر چہ بادا باد انبیا کے اسرار کو خدا جانے یا انبیاء [illegible]

اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ سے خطا ممکن ہے لیکن شیطان کا تسلط ممکن نہیں

پر یہاں تو فقط اتنی بات سے غرض ہے کہ یہ وصف کہ جو اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَھُمْ کا خدا نے معرض تعریف میں بیان کیا اور پھر تعریف بھی ایسے وصف کے ساتھ کہ بعد رسالت اسی کا رتبہ ٹھہرا، یہ وصف ایسا نہیں کہ صدور گناہ یا صدور خطا اس کے ساتھ محال ہو، محال البتہ جب ہوتا کہ اس وصف والوں کو حقیقت نفسی کے تبدیل کا اختیار ہوتا۔ سو یہ تو معلوم۔ یہ بھی اس وصف والوں کو میسر نہیں آسکتا کہ ایک حال پر برقرار رہیں اور کیونکر رہ سکیں دو چیزیں مخالف ایک دوسرے کی دشمن سے ان کو پالا پڑا ایک شے ہو تو ایک حال پر رہے۔ ان کے واسطے یہی بہت ہے کہ شیطان کا ان پر تسلط نہیں ہو سکتا خداوند کریم ان سے برائیوں کو ہٹاتا رہتا ہے، چنانچہ حضرت یوسف سے برائی اور فحش کے ہٹانے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ چنے ہوؤں میں سے ہیں۔ فرمایا ہے

کَذٰلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ	یعنی یوں ہی ہوا۔ اس واسطے کہ ہٹا دیں اس سے برائی اور بے حیائی البتہ وہ ہے ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔

القصہ یہ لازم نہیں کہ جو اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَھُمْ ہوا کریں ان سے لغزش کا ہونا محالات میں سے ہو۔

اَشِدَّاءُ اور رُحَمَاءُ کے لئے اخلاص لازم اور ریا نا ممکن ہے

ہاں البتہ یہ لازم ہے کہ عبادات میں فتور نہ ہو۔ ان کے کام میں ریا کو دخل نہ ہو۔ طالب اگر ہوں تو رضا، خداوندی کے ہوں نظر ہو تو اس کے ایک افضال پر ہو۔ سو اسی لئے بعد ان دونوں وصفوں کے بطور علامات کے اور دلائل کے یوں بیان فرمایا تَرٰھُمْ رُکَّعًا الخ

غلط فہمی کے سبب بڑوں بڑوں سے خطا ہو جاتی ہے

جب یہ بات مقرر ہو چکی تو اب ہماری عرض علماء شیعہ کی خدمت میں یہ ہے کہ اول تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کسی غلطی کے سبب سے بھلی بات کو بری سمجھ جاتے ہیں خضر کی کشتی توڑنے کو حضرت موسےٰ جیسے نبی اولو العزم نے برا سمجھا اور خلاف

شریعت سمجھ کر یوں فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا اِمْرًا حاصل یہ ہے کہ تو نے برا کام کیا حالانکہ انہوں نے کچھ برا نہیں کیا تھا بلکہ بھلا کیا تھا اگر نہ توڑتے تو وہ کشتی پکڑی جاتی، سو اسی طرح حضرات شیعہ بلکہ حضرات ائمہ بعض صحابہ کے افعال کو مثلاً فدک کے نہ دینے کو اور سوا اس کے اور افعال کو سرسری اگر برا سمجھ گئے ہوں۔ اور حقیقت میں وہ برے نہ ہوں تو شیعہ حضرات ہی نقل کی رو سے فرمائیں کیا محال ہے۔

اور یہ بھی نہ سہی شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ حضرت خضر اہل مکاشفہ میں سے تھے ان کی بات اگر سمجھ میں نہ آئی تو بجا ہے ابوبکر کو ہم اہل مکاشفہ میں سے نہیں سمجھتے۔ اس لئے یہ التماس ہے کہ حضرت موسےٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باہم جو شکر رنجی ہو گئی اور منشا اس کا یہ ہوا کہ حضرت موسےٰ علیہ السلام حقیقت الامر کو نہ سمجھے اور اس سبب سے دست و گریباں ہو گئے اور ایسے ہی حضرت زہرا رضی اللہ عنہا حقیقت الامر کو سر دست نہ سمجھی ہوں تو کیا ہرج ہے حالانکہ یہاں کوئی مکاشفہ کی بات بھی نہ تھی اس لئے کہ حضرت ہارون نے تو کچھ خطا کی ہی نہ تھی اگر معصوم ہونے کی وجہ سے اس بات کو مستبعد سمجھتے ہو تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا تو فقط شیعوں ہی کے نزدیک معصوم تھیں۔ حضرت موسےٰ تو بالاتفاق معصوم ہیں۔

اور سَلَّمْنَا یہ بھی نہیں تو یہ ناکارہ ابھی عرض کر کے آیا ہے کہ اولیا اور مخلصین سے چوک بھی ہو جاتی ہے اور خطا کا ہونا کچھ ان سے محال نہیں جو اس وجہ سے ان کی بزرگی کے منکر ہو جیئے۔ بزرگی اور چیز اور صدور گناہ اور چیز۔ وہ گناہ جو مخالف ولایت ہے وہ یہ ہے کہ نفس اپنی خاصیت اصلی پر باقی ہو اور روح اس کے مغلوب ہو جائے، نہ یہ کہ بمقتضائے بشریت بھی نہ ہو۔ ورنہ ہم تو نہیں کہہ سکتے حضرت آدم کی شان میں جو یہ آیا ہے وَعَصٰۤی اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰی یا حضرت یونس کی طرف تعریض ہے۔ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے مَا كَانَ لِنَبِیٍّ اَنْ یَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰی حَتّٰی یُثْخِنَ فِی الْاَرْضِ ان سب کے کیا معنے ہوں گے، حالانکہ یہ سب وقائع کلام اللہ میں مذکور ہیں گنجائش انکار بھی نہیں اور صحابہ کے زلات اگر زلات بھی ہوں اور از قبیل غلط فہمی نہ ہوں تب وہ کچھ کلام اللہ میں مذکور نہیں کسی حدیث متواتر میں نہیں ممکن ہے کہ غلط ہوں اور نہ سہی ہم کہتے ہیں کہ غلط نہیں لیکن جو تم جواب انبیاء کی طرف سے دو گے وہی صحابہ کی طرف سے سمجھ لو بلکہ ان کی

طرف سے یہی عذر بہت ہے کہ وہ معصوم نہیں نبی نہیں، اگر خطا ہوگئی تو بلا سے جب باینہمہ خدا نے ان کی تعریف کردی۔ تو پھر کیا حاجت جواب اور کیا عذر کی ضرورت۔

مصرع۔ ہر عیب کہ سلطان بہ پسند و ہنر ست

امکان خطا کے باوجود اتنی تعریف دلیل غفران و رضا ہے

القصہ اس قسم کے قصور قابل گرفت نہیں۔ اور عقل سلیم ہرگز تسلیم نہیں کرتی کہ ان پر محاسبہ اور مواخذہ ہو بلکہ ان اوصاف کے بیان ہی میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا اس لئے کہ اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ہونا کچھ اس بات کو نہیں چاہتا کہ ان سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو اور جب اس بات کا التزام نہ ہوا اور خداوندکریم نے باوجود امکان صدور خطا ان کی تعریف فرمائی تو یہ معنے ہوئے کہ یہ وصف ایسے نہیں کہ ان کے سامنے اس قسم کی باتوں کا حساب کیا جائے بلکہ یہ خوبی فقط اسقدر ہی ہے سبکو محو کئے دیتی ہے تو گویا ضمناً اشارہ ان کی مغفرت کی طرف ہوا اور جواب بھی وہ معذب ہوسکیں تو پھر کیا تعریف جہنمی سے تو سور بلکہ پاخانہ پیشاب بھی اچھے ہیں چنانچہ ظاہر ہے۔

القصہ نظر انصاف چاہیئے خدا کی تعریف کے بعد پھر کہیں ہوسکتا ہے کہ صحابہ جہنم میں جائیں پھر اس صورت میں ایک کیا لاکھ گناہ ان کے ذمہ لگا دو۔ جو کرے گا وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا اور سمجھنے والے اسی کو تعریف سمجھیں گے۔

امکان خطا کے باوجود اتنی تعریف اعدائے صحابہ کے منھ پر طمانچہ ہے

اور حق بھی تو ہے جب کوئی بادشاہ دانشمند جسے انتظام مملکت کا خیال ہو اور وہ ملازموں کے حال کا نگراں ہو اپنے چند ملازموں کو باوجود خطاؤں کے کچھ نہ کہے تو ظاہر میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی پیارے ہیں کہ اس حال پر بھی ان سے مواخذہ نہیں اور جو الٹی تعریف کرے اور انکے غمازوں اور دشمنوں سے جو ان سے کینہ رکھتے ہوں۔ بری طرح پیش آئے اور ان کے ان کمالات کو جو اپنے نزدیک اور ان کے دشمنوں کے نزدیک ان کی خوبی مسلم الثبوت ہو ان کے دشمنوں کو سنا سنا کر کہے کہ ان میں سے جسمیں یہ اوصاف پائے جائیں۔ ہم نے اس کی سب خطائیں معاف کیں بلکہ اس کے لئے اور انعام قرار واقعی تیار کیا ہے تو اس صورت میں بجز اس کے اور کوئی احتمال نہیں ہوسکتا کہ بادشاہ کو ان ملازموں سے محبت ہے اور اس کو ان کی پچ ہے جو ان کا دشمن ہو وہ اس کا دشمن جو ان کا دوست، وہ اس کا دوست ہے

تعریف صحابہ کا ایک مقصد آنیوالے دشمنوں کا چڑانا اور جلانا بھی ہے

سو بفضلہ تعالے یہ سارا قصہ بعینہ ان آیات کے ملاحظہ سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اول تو صحابہ کی تعریف ایسی بڑھ کر کرے کہ اس سے زیادہ کوئی تعریف کی صورت امتیوں کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بعد ازاں فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ۔ یعنی یہ جو کچھ صحابہ کے حق میں کہا گیا تو کفار یعنے ان کے دشمنوں کے جلانے اور چڑانے کے لئے کہا گیا ہے سبحان اللہ کیا علم محیط خداوندی ہے کہ بعد کے تمام احوال کی طرف اشارہ فرما دیا۔ خدا کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ شیعہ اور نواصب اور خوارج صحابہ کے حق میں عمازبان کرینگے اور ان کی قدر و منزلت کا جو خدا کی درگاہ میں ہے کچھ خیال نہ کرینگے۔

باقی رہی یہ بات کہ لِیَغِیظَ بِهِمُ کے ساتھ تو اعداءھم کا لفظ ہونا چاہیئے تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کو ہی ان سے دشمنی ہو تو ہو مسلمانوں کا کام تو یہ نہیں کہ خدا ان کی تعریف کرے اور انکی سب خطائیں معاف کرے اور پھر بھی ان سے حسد ہی کئے جائیں۔ جن کی خدا تعریف کرے اور خدا کی بات بات سے ان کی محبت ٹپکے پھر کمبختی ہے یا نہیں کہ ان کی بدی کرے اور برائیاں گائے۔ اور خدا کو اپنا دشمن بنائے

صحابہ کرام شیعوں کے بھی محسن ہیں

یا یوں کہیئے کہ منکران صحابہ کو جو نوبت کلمہ گوئی کی آئی اور زبرعم خود مسلمان ہوئے تو یہ صحابہ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے نہ وہ جہاد کرتے نہ اس طرح اسلام پھیلتا اور نہ یہ کلام اللہ کا رواج ہوتا کہ شیعہ تک باوجودیکہ کلام اللہ کو ان سے کیا نسبت، کلام اللہ کی تلاوت سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر باینہمہ اگر ان کے شکر گذار نہوں تو پھر کس کے ہوں گے اور ان کے حق میں گستاخی کریں گے تو پھر کس کا ادب کرینگے ان سے زیادہ بڑھ کر اور کون کا فر نعمت ہوگا اس لئے جناب باری تعالے نے دشمنان صحابہ کو کافر فرمایا۔

صحابہ کی تعریف قرآن کی پیشین گوئی ہے کہ آئندہ صحابہ کے دشمن پیدا ہونگے

پھر چونکہ علم غیبی میں صحابہ کی نسبت بدگوئی اور گستاخی کا ہونا متحقق تھا، تو جیسے مثال مذکور میں غمازوں کے لئے بیان کیا گیا تھا ایسے ہی غمازان صحابہ کو بھی سنا سنا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا یعنے حاصل اس کا اس صورت میں یہ ہوا کہ اے منکران صحابہ یہ جماعت صحابہ جن کی ہم تو تعریف کرتے ہیں اور تم پھر بھی ان کی بدگوئی سے باز نہیں آتے اور تسپر بھی نہیں سمجھتے

اگر بالفرض ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو اور واقعی ان سے یہ خطائیں ہوئی ہیں جن کو تم گناہ سمجھتے ہو تب کیا ہوگا ہم نے تو یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان میں سے جو ایمان رکھتا ہوگا اور اس نے اچھے اچھے عمل کئے ہونگے ہم اس کی خطائیں بھی معاف کر دینگے۔ اور ان کو اجر عظیم بھی دیں گے پھر جب وہ سب کے سب کافروں کے ساتھ تیز و تند ہوں اور آپس میں محبت رکھتے ہوں نماز میں ہمیشہ مشغول رہیں سوائے خدا کی رضامندی اور اس کے افضال کے اور کہیں طلبگار نہ ہوں تو ہم ان کے گناہ کیونکر معاف نہ کریں اور انہیں کسی غدر سے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر کیوں نہ دیں اس سے زیادہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اور کیا صورت ہے۔

صحابہ سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ غیر مشروط ہے | اگر یہ شرط ہوتی کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گناہ بھی کسی قسم کا نہ کریں تب بھی ایک بات تھی۔ اس وعدہ میں تو یہ شرط نہ تھی اہل فہم اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ منہم جو بعد عملوا الصلحت کے بڑھایا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ وعدہ حقیقت میں منکروں کے جواب کے لئے بیان کیا گیا ہے اور اس کی یہ صورت ہے جیسے مرقوم ہوئی۔ ورنہ یہ معنے اگر ہوں کہ کوئی ان میں سے ایمان لایا۔ اور عمل صالح کئے اور کوئی کافر ہی رہا نعوذ باللہ تو اس کو ہم جانتے ہیں۔ شیعہ بھی باور نہ کرینگے۔ اس لئے کہ خدا کے اتنے تو یہ بھی معتقد ہیں کہ خدا جسے مومن تبلادے وہ مومن ہی ہے کافر نہیں۔ سو خدا نے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی پہلے ہی گواہی دے دی بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ میں سے بھی اول قسم کے ایمان اور اول قسم کے اعمال صالحہ کی گواہی دی کیونکہ ایمان میں تو اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں کہ خدا سے محبت اس درجہ کو پہنچے کہ اس کے دشمنوں سے کسے باشد اپنا ہو یا بیگانہ عداوت ہو جائے اور اس کے دوستوں سے کسے باشد محبت ہو جائے کیونکہ سب کے نزدیک بالاتفاق محبت اعلےٰ مقامات ایمان میں سے ہے اور پھر وہ بھی اس قدر۔

ایمان کے معنی اور مراتب یقین | اور وجہ اس کی ظاہر ہے اس لئے کہ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کے یقین کر کے تسلیم کر لینے کو۔ سو اصطلاح شرع میں خاص خدا کے کمالات پر یقین کر لینا اور پھر ان کو تسلیم کر لینا یعنے مثلاً خدا الحکم الحاکمین ہے تو اس کے ایمان کے معنے ہوئے کہ اول تو خدا میں اس وصف کو یقینی سمجھے پھر تسلیم بھی کرلے سو حاکم کی حکومت کے تسلیم کرنے کے یہی معنے ہیں کہ اس سے منحرف

نہ ہو جائے علی ہذا القیاس سب کمالات کو سمجھو۔

علم الیقین | اگر یقین کے چند مرتبے ہیں۔ ایک تو علم الیقین یہ تو ادنیٰ مرتبہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی معتبر آدمی سے ہم سنیں کہ فلانی جگہ فلانی چیز ہے۔ ایسا یقین تو ہر ادنیٰ مسلمان کو حاصل ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جو بالاتفاق سچے ہیں۔ ان کی خبر سے معلوم ہوا کہ خدا میں کمالات ہیں اگر اتنا یقین بھی نہ ہو تو ایمان ہی نہیں۔

عین الیقین | دوسرا رتبہ عین الیقین یعنی جو کانوں سے سنا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سو اس مرتبہ میں یقین پہلی مرتبہ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سن کر گو کسی چیز کا یقین ہو جائے لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو آنکھوں سے دیکھنے میں ہوتی ہے اسی واسطے خوبصورتوں کے قصے اکثر کانوں سے سنتے ہیں اور محبت نہیں ہوتی اور آنکھوں سے دیکھنے میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں لیلےٰ اور شیریں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے مرنے کے بعد کسی کو محبت نہ ہوئی حالانکہ شہرہ انکے حسن و جمال کا جتنا ہے جب نہ ہوگا۔ بلکہ اس سے صاف یوں معلوم ہو گیا کہ سننے سے کسی کو محبت ہوتی ہی نہیں ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی کو تو محبت ہوتی اپنے زمانہ کے خوبصورتوں سے تو محبت ہو جائے اور ان سے نہ ہو، وجہ اس کی اور کچھ نہیں کہ سننے سے بوجہ صورت محبت پیدا نہیں ہوتی ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت یوسف ہی تھے۔

اور جو کہیں سننے سے ہو بھی ہے تو وہ بھی دیکھنے ہی کا طفیل ہے یعنی آنکھوں سے جو خوبصورت نظر آتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے ایک کیفیت ہوتی ہے تو پھر اگر سنتے ہیں کہ فلانا خوبصورت ہے تو اسے اپنے تجربہ سابق پر قیاس کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے گونہ اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے ورنہ فقط سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے مادرزاد اندھے کو جسے شکل و صورت کا تصور ہی نہیں ہوتا اور خوبصورت اور بدصورت کو ہرگز نہیں سمجھتا اس کو بوجہ صورت کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سب جانتے ہیں بالجملہ عین الیقین کے درجہ میں اگر کوئی چیز جمیل اور مجموعہ کمال ہوتی ہے تو اس سے بشرط مناسبت طبیعت محبت ہو جاتی ہے

حق الیقین | پھر ایک مرتبہ یقین کا حق الیقین ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے استعمال اور برتنے کا بھی اتفاق ہو جیسے پانی کا ایک تو دیکھنا پھر دیکھ کر اسے پی بھی

لینا، اب پینے کے بعد یہ احتمال ہے کہ شاید سیراب ہوا یا دیکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو باقی نہیں رہتا غرض یہ مرتبہ یقین ہونے میں عین الیقین سے بڑھ کر ہے اس مرتبہ میں وہ محبت جو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

محبت حق الیقین کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے

بلکہ حقیقت میں دیکھئے تو محبت اسی درجہ میں پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ پانی سے جو محبت ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ پیاس کو بجھاتا ہے سو یہ بات تو پینے ہی سے معلوم ہوئی۔ اگر کوئی شخص ایسا فرض کرو کہ اس نے نہ کبھی پانی دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ اس کی تاثیر معلوم ہو اور نہ اسے کبھی پانی کی ضرورت ہوئی ہو۔ پھر اسے ایک دفعہ ہی پیاس لگے اس وقت اس کے سامنے اگر پانی آجائے تو وہ کیا جانے کہ اس میں یہ تاثیر ہے اور اس سے میری پیاس بجھ جائے گی بجز اس کے کہ یا تو خدا اس کے جی میں ڈال دے کہ اسے استعمال کیجیے یا کوئی اسے بتلادے اسے ہرگز پانی کی طرف یہ گمان نہ ہوگا۔ لیکن خوبصورتوں کو دیکھنا اس وجہ سے برتنا ہی ہے کہ جیسے گلزار کے دیکھنے سے جی کو راحت ہوتی ہے ویسے ہی ان کے دیکھنے سے جان و دل کو آرام ہوتا ہے۔ بالجملہ عقل سلیم یوں کہتی ہے کہ محبت حق الیقین کے مرتبہ میں ہوتی ہے چنانچہ واضح ہوگیا۔ اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس بحث کو پورا بیان کرتا مگر ناچار ہوں فرصت کم پھر اپنا حرج اوقات، ادھر جواب خط کی جلدی۔ لہذا ان ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

صحابہ حق الیقین کے مراتب پر فائز تھے اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں بھی راسخ ہے

بالجملہ محبت مرتبہ حق الیقین میں پیدا ہوتی ہے اور یہ اعلیٰ قسم یقین کی ہے اور پھر محبت میں اعلیٰ قسم یہ ہے کہ محبوب کے لواحق و توابع تک محبت پہنچ جائے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے دشمنوں سے عداوت ہو جائے سو جب جناب باری تعالیٰ نے سب صحابہ کے حق میں اس بات پر گواہی دی کہ ان کے دل میں ہمارے دشمنوں کی دشمنی اور ہمارے دوستوں کی دوستی ہے تو صاف واضح ہوگیا کہ ان کے دل میں خدا کی محبت پہلے ہے۔

باقی کوئی یوں کہے کہ مسلمانوں سے محبت ہونے کو کیا لازم ہے کہ خدا ہی کے سبب سے ہو، محبت کے بہت اسباب ہیں، نسب کی وجہ سے ہوتی ہے احسان اور سلوک اور دوستی

کے سبب سے ہوتی ہے، علاوہ اس کے اور بہت صورتیں ہیں علیٰ ہذا القیاس دشمنی کی بہت وجوہ ہیں۔ جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ وہ محبت اور دشمنی خدا کے سبب سے ہے، تب تک مطلب ثابت نہیں ہوتا۔

جواب اس کا اول تو یہ ہے کہ جب کسی وصف کے ساتھ محبت اور دشمنی کو متعلق کرتے ہیں تو عرف میں وہ محبت اور دشمنی اس وصف ہی کی وجہ سے سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی یوں کہے کہ مجھے خوبصورتوں سے محبت ہے یا عالموں سے محبت ہے، علیٰ ہذا القیاس کوئی یوں کہے کہ مجھے متکبروں سے عداوت ہے یا کافروں سے عداوت ہے تو کوئی ناانصاف بھی اس کے سمجھنے میں تامل نہیں کرتا کہ یہ محبت اور یہ عداوت ان اوصاف ہی کی وجہ سے ہے اور یوں کسی کو احتمال بھی نہیں ہوتا کہ شاید کسی اور وجہ سے ہو سو خدا نے بھی اشداء علی الکفار کہا ہے یعنی کافروں پر بڑے تیز و تند ہیں اور کافر کے یہی معنے ہیں کہ خدا کا دشمن ہو تو معلوم ہوا کہ ان کی عداوت بوجہ کفر ہے کسی اور وجہ سے نہیں اور جب بوجہ کفر ہوئی تو خدا ہی کی محبت کے سبب ہوئی ایسے ہی رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کو سمجھئے یعنی ایک دوسرے کو جو آپس میں محبت ہے تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کے زمرہ میں داخل ہوجانے کے باعث ہے اور اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ خدا کے متعلقوں میں سے ہیں اور جب یہ سمجھ کر ہوئی تو وہی خدا واسطے کی محبت ہوئی۔

صحابہ کا مقصود صرف رضائے الٰہی تھا

یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ وَرِضْوَانًا نے اس بات کو خوب ثابت کر دیا کہ ان کے ہر کام میں خدا کی رضامندی مدنظر ہے، سو کفار سے سختی کی باتیں اور آپس کی عنایاتیں سب خدا کی رضامندی کے لئے کرتے ہیں اور خدا کی رضامندی کی طلبگاری عین نشان محبت ہے۔ سوا محبت کے اور کوئی وجہ رضا کی طلب گاری کی ممکن ہی نہیں اور بہشت کی تمنا میں جو لوگ خدا کی مرضی کے کام کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں مرضی کی طلب نہیں ہوتی جنت کی طلب ہوتی ہے جیسے فقیر روٹی کی وجہ سے مالداروں کی خوشامد کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں ان کی رضا کے طالب نہیں۔ مقصود اصلی ان کا روٹی ہی ہوتا ہے بالجملہ رضا جوئی محب ہی کا کام ہے۔

الغرض صحابہ کرام کو جو کفار سے عداوت اور اپنے لوگوں سے محبت تھی تو وہ فقط خدا ہی کی محبت کا ثمرہ تھا۔

صحابہ کی محبت اور تسلیم سے اوپر کسی محبت و تسلیم کا درجہ ہی نہیں ہے

اور چونکہ محبت مرتبہ حق الیقین میں ہوتی ہے اور وہ اعلےٰ درجہ یقین کا ہے تو لازم آیا کہ سب صحابہ کو خدا کی عظمت اور جاہ و جلال اور کمال اور جمال کا اتنا یقین تھا کہ اس سے اوپر کوئی یقین کا مرتبہ ہی نہیں ادھر تسلیم اس درجہ کو تھی کہ اس کے آثار خود موجود تھے چنانچہ باری تعالےٰ نے خود اس کی خبر دی اور کہا تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا الخ اگر تسلیم نہ ہوتی تو یہ اعمال کیوں کرتے اور یہی الفاظ معیت جملہ یَبْتَغُوْنَ الخ ان کے اعمال صالحہ کی بھی خبر دیتے ہیں تو اب بوجہ اکمل ان کا ایمان کامل اور اعمال صالحہ جن پر وعدۂ مغفرت اور اجر عظیم تھا ثابت ہو گیا تو پھر یہ احتمال کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں میں سے کوئی مسلمان تھا اور کوئی نہ تھا اور اس وجہ سے مِنْهُمْ فرمایا تو یہ شیعوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک اگر بدیہیات کا انکار اور محال کی تسلیم ممنوع ہوتی تو سنیوں کے مذہب سے رو گرداں ہو کر مذہب شیعہ پر کیوں مستقیم ہوتے اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا تو اس دعوے کی دو چار دلیلیں بیان کرتا مگر سمجھنے والے اسی رسالہ میں سے اس مطلب کو سمجھ جائیں گے ان کے لئے یہی دلیل بہت ہے

حق الیقین کے مراتب میں تفاوت ہے

باقی کوئی یوں کہے کہ صحابہ کو اگر مرتبہ حق الیقین تھا اور وہ اعلےٰ مراتب یقین ہے تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے کوئی مرتبہ ہی نہ چھوڑا صحابہ کیوں کہتے ہو رسول کہو تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ علم الیقین میں سو آدمیوں سے اگر ایک خبر سنیں اور اس پر یقین ہو جائے تو وہ بھی علم الیقین ہے اور ہزار سے سنیں تب بھی علم الیقین ہے لیکن با اینہمہ دوسرا یقین قوی ہے علیٰ ہذا القیاس کوس بھر سے ایک شئے دیکھئے وہ بھی عین الیقین ہے اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے دیکھئے وہ بھی عین الیقین ہے لیکن دوسری صورت میں جو وضاحت ہے وہ پہلی صورت میں نہیں، اسی طرح ایک دفعہ پانی پیجئے یا تھوڑا سا پیجئے وہ بھی حق الیقین ہے اور کئی بار پیجئے یا بہت سا پیجئے وہ بھی حق الیقین ہے بایں ہمہ دوسری صورت میں جو بات ہے وہ پہلی صورت میں نہیں ایک دفعہ میں بسا اوقات چنداں حال معلوم نہیں ہوتا ہاں کئی بار میں البتہ خوب معلوم ہو جاتا ہے۔

الغرض حق الیقین میں شریک ہونے سے مساوات لازم نہیں آتی۔ با اینہمہ مدار فضیلت

کا محبت پر ہے معلوم ہونے پر نہیں بسا اوقات ایک خوبصورت کو دو آدمی برابر دیکھتے ہیں ایک کو محبت ہوتی ہے ایک کو نہیں اور جو ہوتی بھی ہے تو برابر نہیں ہوتی سو صحابہ کو خدا تعالےٰ سے اتنی محبت نہ تھی جتنی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو خدا سے تھی۔

باہمی مناقشات رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کے منافی نہیں ہیں

اب ایک بات قابل بیان کے اور باقی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حضرات شیعہ کو موافق مثل مشہور۔ خوئے بد را بہانہ ہا بسیار۔ صحابہ کی بزرگی کے تسلیم کرنے میں یہ حیلہ اور باقی ہو کہ صحابہ میں باہم اکثر مناقشات ہوئے اور ان کے باہم اکثر رنج رہے اور نزاع ظہور میں آئے چنانچہ طرفین کی کتابوں میں موجود ہے پھر ان کو رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کیونکر کہیں اور جب یہ نہیں تو پھر کس وجہ سے یوں کہا جائے کہ وہ کامل الایمان تھے بلکہ یوں احتمال ہوتا ہے کہ جن سے حضرت امیر کو رنج پہنچا یا وہ ان سے لڑے نہ وہ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کے مصداق تھے نہ ان پر اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ صادق آتا تھا اور لفظ مِنْهُمْ جو بعد عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بڑھایا ہے تو انہی کے اخراج کے لئے بڑھایا ہے اس شبہ کا جواب ہر چند فقط ہمارے ہی ذمہ نہیں کیونکہ بعینہ یہی احتمال خوارج اور نواصب بھی پیش کر سکتے ہیں شیعوں کو بھی اس اعتراض کا فکر جواب لازم ہے

صحابہ کی رنجش کی بنا بھی محبت تھی

مگر بغرض تسکین خاطر شیعہ و سنی یہ معروض ہے کہ رنج دو وجہ سے ہوتا ہے ایک بوجہ عداوت ایک بوجہ محبت بوجہ عداوت کی تو صورت ظاہر ہے۔ دشمنوں کو جو دشمنوں سے رنج ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں باقی بوجہ محبت کے یہ صورت ہے کہ کسی کا دوست اس کے خلاف مرضی اور خلاف توقع کرے تو یہ رنج بوجہ محبت ہے اس لئے کہ اگر اجنبی ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان سے کچھ رنج نہیں ہوتا۔ اس سے خوب معلوم ہوتا ہے کہ یہ رنج فقط محبت کا ثمرہ ہے اگر محبت نہ ہوتی تو یہ رنج نہ ہوتا۔ ایسے ہی اگر صحابہ کو بھی سمجھ لو تو بہت ہو گا نہیں تو یہی ہو گا کہ خدا کے کلام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔

سو نعوذ باللہ مثل زرارہ بن اعین اور احول طاق وغیرہ مقتدایان شیعہ جو بشہادت ائمہ اور کتب جھوٹے اور کذاب ہیں چنانچہ ان شاء اللہ مذکور ہو گا کچھ خداوند کریم تو جھوٹا اور کذاب نہیں ؟ جو اتنا دشوار معلوم ہو مگر جن کو جھوٹی باتوں کے تسلیم کرنے کی خو ہو وہ سچے کلام

کو اگرچہ مداہنی کا کیوں نہ ہو کیونکر تسلیم کرلیں۔

جن روایات پر تشیع کی بنیاد ہے انکے راویوں کی ثقاہت کا حال،

معہذا ہم یوں پوچھتے ہیں کہ سنی تو حسب اعتقاد شیعہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی کتابوں کی روایات کو تسلیم کیا جائے باقی رہی شیعوں کی روایتیں ان کا حال یہ ہے کہ جن راویوں سے شیعہ اپنے دین ایمان کی باتیں لیتے ہیں اور مابین شیعہ اور حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ واسطے ہیں ان کا حال یہ ہی کہ ہشام بن سالم اور میثمی اور صاحب طلق یعنی احول طلق وغیرہم جو ان کے مقتدا، اور پیشوا اور احادیث معمول بہا کے راوی ہیں ان کی جو کچھ خوبیاں اور بزرگیاں ہیں اور حضرات ائمہ نے ان کے فضائل بیان کئے ہیں وہ سب تو اس رسالہ میں نہیں آسکتے پر بطور نمونہ کچھ معروض ہے کلینی جو اصح الکتب شیعہ ہے اس میں یہ حدیث ہے۔

عن ابراهيم محمد بن الحسن او محمد بن الحسين قالا دخلنا على ابي الحسين الرضا عليه السلام فقلنا ان هشام بن سالم والميثمي وصاحب الطاق يقولون ان الله تعالى اجوف الى السرة والباقي صمد فخر لله ساجدا ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك

حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ ابراہیم بن محمد خزار اور محمد بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ہم امام ابوالحسن رضا علیہ السلام کے پاس گئے ہمنے کہا کہ ہشام بن سالم اور میثمی اور صاحب الطاق یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ناف تک تو کھوکھلا ہے اور باقی ٹھوس ہے آپ سنتے ہی سجدے میں جا پڑے اور یہ فرمایا کہ الہی تو پاک ہے ان عیوب سے نہ ان لوگوں نے تجھے پہچانا اور نہ انہوں نے تجھے وحدہ لاشریک لہ جانا اس سبب سے جو کچھ انکے منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔

دوسری روایت بھی کلینی ہی کی ہے۔

عن علي بن حمزة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم ان الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من عباده فقال سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تحديد

حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ ابن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہشام بن حکم تم سے روایت کرتا ہے کہ خدا جسم ہے ٹھوس، سو اس کے جواب میں حضرت امام ہمام رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا ہی فرمایا جیسا امام ابوالحسن رضا نے فرمایا تھا مطلب قریب قریب ہے

الغرض روایتوں کو دیکھئے کہ مقتدایان امامیہ نے کیا کیا معرفتیں تراشی ہیں پھر تیسرا اماموں کا حوالہ دیتے ہیں۔ علی ہذا القیاس بعضے ان کے مقتدا، اور پیشوا خدا کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے تھے، کہ خدا ازل میں جاہل تھا جیسے زرارہ بن اعین اور بکر بن اعین اور سلیمان جعفری اور محمد بن مسلم وغیرہم اور کہاں تک بیان کروں۔ ایسے ایسے بزرگواروں سے دین کی باتیں روایت کرتے ہیں اور پھر ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کا نام صحاح رکھتے ہیں اور یہ افسانے انہی کی معتبر کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں یقین ہے کہ علماء تسلیم کرینگے

اور اگر موافق عادت بزرگان (دروغ پسندگی) سنیوں کے سامنے جھوٹ بول جائیں۔ اور انکار کر جائیں تو اپنے دل میں تو ضرور ہی منفعل ہونگے۔ سبحان اللہ اس بات کی رعایت تو سنیوں میں ہے کہ جن کتابوں کا صحاح نام رکھتے اور انہیں معتبر سمجھتے ہیں ان میں بجز پارساؤں اور متقیوں اور دینداروں کے اور کسی سے روایت نہیں لاتے۔ اور جو لاتے بھی ہیں تو اس غرض سے کہ کوئی اس روایت کی وجہ سے دھوکا نہ کھا جائے اسی لئے بتلا جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع یعنے بنائی ہوئی جھوٹی روایت ہے الغرض شیعوں کے دین کی روایتوں کا جب یہ حال ہے تو کتب تواریخ تو نور علی نور ہی ہوں گی اور سنیوں کی روایت خود قابل اعتبار نہیں تو اس صورت میں جو روایتیں کہ نزاع صحابہ اور باہم کی چپقلش پر دلالت کرتی ہیں۔ کلام اللہ کے مقابلہ میں کیونکہ قابل اعتبار ہونگی بہرحال کلام اللہ متواتر ہے۔ جس صورت میں کلام اللہ میں رحماء بینہم ہو اور اس کے تمہارے نزدیک یہی معنے ہوں کہ ان میں ہرگز کبھی رنج ہوتا ہی نہیں تو موافق قاعدہ اصول کے ان روایات کا اعتبار نہ ہوگا جو کلام اللہ کے مخالف ہیں اب بفضلہ تعالے جمیع امور متعلقہ آیت مرقومہ بالا سے فراغت پائی لازم یوں ہے۔ کہ ایسی آیت بھی جو صحابہ کی بزرگی پر ایسے دلالت کرے کہ اظہر من الشمس ہو اور بسہولت فہم میں آجائے اور اس روایت سے ان کا حسن خاتمہ بھی معلوم ہو جائے بیان کی جائے شاید کوئی راہ پر آجائے لہذا آیت ششم معروض خدمت ہے۔

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

حاصل اس کے معنوں کا یہ ہے کہ جو لوگ قدیم میں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنیوالے اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی سو اللہ راضی ان سے اور وہ راضی اس سے اور تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے لئے باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

اس آیت کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اگر حق پرستی مدنظر ہوگی تو مولوی عمار علی صاحب تو کس گنتی میں ہیں شیعہ صد سالہ بھی جس کی رگ و پے میں تشیع سما گیا ہو حق بول اٹھے اور کیونکر حق نہ بولے جناب باری تعالے نے اس آیت میں منکران اکابر صحابہ کے لئے حیلہ و حجت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔

آیت ہجرت میں رضائے الٰہی کا مدار صرف ہجرت پر ہے لہٰذا ازمد کا الزام بھی مفید مقصد نہ ہوگا!

اگر ایمان کا ذکر ہوتا یا اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا تو شیعہ اور خوارج اور نواصب آنکھیں بند کر کے یوں بھی کہہ سکتے کہ صاحب اس میں مومنوں اور اچھے عمل والوں کے لئے خدا کا وعدہ ہے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ وہ دائرہ ایمان ہی سے خارج تھے سبقت ہجرت خلفاء ثلثہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہم مہاجرین اولین کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں جو انکار کر سکیں اور کہدیں کہ صاحب کسی نے تہمت لگا دی ہوگی خصوصًا خلیفہ اوّل کی ہجرت کہ وہ حضرت علی کی ہجرت سے بھی سابق ہے اور مہاجرین اولین تو انہیں لوگوں کی نسبت اول گنے جائیں گے۔ جو بعد جنگ بدر کے آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو مہاجرین اولین میں سے بھی مہاجر اول نکلے، اس صورت میں تو اسی آیت سے ان کی افضلیت نکل آئی۔ کیونکہ درصورتیکہ اس آیت میں جتنے وعدے ہیں وہ سب سبقت ہجرت پر (مثلاً) موقوف ہوئے۔ تو جو کوئی سبقت میں بھی سابق ہوگا وہ استحقاق وفاء وعدہ میں بھی اول نمبر ہوگا اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو البتہ ابوبکر صدیق سے اتنے پہلے گھر چھوڑ کر آئے کہ ابوبکر صدیق کے گھر تک پہنچے باقی سب ان سے پیچھے ہی نکلے۔

ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ منورہ کے درمیان عجیب و غریب فرق

اور ہجرت حبشہ اگرچہ ہجرت مدینہ منورہ

سے سابق ہے لیکن اس کی وجہ سے سابق ہونا چنداں موجب افضلیت نہیں اس ہجرت کی اباحت کا باعث تھا تو فقط قلت صبر تھا مکہ معظمہ میں رہ کر پکا رہنا اور احکام خداوندی کا بجالانا بہت دشوار تھا ثبات ایمان اور حفظ جان کے لئے ضعفا کو رخصت ہوگئی تھی اسی لئے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت حبشہ نہ ہوا اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے حکم نہ ہونیکی اگر کوئی وجہ تبکلف نکال بھی لیجئے تو اس کا کچھ جواب ہی نہیں کہ جس نے حبشہ کی جانب ہجرت نہ کی اس پر کچھ عتاب نہ ہوا اور مدینہ منورہ کی ہجرت بغرض امداد دین تھی اس کو رخصت نہیں کہہ سکتے۔ عزیمت ہی کہیئے تو اول درجہ کی عزیمت کہئے اسی لئے اس کے تارکین مورد عتاب رہے ہرچند ہجرت حبشہ کا رخصت ہونا اور ہجرت مدینہ منورہ کا عزیمت ہونا قطع نظر ظاہر ہونے کے اس تقریر سے اور بھی واضح ہوگیا مگر مزید توضیح کے لئے اسقدر اور بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہجرت مدینہ میں جان پر کھیلنا تھا اور ہجرت حبشہ میں جان کا بچانا، اس میں دین کا بڑھانا تھا۔ اس میں اپنی نماز روزہ کا بجالانا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا چھوڑ جانا۔ اس میں مارنا مرنا۔ اقربا سے رؤسا سے جہاد کرنا۔ اس میں اعدا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سلامت گزرنا؛ ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا ؛ غرض ہجرت حبشہ کوئی فضیلت قابل تعریف نہیں خصوصًا تعریف خداوندی۔

آیت السابقون میں ہجرت سے مراد صرف ہجرت مدینہ منورہ ہے۔

اسی لئے فریقین میں سے کسی نے اس ہجرت کو مصداق آیات تاکید ہجرت یا آیات فضائل ہجرت نہیں سمجھا اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت اور نیز آیات ہجرت مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد نازل فرمائی ہیں اور پھر اس آیت میں اور نیز اور آیات میں مہاجرین کے فضائل میں انصار کو پھر ذکر فرمایا اور سورۂ حشر میں مہاجرین کے حال میں لفظ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ بڑھایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ فضیلت ہی ہجرت کے لئے ہے جو انصار کی نصرت کے ہمدوش اور ان کے کام سے ہم آغوش ہے سو ایسی ہجرت اگر ہے۔ تو مدینہ منورہ کی ہجرت ہے حبشہ کی ہجرت میں نہ انصار تھے نہ نصرت تھی بہر حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہم کی سبقت ہجرت میں کچھ کلام نہیں۔

آیت ہجرت سے صرف رضائے الٰہی ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کا ایمان اور اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔

پھر اس سبقت ہجرت ہی کے سبب خداوند کریم یوں فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، سو اول تو یہی کفایت کرتا تھا کیونکہ رضا سے آگے کوئی مقام ارفع نہیں جب خدا ان سے راضی ہوا تو ان میں کمال ایمان بھی اس درجہ کو ہوگا کہ کہا نہیں جاتا، اور اعمال صالحہ بھی ان کے قرار واقعی صلح ہوں گے، سو اول تو موافق آیت وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا مرقومہ بالا کے ان کی مغفرت میں کلام کی گنجائش نہ رہی کیونکہ بزرگان مذکور سب کے سب غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔

دوام جنت کی خوشخبری سے بڑھ کر حسن خاتمہ کی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے

معہذا پھر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے جنتیں تیار کر رکھی ہیں پھر وہ بھی ہمیشہ کے لئے، اس پر بھی کوئی ان کی بزرگی میں شک کرے تو بجز اس کے نہیں ہوسکتا کہ بزرگی کے معنے اس کے نزدیک یہ ہوں کہ خدا اس سے ناخوش ہو اور اس کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہو، سو حضرات شیعہ جو ان بزرگواروں کی بزرگی میں کلام کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو اکثر بزرگ سمجھتے ہیں تو شاید اسی اصطلاح کے موافق سمجھتے ہیں لیکن اس صورت میں لازم آئے گا کہ حضرت امیر سے بھی دست بردار ہوں کیونکہ وہ بھی بشارت میں داخل ہیں۔ بہرحال ان اولیاء اللہ کے برا کہنے والے ان کو کیا کہتے ہیں۔ خدا کو جھٹلاتے ہیں۔ سو ان کا کافر یا فاسق کہنا، اپنا کافر یا فاسق کہنا ہے۔ آفتاب کو کوئی بے نور تبلائے تو وہ آفتاب کو کیا اپنی آنکھوں کو بے نور تبلاتا ہے۔

آیات فضائل صحابہ میں جو شبہات شیعہ پیش کرینگے۔ وہی بعینہ خارجی بھی حضرت علی کے بارے میں پیش کر سکتے ہیں

اس کے بعد اتنی اور گذارش ہے کہ بعضے ہٹ دھرم شاید یوں تکرار کریں کہ خدا پہلے راضی ہوگیا ہو، اور پھر جب حضرت امیر سے مخالفت کی ہو تو ناراض ہوگیا ہو اور ان کیلئے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو عذاب نہیں ہونے کا، بلکہ ہوسکتا ہے کہ اول عذاب ہولے اور پھر وہ جنتوں میں چلے جائیں تو اس کا جواب ہرچند قابل جواب نہیں خصوصاً شیعہ کے مقابلہ میں کیونکہ خوارج بھی بنسبت حضرت امیر کے اس قسم کی آیات میں بعینہ یہ احتمال پیدا کر سکتے ہیں

یہاں تک کہ جن آیات میں مغفرت کا ذکر آیا ہے اسے بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مغفرت ہو جو بعد عذاب کے ہو گی۔ لیکن نقل مشہور ہے کہ "حیلہ جو را تا بدر دروازہ باید رسانید"

صحابہ کے لئے قیامت میں رسوائی نہیں اور کفار اور فساق کے لئے رضائے الٰہی نہیں

اس لئے کہا جاتا ہے کہ اول تو سورۂ تحریم میں یوں ارشاد ہے يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ یعنی "جس روز کہ نہ رسوا کریگا اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں" سو ان کے ایمان میں تو شیعہ بھی کلام نہیں کر سکتے اس لئے کہ کلام اللہ موجود ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ یعنے اللہ راضی نہیں ہوتا کافروں سے بلکہ یوں بھی آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ یعنے اللہ راضی نہیں ہوتا فاسقوں سے سو جب خدا ان سے راضی ہوا تو ان کے رسول اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں تو کچھ شک نہ ہوا بلکہ اس بات میں بھی تردد نہ رہا کہ وہ ایک زمانہ میں (رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زمان حیات میں سے) صالحین میں سے تھے فاسق تک نہ تھے تو بیشک موافق وعدہ الٰہی کے وہ لوگ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کو معزز اور محترم رہیں گے۔ پھر عذاب آخرت کے کہ اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں کیا معنے۔ مگر شاید ان الٹوں سمجھ کے ماردن کے نزدیک یہی معنے عذاب کے ہوں دوسرے یہ کہ سورۂ انبیاء میں یوں ارشاد ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤى ۙ اُولٰۤئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۙ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۚ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

"حاصل اس کا یہ ہے۔ جنکے لئے ہمارے یہاں عمدہ مرتبہ مقرر ہولیے وہ اس دوزخ سے دور رہیں گے نہیں سنیں گے اس کی آہٹ تک اور وہ اپنی جی چاہتی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آدینگے انکو فرشتے یوں کہتے ہوئے یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔"

اب خیال کیجئے کہ جن سے خداوند کریم وعدہ فوز عظیم فرمائے اور تسلی آمیز کلام سے انکو اطمینان دلائے ایسوں کو مستحق عذاب جاننا نالائقوں کا کام ہے اور وعدہ کا پہلے سے مقرر ہونا آپ ظاہر ہے کہ ابھی سے وعدہ ہولیا اور وہیں وعدہ کے موافق تسلیاں ہولیں پھر ان کے لئے عذاب کا ہونا بے

اس کے نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ خدا اپنے وعدے سے ہٹ جائے؟ سو خدا تعالےٰ شیعان علی کی طرح سے تو ہے ہی نہیں نعوذ باللہ منہا کہ آج تقیہ کر کے سب کچھ کہہ لیا پھر وقت پر آنکھیں بدل لیں۔

صحابہ کے مشاجرات نہ کفر تھے نہ فسق کیونکہ دونوں رضا کے منافی ہیں | اس تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محاربہ یا شکر رنجی نہ موجب کفر ہے جیسے اکثر شیعہ کہتے ہیں نہ موجب فسق نہیں تو خدا لوگوں سے کیوں راضی ہوتا اس لئے کہ وہ خود فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَرْضٰی عَنِ الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَرْضٰی عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ بلکہ انکار امامت حضرت امیر بھی موجب کفر و فسق نہیں کیونکہ تمام جماعت مہاجرین و انصار نسوا دو چار آدمیوں کے سب ان کی امامت کے شیعوں کے نزدیک منکر تھے اور اسی کی موید نہج البلاغت میں جو اصح الکتب شیعہ ہے حضرت امیر سے دوبارہ محاربہ امیر معاویہ یوں مروی ہے اَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ اِخْوَانَنَا فِی الْاِسْلَامِ عَلٰی مَا دَخَلَ فِیْہِ مِنَ الزَّیْغِ وَالْاِعْوِجَاجِ یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اس سبب سے لڑتے ہیں کہ اسلام میں کچھ کجی کی باتیں داخل ہو گئی ہیں" اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ منکر امامت حضرت امیر اور ان سے لڑنے والے کافر نہیں اور امیر معاویہ باوجود اس مخالفت اور انکار امامت کے چنانچہ سب کو معلوم ہے حضرت امیر کے نزدیک مسلمان ہی تھے اب اگر شیعہ مذہب کو تھامنا چاہیں تو ان روایات کی تغلیط اور تکذیب کریں جن سے محاربات صحابہ اور مشاجرات ان کے حضرت امیر کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ نہیں تو یہی کریں کہ کلام اللہ میں سے ان آیات کو بن پڑے تو اڑا دیں۔ آخر حضرت عثمان نے حضرت امیر کے استحقاق امامت کے مخفی کرنے کے لئے گیارہ ہزار آیتوں کے قریب اڑا دیں حالانکہ واجبات کا مخفی کرنا سخت گناہ ہے شیعہ تو بزعم خود نیک ہی کام کرینگے اور جب حضرت امیر سے لڑنا اور ان کی امامت کا انکار تک موجب کفر و فسق نہوا حالانکہ امامیہ کے نزدیک مثل شہادتین اقرار امامت حضرت امیر بھی جز اثالث ایمان ہے تو اور گناہ جو اس سے کمتر ہیں وہ کاہے کو موجب کفر و فسق ہوں گے اس صورت میں حضرت امیر معاویہ اور ان کے اصحاب بھی اس طعن سے شیعوں کے عقائد کے موافق بری ہونے چاہئیں۔

بہرحال آیت السابقون نے شیعوں کو جواب دندان شکن سنایا نہ یہ بن پڑے ہے

کہ اصحاب ثلثہ وغیرہم مذکورین کی نسبت یوں کہیں کہ وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے کیونکہ یہ آیت سورۂ توبہ میں ہے اور سورہ توبہ کل ایک دو برس پہلے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نازل ہوئی ہے یہ سب صاحبان مکہ میں مسلمان ہو لئے تھے نہ اس کی گنجائش کہ لفظ باحسان ہی کو ملے یا نہ ملے دھینگا دھینگی سے مہاجرین اور انصار کے ساتھ ملا کر کچھ باب گفتگو کشادہ کریں، کیونکہ اتبعوھم کے متعلق ہے اور پھر وہ جملہ ہے اور جملہ بھی موصولہ ماقبل تک کیونکر لے جائیں؟

عقیدۂ تفضیل ائمہ پر آیت اعظم درجۃ کی ضرب کاری | معہذا طرفہ تماشا یہ ہو گیا کہ اس آیت اور دو تین دوسری آیتوں کے وسیلے سے جو اس آیت کے ذیل مذکور ہوئیں سنی اصحاب ثلثہ کیا بلکہ تمام مہاجرین اور انصار کا ایمان ثابت کر کے امامیہ کے ایک اور عقیدہ کو خاک میں ملا سکتے ہیں وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ سب کے سب امتیوں سے تو کیا انبیاء سے افضل ہیں اور وجہ اس عقیدہ کی پامالی کی یہ ہے کہ سورۂ توبہ ہی میں (ان صحابہ کے حق میں جو ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی اور جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد بھی کیا) یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور امتیوں سے اعلےٰ ہے پھر اس میں کچھ تخصیص امام اور غیر امام کی نہیں تو معلوم ہوا کہ سوائے حضرت علی کے اور ائمہ اطہار اس رتبہ کو بھی نہ پہنچے تھے جو ان صحابہ کا ہے۔ نبی کا رتبہ تو درکنار تسکین خاطر کے لئے وہ آیت مرقوم ہے۔

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَھَاجَرُوْا وَجٰھَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ بِاَمْوَالِھِمْ وَاَنْفُسِھِمْ اَعْظَمُ دَرَجَۃً عِنْدَ اللّٰہِ وَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الْفَآئِزُوْنَ یُبَشِّرُھُمْ رَبُّھُمْ بِرَحْمَۃٍ مِّنْہُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّھُمْ فِیْھَا نَعِیْمٌ مُّقِیْمٌ خٰلِدِیْنَ فِیْھَآ اَبَدًا اِنَّ اللّٰہَ عِنْدَہٗٓ اَجْرٌ عَظِیْمٌ

یعنی جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے وطن چھوڑ دیا اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا وہ سب میں بڑے درجہ والے ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں ان کا، اپنی رحمت اور اپنی رضامندی اور باغوں کی جن میں ان کے لئے دوام کی نعمت ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے کیوں نہ ہو اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔

باب عقیدۂ بدا کی تفصیل میں!

بدا کی پر خار وادی اور علمائے شیعہ کا اضطراب اب حضرات شیعہ سے بجز اس کے کچھ نہیں بن پڑتی کہ یا تو حق بول اٹھیں یا یہ موافق مثل مشہور الضرورۃ تبیح المحظورات بحکم ضرورت پھر مذہب قدیم کی طرف رجوع کریں اور یوں کہیں کہ ہمیں کلام اللہ سے وہی ثابت ہوتا ہے جو سنیوں کا مطلب ہے لیکن خدا کا کیا اعتبار؟ جیسے اور بہت سے امور میں۔ (ہمارے عقیدہ کے موافق آج کوئی مانے یا نہ مانے) خدا کو بدا واقع ہوا ہے صحابہ کی شان میں اور سنیوں کے حق میں اور کلام اللہ کی حفاظت میں بھی بدا واقع ہوا، پہلے یوں ہی ارادہ ہو جیسا کلام اللہ میں فرمایا بعد میں رائے بدل گئی ہو اور یہی معنے بدا کے ہیں۔

بدا کے ایک معنی چنانچہ نظام الدین جیلانی نے جن کو آج کل کے شیعہ شاید منافق تبلاتے ہیں رسالہ علم الہدیٰ فی تحقیق البدا میں لکھا ہے یُقَالُ بَدَا لَہٗ اِذَا ظَھَرَ لَہٗ رَاْیٌ مُّخَالِفٌ لِلرَّاْیِ الْاَوَّلِ یعنی کہا کرتے ہیں کہ فلانے کو بدا واقع ہوا جب اس کو پہلی رائے کے مخالف کوئی دوسری رائے سوجھے، ملا نظام الدین جیلانی مذکور اسی رسالہ میں لکھتا ہے کہ شیخ ابو جعفر طوسی اور شیخ ابو الفتح کراجکی کا بھی بدا کے معنوں میں یہی مذہب ہے اس لئے کہ شیخ طوسی نے عدہ میں اور شیخ کراجکی نے کنز الفوائد میں یہی تحقیق کی ہے۔

بدا کے دوسرے معنی مگر شریف مرتضٰے نے ذریعہ میں جو کچھ تحقیق کرکے لکھا ہے (اور طبرسی کے کلام میں سے بھی کچھ اسی کی بو آتی ہے) وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں معنی قولنا بدا للہ تعالیٰ اَنَّہٗ ظَھَرَ لَہٗ مِنَ الْاَمْرِ مَا لَمْ یَکُنْ ظَاھِرًا یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کو بدا ہوا تو اس کے یہ معنے ہیں کہ خدا کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ پھر اس کے بعد ملا نظام الدین لکھتے لکھتے یوں لکھتا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ خدا کو اشیاء نو پید کا علم ان کے وجود کے بعد حاصل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی تحقیق لکھتا ہے۔ اور وہ تحقیق دوسرے معنوں پر منطبق آتی ہے وہ یہ ہے کہ خبر میں بھی بدا ہوتا ہے یعنی یوں بھی کبھی ہوتا ہے کہ آئندہ بات کی خبر دی کہ یوں ہوگی اور وہ اس طرح نہ ہو۔

بدا کے تیسرے معنی اب سنئے کہ متاخرین امامیہ کو کچھ بدا کے باب میں بھی ہوش آئی ہے

اور سنیوں کے اعتراضوں کو سن سنا کر کچھ فکر آبرو ہوا ہے۔ اس لئے بات بدل کر اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ بات فقط خاص اس علم میں ہوتی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں کرتے، اور جو علوم کہ انبیاء کو بھیجے جاتے ہیں۔ اس میں خدا جھوٹ نہیں بولتا سو اگر اس بات پر امامیہ جم جائیں تو سنیوں کی طرف سے ان کو مرحبا اور آفرین اس صورت میں کلام اللہ کی بات تو باون تولے پاؤ رتی کی ہوگی۔ پھر ہمیں کیا ضرورت کہ بدا کے عذر کی وجہ سے کسی اور طرح سے اثبات مدعا کریں۔

مگر مانتے ہیں ملا نظام الدین کو کہ سنیوں کے طعن اٹھانے اور مذہب کے بٹا لگجانے سے گھبرائے مذہب کو سنبھالا، اور متاخرین کی نہ مانی اس تخصیص میں جو متاخرین بنسبت علم مخصوص کے کرتے تھے ان کی تکذیب کی اور بہت سی روایات احادیث مذہب شیعہ نقل کرکے متاخرین کی بات کو خاک میں ملا دیا اور کیوں نہ ملاتے آخر شیعوں میں بڑے محقق ہیں، یہی وجہ ہوئی کہ اس باب خاص میں رسالہ لکھا معہذا اس کا کہنا بھی سچ ہے۔ جھوٹ بولنا تو جب ہو جب خدا جان بوجھ کر کچھ کا کچھ کہدے اور جب نعوذ باللہ خدا ہی کو غلط معلوم ہو تو پھر خدا کا کیا قصور؟ جو متاخرین کہتے ہیں کہ خدا اپنے دوستوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔

بدا کی تین قسمیں بالجملہ ان سب روایات سے جو محقق مذکور نے اثبات مدعا کے لئے نقل کیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدا کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو بداء العلم یعنی خدا نے پہلے سے کچھ جان رکھا تھا مگر بعد میں حقیقت الامر کچھ اور معلوم ہوئی دوسرے بداء الارادہ یعنی پہلے کچھ ارادہ تھا پھر یوں معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں، تیسرے بداء الامر یعنی پہلے کچھ حکم دیا۔ پھر بعد ازاں یوں معلوم ہوا کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی۔ اس حکم کو بدل کر دوسرا ایسا حکم جس میں وہ نقصان نہ ہو بلکہ مصلحت وقت معلوم ہوتی ہو۔ صادر فرمائیں۔

بدا اور نسخ میں ایک شبہ کا ازالہ یہ معنی آخر خوب ذہن نشین رکھنے چاہئیں ایسا نہ ہو کہ نسخ سے مشتبہ ہو جائیں کیونکہ نسخ حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ ایک حکم کا

زمانہ آخر ہو جائے اور دوسرے حکم کا زمانہ آجائے۔ مثلاً رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ جب عید ہوئی وہ زمانہ آخر ہوا اور افطار کا زمانہ آگیا، اسے یوں نہیں کہتے کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی اس لئے موقوف کیا گیا، بلکہ وہ حکم اسی زمانہ تک تھا، اس کے بعد دوسرے حکم کا زمانہ آگیا۔ اتنا فرق ہے کہ کہیں پہلے سے زمانہ کی مقدار کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال مذکور میں اطلاع ہے اور کہیں نہیں ہوتی وقت ہی پر ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت عیسٰے علیہ السلام کی شریعت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تھی یہ بات سوائے خداوند کریم کے کوئی نہیں جانتا تھا ـــــ اور جو کوئی جانتا بھی تھا۔ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ زمانہ کس وقت آئے گا۔ القصہ بدا فی الامر جسے شیعہ بدا فی التکلیف کہتے ہیں اور ہے اور نسخ اور ہے بدا کی یہ صورت ہے کہ رمضان کے مثلاً روزے رکھنے کا حکم دیا اور جب تک کوئی نقصان اس میں معلوم نہ ہوتا تھا اور اسی لئے جب تک یوں نہ ٹھیرایا تھا کہ یہ حکم فلاں وقت تک رہے گا۔ پھر یکایک یہ سوجھی کہ مصلحت وقت اس کے خلاف میں ہے اس لئے اس کو بدل دیا

بدا کی تینوں قسمیں ایک دوسرے کو لازم ہیں | جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اس ہیچمدان کی گذارش بھی سنئے کہ درصورت بدا فی التکلیف کے واقع ہونے کے بدا فی الارادہ بھی جسے بدا فی التکوین بھی کہتے ہیں لازم ہوگا کیونکہ بدا فی الارادہ تو اسے ہی کہتے ہیں کہ بسبب کسی مصلحت تازہ کے پہلے ارادہ سے پلٹ جائیں تو جب مصلحت ہی کے لحاظ سے حکم بدلا گیا۔ تو پہلا ارادہ جو اس حکم کی ہمیشگی کا تھا وہ آپ بدلا گیا اور اسی طرح بدا فی الارادہ کو بدا فی العلم جسے بدا فی الاخبار بھی کہتے ہیں لازم ہے اس لئے کہ ارادہ تو نئی مصلحت کے معلوم ہونے پر بدلتا ہے۔ پھر جب مصلحت تازہ معلوم ہوئی تو لازم یہ بات صحیح ہوئی کہ جو علم اب حاصل ہوا وہ پہلے نہ تھا اور جو پہلے تھا وہ اب غلط معلوم ہوا۔ اسی کو بدا فی العلم کہتے ہیں۔

سو اگر شیعوں میں سے کوئی بدا فی الامر اور بدا فی الارادہ کا تو قائل ہو اور سنیوں کے سامنے بدا فی الاخبار سے مکر جائے تو یہ مکر جانا پیش نہ جائے گا حاصل کلام یہ ہے کہ شیعوں کے

نزدیک مسئلہ بدا مجمع علیہا ہے اگر وہ آیات مذکورہ کے دباؤ سے سنیوں سے دامن چھڑانے کو یوں کہنے لگیں کہ اگر تم اپنے پیشواؤں کی بزرگی کلام اللہ سے ثابت کرتے ہو تو ہم نے مانا کلام اللہ میں ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو لیکن کلام اللہ کا نعوذ باللہ کیا اعتبار؟ خدا کی رائے گھڑی گھڑی بدلتی رہتی ہے اور نعوذ باللہ غلط صحیح رطب یابس سب اس کے کلام میں ہوتا ہے ہمارے ائمہ کو البتہ علم ما کان مایکون تھا ان کے اقوال سے اگر ان کی بزرگی ثابت ہو۔ تو بیشک ہم تسلیم کر لیں۔

عقیدۂ بدا کے نتائج (۱) چاردہ معصوم کی مغفرت مشکوک | اس صورت میں ہمیں بھی یوں لازم ہے کہ شیعوں کی اس حجت کو بھی ختم کر دیں اس لئے سامعہ خراش اہل انصاف ہوں کہ اگر یہی بدا ہے تو اوّل تو ہمیں چاردہ معصوم کی مغفرت میں کلام ہے نعوذ باللہ اور شیعوں کا تو کیا ذکر۔؟ جیسے اصحاب کرام سے وعدہ ہائے مغفرت کر کے بعذر بدا پھر گئے اگر حضرات ائمہ کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی ہو تو فرمایئے اماموں کا خدا پر کیا دباؤ ہے؟ خاص کر یہ بہانہ بھی موجود ہو کہ ان کے تقیہ اور نامردہ پن نے تمام دین کا ستیاناس کر دیا۔

امام آخر الزماں کی طویل روپوشی اندیشناک ہے | پھر پسر امام آخر الزماں نے تو نعوذ باللہ یہ ستم ڈھائے ہیں کہ باوجودیکہ دوست دشمن کی خبر ہے یہ بالیقین معلوم ہے کہ تمام ملک ایران میں مخلصان شیعہ سالہا سال سے منتظر زیارت اور مشتاق ملازمت بیٹھے ہیں۔ جان و مال فدا کرنے کو تیار ہیں ادھر ہندوستان میں روز بروز ترقی تشیع ہے امام کے انتظار میں مرے جاتے ہیں۔ اگر حسب حال ان کے یہ شعر کہا جائے تو بجا ہے۔

اے اشتیاق رویت دلہا کباب کردہ ❊ سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ

معہذا اپنی موت اپنے اختیار میں ہے اور پسر یہ معلوم کہ میں فلانے وقت سے پہلے نہ مروں گا باوجود اس فراہمی اسباب اور انتظار اجاب کے خدا جانے کیا نامردانہ پن ہے کہ روز بروز زیادہ ہی چھپتے جاتے ہیں اور باہر نہیں آتے اگر خدانخواستہ کچھ اندیشہ ہوتا تو کیا ہوتا رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل تین سو تیرہ ہی آدمی مجتمع ہونے پائے تھے جو جہاد شروع کر دیا پھر وہ بھی بزعم شیعہ اکثر منافق اور منافق بھی نہیں تو ایسے مخلص بھی نہ تھے جیسے امامیہ

زمانہ امام زماں سے اخلاص و محبت رکھتے ہیں اور مخلص نہ تھے جبھی تو شہادت امامت حضرت پسر چھپائی بلکہ خلافت اور سوا اس کے اور حقوق اہل بیت دبا بیٹھے بہرحال جائے حیرت ہے کہ باینہمہ سامان وامن و اطمینان غیبت امام کا انتہا ہی نہیں کہیں اماموں کی بنسبت ماکان ومایکون کے عالم ہونا غلط ہے؟ یا شیعوں کی دوستی غلط؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے ایک دوستی کی آڑ میں ہزار عیب اماموں کے ذمے لگاتے ہیں چنانچہ کچھ کچھ تو اس رسالہ کے دیکھنے والوں کو بھی واضح ہوجائے گا۔

پسر امام کو امام بنانے میں بھی شاید خدا سے بدا واقع ہوگیا ہو الحاصل امام زماں باینہمہ انتظار احباب اور فراہمی اسباب ادھر بھی ہر طرح سے بے اندیشہ غار سرمن رائے سے باہر تشریف نہیں لاتے اور دین محمدی اور امت احمدی کی خبر نہیں لیتے کہ کس گمراہی میں پھنسی ہوئی ہے دین ابوبکر بجائے دین محمدی اور بیاض عثمانی بجائے کلام ربانی دوازدہ امام کے بدلے ابوحنیفہ شافعی اور اس گمراہی سے زیادہ اور کیا گمراہی ہوگی جس کا انتظار رہوگا الغرض اماموں کو تو یہی عذر تھا کہ ہم بے بس و بیکس ہیں امام زماں جو باہر تشریف نہیں لاتے تو ان کو کیا عذر ہے درصورتیکہ بدا کو ہم تسلیم کرلیں تو توجیہ اس بے انتظامی دین کی امامیہ کے عقائد کے موافق بجز اس کے سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا سے دوازدہ امام کے مقرر کرنے میں ٹرک چوک ہوئی ابوبکر عثمان کو مقرر کرنا تھا جو دین کو رونق دیتے اور بے انتظامی نہونے دیتے۔ القصہ امامیہ سے بجز اس کے اور کچھ توجیہ بن نہیں پڑتی ہاں اگر اس کے قائل ہوجائیں کہ خدا کے ذمہ یہ واجب نہیں کہ جو بندہ کے حق میں اصلح ہو اسے کیا کرے تو البتہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ یعنی خدا سے کوئی یوں نہیں پوچھ سکتا کہ یوں کیوں کیا اور خدا سب سے پوچھ سکے ہے کہ تم نے یوں کیوں کیا۔

امام زماں کو شاید بدا کی وجہ سے خدا معزول کرچکا ہو بہرحال عجب نہیں جو بدا واقع ہوا ہو اور امام زماں کی معزولی کا حکم صادر ہوچکا ہو اور شاید یہی وجہ ہے کہ تخمین سے زیادہ امام کو غیبت میں گذری اور یہ جو امامیہ کے ذہن نشین ہے کہ ابوبکر عمر وغیرہم آخر زمانہ میں پیدا کیے جائیں گے یہ بالکل غلط نہ ہو بلکہ امام زماں کو معزول کرکے شاید ان کو پھر نئے سرے سے پیدا کرکے

مامور کریں پر امامیہ نے باتباع خداوندی اس بات میں غلطی کھائی ہو کہ وہ سزا دینے کے لیے پیدا کیے جائیں گے خیر یہ بات تو شاید شیعوں کو ناگوار ہو۔

عقیدۂ بدا کا استیصال قرآن مجید سے سو بپاس خاطر شیعہ اس بات سے اعراض کرکے یوں ملتمس ہوں کہ اگر خدا سے چوک ہوتی ہے تو انبیاء سے تو نہ ہوتی ہوگی اور اتنا ہم جانتے ہیں کہ شیعہ بھی کہیں گے کہ خدا اخبار گذشتہ میں بھی غلطی کھاتا ہے کیونکہ یہ تو صاف جھوٹ ہے جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کے قصے میں جو جناب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بہت پہلا قصہ ہے حضرت موسیٰ کا مقولہ فرعون کے سوال کے جواب میں یوں نقل فرماتا ہے لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى یعنی حضرت موسےٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب نہ چوکے ہے نہ بھولے ہے اس آیت کو غور کیجئے کیا ارشاد کرتی ہے؟ حضرت موسےٰ علیہ السلام کو تو ہم جانتے ہیں شیعہ بھی یوں نہ کہیں گے کہ وہ چوک جاتے تھے یہ برائی تو اس فرقہ کے پیشواؤں نے خدا ہی کے لئے رکھ چھوڑی ہے ورنہ لازم آوے گا کہ معصوم بھی خطا کرے پھر یہ طعن جو سنیوں پر کرتے ہیں کہ ان کے امام اور خلیفہ معصوم نہ تھے حالانکہ امام اور خلیفہ کو چاہیئے کہ معصوم ہو خطا نہ کرے ورنہ حق اور باطل کی تمیز محال ہوجائیگی۔ اور جو غرض کہ ان کے مقرر کرنے سے ہوتی ہے یعنے احکام شریعت معلوم ہونا اور ان کا عمل درآمد ہونا وہ حاصل نہ ہوگی سو اب یہ طعن کس منہ سے کرینگے۔

قواعد عقائد شیعہ کی رو سے خدا سے خطا ممکن معصوم سے ناممکن الغرض قواعد عقائد شیعہ سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ خدا سے گو خطا ہو جائے پر معصوم سے خطا نہو۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بالاتفاق معصوم تھے انہوں نے جو یہ فرمایا کہ میرا رب نہ بہکتا اور چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے تو اس میں تو ہرگز احتمال غلط نہیں اور خدا نے جو یہ قصہ نقل فرمایا تو ایک قصہ گزشتہ ہے کچھ آئندہ کی بات نہیں جو بدا فی الاخبار کی گنجائش ہو پھر کیا معنی کہ خدا بہک جائے کچھ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ عقل و حواس میں اختلال آگیا ابوبکر عمر ہرچند صاحب رعب اور مرد باہیبت تھے مگر نہ اتنے کہ خداوند کریم کے بھی عقل و حواس میں فرق آجائے یا سوا اس کے اور کچھ سبب ہے نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا ایک سنیوں کے الزام کے لئے

خدا کی عظمت بھی تو ہاتھ سے دے بیٹھے۔ فدک چھینا تھا تو ابوبکر نے چھینا تھا۔ اد
قرطاس ددوات کو نہ لانے دیا تو عمر نے نہ لانے دیا۔ ان پر تبرا کیا تو کیا خداوند کریم کو جوان۔۔
برائیوں میں سان لیا تو کیا اسی سبب سے کہ باوجود یکہ نصر المظلوم حق (یعنی مظلوم کی مددگاری
حق) ہے اور پھر مظلوموں کی مددگاری نہ کی خیر خداوند کریم ان بیباکوں کا منھ سیاہ کرے کہ سخت
بے ادب ہیں اور جس لائق یہ ہیں انہیں وہاں ہی پہنچائے، بالجملہ کلام اللہ میں بدا کو بیخ وبنیاد
سے اکھاڑ دیا ہے۔

بدا کا عقیدہ رکھنے والوں کے لئے حضرت جعفر کی بددعا اور اگر شیعہ خدا کا اتنا بھی اعتبار نہ کریں
اور اخبار گزشتہ میں بھی غلطی فہم کے احتمال سے نعوذ باللہ اس بات کے طالب ہوں کہ
ہم کلام اللہ کی گواہی پر بدا سے انکار نہیں کرتے جبتک کہ کلینی کی کوئی حدیث اس باب میں نہ
ہو تو کلینی کی حدیث بھی لیجئے

فی الکافی عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللہ قال منصور سَأَلْتُهُ هَلْ يَكُونُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللّٰهِ قَالَ لَا مَنْ قَالَ هٰذَا فَاَخْزَاهُ اللّٰهُ قُلْتُ اَرَئَيْتَ مَاكَانَ وَمَاهُوَكَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ۔

کلینی کافی میں منصور بن حازم سے روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی چیز ایسی بھی ہوئی کہ کل خدا کو معلوم نہ تھی اور آج ہوگئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں، جو یہ کہے خدا اسے رسوا کرے پھر میں نے پوچھا کہ تو بتلائیے جو ہو لیا اور جو ہونیوالا ہے قیامت تک، کیا خدا کو معلوم نہ تھا۔؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں خلق کے پیدا کرنے سے پہلے معلوم تھا۔"

اس روایت سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ بدا ایک عقیدہ غلط ہے۔
کیوں کہ بدا کی آیتوں میں جو تحقیق گذرچکی اس سے صاف ثابت ہے کہ بدا یے اس کے ہو ہی نہیں
سکتا کہ کوئی نیا علم پیدا ہو، دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بدا کے قائلوں
کے لئے بددعا فرمائی، سو حضرات شیعہ کو ہماری طرف سے بھی مبارک باد۔ یہ ساری خرابیاں کلام اللہ
سمجھنے کی ہیں اور ان کا بھی کیا قصور؟ اپنی روایتوں کے معنوں کو نہیں سمجھتے اگر سمجھ ہوتی

تو پہلے انہیں ہی سمجھتے۔ کلام اللہ تو سنیوں کا ہے۔

حق واضح ہونے کے بعد ماننا ضروری ہے پھر کسی اور بات کا انتظار حماقت ہے اس وقت لازم یوں ہے کہ
منشا اس غلطی کا بیان کیا جائے تاکہ مزید اطمینان ہوجائے اور ناظرین کو یہ خلجان باقی نہ رہے
کہ تمہارے وہی پیش قاضی آئی راضی، محرر رسالہ کے طمطراق کی باتیں فقط سنکر ہم یوں کیونکر
بدا سے دست بردار ہوں ہمارے علماء شیعہ بھی تو آخر کسی وجہ ہی سے کہتے ہوں گے جب تک ان
کی نہ سن لیں تسلی نہیں ہوتی۔ ہرچند یہ عذر اس قبیل کا ہے کہ مشہور ہے "عذر گناہ بدتر از گناہ"
کیونکہ جب کسی آدمی کو کسی وجہ سے حق واضح ہوجائے تو پھر اسے اس کا کیا انتظار کہ دوسروں کی
بھی سن لوں اگر کوئی شخص قریب شام کے درودیوار پر دھوپ دیکھے یا خود آفتاب کو بچشم خود
دیکھے اور دوسرا پردہ میں بیٹھا ہوا گھڑی گھنٹے کے وسیلے سے یوں کہے کہ دن چھپ گیا تو آفتاب
کا یا دھوپ کا دیکھنے والا کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو اور گھڑی سے وقت کا بتلانیوالا کتنا ہی علامہ
روزگار اور حساب میں پرکار کیوں نہ ہو لیکن تس پر بھی آفتاب یا دھوپ کے دیکھنے والے کو دن
کے یقین ہونے میں اس کا انتظار نہ ہوگا۔ کہ میں اس کی تو سُن لوں کہ جو گھڑی کے وسیلے سے
رات بتلاتا ہے۔

اسی طرح جب یہ بات خوب واضح ہوگئی کہ بروئے کلام اور نیز بروئے احادیث شیعہ
بدا غلط ہے پھر اس کا کیا انتظار ہے کہ بدا کے قائلوں کی بات بھی سن لینی چاہیئے بلکہ ایسے
وقت میں مناسب یوں ہے کہ جیسے آفتاب کا بچشم خود دیکھنے والا باوجود جاہل ہونے کے
بے تامل یوں سمجھ جاتا ہے کہ گھڑی والا ہرچند محاسب اور بڑا ہوشیار ہے اس کے علم
میں کچھ شک نہیں لیکن اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اس کی گھڑی بگڑی ہوئی ہے یا اس
وقت اتفاق سے بمقتضائے بشریت کچھ غلطی ہوگئی ہے ایسے ہی بدا کی غلطی کا سمجھنے والا بھی بے
تامل مان اٹھے کہ ہرچند قائلین بدا بڑے بڑے عالم اور فاضل تھے لیکن تاہم آدمی تھے۔
غلطی کھاگئے نہ اس آیت پر انہیں دھیان ہوا كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا یعنی اللہ ہمیشہ سے
علیم ہے اس کا علم کچھ اب پیدا نہیں ہوتا اور نہ آیت مذکورہ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى ان
کے خیال میں گذری اور نہ حدیث کلینی کا کچھ خیال کیا بلکہ ادب کی بات تو یوں ہے کہ یہ کہیئے

ان لوگوں کو کلام اللہ تو یاد نہ تھا کیونکہ یہ تو سنیّوں کا کام ہے۔ کلینی بعد میں تصنیف ہوئی۔ معہذا ان کا کیا قصور؟ سب جانتے ہیں "دروغ گورا حافظہ نباشد" القصہ یہ عذر کہ شیعوں کی دلیلیں معلوم ہونی چاہئیں (یہ عذر بعد کلام اللہ اور حدیث مذکور کے جن کے معنوں میں کچھ تاویل نہیں ہو سکتی اور خدا کے علم کے قدیمی ہونے پر مثل آفتاب روشن کے گواہی دیتی ہیں) عقلا کے نزدیک قابل سماعت نہیں۔

بدا جیسے واہی عقیدے کی غلط بنیادیں مگر با اینہمہ بپاس خاطر مولوی عمار علی صاحب یہ معروض ہے کہ منشاء غلطی شیعہ اس قسم کی آیتیں ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا حاصل یہ کہ خدا نے موت حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کونسا تم میں اچھے عمل والا ہے سو اس آیت سے اور ایسی ہی مضمون کی اور آیتوں سے علماء شیعہ کو یوں دھوکہ پڑا کہ امتحان اور آزمائش تو وہاں ہوتی ہے جہاں حقیقت امر پہلے سے معلوم نہیں ہوتی پھر تسیر یہ تماشا ہوا کہ ایک جگہ خداوند کریم یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس آیت کے مضمون کو جو پہلی آیت کے مضمون سے ملا کر دیکھا تو علماء شیعہ کو بجائے خود اس بات کا یقین ہو گیا کہ خدا کو پہلے سے تو حقیقت الامر خوب معلوم تھی ہی نہیں یونہی اٹکل اور رائے سے ایک بات مقرر کر رکھی تھی سو اس میں جہاں کہیں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے اسے بدل دیتے ہیں اور یہی معنے بدا کے ہیں۔ الحاصل اس وجہ سے شیعوں کے نزدیک عقیدہ بدا مستحکم ہو گیا اور یہ غلطی جو اول کسی کو بوجہ کوتاہی عقل کے پڑی تھی خوب مضبوط ہو گئی اور کیوں نہ ہو۔

بے استاد کی ٹھوکریں بے استاد ہمیشہ خراب رہتا ہے اگر یہ ہر ان کلام اللہ کی کفش برداری اختیار کرتے تو اس آیت کے معنوں میں ایسے کیوں بہکتے مگر یہ فرقہ تو ایسا کم نصیب ہے کہ کلام اللہ کے جاننے والوں کے دلی دشمن ہیں جناب من "ہر کارے ہر مردے" صحابہ کرام جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ کلام وہ سمجھتے تھے۔ پھر جو ان سے مستفید ہو گا وہ کلام اللہ کو سمجھیگا یا شیعہ سمجھیں گے۔؟

ابتلاؤ امتحان سے مقصود خداوندی تبلیغ حجت ہے نہ کہ تحصیل علم اگر آیت لِيَبْلُوَكُمْ سے یہ بات نکالی ہے کہ

خدا کو پہلے کسی چیز کے پیدا ہونے کے علم اس کا نہیں ہوتا ہے تو اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اس وقت تو ضرور ہی ہو جاتا ہے چنانچہ اول تو شیعہ اس کے قائل ہی ہیں معہذا کلام اللہ میں بیسیوں جگہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ موجود ہے۔ یعنی خداوند کریم جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے پہلے پیدا ہونے سے تو ہم نے مانا، نہیں دیکھتا تھا لیکن یہ تو فرمائیے کہ بعد پیدا ہونے کے بھی کیا کچھ اس میں تامل باقی ہے؟ نور آفتاب خدا کا محتاج نہیں شمع چراغ کی اس کو ضرورت نہیں آگے پیچھے ہونا اس کے نزدیک سب یکساں ہے کیوں کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ یعنے اللہ ہر چیز کو محیط ہے القصہ بعد وجود اشیاء کے ان کے پیش نظر ہونے میں کچھ شک نہیں اور پھر با اینہمہ بھول جانے کا اندیشہ نہیں کیونکہ سورہ طٰہٰ میں لَا يَنْسٰى موجود ہے یعنی خدا بھولتا نہیں پھر کیا ضرورت ہوئی کہ کرام کاتبین مقرر کئے گئے؟ اور حساب کتاب قیامت کو ہونا ضرور پڑا اور نامہ اعمال در صحیفہ ہائے کردار بنی آدم لکھے گئے جو علماء شیعہ اس کا جواب دینگے وہی ہماری طرف سے نوازش فرما کر قبول فرمالیں۔

اگر یوں جواب دیں کہ ہر چند خداوند عالم الغیب کو ہر لکھی چھپی بڑی چھوٹی چیز کی خبر ہے لیکن شوکت اور عظمت اور حکمت خداوندی کے مناسب یہی ہے کہ یہ سارا کارخانہ برپا ہو تو ہمیں تسلیم پر یہی جواب ہمارا ہے اور اگر شیعوں کو نسبت نامہائے اعمال اور حساب کتاب اور ہاتھ پاؤں کی گواہی کے جو قیامت میں ہوگی یہ عذر ہے کہ یہ سب تعلیم بنی آدم کے لئے ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ امتحان خداوندی بھی تعلیم بنی آدم کے لئے ہے۔

باقی کسی کو ہاتھ پاؤں کی گواہی اور حساب کتاب اور وزن اعمال میں شک ہو تو یہ کلام اللہ کی آیتیں موجود ہیں آیت يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ جس کا یہ حاصل ہے کہ فلانے لوگوں کو اس روز عذاب ہو گا۔ جس روز ان کی زبان ہاتھ پاؤں ان پر گواہی دینگے اور آیت قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ یعنے قیامت کو جب کفار کے کان آنکھیں کھالیں ان کے کرتوت کی گواہی دینگے تو وہ ان کو ملامت کرینگے سو اس کا بیان ہے کہ کہیں گے کفار اپنی کھالوں کو کہ تم نے کیوں ہمارے حق میں بری گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ جس خدا

نے سب کو بلایا تھا اور بولنا سکھایا تھا اسی نے ہمیں بھی بلایا۔

اور سوا اس کے اور بہت سی آیتیں وزن اعمال پر اسی طرح دلالت کرتی ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ یعنی تول اس دن ٹھیک ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ حاصل اس کا یہ ہے کہ رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ حاصل یہ ہے کہ جس کے اعمال تول میں بھاری ہوں گے ان کی اچھی گزران ہوگی، ایسی ہی حساب کے مقدمہ میں کثرت سے آیتیں وارد ہیں منجملہ ایک دو لکھے دیتا ہوں اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ خواہ ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ خدا حساب ضرور لے گا وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ یعنی جو کوئی منکر ہوگا اللہ کے حکموں سے تو اللہ حساب شتاب لینے والا ہے الغرض ان باتوں سے انکار نہیں ہو سکتا اور ہمیں کسی سے کیا کام امامیہ اور اثنا عشریہ سے غرض ہے سو وہ منکر ہی نہیں اہل سنت اور وہ دونوں ان باتوں کے ایمان میں متفق ہیں زیدیہ اسمٰعیلیہ ہوتے تو یوں بھی سہی۔

الحاصل جو کچھ شیعہ تجویز فرمائیں ہمیں کچھ دریغ نہیں اگر وہ یوں کہیں کہ بنی آدم کی حجت ختم کرنے کے لئے حساب کتاب وغیرہ ہے ورنہ کچھ حاجت نہ تھی تو ہماری طرف سے بھی یہی جواب معروض خدمت ہے بلکہ اس کے ساتھ میں الٹا شکرانہ ہم سے لیں کہ ہمیں ان آیات کے معنے کی تحقیق میں تخفیف ہاتھ آئی غرض بہر حال چشم ما روشن دلِ ما شاد ،، صلاح ما ہمہ آنست کاں صلاح شما است ،،

امتحان لبغرض قطع حجت کی ایک قرآنی مثال

اور کسی مثال سے سمجھنا مد نظر ہے تو ایسی مثال لیجئے جسے مولوی عمار علی صاحب بھی مان جائیں الٓمٓ کا پہلا سیپارہ تو شیعوں کو غالباً یاد ہو؟ نہیں تو قریب یاد کے ہوگا کیونکہ اکثر دستمال اطفال رہتا ہے چہ جائیکہ بڑے بوڑھے عالم فاضل، سو پہلے سیپارہ میں رکوع وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ میں کچھ یہ بیان ہے کہ جناب باری تعالے نے فرشتوں سے حضرت آدم کے زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر دی تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ آدم اور آدم کی اولاد کو زمین میں خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد کریں اور خونریزیاں

مچائیں حالانکہ ہم اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں۔ آپ کی تسبیح ہم کرتے ہیں آپ کی تقدیس میں ہم مشغول رہتے ہیں تو اس کے جواب میں سر دست تو جناب باری تعالے نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مگر ان کی حجت قطع کرنے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام یا حقیقت تعلیم فرما کر پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام یا حقیقت دریافت کئے۔ اور فرمایا کہ اگر تم دعوائے استحقاق میں سچے ہو تو ہمارے سوال کا جواب دو چونکہ فرشتوں کو معلوم نہ تھے تو انہیں بجز یوں کہنے بن پڑی کہ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ حاصل اس کا یہ کہ الٰہی تو پاک ہے ہمیں تو جتنا تو نے تبلادیا اسکے سوا اور کچھ معلوم نہیں تو ہی اسرار کا جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔

جب ان سے نہ تبلایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو انہیں ان چیزوں کے نام تبلادے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام تبلادیئے تو خداوند کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان زمین کی لکی چھپی باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہیں۔ برائے خدا علماء شیعہ اس قصہ میں غور فرمائیں یہ امتحان فرشتوں اور حضرت آدم کا جو لیا۔ تو کیا اس لئے لیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیقت الامر معلوم ہو جائے یا فرشتوں ہی کی حجت قطع کرنے کے لئے؟ درصورتیکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے اپنے سوال کا جواب تبلا چکے ہوں اور فرشتوں کو نہ تبلایا ہو، تو کسی نادان کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جناب باری تعالیٰ کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون استحقاق رکھتا ہے کون نہیں ہو جیسے یہ امتحان فقط فرشتوں کی حجت قطع کرنے کے لئے اور ان کے اعتراض کو اپنے ذمہ سے اٹھا دینے کے لئے تھا ایسے ہی یہ امتحان جو لِيَبْلُوَكُمْ یا اور اسی مضمون کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے تو فقط اسی لئے ہے کہ بنی آدم بوجہ حسد ایک دوسرے کے درجہ بڑھانے پر خدا کے ذمہ ناانصافی کی تہمت نہ لگانے لگیں اور ان کو گنجائش گفت وشنود اور جائے اعتراض وانکار جو ان کی جبلت میں رکھی ہوئی، باقی نہ رہے۔

بعثت انبیاء اور تکالیف شرعیہ کی وجہ بھی قطعِ حجت بنی آدم ہے

اور واقعی اس حکم احکام کے قصہ اور رسولوں اور انبیاؤں کے بھیجنے کے سلسلہ کی وجہ اور حکمت یہی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ملائکہ باینہمہ عصمت اور فرمانبرداری کے جو آیت لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَآ اَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ سے جس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں" ثابت ہوتی ہے خدا کی بات میں دخل دے بیٹھے اور بوجہ حسد بنی آدم اعتراض کر گذرے۔ بنی آدم تو بنی آدم ہیں پھر باوجودیکہ گناہوں سے ان کا خمیر ہے ان کی شان میں یہ تعریف بھی آئی ہے وَکَانَ الْاِنْسَانُ اَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا۔ یعنی انسان سب میں زیادہ جھگڑالو ہے پھر اگر خداوند کریم موافق اپنے علم ازلی کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسےٰ علیہ السلام کو جنت میں اور ابوجہل اور فرعون کو دوزخ میں داخل کر دیتا تو ابوجہل اور فرعون کاہے کو ٹھنڈے چولھے بیٹھتے اعتراض پر اعتراض کئے جاتے اور اپنے استحقاق جنت کے دعوے میں کیا کیا کچھ نہ کرتے اسی لئے خداوند کریم علیم حکیم نے کلام اللہ میں اکثر مواقع میں وجہ اس سلسلہ ہدایت کی بھی بیان فرمائی ہے تسکین خاطر ناظرین کے لئے ایک آیت گذارش کرتا ہوں۔

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَکُمُ الْعَذَابُ بَغْتَۃً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ یّٰحَسْرَتٰی عَلٰی مَا فَرَّطْتُّ فِیْ جَنْۢبِ اللّٰہِ وَاِنْ کُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِیْنَ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰہَ ھَدٰىنِیْ لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ اَوْ تَقُوْلَ حِیْنَ تَرَی الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِیْ کَرَّۃً فَاَکُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ بَلٰی قَدْ جَآءَتْکَ اٰیٰتِیْ فَکَذَّبْتَ بِھَا وَاسْتَکْبَرْتَ

حاصل اس کا یہ ہے کہ "چلو بہتر بات پر جو تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو کہیں کہنے لگے کوئی جان ہائے افسوس میں نے قصور کیا اللہ کے مقدمہ میں۔ اور میں ہنستا ہی رہا کوئی کہنے لگے اگر اللہ مجھکو بتاتا تو میں متقی ہوتا۔ یا کوئی کہنے لگے جب دیکھے عذاب کسی طرح مجھکو پھر جانا ملے تو میں نیکی والوں میں سے ہو جاؤں کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تجھکو میرے حکم۔ پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا۔ اور تو کافروں

وَکُنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ۔ ... میں سے تھا۔

دوزخی اور جنتی پہلے ہی سے طے ہیں

یہاں تک ترجمہ تھا اب اس آیت کے مطالعہ کرنیوالے فرمائیں کہ یہ جو حکم ہوا کہ خدا نے جو تمہاری طرف عمدہ بات نازل کی ہے اس کا اتباع کرو اور اس پر چلو خدا نے اس کی کیا وجہ فرمائی ہے بجز اس کے اور بھی کچھ ہے کہ یہ اندیشہ تھا کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ خدا اگر مجھے راہ بتلاتا تو میں متقی پرہیزگار ہوتا اور یہ اندیشہ جب ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے پہلے تجویز کر رکھا ہو کہ اس کو دوزخ میں پہنچائیں گے اس کو جنت میں سو اسی تجویز کے موافق اگر کاربند ہوتے اور جس کو برا بھلا جیسا سمجھ رکھا تھا اس کے مناسب اسے جگہ دیتے تو بیشک دوزخی بھی اپنا استحقاق جتاتے اور دعوے اپنی بھلائی کا کر کے کہتے کہ ہمارا امتحان کیوں نہ لیا۔ ہمکو راہ دکھائی ہوتی ہم بے شک متقی اور پرہیزگار نکلتے، بعینہٖ اَکُنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ فرمایا اور کَفَرْتَ نہ فرمایا عربیت میں جو مہارت کَمَا یَنْبَغِیْ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کَفَرْتَ فرماتے تو یہ معنے ہوتے کہ جب آیات آئیں اور ان کا انکار کیا تب کافر ہو گیا۔ پہلے سے نہ تھا اور اب یہ معنے ہیں کہ ازل سے تیرا چہرہ کافروں میں اور نمک حراموں میں لکھا ہوا تھا سو تو موافق اس لکھے ہوئے ہی کے نکلا باوجودیکہ ہماری آیات تیرے پاس آئیں پھر تو نے انہیں نہ مانا۔ اور الٹا غرور کیا۔

ایسے ہی سورہ اعراف میں ہے اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اِنَّا کُنَّا عَنْ ھٰذَا غٰفِلِیْنَ یعنی عہدِ الست جو لیا گیا۔ تو فقط اسی لئے کہ تم عذاب کے وقت یوں نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ القصہ چونکہ صورت حال بنی آدم سے چنانچہ مذکور ہوا اعتراض اور جھگڑا ٹپکتا تھا جناب باری تعالےٰ نے یہ امتحانِ اعمال مقرر کر دیا۔ تاکہ ان کی حجت منقطع ہو جائے اور کل کو غل نہ مچائیں اور نا انصافی کی تہمت نہ لگائیں اسی لئے ان کے سنانے کو فرماتے ہیں لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجٰھِدِیْنَ مِنْکُمْ وَالصّٰبِرِیْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَکُمْ حاصل یہ نکلا کہ اگر تم کو ہماری طرف سے بدگمانی ہے ورنہ یوں سمجھتے ہو کہ خدا کو کیا معلوم کون اچھا ہے کون برا ہے آزما کے دیکھا

تو ہوتا جو اچھے برے کا فرق معلوم ہوتا، ورنہ فقط اٹکل سے کسی کو برا بھلا سمجھ لینا۔ اور پھر اس کے موافق دوزخ و جنت میں داخل کر دینا کار انصاف نہیں تو اب ہم بھی امتحان ہی لیں گے تاکہ معلوم تو ہو کون بھلا ہے کون برا ہے کون مجاہد ہے کون صابر ہے غرض یہ امتحان قطع حجت بنی آدم کے لئے ہے خداوند علیم کو تحصیل علم مد نظر نہیں۔

اَخْبَارَکُمْ کے تفسیری فوائد

چنانچہ دوسری آیت میں جو لفظ اَخْبَارَکُمْ ہے وہ بھی باآواز بلند اس بات پر شاہد ہے کہ خداوند علیم پہلے سے بیخبر نہیں اچھے برے نیک و بد سب کے حال سے خبردار ہے کیونکہ اس صورت میں حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ ہم کو جو تمہاری حقیقتوں کی خبر ہے اور تم کو اس میں شک ہے ہم بھی اسے جانچیں گے اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ خدا کو پہلے سے ہر چیز کی خبر ہے بھلے اور برے کو جانتا ہے ایسا نہیں جیسا امامیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے خدا کو جب ہی خبر ہوتی ہے چنانچہ ملا نظام الدین جیلانی کے حوالے سے اوپر گذر چکا لیکن بنی آدم کی حجت قطع کرنے کے لئے یہ سارا بکھیڑا کیا جیسے فرشتوں کے ساکت کرنے کے لئے سوال جواب مذکور کی نوبت پہنچائی ورنہ جیسے خداوند کریم پہلے سے جانتا تھا کہ حضرت آدم خلافت کے لائق ہیں اور فرشتوں میں وہ بات نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام میں ہے ایسے ہی ازل سے جنتیوں کا جنت کے لائق ہونا اور دوزخیوں کا دوزخ کے لائق ہونا خداوند کریم اس طرح جانتا تھا جس طرح ہم تم لکڑیوں کا چولھے کے لائق ہونا اور روٹی کا کھانے کے قابل ہونا سمجھتے ہیں سو اگر خداوند کریم علم ازلی کے موافق جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہونچا دیتا تو کچھ ظلم نہ تھا۔ لیکن بنی آدم کا جھگڑا پلے بندھا تھا فرشتوں نے تو کیا تکرار کیا تھا جو یہ کرتے؟ اس لئے یہ سارے کارخانے اور امتحان مقرر کئے۔

جیسے بعض جگہ بالاتفاق ماضی سے مجازاً مستقبل مراد ہے اسی طرح بعض جگہ مستقبل سے بھی ماضی مراد ہے

اب بفضلہ تعالے وہ دھوکہ جو بوجہ آیات امتحان علماء شیعہ کو واقع ہوا تھا مرتفع ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ کلام اللہ یوں سمجھا کرتے ہیں نہ یہ کہ ایک آیت کو لے گئے اور جو کچھ فی الفور سمجھ میں آ گیا اس پر جم گئے اور یہ نہ دیکھا کہ اور آیات سے مل کر اس آیت کے کیا معنے ہوتے ہیں اگر یہی تفسیر دانی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ علماء شیعہ کل کو وَنَادیٰ اَصْحَابُ الْجَنَّۃِ اَصْحَابَ النَّارِ اور وَنَادیٰ

اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ اور وَنَادیٰ اَصْحَابُ النَّارِ وغیرہا اس قسم کی آیات کے معنوں میں فرمانے لگیں گے کہ یہ سب قصے ہو چکے ہیں۔ اس لئے کہ قطع نظر ان آیات اور احادیث کے جن سے قیامت کا آئندہ کو ہونا ثابت ہوتا ہے سر دست ان آیات کے یہی معنے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ باتیں سب ایام گذشتہ کے افسانے ہیں کیونکہ نَادیٰ ماضی کا صیغہ ہے جب تلک یوں نہ کہیں کہ جو چیز ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں کچھ شک نہیں ہوتا اسے عرف میں یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ کہ ہو ہی چکی چنانچہ جو شخص لب مرگ ہوتا ہے اسے کہا کرتے ہیں اس میں کیا رہا ہے مر ہی چکا۔

جب تلک ان آیات کے معنے اور آیات کے موافق نہ ہوں گے ادنے سے ادنے عربی خوان بھی یوں جانتا ہے کہ باعتبار لغت کے وَنَادیٰ اَصْحَابُ الْجَنَّۃِ اَصْحَابَ النَّارِ کے یہ معنے ہیں کہ ندا کی جنتیوں نے دوزخیوں کو اب تلک دوزخ اور جنت میں گیا ہی کون ہے جو یہ سوال اور جواب ہونے لگے البتہ یہ سب سرگذشتیں بروز قیامت ظہور میں آئیں گی، چنانچہ سیاق اور سباق سے ظاہر ہے اور نیز امامیہ اور اثنا عشریہ بھی یہی فرماتے ہیں سو جیسے ان الفاظ کو بقرینہ دیگر آیات اپنے معنی حقیقی یعنی زمانہ ماضی سے پھیر کر معنے مجازی یعنی زمانہ مستقبل مراد لیتے ہیں ایسے ہی اگر لَنَبْلُوَنَّکُمْ وغیرہ کلمات کو جو زمانہ مستقبل پر دلالت کرتے ہیں ان آیات کے قرینے سے جن سے خداوند علیم کے علم کا قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے اپنے معنے اصلی یعنی زمانہ مستقبل سے پھیر کر زمانہ ماضی مراد لیں تو کیا گناہ ہے؟

حوادثِ آئندہ یقینیہ کو ماضی اور وقائع ماضیہ مخفیہ کو مجازاً مستقبل سے تعبیر کرنا صحیح ہے اسکی مثال

اور تصحیح مجاز کی وجہ درکار ہو تو سنئے جیسے امور آئندہ میں سے ان امور کو جن کا آئندہ کو واقع ہونا یقینی ہوتا ہے بایں وجہ کہ ان کا تحقق ضروری اور یقینی ہے الفاظ ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں ایسے ہی امور گذشتہ میں سے ان امور کو جن کا تحقق اور وقوع اور ان کا وجود ایک نوع سے مخفی ہو اور باینہمہ ان کا اثر بھی ہنوز ظاہر نہ ہوا ہو، تو بایں لحاظ کہ ایسے امور کا ہونا نہ ہونا اکثر اثر کے ہونے نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے الفاظ مستقبل سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں مثال کی ضرورت ہو تو سنئے کہ اگر کوئی بیمار بوجہ امتداد مرض اور شدت بیماری ندحب

فراش ہو جاوے یعنی چارپائی کا سوار بن جاوے۔ اور پھر شانی مطلق اس بیمار کو ایک دفعہ ہی شفا عطا فرمائے تو ظاہر ہے کہ وہ طاقت رفتہ مرض کے جاتے ہی نہ آجائے گی، بلکہ آہستگی تورفتہ رفتہ آئے گی ہو اگر بمجرد زوال مرض عطار وغیرہ قرض خواہ اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگیں تو وہ مرد ضعیف و نقیہ اگر مفلس ہوتا ہے تو باوجود اطلاع اس امر کے کہ میرا مرض زائل ہو گیا اور میں اچھا ہو گیا اکثر یہی جواب دیتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں تو کہیں سے فکر کر کے آپ کا حق پہونچاؤں۔

یا فرض کرو بیمار کو تو زوال مرض کی اطلاع نہ ہو، چنانچہ اکثر ہوتا ہے پر طبیب کامل آثار و دلائل سے اس کی صحت سے مطلع ہو کر خواستگار انعام ہو اور بیمار بسبب بقائے آثار مرض مثل نقاہت وغیرہ کے اعطائے انعام میں متردد ہو تو طبیب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اچھا جب تم اچھے ہو جاؤ گے جبھی دینا۔ سو جیسے طبیب یا مریض مذکور بایں لحاظ کہ اب تک ظہور اثر صحت کچھ نہیں ہوا یعنے طاقت نہیں آئی صحت کو جو واقع ہو چکی بمنزلہ غیر واقع سمجھکر صیغہ استقبال سے تعبیر کرتا ہے۔

ایسے ہی جناب باری بھی اپنے اس علم قدیم کو (کہ صحابہ مجاہد و صابر ہیں اور اعداء صحابہ فاسق و فاجر، اصحاب کرام بوجہ سعادت ازلی اور شرافت لم یزلی اور خوبی ذاتی اور کمال صفاتی اس لائق ہیں کہ ان سے اچھے کام لئے جائیں۔ اور اس کے ثمرہ میں کمالات کسبی دیئے جائیں اور اعداء صحابہ بسبب شقاوت ازلی اور رذالت لم یزلی اور زبونی ذاتی اور نقصان صفاتی اس قابل ہیں کہ ان سے برے کام لئے جائیں اور اس کی پاداش میں ان کے قلوب سیاہ کئے جائیں بایں نظر کہ قبل تکلیف اعمال اس علم پر کوئی ثمرہ متفرع نہیں ہوا اور اس کا اثر یعنی اچھے برے کاموں کا ان سے لینا ہنوز ظاہر نہیں ہوا) بایں خیال کہ بہت سے نابکاروں کو خدا کے اس علم کے صحیح ہونے میں ایسا تردد ہے جیسا بیمار مذکور کو قول طبیب میں، اگر بصیغہ استقبال بیان فرمائے تو شیعوں کو اس قدر حیرت کیوں ہے۔؟

ازلی سعادت و شقاوت کی عام فہم مثال | رہی یہ بات کہ یہ فرق نیک و بد ازلی اور خلقی ہے کسبی اور عارضی نہیں سو یہ ہر چند ایک دقیق ہے۔ لیکن اہل فہم کے نزدیک یہ فرق بعینہ ایسا ہی جیسا

ذکی و غبی اور حلیم و خونخوار اور بخیل و سخی اور شجاع و نامرد، عالم و جاہل کا فرق ہے جیسے بادشاہان عاقل عالم سے کار علم اور جاہل سے کار جہل لیتے ہیں ایسے ہی جناب باری بھی ہر کسی سے اسی کے لائق کام لیتا ہے۔

تینوں زمانے مجتمعۃً موجود ہیں فنا نہیں ہوئے | بلکہ تحقیق تو یوں ہے کہ زمانہ تمامہ ازل سے لے کر ابد تک ایک شے موجود ہے نہ زمانہ ماضی فنا ہوا اور نہ زمانہ آئندہ معدوم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی یوں کہے اِنَّ زَیْدًا قَائِمٌ یعنی زید قائم ہے تو بمجرد اس کلام کے سننے کے ہر کوئی یہ سمجھ جاتا ہے کہ زید موجود ہے اور اس کا یہ حال ہے اور ظاہر بھی تو ہے کہ کوئی حال تو جب ہو کہ جب وہ خود پہلے ہو لے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو گذارش یہ ہے کہ قیامت کے باب میں جو وقائع آئندہ میں سے ہے خداوند کریم یوں فرماتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ خدا سچا ہے کہ اِنَّ السَّاعَۃَ آتِیَۃٌ یعنی بیشک قیامت آنے والی ہے یا دوسری جگہ یوں فرماتا ہے اِنَّ زَلْزَلَۃَ السَّاعَۃِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یعنی بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، سو موافق قاعدہ مذکورہ کے ہم بھی یونہی سمجھتے ہیں کہ قیامت بالفعل موجود ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ ہماری طرف آنے والی ہے۔ اور وہ بہت بڑی چیز ہے اور ہم اس پر بے تکرار ایمان لاتے ہیں اور چون و چرا نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی نیم ملا یوں چون و چرا بھی کرے۔ کہ بہت اوصاف ایسے ہیں کہ ان سے اس چیز کا وجود معلوم نہیں ہوتا جس کا وہ وصف ہوتا ہے مثلاً کوئی یوں کہے کہ فلانا مر گیا یا فلانا معدوم ہو گیا۔ تو ہر چند یہ شبہ قابل جواب نہیں اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ باتیں اوصاف نہیں بلکہ اوصاف کا نہ ہونا ہے۔ لیکن سلمنا یوں کہنا کہ فلانی چیز آنے والی ہے یا فلانی چیز بڑی ہے یہ تو ایسی نہیں جن سے ہونا معلوم نہو بلکہ یہ باتیں تو کو دونوں کے نزدیک بھی وجود ہی پر دلالت کرتی ہیں سو در صورتیکہ یہ اوصاف وجود پر دلالت کرتے ہوں ہم قیامت کے بجائے خود موجود ہونے میں کیوں تامل کریں اور یوں جب مقرر ہو چکا تو ہم ایک اور بھی التماس کرتے ہیں کہ جیسے قیامت آنے والی ٹھیری اور وہ اس وصف کے قرینے سے موجود معلوم ہوئی تو زمانہ گذشتہ بشہادت تمام عالم گذرنے والا ہے اسی واسطے اس کا نام گذشتہ رکھا گیا۔ معہذا جب قیامت وغیرہ

اجزائے زمانہ متحرک ٹھیرے تو ایک روز ہم تک پہونچکر گذر بھی جائے گی اور یوں کہنا کہ فلانا شخص جاتا ہے وجود پر دلالت کرنے میں کچھ اس سے کم نہیں کہ یوں کہئے کہ فلانا شخص آتا ہے اور جب دونوں طرفیں زمانے کی گذشتہ اور آئندہ برابر بجائے خود موجود نکلیں۔

سب زمانے احاطۂ خداوندی میں ہیں۔ تو موافق فرمودۂ باری تعالے اعنی آیہ اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیط سارا زمانہ اول سے لے کر آخر تک احاطۂ خداوندی میں داخل ہوا سو احاطۂ خداوندی کے جو کچھ کوئی معنے لے ہمیں کچھ انکار نہیں کم سے کم یہ معنے تو ضرور ہوں گے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے جیساکہ دوسری آیت بعینہٖ اسی معنے پر دلالت کرتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے اِنَّ اللّٰہَ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ یعنے اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس صورت میں کیفیت سارے زمانہ کے وجود کی باوجود اس روانگی کے کہ ایک جزآتا ہے اور ایک جاتا ہے ایسی ہوگی جیسے اجزاء آب رواں کہ سب کے سب بجائے خود موجود ہیں۔ لیکن جب اگلے اجزاء گذر جاتے ہیں تب پچھلے آتے ہیں۔

اور خدا کے پیش نظر اور معلوم ہونے کی ایسی مثال سمجھئے جیسے کوئی لب دریا جاکر کھڑا ہو کہ ادھر سے ادھر تک تمام دریا کا پانی اور جو جو اس پانی کے اندر ہوتا ہے حباب یا خس و خاشاک اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور اس کو سب ایک شے واحد نظر آتا ہے گو اجزاء آب اور جو کچھ ان میں ہے باہم مقدم اور موخر ہیں

ماضی و مستقبل بھی خدا کے لئے حال کا حکم رکھتے ہیں مگر باہم مقدم موخر ہیں

الغرض اجزاء زمانہ اور جو کچھ زمانے میں واقع ہوتا ہے سب کا سب تمامہا خداوندکریم کے پیش نظر ہے اور سارا مجموعہ اس کو بمنزلہ شے واحد معلوم ہوتا ہے اور مَّا سب کے سب اس کو یکساں نظر آتے ہیں اس کے حساب سے سب زمانہ حال کا حکم رکھتے ہیں مگر آپس میں ایک دوسرے کی نسبت مقدم اور موخر گنے جاتے ہیں اور فرق حال اور استقبال اور ماضی کا بہ نسبت ایک دوسرے کے ہے۔ سو جیسے کوئی کسی مکان میں ہوتا ہے تو اس کے سوا جو مکان کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو آگا کہتے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اسے پچھا کہتے ہیں، ایسے ہی جس زمانہ میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے پہلے زمانہ کو بہ نسبت اس کے ماضی کہتے ہیں اور اس کے اگلے

زمانہ کو بہ نسبت اس کے مستقبل اور خاص اس زمانہ کو جس میں وہ چیز ہوتی ہے اس کی نسبت زمانہ حال کہتے ہیں سو ہرچند خداوندکریم کے پیش نظر ہونے میں اور اس کے سامنے موجود ہونے میں سب یکساں ہیں لیکن باہم مقدم اور موخر ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت ماضی اور مستقبل اور حال ہے

کلام الٰہی میں ماضی و حال و استقبال کے استعمال کی ترتیب

سو خداوندکریم کبھی تو موقع دیکھ کر بلحاظ اپنے معلوم ہونے اور اپنے پیش نظر ہونے کے کلام کرتا ہے اور کبھی مناسب وقت ان وقائع کے تقدم اور تاخر کا لحاظ ہوتا ہے پہلی صورت میں تو ہمیشہ ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے اور دوسری صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی اور حال کے موقع میں حال اور استقبال کی جگہ استقبال اور باوجود سب کے یکساں پیش نظر ہونے کے ماضی کا صیغہ جو استعمال کرتے ہیں اور حال کا لفظ نہیں بولتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی فعل کے صدور اور حدوث سے خبر دینی مدنظر ہوتی ہے اور کبھی اس فعل کے استمرار وجود کی خبر۔ سو جن افعال کی خبر دیتے ہیں وقت خبر جو وہ حاضر ہوتے ہیں تو باعتبار استمرار وجود کے حاضر اور پیش نظر متکلم ہوتے ہیں ورنہ باعتبار صدور اور حدوث کے وقت خبر حاضر نہیں رہتے بلکہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ صدور اور حدوث آنی ہے زمانی نہیں اور قبل وجود کسی فعل کے جو اس فعل کی خبر دی جاتی ہے تو وہ لاجرم بصیغہ استقبال ہونی چاہیے غرض حدوث کے لئے صیغہ حال ممکن نہیں یا لفظ ماضی ہوگا یا لفظ استقبال اگر قبل حدوث کسی وجہ سے مطلع ہو کر خبر دینگے تو بصیغہ استقبال خبر دینگے اور بعد حدوث معائنہ کر کے خبر دینگے تو بصیغہ ماضی خبر دینگے، حال جب ہو سکتا تھا کہ حدوث بھی مثل استمرار یعنی حاصل مصدر زمانی ہوتا آنی نہوتا۔ بہرحال نسبت علم خداوندی کے سب بمنزلہ حال کے ہے۔ سو جہاں کہیں وقائع آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان کیا ہے جیسا وَنَادٰی اَصْحٰبُ الْجَنَّۃِ یا اور سوا اس کے تو وہاں علت اس کی یہ ہے کہ خدا کو سب مستحضر اور پیش نظر ہے اور جہاں امور گذشتہ میں صیغہ استقبال کا مذکور ہے۔ جیسا حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِیْنَ یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وغیرہ تو وہاں یہ مدنظر ہے کہ بہ نسبت اپنے ماقبل کے مستقبل ہے۔

وقائع عالم قدیم نہیں ہوسکتے کیونکہ مستمر نہیں

اس بحث کو اہل انصاف سے ملاحظہ فرمائیں اور پھر فرمائیں کہ یہ ہیچمداں ہر چند دیوانہ ہے لیکن کسقدر ٹھکانے کی بات کہتا ہے مگر برائے خدا ذرا سوچ سمجھکر دیکھیں مبادا اپنی جلدی میں میرے ذمے یہ تہمت نہ لگا دیں کہ فلانے رسالے والا وقائع عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے تنبیہ کے لئے میں ابھی سے کہے دیتا ہوں کہ کسی واقعہ کے قدیم ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ اس کا استمرار وجود یعنے حاصل بالمصدر بقدر تمام زمانہ من اولہٖ الی آخرہ ہو یعنے ازل سے لے کر ابد تک اس کا استمرار وجود موجود ہو اس سے قدم ثابت نہیں ہوتا کہ ایک زمانہ محدود الطرفین پر منطبق ہو اگرچہ وہ زمانہ قطع نظر حرکت لازمہ کے بذات خود ایک شے مستقر ہو۔ یعنے مثل حرکات ایسا نہ ہو کہ ایک جز حادث ہوا تو ایک فانی ہو گیا اللّٰھُمَّ اَنْتَ الھادی لا ھادی الا انت

حصول علم کے دو طریقے بالواسطہ و بلا واسطہ

اور اگر کوئی عقل کا پورا اس تقریر میں کچھ الجھنے لگے اور اس طریق سے مطلب تک پہنچنا اس کو دشوار معلوم ہو تو ایک دوسرا طریق جس کی بہ وضاحت خدا کے علم کا قدیم ہونا اور ان آیات کا بھی بلا تکلف اس پر مطابق آجانا ثابت ہو جائے۔ جو درج اوراق ہیں پر توجہ خاطر ناظرین ضروری ہے۔ اپنے علوم کے تجسس کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمکو علم اشیا دو طریق سے حاصل ہوتا ہے ایک تو بے واسطہ دوسرا بواسطہ لوازم یا بواسطہ ملزومات، مثلاً آفتاب کا یا دھوپ کا علم کبھی تو بے واسطہ ہوتا ہے آنکھ سے دیکھا معلوم ہو گیا اور کبھی بواسطہ ہوتا ہے آفتاب کا علم دھوپ کے وسیلہ سے یا دھوپ کا علم آفتاب کے وسیلہ سے، اگر آدمی گھر میں ایسی جگہ بیٹھا ہو جہاں سے آفتاب نظر نہ آتا ہو پر دھوپ نظر آتی ہو تو دھوپ کے وسیلہ سے معلوم ہو جائیگا کہ آفتاب آسمان پر نکلا ہوا ہے سو یہ علم جو آفتاب کا حاصل ہوا تو بواسطہ لازم حاصل ہوا اور اگر آفتاب کو صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھیں اور یوں سمجھیں کہ چھت پر دھوپ ہوگی تو یہ دھوپ کا علم بواسطہ ملزوم حاصل ہوا علٰے ہٰذا القیاس آگ اور دھوئیں کے علم کو سمجھئے کہ کبھی بے واسطہ حاصل ہوتے ہیں جیسے آگ کو یا دھوئیں کو خود آنکھ سے دیکھ لیا کبھی بواسطہ یک دیگر ہوتا ہے مثلاً دھوئیں کو دیوار کے پیچھے سے دیکھ کر آگ کو سمجھ جانا یا دور سے جہاں چراغ کا دھواں نظر نہ آتا ہو چراغ کے

شعلہ کو دیکھ کر دھوئیں کو جان لینا۔

اکثر ایک چیز کا علم بواسطہ اور بیواسطہ دونوں ساتھ آتے ہیں

لیکن ایک شے کے علم بے واسطہ کو اس کا علم بواسطہ بھی بشتر لازم ہوتا ہے اور دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا مثلاً آگ کو قریب سے دیکھئے تو دھواں بھی اس کے ساتھ ہی نظر آئے گا سو اس صورت میں آگ کا علم دو طرح حاصل ہو سکتا ہے ایک تو بے واسطہ کیونکہ آنکھ سے خود نظر آتی ہے دوسرا دھوئیں کے واسطے سے کیونکہ اگر آگ نظر نہ آتی۔ اور دھواں ہی نظر آتا تو بیشک آگ کا علم حاصل ہوتا سو درصورتیکہ آگ بھی نظر آئی تو بطریق اولےٰ آگ کا علم دھوئیں کے واسطے سے ہونا چاہیئے اور ظاہر بھی تو ہے اب دھوئیں میں کیا کمی آگئی ہے جو دلالت نہ کرے۔

کبھی علم بواسطہ علم بے واسطہ میں محو ہو جاتا ہے کہ اس کا خیال بھی نہیں رہتا

بلکہ غور سے دیکھئے تو تلازم جس سے علم بالواسطہ حاصل ہوتا ہے اسی صورت سے معلوم ہوتا ہے مگر آگ کا علم جو بواسطہ دھوئیں کے اس صورت میں حاصل ہوتا ہے ہر چند علم بے واسطہ ہی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے لیکن علم بے واسطہ میں ایسا مضمحل اور محو ہے کہ اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور کسی کو اس طرف دھیان بھی نہیں گذرتا اس کی ایسی مثال ہے کہ دن کو ستاروں کا نور بھی ہوتا ہے مگر آفتاب کے نور میں ایسا محو ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا۔

کبھی دو چیزوں کا علم بے واسطہ یا ایک کا بواسطہ دوسری کا بیواسطہ کبھی اکٹھے ہی حاصل ہو جاتے ہیں

جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی کہ ایک شے کا علم بیواسطہ اور بواسطہ بسا اوقات دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں ایسا ہی یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے کہ کبھی دو چیزوں کا علم بے واسطہ بھی ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے مثلاً آگ کو اور دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھئے علیٰ ہٰذا القیاس ایک شے کا علم بے واسطہ اور دوسری شئے کا علم بواسطہ پہلی شے کے واسطے سے کبھی اکٹھے ساتھ ہی حاصل ہوتے ہیں مثلاً دھوئیں کا علم بے واسطہ اور آگ کا علم بواسطہ دھوئیں کے واسطے سے اور ایسے ہی آگ کا علم بے واسطہ اور دھوئیں کا علم بواسطہ آگ کے واسطہ سے دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور اکثر کچھ تفاوت نہیں ہوتا جو ایک کو یوں کہیں کہ یہ علم تو فلانی ساعت میں حاصل ہوا

اور یہ علم اس سے پہلی ساعت یا اس کے بعد کی ساعت میں حاصل ہوا۔

بے واسطہ اور بواسطہ حاصل ہونے والے علم الٰہی میں کوئی تقدم تاخر نہیں

لیکن تاہم عقل کے نزدیک ایک ترتیب ہے کہ اس کی رو سے مقدم موخر کہہ سکتے ہیں یعنی ایک شے کے علم بیواسطہ کو دوسری شے کے علم بالواسطہ سے جو بواسطہ پہلی شے کے حاصل ہوتا ہے عقل ایک طرح سے مقدم سمجھتی ہے یعنی ہر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ دوسری شے کا علم اس صورت میں پہلی شے کے علم پر موقوف ہے سو جیسا ہاتھ میں کسی چیز کو لے کر ہلایئے تو گو وہ چیز ہاتھ کے ساتھ ہی ہلتی ہے لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ اول ہلتا ہے ایسا ہی اس صورت میں گو دونوں چیزوں کا علم برابر ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس کا علم بے واسطہ ہے بہ نسبت اس کے علم کے جس کا علم اسی کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے مقدم گنا جاتا ہے اور جیسا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کو اس لئے ہلایا تاکہ وہ چیز ہلے جو ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ کو اس لئے دیکھا تاکہ آفتاب بھی معلوم ہو جائے۔

کلام الٰہی میں ماضی و حال علم بیواسطہ سے تعبیر ہے اور استقبال علم بالواسطہ سے

جب یہ تمام مقدمات ذہن نشین ہو چکے۔ تو اب التماس یہ ہے کہ خداوند کریم کے علم کو اگر قدیم کہیئے تو حتّٰی نعلم وغیرہ کے استقبال میں کچھ فرق نہیں آتا اور حتّٰی نعلم وغیرہ کے استقبال سے اس کے علم کے قدیم ہونے میں کچھ تفاوت نہیں پڑتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خداوند علیم کو ہر چیز کا علم دو طرح سے حاصل ہے بے واسطہ اور بواسطہ یکدیگر، کیونکہ تمام موجودات کے ساتھ لوازم لگے ہوئے ہیں، سو جیسا لوازم اور ملزومات دونوں کا علم بیواسطہ اسے حاصل ہے ایسا ہی لوازم کا علم ملزومات کے واسطہ سے، ملزومات کا علم لوازم کے واسطہ سے بھی اسے حاصل ہے اور دونوں ازل سے برابر ساتھ ہیں۔ گو علم بالواسطہ کسی چیز کا اسکے علم بے واسطہ میں محو او مضمحل ہو، اور ایسا ہی کسی چیز کا علم دوسری چیز کے علم کے واسطہ سے اور اس دوسری چیز کا علم برابر ساتھ ہی ازل سے خداوند لم یزل کو حاصل ہیں اور دونوں قدیم ہیں مگر کسی چیز کے علم بالواسطہ کو بہ نسبت اس چیز کے علم کے جسکے واسطہ سے یہ علم حاصل ہوا ہے۔ موخر گنیں گے اور یہ علم بہ نسبت اس علم کے مقدم سمجھا جائے گا۔ سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یا معنے استقبال کے پائے جاتے ہیں وہ باعتبار علم بالواسطہ کے ہے ورنہ باعتبار زمانہ کے کچھ تفاوت نہیں اور جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں

علم بے واسطہ مراد ہے۔

بنی آدم کے علوم چونکہ بواسطہ ہیں اس لئے بصیغۂ استقبال (بواسطہ) تکلم فرمایا

اور باعتبار علم بالواسطہ کے کلام کرنے کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ کلام اللہ کے مخاطب آدمی ہیں اور تمام آدمی بلکہ تمام ذوی العقول کو اکثر چیزوں کا علم بالواسطہ ہی ہے بیواسطہ نہیں۔ روح بنی آدم یا بنی آدم کے کمالات نفسانی جیسے سخاوت۔ شجاعت، خلق، مروت، اگر ہیں تو دل میں ہیں آنکھوں سے یا کانوں سے یا سوا اس کے اور حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہوتے ان کو اگر کوئی دوسرا معلوم کرتا ہے تو ان کے آثار اور لوازم سے معلوم کرتا ہے۔ سخاوت دینے دلانے سے جو ہاتھ کا کام ہے شجاعت مارنے مرنے سے۔ جو ہاتھ پانوں سے تعلق رکھتا ہے خلق شیریں زبانی سے جو زبان سے متعلق ہے معلوم ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس روح کا ہونا نہ ہونا دوسروں کو حرکات سکنات سے۔ جو بدن سے متعلق ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔

اگر علوم بے واسطہ سے تکلم فرماتے تو وہ بنی آدم پر حجت نہ ہوتے کیونکہ ان کے بس میں نہیں

اور جہاں کہیں جناب باری تعالےٰ نے اپنے علم میں صیغہ استقبال استعمال کیا ہے وہ ایسے ہی مور ہیں جو بنی آدم کو بے واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ سو ان سے باعتبار علم بے واسطہ کے اگر کلام کرتے۔ تو ان پر کچھ حجت نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ان کو الزام دے سکتے تھے۔ اس لئے الزام دینے کے موقع میں باعتبار علم بالواسطہ کے کلام کی ہے اور جہاں یہ غرض نہیں وہاں باعتبار علم بے واسطہ کے کلام کی ہے اور وہاں صیغہ ماضی کا یا حال کا مستعمل ہے مگر بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بے واسطہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر ان واسطوں کا علم قبل ان کے وجود کے بنی آدم کے حق میں ممکن ہی نہیں اور اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ کلام اللہ میں ایک جا تو یوں مذکور ہے کہ خداوند علیم کو تمام اشیاء کے علوم ازل سے حاصل ہیں جیسا کہ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۔ اور ایک سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعضے علوم حادث ہیں جیسے الفاظ حتّٰی نعلم وغیرہ مگر جو لوگ فہمیدہ ہیں اور نکتہ مذکورہ سے متنبہ ہو گئے ہیں دونوں کو مطابق یکدیگر سمجھتے ہیں۔

محو و اثبات کی بحث اور علم الٰہی کے دو دفتر

اب مناسب یوں ہے یَمْحُوا اللّٰہُ مَا یَشَآءُ وَ یُثْبِتُ کے معنے بھی بیان کیے جائیں کہ منصفان علماء شیعہ کو شاید انتظار ہو مخدوم من اول ساری آیت گوش گذار ہے بعد اس کے اپنا ما فی الضمیر بھی معروض خدمت ہوگا ساری آیت یوں ہے وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ حاصل اس کا یہ ہے کہ کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معجزہ جو اس کی نبوت کی نشانی ہو خدا کی بے اجازت لے آئے اللہ کے یہاں ہر مدت کی ایک جدا کتاب ہے اس میں سے جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک اور بڑی کتاب ہے جو سب کی اصل ہے ،، یہ تو اس آیت کا حاصل ہوا۔ اب اہل فہم سے یہ امید ہے کہ بعد ملاحظہ ان دونوں لفظوں کے ایک تو لکل اجل کتاب ، اور دوسرا وعندہ ام الکتاب ، اور نیز بعد لحاظ اس امر کے کہ جملہ یمحو اللہ الخ اول کے بعد واقع ہے بے تنبیہ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ خداوند کریم کے یہاں دو دفتر ہیں ایک بڑا جس کی طرف ام الکتاب کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا چھوٹا دفتر جس کی طرف جملہ لکل اجل کتاب ہدایت کرتا ہے اور محو اور اثبات یعنی مٹانا نہ مٹانا یہ چھوٹے دفتر میں ہوتا ہے بڑے میں نہیں ہوتا سو بعینہٖ یہی اہل سنت کا مذہب ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑا دفتر جو علم خداوندی کے موافق ہے یا خود علم خداوندی ہے اس میں گھٹا ؤ بڑھاؤ نہیں ہوتا۔

عقیدہ بدا قرآن سے اس طرح ثابت ہے جیسے لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ سے نماز کی ممانعت

پھر شیعہ کس خوبی پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ بدا کلام اللہ سے ثابت ہوتا ہے اگر اسی آیت کے بھروسے کودتے ہیں تو یہ بعینہٖ ایسا ہی استدلال ہے جیسا کسی بانوا نے کہا تھا کہ کلام اللہ میں خدا نے نماز سے منع فرمایا ہے اس لئے ہم نہیں پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب ہمیں بھی بتلاؤ ہم نے تو آج تلک یہ بات نہیں سنی اگر یہ حکم ہے تو کلام اللہ کے قربان جائیے بڑے آرام کی بات نکل آئی بانوا نے کہا صاحب سورۂ نساء میں نہیں کہ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ یعنی نماز کے پاس نہ پھٹکو اس نے کہا صاحب اس کے بعد وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى بھی تو ہے یعنی نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ ساری آیت کے معنی پر عمل کرنا چاہیے بانوا نے کہا بابا سارے کلام پر کس سے عمل ہوا ہے یہ بھی

غنیمت ہے جو اتنا بھی عمل ہو جائے سو شاید علماء شیعہ نے بھی اسی قاعدہ پر عمل کیا ہے۔

اور میرے نزدیک ایک اور عذر شیعوں کے لئے اس موقع میں خفت اتارنے کے لئے بہت عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے کلام اللہ کے یاد نہ ہونے میں تو شیعہ معذور ہی ہیں۔ اتفاق سے لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تک فقط ان کو یاد ہو گیا تھا۔ بسبب کمال عبودیت اور سراپا بندہ ہونے کے اسی پر اعتقاد جما بیٹھے۔ سو یہ بات تو قابل تعریف ہے اگر وعندہ ام الکتاب بھی ان کو معلوم ہوتا اور پھر سنیوں کے موافق ان کا اعتقاد نہ ہوتا۔ تب البتہ جائے گرفت تھی سبحان اللہ اس تفسیر دانی اور کلام اللہ کے محفوظ ہونے پر سنیوں سے مقابلے کا دعوے مگر ہو شے بخواب اندر بیرون ز شہر شد ،، جناب من شیعوں کے اکثر استدلال تو بانوا مذکور کے سے استدلال ہیں اور کلام اللہ کی یادداشت ایسی ہے جیسے مرزا نوشہ شاعر بتقاضائے تاثیر مذہب اپنی سرگذشت لکھتے ہیں ؎

لا تقربوا الصلوٰۃ ز فہمم بخاطر است ٭ وز امر یاد ماند کلوا واشربوا مرا

علم الٰہی قدیم غیر متغیر محیط ہے

حق یوں ہے کہ علم الٰہی میں کچھ تغیر نہیں آتا اور کیونکر تغیر ہو سکے۔ خداوند کریم جا بجا ایسے ہی توہمات کے دفعیہ کے لئے فرماتا ہے۔

كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا۔	حاصل سب کا یہ ہے ،، کہ خداوند کریم ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت پہچانتا ہے اور ہر چیز ازل سے اس کے احاطہ علمی اور حاطہ وجود میں ہے

چنانچہ تصویر اس مضمون کی کچھ مذکور بھی ہوئی پھر جب ازل سے ہر چیز کو محیط ہے۔ تو بعد اس کے غلطی کا باعث اگر ہو سکے ہے تو یہ ہو سکے ہے کہ کوئی چیز بیچ میں خدا کے اور خدا کے معلومات کے حائل ہو جائے۔ سو اگر یہ احتمال ہے تو اس کا جواب تو کلام اللہ ہی میں بہت جگہ موجود ہے نحن اقرب یعنی ہم سب سے زیادہ نزدیک ہیں یا شیعہ یوں تجویز فرمائیں کہ نعوذ باللہ خداوند کریم کے حواس میں فتور ہے سو اتنی جرأت شیعوں ہی کو ہے معہذا لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ یعنی اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی زمین میں نہ

آسمان میں یہ بھی کلام اللہ ہی میں ہے کسی پنڈت کی پوتھی کی آیت نہیں

عقیدہ بدا خدا کے لئے جہل مرکب تجویز کرتا ہے تیسرا طرفہ یہ ہے کہ اکثر علماء شیعہ معقولات میں دخل
درمعقولات رکھتے ہیں مگر تیسرا اتنا نہیں سمجھتے کہ علم غلط حقیقت میں علم نہیں وہ اقسام جہل
میں سے ہے اسی واسطے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں اس اصطلاح کو منطق کے چھوٹے رسالہ
پڑھنے والے تو درکناران پڑھے بھی سمجھتے ہیں۔ بلکہ زبان زد عام و خاص ہے کہ جہل مرکب سے تو جہل
بسیط ہی بھلا' بایںہمہ جو یہ حضرات ذات والاصفات جناب کبریائی کو جہل مرکب کا بٹہ لگاتے ہیں۔ تو
اول توان آیات مرقومہ پر خط نسخ کھینچنا پڑا سبحان اللہ خدا کے کلام کو بندے نسخ کریں
اور وہ بھی اعتقادات میں کہ بالاتفاق شیعہ وسنی بلکہ باتفاق عالم قابل نسخ ہی نہیں دوسرے خدا
کہاں جہل مرکب کہاں نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔

عقیدہ بدا تمام موجودات کو ایک طرح خدا پر فضیلت دیتا ہے تیسرے جمادات وغیرہ جن کو بالکل علم
نہیں۔ بلکہ تمام موجودات ایک وجہ سے خدا سے افضل ٹھیرے کیونکہ کوئی ہو سوائے خدا
کے سب میں کچھ نہ کچھ جہل بسیط ہے اور خدا میں جہل بسیط نہیں کیونکہ کلام اللہ کی آیات سے
خود واضح ہو چکا کہ خدا کو سب چیز کی خبر ہے۔ سو وہ خبر اور وہ علم اگر غلط ہو وے تو جہل مرکب ہوگا
اور جہل مرکب سے جہل بسیط آخر افضل ہی ہے۔ تو سب مخلوقات ایک وجہ سے خدا سے افضل نکلی
واہ سبحان اللہ کیا خدا کی قدر شناسی ہے۔

تمام عالم علم الٰہی کے محو و اثبات کا دفتر ہے باقی کوئی ہم سے یوں پوچھے کہ وہ دفتر کونسا ہے جس میں محو
اور اثبات ہوتا ہے تو گو ہمیں بعد اس کے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دفتر علم الٰہی کے علاوہ ہے
کچھ اس کے جواب کی حاجت نہیں لیکن تسکین خاطر کردنی بھی اچھی ہوتی ہے اس لئے معروض
خدمت ہے کہ ان امور کی حقیقت تو خدا ہی جانے یا جن کو وہ اطلاع کر دے مگر بطور امکان و
احتمال اس مقام میں ہمیں بیان کرنا لازم پڑا اس کم فہم کے نہم نارسا میں جو بمعونت تقاریر بعض
بزرگان آتا ہے تو یہ ہے کہ تمام عالم دفتر خداوندی ہے مگر اس میں سے بعض اشیاء کو بمنزلہ اوراق
کے اور بعض کو بمنزلہ نقوش اور حروف کے سمجھئے۔

محو و اثبات کی ایک تفہیمی تمثیل تفہیم کے لئے اول ایک مثال گوش گذار ہے موم یا گارے یا کسی اور

نرم چیز کو ہم کئی کئی شکل میں لاسکتے ہیں چاہیں اس کو گول بنالیں چاہیں چپٹا مگر اس موم پر
ان اشکال میں سے ایک وقت میں ایک ہی شکل آسکتی ہے دو مجتمع نہیں ہو سکتیں۔ جب
دوسری شکل آئے گی پہلی مٹ جائے گی لیکن چونکہ اشکال تو ایک قسم کے نقش و نگار ہیں
تو ان کو تو بمنزلہ حروف اور نقوش سمجھئے اور اس موم کو بمنزلہ اوراق سمجھئے۔ جب یہ مثال
ذہن نشین ہو چکی تو اب سنئے کہ تمام اجسام میں تبدل اشکال اور کیفیات نظر آتا ہے زمین
سے جو کھیتی نکلتی ہے تو وہی اجزائے خاکی ہوتے ہیں پر خدا کی نیرنگی سے ان کی شکل اول بدل
جاتی ہے پھر اس کھیتی کی شکل کیا سے کیا ہو جاتی ہے آخر رفتہ رفتہ وہی غذا جو حقیقت میں
اجزاء خاکی ہیں شکل بدل کر غذا بن گئے ہیں۔ معدہ میں جا کر کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں اور پھر
نطفہ بن کے کچھ اور رنگ روپ پیدا کر لیتے ہیں۔ علی ہذا القیاس اور اجسام میں دیکھ لیجئے گرمی
سردی وغیرہ جتنے تغیرات ہیں وہ سب اسی قسم کے ہیں۔

ایسے ہی ارواح میں طرح طرح کی کیفیات کا تبدل رہتا ہے رنج خوشی خوف وامن
وغیرہ سو جو چیزیں کہ بدلتی رہتی ہیں ان کو تو اس دفتر خداوندی کے حروف اور نقوش سمجھئے
اور اجسام اور ارواح وغیرہ کو جو ان سب احوال میں بمنزلہ موم بجائے خود موجود رہتے ہیں اس
دفتر کے اوراق سمجھئے بعد اس کے یہ ذہن نشین کیجئے کہ جو جو اشکال معدوم ہو گئے وہ تو محو ہو گئے
اور جو ان کی جگہ قائم کئے گئے وہ اثبات اور ثبت ہو گئے چنانچہ محاورہ دان فارسی اور عربی جانتے
ہیں کہ اثبات اور ثبت لکھنے کے موقع میں بولا کرتے ہیں۔

لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ کی عجیب تفسیر مگر چونکہ ہر شکل کے لئے کچھ نہ کچھ زمانہ چاہیئے اور اس کی بقا کے
لئے زمانہ میں سے کچھ مقدار معین ہوتی ہے تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ
یعنی ہر زمانہ کے لئے جدا جدا نقوش ہیں جب ایک زمانہ ہو لیتا ہے اور دوسرے نقوش اور نگارہائے
اشکال اور کیفیات کی بہار آتی ہے اور ان کے زمانہ کی آمد ہوتی ہے تب پہلے نقوش کو مٹا دیتے
ہیں اور دوسرے زمانے کے مناسب نقوش ان اوراق میں لکھے جاتے ہیں مگر یہ وہ اوراق نہیں
کہ پہلے نقوش کے مٹانے سے بگڑ جائیں یا آلودہ ہو جائیں بلکہ جیسے دفتر میں یا سلیٹ کی تختی یا
لکڑی کی تختی پر جو چاہا لکھ دیا۔ پھر جب چاہا مٹا دیا اور اس کی جگہ اور لکھ دیا ایسے ہی ان اوراق

ہیں کبھی جو چاہا لکھدیا اور جب چاہا مٹا دیا۔

ام الکتاب کی توضیحی مثال لیکن پہلے پچھلے سب نقوش کی نقل بلکہ اصل ایک بڑے دفتر اور بڑی کتاب میں ہے جیسے تحریر پڑھنے والے جس شکل کو پڑھتے جاتے ہیں سلیٹ پر کھینچ کھینچ سمجھتے جاتے ہیں، اور جب سمجھ لیتے ہیں اور دوسری شکل کے سمجھنے کی نوبت آتی ہے پہلی کو مٹا دیتے ہیں اور دوسری کھینچ لیتے ہیں اور بایں ہمہ ان سب کی نقل بلکہ اصل تحریر اقلیدس میں موجود ہے۔ باقی ربط اس آیت کا اپنے ماقبل سے اس صورت میں یہ ہوگا کہ کسی نبی سے کیونکر ہو سکے کہ اپنے آپ کوئی آیت لے آئے، ہمارے یہاں تو ہر زمانے کے لئے نقوش مقرر ہیں گنے چنے ہوئے رکھے ہیں۔ اس میں کمی بیشی کب ہو سکتی ہے جو کوئی اپنی طرف سے اسمیں اپنی خواہش کیموافق کسی آیت کا نقش بھی رلا دے؟

محو و اثبات علم الٰہی میں نہیں لہٰذا بدا کی گنجائش بھی نہیں اب اس تقریر کو اہل انصاف غور فرمائیں کہ کیسی برجستہ ہے اور پھر بایں ہمہ اس میں کہیں اس کی گنجائش نہیں کہ قائلین بدا انگشت رکھ سکیں یا تمسک کر سکیں پھر کوئی کیونکر کہدے کہ آیت میں محو اثبات کا ذکر ہے تو علم الٰہی میں محو اثبات ہوتا ہوگا مگر جو بات اپنے ذہن میں جمی ہوئی ہوتی ہے اسی کی طرف ذہن دوڑا کرتا ہے بھوکے کے نزدیک دو اور دو چار روٹیاں ہی ہوتی ہیں اور اگر اس تقریر کو سن کر کسی کے یوں کان کھڑے ہوں کہ مشہور تو یوں سنا تھا کہ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ سے جو لکھنا نکلتا ہے تو یہی لکھنا ہے جسے عرف میں لکھنا کہتے ہیں سو وہ تو کسی کلام اور الفاظ کے مقابلہ میں جو حروف اور نقوش ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے تو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ حق بات چاہے مشہور ہو کہ نہ ہو ہاں اگر یہ معنے چسپاں نہ ہوں تو جب ہی کہو۔

ام الکتاب اور محو و اثبات کی ایک اور مثال معہذا جیسے اور صاحبوں کی مرضی ہم بھی اسی راہ چلتے ہیں دوکانداروں کے یہاں اکثروں نے دیکھا ہوگا کہ روزمرہ کی برداشت کو تختی پر لکھتے جاتے ہیں بعد ازاں بہی میں نقل کر کے تختی کو دھو لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن کی برداشت اسی تختی پر لکھنی شروع کر دیتے ہیں سو روز یہ لکھنا اور مٹانا رہتا ہے اور بہی ایک ہی وہ ایسی ہے کہ اس میں تمام ایام کی برداشت کی تفصیل تاریخ وار درج ہے کہ اس میں بجز لکھنے کے مٹانے کا اتفاق نہیں ہوتا سو ایسا ہی جناب باری تعالےٰ کے کارخانۂ قدرت میں سمجھ لیجئے جیسے یہاں روزمرہ کی برداشت

تختی پر لکھتے ہیں۔ وہاں قرن وار کسی لوح پر ایک تحریر ہوتی ہو اور پھر اس کو اس لوح سے مٹا کر بڑی کتاب میں کہ اس کو اُمّ الکتاب کہتے ہوں درج کر دیتے ہوں بعد ازاں پھر دوسرے قرن کا حساب کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہوں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن کا حساب کتاب ایک لوح پر لکھ کے اس کو کسی بڑی لوح میں نقل کر دیا ہو پھر اس لوح سے اس تحریر کو مٹا کر صحابہ کے قرن کا حساب کتاب لکھ کر اسی طرح لوح کلاں میں درج کر دیا ہو اسی طرح یہ محو اثبات ہمیشہ ہوتا ہو مگر سب جانتے ہیں کہ یہ محو اثبات بوجہ غلطی تحریر نہیں کہ جس سے بدا ثابت ہو جائے۔

محو و اثبات بالفرض احکام میں بھی ہو تو حذاقت ہے بدا نہیں اور سلمنا کہ یہ بھی نہ سہی بلکہ حکم احکام کے تبدیل و تغیر کے باعث یہ محو اثبات ہوتا ہو تب بھی تو مقتدایان شیعہ کا دعوےٰ ثابت نہیں ہو سکتا تصویر اگر مطلوب ہے تو اس کی یہ صورت ہے کہ بیمار اگر طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے لئے موافق قواعد طب کے مثلاً منضج تجویز کرتا ہے جب اس کی میعاد پوری ہو لیتی ہے تو انہی دواؤں میں سے بعض دواؤں کو کاٹ دیتا ہے اور سنا وغیرہ بڑھاتا ہے اور بعد اس کے تبرید کا نسخہ لکھتا ہے اور پھر مقویات تجویز کرتا ہے تو اس صورت میں جو کچھ طبیب تجویز کرتا ہے وہ سب کتب طب کے موافق ہوتا ہے۔ اور منضج اور مسہل اور تبرید اور مقویات کی جو تبدیلی کرتا ہے تو وہ تبدیلی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ پہلی تجویز میں کچھ غلطی ہو گئی تھی بلکہ عین فہم و خوبی طبابت یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت پر منضج اور مسہل اور تبرید کا استعمال ہوا کرے۔

سو جیسے یہ قصہ ہے ایسا ہی کارخانہ قدرت کا کارخانہ سمجھئے۔ جناب باری تعالےٰ کو جو حکیم مطلق ہے بجائے طبیب حاذق خیال فرمائیے اور ام الکتاب کو بجائے کتب طب قرار دیجئے اور اس کتاب کو جو لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ میں ہے یعنی ہر ہر مدت کی جدا جدا کتاب کو بمنزلہ نسخہ منضج اور مسہل رکھئے اور فرشتوں کو تیمار دار اور مجموعہ عالم کو جو اصطلاح محققین میں مسمی بہ شخص اکبر ہے بیمار فرض کیجئے اور محو و اثبات کو ایسا سمجھئے جیسا منضج کی جگہ مسہل بدلتے ہیں اور مسہل کی جگہ تبرید سو اس تبدیلی کو بدا مصطلح شیعہ سمجھنا کمال خوش فہمی پر دلالت کرتا ہے ہاں اگر یہ تبدیلی اس قسم کی ہوتی جیسے تشخیص کی غلطی سے اول کچھ تجویز کیا تھا پھر کچھ سمجھ میں آیا اور البتہ ایک موقع تھا لیکن لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ اس بات کو چاہتا ہے کہ مدت وار جدا جدا تحریریں ہوتی ہیں اور وہ تبدیلی

بوجہ تبدیلیٔ مدت ہے بوجہ غلطیٔ تجویز نہیں۔

القصہ یہ تینوں تقریریں جو مذکور ہوئیں ایک سے ایک چڑھتی ہوئی ہے اور بعد ملاحظہ ان تقریرات کے مدعیان بدا کا حوصلہ معلوم نہیں ہوتا کہ پھر اس آیت کی طرف منھ کر کے بھی سوویں یا اس آیت سے تمسک کا نام بھی لیں مگر جس کے دل میں انصاف نہو اس کے آگے حق بات کا بیان کرنا بھی لا حاصل ہے خیر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے جو اس پر بھی نہ سمجھے اسے خدا سمجھے۔

عقیدۂ بدا پر تیسرا استدلال | اور بعض علماء شیعہ کو بدا کی حقیقت پر ایک اور نئی دلیل سوجھی ہے آیت وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰی ثَلٰثِیْنَ لَیْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ الخ سے بدا کی حقیقت پر استدلال لاتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی سنئے، ہم سناتے ہیں حاصل اس آیت کریمہ کا اول معروض ہے وہ یہ ہے کہ "وعدہ ٹھہرایا ہم نے موسےٰ سے تیس رات کا، اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو ایک عشرہ اور بڑھا کر سو پورا ہو گیا وقت اس کے رب کا چالیس راتیں انتہے"۔

اب تقریر استدلال سنئے اول تو جناب باری نے تیس شب کی محنت پر توراۃ کا وعدہ کیا پھر تیس رات کے مجاہدہ پر توراۃ عطا نہ ہوئی بلکہ فرماتے ہیں کہ تیس رات کے بعد دس روز اور بڑھا دیئے۔ سبب اس زیادتی کا بجز اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تیس رات کی خلوت پر توراۃ کا عطا ہونا خلاف مصلحت معلوم ہوا یہ کثیر اجرت اس قلیل مدت پر نازیبا نظر آئی تعظیم اجرت کے لئے مدت اور بڑھائی۔ سو اگر خدا ہی کو یہ بات پہلے سے سوجھی نہ تھی تب تو بدا کا ثبوت موافق اصطلاح متقدمین ظاہر ہے ورنہ اس سے تو کم بھی نہیں کہ خداوند علیم تو جانتا تھا پر حضرت موسےٰ اور بنی اسرائیل کو کچھ کا کچھ تبلا دیا۔ سو اس بات میں اور اس بات میں گو زمین و آسمان کا تفاوت ہے پر ہمارے حق میں جیسا بدا حسب اصطلاح متقدمین ویسا ہی تو ریہ رب العالمین۔ نہ اس صورت میں خدا کے کلام پر اعتماد نہ اس صورت میں کلام ربانی قابل استناد۔ پھر اگر فضائل صحابہ وغیرہ معتقدات اہل سنت پر کلام ربانی شاہد بھی ہو تو کیا ہوا ایک زبانی بات ہے قابل التفات نہیں۔

جواب | مگر کوئی سمجھدار ہو تو ہم بھی سنیچی میں اس کا جواب لئے بیٹھے ہیں غلطی یا غلط گوئی متکلم اور ہے اور غلط فہمی مخاطب اور حضرات شیعہ اپنی غلط فہمی سے اپنی غلط فہمی کو غلطی یا غلط

گوئی خداوندی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ غلط فہمی اپنی سمجھ کا قصور ہے خداوند علیم کا اس میں کیا قصور؟ یہ سب جانتے ہیں کہ جناب باری نے اس قصہ کو مختصر بیان فرمایا ہے۔ روزوں کا اس میں ذکر نہیں مسواک کا اس جگہ مذکور نہیں سو جیسا روزوں کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ حدیث و تفسیر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فقط تیس دن رات مقصود نہ تھے بلکہ اتنے دنوں صائم رہنا مطلوب تھا۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ بعض اور شرائط بھی ہوں کہ ان کا ذکر نہیں فرمایا منجملہ ان کے مسواک کا کرنا بھی ہو اور اگر فرض کیجئے روایات سے ثابت ہو جائے کہ توراۃ کی اجرت میں فقط تیس دن کے روزے ہی ٹھہرے تھے اور سوا اس کے اور کوئی بات مشروط نہ ہوئی تھی تو قطع نظر اس کے کہ اس امر کا ثبوت غیر ممکن معلوم ہوتا ہے فقط عدم ثبوت نکلے تو نکلے ثبوت عدم محال نظر آتا ہے۔

جواب کی ایک توضیحی مثال | ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے شرائط ہوتے ہیں کہ وقت تقرر اجرت ان کا مذکور نہیں آتا ان کا معروف ہونا کافی ہو جاتا ہے۔ کچہری یا فوج کے ملازموں کو دیکھئے کہ لباس خاص اور اکرام حکام اور تقدیم تسلیم کا وقت تقرر ان سے کوئی مذکور نہیں کرتا۔ با ایں ہمہ ان امور کے ترک پر ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ جرمانہ لیا جاتا ہے تاوان لیتے ہیں سزا دیتے ہیں اور اگر ملازمان بادشاہی کی بات بایں وجہ قابل قیاس نہو کہ ان سے تو اصل کار اور اجرت کی مقدار کا بھی ذکر نہیں آتا۔ ایک بات معین ہوتی ہے جس سے ہر عام و خاص جانتا ہے، علیٰ ہذا القیاس اور امور بالائی مثل لباس وغیرہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ سو اس حساب سے ان کا حال مثل اصل امر رہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے اور بھی مفید مطلب ہے۔ کیونکہ جب شہرت کے سامنے تمام امور کے ذکر کی حاجت نہیں تو بعض امور کے مذکور ہونے کی تو بشرط شہرت لاجرم حاجت نہ ہوگی۔

دوسری توضیحی مثال | معہذا یہ مثال ناپسند ہے تو اور مثال لیجئے گھوڑے کو کہیں جانے کے لئے کرایہ کرتے ہیں تو چارجامہ پوری لگام رکاب وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا با ایں ہمہ اگر گھوڑے والا گھوڑے کے ساتھ یہ چیزیں حوالہ نہیں کرتا تو کرایہ لے جانے والا کیسا کچھ لڑتا جھگڑتا ہے اور بن پڑتا ہے تو کرایہ میں سے بھی کچھ نہ کچھ کتر لیتا ہے۔ ایسے ہی اگر مابین بندگان خاص خداوندی

خصوصاً انبیاء اور جناب باری کچھ قوانین اور ادب مقرر ہوں اور بندگان خاص کے نزدیک مشہور معروف ہوں اور اس کے ترک پر اگرچہ ذکر نہ آئے مواخذہ ہو تو عین حق اور عین صواب ہے مگر اس کو بدا نہیں کہہ سکتے، بدا کہنا جب مناسب ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ہرگز اس کی اطلاع نہ ہو اور درصورتیکہ اس کی اطلاع ہو اور فقط بمقتضا بشریت ان سے خطا ہو جائے تو پھر بدا کیا۔

دوسرا جواب | اور یہ بھی نہی کلام اللہ سے فقط اتنا اثبات ہوتا ہے کہ تیس دن کے مجاہدہ پر تورات کا عطا ہونا ٹھیرا تھا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک ماہ کا کسی کا کچھ مشاہرہ مقرر کر دیں سو جیسے ایک ماہ کی تنخواہ کے یہ معنے ہیں کہ ایک مہینے کی یہ مزدوری ہوئی۔ خواہ تیسویں دن ملے خواہ دس دن بعد ایسے ہی تیس رات دن کے مجاہدہ پر تورات کے عطا ہونے کے یہ معنے ہیں کہ تیس دن کے مجاہدہ کا یہ ثمرہ اور یہ پھل ہے خواہ تیسویں دن ملی ہو یا دس دن بعد، باقی رہی دس روز زیادہ کی محنت کی وجہ اس کا بیان ہمارے ذمہ ضرور نہیں۔

دفع توہم | اور اگر کوئی نادان لفظ اتممنا سے دس رات کا بہ نسبت تیس رات کے تتمہ ہونا سمجھکر الجھنے کو تیار ہو تو اس کا جواب بھی لیجئے سنن ونوافل کا بہ نسبت فرائض کے متمم ہونا اور علی ہذا القیاس صدقۃ الفطر کا بہ نسبت صیام رمضان کے متمم ہونا احادیث صحیحہ سے ظاہر و باہر ہے مگر کسی کے نزدیک اس کے یہ معنے نہیں کہ فرائض پنجگانہ کی مقدار بہ نسبت زمانہ سابق کے زیادہ کی گئی بلکہ یہ معنے ہیں کہ بمقتضا بشریت ہر عمل میں کچھ نہ کچھ قصور رہ ہی جاتا ہے کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کرو۔ اس صورت میں مقدار اصلی خدا کے نزدیک بھی اور بندوں کے علم میں بھی وہی رہی اور یہ سب اوپر کا بکھیڑا از قبیل قضا رمافات اور جبر نقصان اور مکافات تقصیرات ہے سو ایسے ہی ان دس دن کو سمجھئے بلکہ لفظ اتممنا ہی خود اس بات پر شاہد ہے کہ یہ دس دن کی محنت از قبیل جبر نقصان ہے ورنہ میعاد اصلی وہی تیس دن تھے اگر ان تیس رات کا مجاہدہ بہمہ وجوہ قابل پسند ہوتا۔ اور بمقتضائے بشریت جس سے سہو نا چار ہیں بنی ہو یا ولی ہو۔ چنانچہ واقف کار واقف ہیں کوئی قصور فتور عارض حال موسوی نہ ہوتا۔ تو جناب باری تعالے کی طرف سے اور دس دن کا مطالبہ نہ ہوتا۔

لفظ میقات کی تفسیر | باقی رہا لفظ میقات ربہ کا اس بات پر دلالت کرنا کہ میعاد اصلی چالیس راتیں

تھیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ بازار خداوندی میں ہر عمل کی ایک اجرت ہے اور ہر اجرت کے لئے ایک محنت معین ہے کلام اللہ حدیث اس کے گواہ ہیں فضائل عظیمہ مثل حصول تورات وغیرہ کا نرخ چالیس رات کی محنت اصل سے مقرر ہو مگر کمال جود اور عموم رحمت کے باعث حضرت موسے علیہ وعلی نبینا السلام کے لئے دس دن یعنے تہائی محنت کی تخفیف کی گئی ہو جیسے اس امت کے عوام کے لئے نو حصے محنت کی تخفیف کی گئی ہے ورنہ ہو تو اس آیت کو دیکھیے من جآء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا یعنی جو ایک نیکی لائے گا دس گنا ثواب پائیگا سو دس گنا تو جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیکی کے عوض دس نیکیوں کا ثواب ملے پھر جب ایک ہی نیکی پر دس نیکیوں کا ثواب ملا تو نو حصے محنت کی تخفیف آپ نکل آئی آیات اور احادیث میں اس مضمون کے اور بھی بہت شواہد ہیں پھر بعضی آیات واحادیث ایسی ہیں جن سے اس سے زیادہ تخفیف بھی بعض بعض افراد کے لئے ثابت ہوتی ہے، باندیشہ تطویل تفصیل سے معذور رہوں۔

غرض یہ ہے کہ حضرت موسے کے لئے بحکم عنایت قدیمانہ دس دن کی تخفیف ہوئی ہو پر بمقتضائے بشریت حضرت موسے علی نبینا وعلیہ السلام سے یہ عمل ایسا کامل بن پڑا جیسا تورات کے معاوضہ کے لئے بکار تھا بلکہ کچھ نقصان نکلا جس کی مکافات اور تلافی دس دن کی خلوت ومجاہدہ سے ہو سکی، اس لئے بنظر رحمت خاصہ حضرت موسیٰ کی تیس دن کی محنت کو رد تو نہ کیا۔ اگرچہ رد کرنے کا موقع تھا ہاں دس دن کی اور ہدایت فرمائی تاکہ کامیاب جائیں اور غیروں کے سامنے ندامت نہ اٹھائیں۔ جب اس طریقہ سے وہی چالیس دن آپڑے تو جناب باری نے بھی یہ ارشاد فرمایا فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ یعنے پس تمام ہو گئی وہ ہی چالیس راتیں جو اس کے رب کا میقات تھا۔ یعنے وہ وقت جو ایسی نعمتوں کے لئے اس نے مقرر کر رکھا تھا۔ سو انجام کار وہی پورا ہوا۔

تیسرا جواب | یا یوں کہیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بذات خود قابل اہتمام اور شایان تاکید ملک علام نہیں ہوتیں، پر کسی بندہ خاص سے جو ایک وقت خاص اور ساعت اخلاص میں بضرورت کسی امر عارضی کے ظاہر ہوتی ہیں تو جناب باری بروئے کمال بندہ پروری اور غلام

نوازی اس عمل کو ایسا قبول کرتا ہے کہ اس کو داخل عبادات خاصہ کر دیتا ہے اور پھر ہر خاص وعام سے اس کے کرنے نہ کرنے کا حساب لیتا ہے تاکہ خدا کی قدر شناسی اور اس بندہ کی رفعت وقدر معلوم ہو جائے مثال اس کی اگر مطلوب ہے تو حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ کے بیچ دوڑنا اور اس سبب سے اس سعی کا داخل سنن یا واجبات حج ہو جانا حالانکہ عقل سلیم کو اس فعل میں کوئی مضمون تعبد کا نظر نہیں آتا سب کا سنا ہوا قصہ ہے۔

علی ہذا القیاس اگر چالیس رات کی مقدار اول سے خداوند علیم کے نزدیک قابل اہتمام نہ ہو بلکہ اس وقت تک وہی تیس رات کی مقدار مہتم بالشان ہو مگر چونکہ بندہ خاص سراپا اختصاص حضرت موسے علیہ وعلی نبینا الصلوٰۃ والسلام سے ایک وقت خاص میں جس کا مذکور ہے چالیس رات کا مجاہدہ بضرورت معلوم ظہور میں آیا تو بوجہ کمال اخلاص حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب باری نے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ آئندہ سے فضائل جلیلہ کی تحصیل کے لئے عدد اربعین ہی مقرر ہو گیا اور جب اس وجہ سے یہ عدد مہتم بالشان ٹھہرا تو جناب باری عز اسمہ کے اس قول کے فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ یہ معنے ہوئے کہ ہر چند ایسی نعمتوں کے لئے اصل میں وہی تیس راتیں تھیں لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بضرورت معلوم حالت اخلاص میں چالیس رات کا مجاہدہ ظہور میں آیا تو خداوند کریم نے اس عمل کو ان کے اخلاص کے باعث ایسا قبول فرمایا کہ اب سے تقرب بارگاہ خداوندی کے لئے پوری چالیس شب و روز کی خلوت مقرر ہو گئی چونکہ پہلی تقریر اور اس تقریر میں فرق ظاہر ہے ان دونوں کے بیان فرق سے معذور ہوں۔

بدا کیلئے کذب لازم ہے ہاں نتیجہ اس طول بیانی کا عرض کرنا پڑا اس لئے سامع خراش اہل انصاف ہوں کہ بدا کا ثبوت اس آیت سے جب ہو سکتا ہے کہ یا تو جناب علام الغیوب ہی نے پہلے سے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ بعد مرور تیس شب کے حضرت موسے علیہ السلام کو تورات عطا کرینگے اور جب تک ہرگز چالیس رات کی تاخیر کا دھیان نہ تھا اتفاق سے کسی مصلحت تازہ کے باعث ارادہ سابق سے پلٹ گئے اور تیس رات کے بدلے چالیس رات کے بعد عطا فرمائی یا جناب باری عالم الغیب والشہادۃ کے علم و ارادہ میں تو یہی تھا کہ بعد انقضاء مدت چہل شب عطاء

تورات سے حضرت موسے علیہ السلام مشرف ہوں۔ مگر عمداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس شب کے بعد تورات کے عطا ہونے کی خبر دی حضرت موسے علیہ السلام باعتماد صدق خبر خداوندی یہی سمجھتے رہے کہ لاجرم بعد مرور تیس شب کے تورات عطا ہو گی مگر چونکہ مد نظر خداوندی کچھ اور تھا تورات کی بات چالیس رات پر جا پڑی۔

اس صورت میں گو صفت علم خداوندی اور صفت ارادہ عیب ونقصان سے منزہ رہے پر کلام خداوندی میں دروغ کا بٹہ لگا یہ اس واسطے جتلایا کہ بعض محققان شیعہ بپاس عصمت صفت علم و ارادہ بدا کی تقریر کچھ ایسی ہی کرتے ہیں جس سے نقصان وعیب جو کچھ ہو اخبار تک رہے علم و ارادہ تک نہ پہنچے، پر جو لوگ خدا کی عظمت وجلال کو کسی قدر سمجھتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خداوند عظیم الشان کی کوئی صفت کیوں نہ ہو عیب و نقصان سے مبرا ہے۔ محقق مذکور نے بزعم خود اچھی روش اختیار کی تھی اور صفت علم و ارادہ کو نقصان سے بچا کر یوں خوش تھے کہ اہل سنت سے دامن چھڑا لیا پر یہ نہ سمجھے کہ یہ صفتیں اگر منزہ رہیں تو کیا ہوا ایک اور صفت میں نقصان لازم آیا۔

آرے دروغ گو را حافظہ نباشد

مخاطب کی غلط فہمی سے علم خداوندی میں بدا ثابت نہیں ہو سکتا بہر حال یہ دو صورتیں بدا کے ثبوت کی تھیں اور در صورتیکہ یہ دونوں صورتیں نہوں بلکہ بشکل عقد اجارہ اور تعلیق شرط و جزا ہو تو اگر بوجہ عدم وقوع شرط جزا ظہور میں نہ آئی اور بسبب ناپسندی عمل اجرت نہ ملی تو اس میں خدا کی جانب کونسا قصور عائد ہوتا ہے جو بدا کے ثبوت کی گنجائش ملے ہاں حضرت موسے علیہ السلام غلطی فہم کے باعث جس سے انبیاء معصومین بھی معصوم نہیں اگر کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ ان کا قصور ہے مگر اس کو بدا سے کیا علاقہ، ایسے بدا کے تو خود اہل سنت جو بدا کے بغایت منکر ہیں بکثرت قائل ہیں اختلاف آئمہ مجتہدین لاجرم ایک نہ ایک کی غلط فہمی کو مستلزم ہے ان کے نزدیک رحمت عظمٰی ہے بالجملہ بدا کی حقیقت یہ ہے کہ متکلم یعنی جناب باری خود غلط سمجھے جیسے متقدمین شیعہ کی رائے معلوم ہوئی ہے یا عمداً غلط کہدی جیسے بعض محققین زمانہ تاویل کرتے ہیں نہ یہ کہ مخاطب یعنی انبیاء یا علماء وغیرہم اپنے قصور فہم سے

کچھ کا کچھ سمجھ جائیں اس کو غلطی اجتہاد اور غلطی فہم اور قصور فہم کہتے ہیں بدا کو اس سے کچھ علاقہ نہیں، ہاں کوئی قاصر الفہم اگر اس کو بدا سمجھ جائے تو تا دم وضوح حق گو نہ معذور ہے گو ایسی باتوں میں عذر جہل مقبول نہیں اور بعد وضوح حق اور اتمام حجت پھر یہ قصور اعلے درجہ کا قصور ہے نعوذ باللہ من سوء الفہم۔

مگر ناظرین تقریر ہذا کو اس قدر یاد رہے کہ غلطی اجتہاد کی گنجائش اگر ہے تو ماسوا محکم اور عبارت النص میں ہے عبارت النص اور محکم میں اہل فہم نہیں بہکتے۔ جو اس میں بھی خطا کرے وہ جاہل ہے عالم نہیں سو تلاوت کرنے والے کلام اللہ کے خود جانتے ہیں کہ آیات فضائل صحابہ در باب فضیلت صحابہ محکم اور عبارت النص ہیں کہ نہیں؟

آیۂ میقات کی دو دیگر تفسریں اور بدا کا استیصال اگر کوئی اب بھی نہ سمجھے تو اس کو خدا سمجھے پر نقل مشہور ہے جیسے کو تیسا ایسے نادانوں کا یہ علاج ہے کہ یوں کہا جائے ثلثین لیلۃ یا مفعول بہ ہے چنانچہ ظاہر ہے یا مفعول فیہ اگر مفعول بہ ہے تو قدر موعود تو وہی تیس راتیں تھیں اور مطلب تھا کہ تم طور پر آنا۔ اپنا ایک خاص کام یعنی تیس رات کی عبادت جو اہل عقل کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تم سے لیں گے سو اس وعدہ کو پورا فرمایا اور پھر بمقتضائے کرم خداوندی دس دن کا اور اضافہ فرمایا سو یہ از قبیل لَدَیْنَا مَزِیْدٌ ہے اور اس نعمت اول کی اس کو ردوکن سمجھنا چاہیئے۔ جب عوام امت محمدی کو نو نو گنی اصل سے ردکن ملتی ہو اگر حضرت موسے علیہ السلام کو ایک تہائی ردکن مل گئی تو شیعوں کو اتنا برا کیوں معلوم ہوتا ہے اس صورت میں تورات کو اس وعدہ سے کچھ علاقہ نہیں، یا تو وہ از قسم وعدہ وعید ہی نہ ہو بلکہ از قبیل لَدَیْنَا مَزِیْدٌ ہو یا موعود تو ہو پر بالاستقلال موعود ہو تیس رات کی محنت کا بطور تعلیق و شرط موعود نہو۔

بالجملہ آیت سے اس صورت میں اگر ثابت ہوگا۔ تو تیس رات کی عبادت کا موعود ہونا ثابت ہوگا تورات کا موعود ہونا جس پر مدار کار اثبات بدا تھا ہرگز ثابت نہ ہوگا اور اگر مفعول فیہ ہے تو یہ معنے ہوں گے کہ تیس راتوں تک وعدہ ہوتا رہا۔ باقی رہا موعود کیا ہے اس کے بیان سے یہ آیت ساکت ہے اگر امر موعود عطا تورات تھا تب کچھ نقصان نہیں اور اگر امر دیگر تھا تب کچھ خلجان نہیں، اول تیس رات تک یہ بشارت آتی رہی جب بایں لحاظ کہ ایک مہینے کی مقدار عرف

بنی آدم میں ایک مقدار کثیر ہے اسی سبب اکثر معاملات اجرت اس پر منعقد ہوتے ہیں اس قدر بشارت سے تسلی ہوگئی تب مزید اطمینان کے لئے چلہ پورا کیا اور اسی واسطے ایک بار ہی واعدنا موسیٰ اربعین لیلۃ کہکر خاتمہ نہ کر دیا بلکہ ثلثین لیلۃ کہکر واتممنا ہا بعشر فرمایا بہر حال مطلب یہ کہ دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہ کسی امر کے لئے اول کچھ ایک مدت مقرر فرمائی۔ پھر وقت پر اور مدت کام میں آئی جو بدا کے لئے دست آویز اور مذہب حق سے جائے گریز ہو چنانچہ ظاہر ہے مگر دیکھنے والوں کو یہ معلوم رہے کہ یہ تقریر اخیر موافق مثل مشہور جواب ترکی بہ ترکی اہل جدل کے مقابلہ میں بطور مجادلہ لکھی گئی ہے ورنہ طالبان حق کے لئے یہی حق و باطل خود ظاہر ہے۔

خاتمہ مباحث بدا اب اسقدر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے کہ شیعہ بدا کے وقوع کے مدعی تھے اور یہ آیت بزعم خود انہوں نے دلیل دعوے سمجھ رکھی تھی اور یہ سب اہل فہم جانتے ہیں کہ مدعی کے لئے دلیل ایسی چاہیئے۔ جس میں خلاف دعوے اور کوئی احتمال نہ ہو اور جو کوئی احتمال خلاف دعوے اس دلیل سے سمجھ میں آتا ہو اور پھر وہ احتمال بھی ایسا کہ بہ نسبت دعوے مدعی کے زیادہ چسپاں بلکہ عین مفہوم مطابقی ہو اور بایں ہمہ اور دلائل اس کے مثبت ہوں اور دعوے مدعی کو رد کرتے ہوں۔ تو اہل عقل پھر ہرگز اس دعوے کو قبول نہ کریں گے اور حق نہ سمجھیں گے، بلکہ حق اس دوسرے ہی احتمال کو سمجھیں گے، سو یہاں بعینہٖ یہی صورت ہے۔ چنانچہ اہل فہم پر پوشیدہ نہ رہے گی۔

جب بدا کے ابطال سے بفضلہ تعالی فراغت پائی تو ہم اپنی طرف سے اُن لوگوں کے عذر کا جواب دے چکے جو خلفاء ثلثہ اور باقی مہاجرین اور انصار کی بزرگی کے باوجودیکہ کلام اللہ میں ان کی بزرگیاں مذکور ہیں اور ان کے لئے بڑے بڑے وعدہ کئے ہیں اس عذر سے قائل نہیں ہوتے تھے کہ شاید خدا کو بدا واقع ہوا ہو۔ اور یہ سارے وعدے اور سب ان کی تعریفیں غلطی سے اول ظہور میں آئی ہوں اور پھر بعد میں حقیقت الامر صحابہ کی جناب باری تعالے کو معلوم ہوگئی ہو اور بروئے انصاف اب ہمارے ذمے یہ واجب نہیں کہ ائمہ کے اقوال سے ان کو تسلی کر دیں۔

بداء کے ضمن میں ائمہ کے علم غیب پر بحث اور اگر ہم اس پر بھی خاک ڈالیں تو یہ بات کیونکر سنی جائے کہ ائمہ کو اکان ومایکون کا علم تھا اس لئے اگر ان کے اقوال سے خلفا یا اصحاب کی بزرگی ثابت ہو جائے تو پھر کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔ سبحان اللہ خدا کے کہنے سے تو تسلی نہ ہو اور اماموں کے فرمانے پر قرار آجائے اول تو صدہا آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سوا جناب باری تعالےٰ کے کسی کو علم غیب نہیں برائے تسکین دو تین آیتیں لکھنی ضرور پڑیں۔

مَاتَدْرِیْ نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِبُ غَدًا یعنی نہیں جانتا کوئی کہ کل کو کیا کرے گا۔ اس آیت میں کسی کا استثنا نہیں سب کو امام ہو یا غیر امام برابر فرماتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں رکھتے۔

قُلْ لَّا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰہُ کہدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں جانتے زمین وآسمان والے غیب کو مگر اللہ جانتا ہے۔

ماکان ویکون تسلیم کرنے میں مساوات لازم ہے اور دوسرے اس صورت میں خدا کے علم میں اور ائمہ کے علم میں مساوات لازم آئے گی حالانکہ جناب باری تعالےٰ سورۂ یوسف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ یعنے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اگر اس آیت سے استدلال کرتے ہو تو اس آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے کیونکہ اس آیت میں کلیتہً فرمادیا ہے کہ خدا اور غیر خدا کی تخصیص نہیں کی تو یہ بات اول تو اہل فہم کے نزدیک قابل جواب نہیں اور جواب کے قابل بھی ہے تو اس جواب کے کیوں کہا جائے۔ ع

برین فہم ودانش بباید گریست

کون نہیں جانتا کہ ایسے مقامات میں جناب باری تعالےٰ باستثنا عقلی مستثنیٰ ہوا کرتا ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ سے کسی نادان کو بھی آج تک یہ شبہ نہیں پڑا کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہوا تو اپنے معدوم کر دینے یا اپنے شریک کے پیدا کر دینے پر بھی قادر ہوگا۔ اتنا ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ انبیاء اور اماموں کے پیدا کرنے اور معدوم کر دینے پر دونوں پر قادر ہے ایسے ہی فَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ سے جاہل سا جاہل بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ خدا سے بھی زیادہ کوئی عالم ہوگا پھر اگر کوئی اس قسم کی گفتگو کرے تو بجز تعصب اور

ہٹ دھرمی کے اور کچھ نہیں کہا جاتا۔

ایک عجیب تفسیری لطیفہ معہذا ذی علم کے لفظ میں ایک اشارہ لطیف اس بات کے جواب کی طرف بھی ہے جیسے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ میں جو لفظ شے ہے اس میں ایک اشارہ لطیف خدشہ مذکور کے جواب کی طرف ہے بیان اس کا یہ ہے کہ ذی علم اور علیم ہرچند بظاہر دونوں لفظ ہم معنی ہیں لیکن ذی علم میں ایک گونہ اتنی بات نکلتی ہے کہ غیر ذات ہے کیونکہ اضافت بالاتفاق تغائر پر دلالت کرتی ہے بخلاف علیم کے کہ اس میں یہ بات نہیں سو چونکہ خدا کا علم غیر ذات نہیں بالاجماع خصوصًا شیعہ کے نزدیک تو اس کو ذی علم کہنا مناسب نہیں بلکہ علیم کہنا چاہیئے جیسے کہ شے اسے کہنا چاہیئے جو مشیت کے تلے داخل ہو اور ذات خداوندی مشیت کے تلے داخل نہیں بلکہ معاملہ بالعکس ہے القصہ جیسے خداوند کریم مشیت کے تلے داخل ہی نہیں جو اشیاء میں معدود ہو اور قدرت کے تصرفات اس پر چل سکیں، ایسے ہی خداوند کریم ذی علم میں داخل ہی نہیں جو اس سے اوپر کوئی علیم ہوگا۔

الحاصل علم میں کوئی خدا کے ہم پلہ نہیں جیسے وہ ذات میں یکتا ہے ویسے ہی صفات میں یکتا ہے نہ انبیاء اس کے علم میں برابر ہیں نہ امام نہ ملک نہ جن، نہ خواص نہ عوام، اس عقیدہ میں شیعوں کا بعینہٖ ایسا غلو ہے جیسا نصاریٰ کا حضرت عیسےٰ کی بزرگی میں قدم حد سے بڑھ گیا ہے اور وہ تشبیہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ سے دی اور یوں فرمایا ہے کہ تیری مثال ایسی ہے جیسے حضرت عیسےٰ کی مثال کہ ایک فرقہ ان کی محبت میں ہلاک ہوا اور ایک ان کے بغض میں۔ وہ تشبیہ اور تمثیل سب بجا اور درست نکلی کہ خوارج نے جو بغض لیا اور رافض نے وہ محبت لی کہ جس سے حضرت امیر کو انبیاء سے تو بڑھایا ہی تھا خدا تک پہنچا دیا بلکہ انہوں نے لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ کا کام کیا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے تو فقط حضرت امیر ہی کی نسبت یہ فرمایا تھا حضرات شیعہ نے آپ کے فرمانے کی ایسی تصدیق کی کہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر دکھلایا خوارج سے تصدیق نبوی میں وہ کارگذاری نہیں بن پڑی تھی جو شیعہ سے بن پڑی القصہ خوارج سے حضرات ائمہ کے باب میں وہ تفریط نہ ہوئی۔ جو شیعوں سے افراط ہوئی اور کسی نے سچ کہا ہے دشمن دانا بہتر از نادان دوست،

بالفرض اگر علوم غیب ائمہ کے لئے ثابت بھی ہوں تو بدا کا خدشہ دور نہیں ہوا

اور اگر سلمنا ائمہ کو علم ماکان اور علم مایکون تھا بھی تب جو خدشہ کہ بوجہ بدا خدا کے فرمودہ میں تھا وہ بجائے خود رہے گا کیونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ جو افضل الائمہ اور اعلم الائمہ ہیں وہ یوں فرماتے ہیں فی حدیث الکافی وَاَمَالِی الصَّدُوْقِ عَنْ اَمِیْرِ الْمُوْمِنِیْنَ لَوْلَا آیَۃٌ فِیْ کِتَابِ اللّٰہِ لَاَخْبَرْتُکُمْ بِمَا یَکُوْنُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ یُرِیْدُ بِالْاٰیَۃِ قَوْلَہٗ یَمْحُوْ اللّٰہُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ ۔۔حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ کافی جو کلینی کی تصنیف ہے اور امالی جو شیخ صدوق کی کتاب ہے ان دونوں میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا اگر ایک آیت یعنے یمحو اللہ ما یشاء نہ ہوتی تو میں تمہیں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کی خبر دیدیتا یہاں تک حاصل روایت ہوا اب غور فرمائیے کہ جو دلیل ان کے عالم مایکون اور عالم ماکان ہونے کی تھی وہی دلیل اس بات کی بھی ہے کہ ان کا علم خدا کے علم سے بڑھ کر نہیں پھر باینہمہ جس وجہ سے خدا کا علم قابل اعتماد نہ تھا۔ اسی وجہ سے ائمہ کے علوم بھی قابل اطمینان نہیں، خدا کے بدا سے وہ بھی تنگ تھے اور اپنے کسی علم پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ اس خیال سے شاید شیعوں کو تو یہ رنج ہو کہ ہمارا دین ہی ہاتھ سے چلا جب ائمہ کو اپنے علم پر اعتماد نہ ہو تو یہ دین جو انہیں کے علوم کا پرتو ہے کیا قابل اعتماد رہا۔؟

پر ہمیں خوشی ہے کہ اصحاب ثلثہ اور سوا ان کے اور مہاجرین و انصار کی برائیاں جو شیعہ حضرات ائمہ سے روایت کرتے تھے قطع نظر اس کے کہ ان روایات کے راوی کذاب اور مفتری تھے (چنانچہ کچھ کچھ اس کا بیان ہو چکا) یونہی قابل اطمینان نہ تھے اور ماسوا اس کے اور جو کچھ ان کی کتابوں میں خلاف مذہب اہل سنت حضرات ائمہ سے مروی ہے سب ساقط الاعتبار ہو گیا۔

باقی رہی یہ بات کہ بدا اگر ہوا بھی ہوگا تو کہیں قدر قلیل ہوا ہوگا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعتبار کے اٹھ جانے کو اتنا بھی بہت ہے انجیل اور توراۃ کونسی ساری کی ساری اول سے آخر تک بدل گئی تھیں؟ دس پانچ جگہ کی تحریف نے سب کا اعتبار کھو دیا۔

مناقب خلفاء و صحابہ بزبان امیرؓ و دیگر ائمہ

اور اگر کوئی یہ فرق نکالے کہ کلام اللہ میں جو کچھ اصحاب کے

فضائل نازل ہوئے ہیں یا خلفاء ثلثہ کی بزرگیوں کی طرف اشارہ ہے وہ سب قبل وفات ...... اکثر اصحاب نازل ہو لیا تھا اور وفات سے پہلے پہلے آدمی کا کچھ اعتبار نہیں ہاں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ سو خدا کی تشخیص میں غلطی کا احتمال ہے پر امیر المومنین یا اور ائمہ نے جو کچھ فرمایا ہوگا وہ سب بعد وفات کا قصہ ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں اگر ان کے کلام سے ان کی بزرگی خاصکر اصحاب ثلثہ میں سے کسی کی ثابت ہو جائے تو پھر گنجائش انکار نہیں، اس لئے ائمہ کی روایات پیش نظر کرتا ہوں، نہج البلاغۃ تصنیف علامہ رضی میں جس کی مرویات شیعوں کے نزدیک متواترات میں سے ہیں، یوں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے جو لوگوں نے ان اصحاب کا حال پوچھا جن کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ نے ان کے وہ اوصاف فرمائے جو بجز اولیا کے ہو ہی نہیں سکتے وہ عبارت بلاغت آمیز بعینہ منقول ہے كَانُوْا اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ هَمَلَتْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى تَبُلَّ جُيُوْبُهُمْ وَمَادُوْا كَمَا يَمِيْدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيْحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِّنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِّلثَّوَابِ اور پھر دوسری دفعہ ان کے حق میں فرمایا كَانَ اَحَبُّ اللِّقَاءِ اِلَيْهِمْ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَنَّهُمْ يَتَقَلَّبُوْنَ عَلٰى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ۔ حاصل ان دونوں عبارتوں کا یہ ہے کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب خدا کا ذکر کرتے تھے بہہ نکلتی تھی ان کی آنکھیں یہاں تک کہ ان کے جیب تر ہو جاتے تھے اور خدا کے ڈر اور امید ثواب میں ایسے لرزتے اور جھومتے تھے جیسے درخت تیز ہوا سے اور سب میں زیادہ محبت ان کو خدا کے ملنے کی تھی اور آخرت کو یاد کر کے ایسے بے چین ہو کر کروٹیں لیا کرتے تھے جانو انگاروں پر لوٹتے ہیں،، اور حضرت امام سجاد نے صحیفہ کاملہ میں بڑی طول طویل دعا جس میں اصحاب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے لئے دعا خیر مندرج ہے منقول ہے۔ سو ساری دعا کی نقل کی گنجائش نہیں فقط دو چار لفظ لکھے دیتا ہوں، اس دعا میں اَللّٰهُمَّ وَاَصْحَابُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ لکھکے آگے کہتے ہیں فَارَقُوا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ فِيْ اِظْهَارِ كَلِمَتِهٖ وَقَاتَلُوا الْاٰبَاءَ وَالْاَبْنَاءَ فِيْ تَثْبِيْتِ نُبُوَّتِهٖ اس کے بعد میں فرماتے ہیں۔ فَلَا تَنْسَ لَهُمُ اللّٰهُمَّ مَا تَرَكُوْا لَكَ وَفِيْكَ وَاَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِكَ الخ پھر اس کے بعد تابعین تک

تک نوبت پہنچا[illegible] اور ان کے حق میں بھی اسی قسم کی دعائیں فرمائیں حاصل ان الفاظ کا یہ ہے "یا اللہ [illegible] محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جنہوں نے خوب یاری کا حق ادا کیا اور [illegible]ں اور اولاد کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے بول بالا کرنے کے لئے چھوڑ دیا اور باپوں اور بیٹوں سے ان کی نبوت کے جمانے کے لئے لڑے سو مت بھولیو ان کے حق میں یا اللہ [illegible] انہوں نے تیرے لئے اور تیرے سبب سے چھوڑ دیا اور راضی کر دے ان کو تو اپنی رضا مند[illegible] سے" یہاں تک الفاظ مذکورہ کا مضمون ہے ان روایات سے تو مطلقاً صحابہ کی تعریف [illegible] گی ثابت ہوتی ہے

مناقب صدیق | [illegible] وہ بھی سنئے کہ جس سے خاص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئے رضی ک[illegible] البلاغۃ میں جو شیعوں کے نزدیک مثل وحی آسمانی ہے روایت کیا ہے عن امیر المؤ[illegible] انہ قال للہ بلاد ابی بکر فلقد قوم الاود وداوی العمد واقام السنۃ [illegible] البدعۃ ذہب نقی الثوب قلیل العیب اصاب خیرہا وسبق شرہا ادی الی اللہ طاعتہ واتقاہ بحقہ رحل وترکہم فی طرق متشعبۃ [illegible] فیہا الضال ولا یستیقن المہتدی حاصل اس کا یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا ہی کے واسطے ہیں شہر[1] ابوبکر کے یعنی ابوبکر میں خداداد خوبیاں ہیں پس قسم ہے کہ انہوں نے سیدھا کر دیا کجی کو اور اصلاح کر دیا ستون کو اور قائم کر دیا سنت کو پس پشت ڈالا انہوں نے بدعت کو دنیا سے پاک دامن [illegible] بے عیب گئے خوبی خلافت کی ان کو نصیب ہوئی اور آگے چلے گئے خلافت کے فسادوں سے ادا کی انہوں نے خداوند کریم کی طاعت پرہیزگار رہے حق پرہیزگاری کا چلے گئے اور لوگ مختلف رستوں میں حیران ہیں کہ نہ گمراہوں کو راہ ملتی ہے اور نہ ہدایت والوں کو اپنی ہدایت کا یقین ہے" یہاں تک حاصل معنی خطبہ مرقومہ ہوا۔

علامہ رضی کی خیانت جو مفید مطلب ہو سکی | اب گوش گذار ناظرین رسالہ یہ ہے کہ علامہ رضی

[1] یعنی چونکہ ابوبکر کے شہر خدا ہی کے تھے تو خدا ہی کے رتبے کا ظہور ہوا اور ظاہر ہے کہ جس کا خدا حامی ہو وہ شخص لاجرم بڑا ہی صاحب کمال ہوگا۔

نے پاسِ داریٔ مذہب ابوبکر کے لفظ کی جگہ لفظ فلاں بدل دیا ہے تاکہ سنیوں کو گنجائش استدلال نہ رہے اور ان علامہ رضی کی کچھ عادت ہی تھی مگر اتنا نہ سمجھے کہ نام کے چھپانے سے کیا فائدہ؟ حضرت امیر المومنین سے پہلے کل تین خلیفہ تھے سو جس کی تعریف ہوگی سنیوں کا مطلب کہیں نہیں گیا لہٰذا وہ اوصاف ایسے ہیں کہ خود ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا دیں ہیں خاص کر پہلا وصف اور دوسرا وصف کہ یہ دو وصف سوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی تبلائے تو اور کس پر منطبق ہوتے ہیں؟ اور کس کی خلافت میں دین میں کجی آگئی تھی؟ اور کس رکن یعنے ستون میں ارکان اسلام میں سے نقصان آگیا تھا کہ اس نے اس کی درستی کی؟

ہاں ان کی خلافت میں البتہ بسبب وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے چار طرف سے شور ارتداد اٹھا بہت لوگ ادائے زکوٰۃ سے جو رکن اسلام ہے مانع آئے سو نہ ابوبکر صدیق ہوں نہ یہ فتنے دبیں ان کے برکات اور حسن انتظام اور خوبیٔ خلافت کے باعث جو حضرت امیر کے آنکھوں میں کھبے ہوئے تھے اور شیعہ بھی جی میں تو مانتے ہی ہوں گے زبان سے کہیں یا نہ کہیں حضرت امیر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے فساد اور فتنوں کو دیکھ دیکھ انہیں یاد کرتے ہیں اور تاسف کرتے ہیں کہ ایسے زمانے میں ایسا شخص ہونا چاہیئے تھا۔

صدیق کی شجاعت اور استقامت | اور کیوں نہ ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چار طرف مرتدین کا زور ہوا تو اکثر صحابہ گھبرا گئے یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے جری اور ذی ہوش اور صاحب رائے کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے یہ انھیں کی ہمت بندھانے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اَجَبَّارٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَخَوَّارٌ فِی الْاِسْلَامِ یعنے اے عمر کیا کفر کے زمانے میں یہ شور اشوری تھی اور اسلام میں یوں بول گئے القصہ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ایسے اگر لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نہ بھیجا جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے مبادا مدینہ منورہ لشکر مجاہدین سے خالی ہو جائے۔ اور دشمن تاخت کر بیٹھیں لیکن آفرین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور استقامت

پر کہ باوجود ان ہنگاموں کے ہرگز نہ گھبرائے، اور یہ فرمایا کہ جس لشکر کی تیاری خود سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کر گئے ہوں یہ نہیں ہوسکتا کہ اس کو روانہ نہ کروں اور ایسے ہی مرتدین کے قتال میں جو لشکر کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور اکثر صحابہ کی رائے اس باب میں ان کی رائے کے مخالف ہوئی تو ایسا کچھ فرمایا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں تنہا جاکر لڑوں گا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے قتال کے باب میں جب حضرت عمر نے یہ شبہ کیا کہ وہ کلمہ گو ہیں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا نماز کو فرض کہے گا اور اسے فرض نہ سمجھے گا میں اس سے بے تامل لڑوں گا واللہ اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ لوگ زکوٰۃ میں دیتے ہوں گے اور اب نہ دینگے تو میں ان سے جہاد میں دریغ نہ کروں گا الحاصل یہ انہیں کی شجاعت اور فہم و فراست تھی جو یہ رائے صائب سوجھی اور دین کو تھاما ورنہ دین میں وہ فتور پڑے تھے کہ خدا ہی حافظ تھا۔

سو جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے فسادوں اور بدعتوں کو جو لوگوں نے برپا کر رکھے تھے دیکھ دیکھ کر ان کو یاد کرتے تھے چنانچہ الفاظ خطبہ مذکورہ خود گواہی دیتے ہیں اسی واسطے اکثر شارحین نہج البلاغۃ کی یہی رائے ہے اور کیونکر ممکن ہو کہ اور کسی پر ان اوصاف کو منطبق کردیں بہت کرتے تو یہ کرتے کہ کسی ایسے شخص کا احتمال پیدا کرتے جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرگیا ہوتا، جیسے بعضے ناانصافوں نے کیا ہے۔ سو شارحین کے ذمہ معنے کا درست کرنا بھی تو ہوتا ہے ان اوصاف کو اس پر کیونکر منطبق کر دیتے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ خوبی ظہور میں آئی وہ سب آپ کا طفیل تھا اور کسی کا اس میں کیا اجارہ؟ اور خود رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر اس لئے نہیں لا سکتے کہ سنیوں سے اس کا کیا عذر کریں گے کہ حضرت امیر نے ماحسبنی لفظ فلاں کہا۔ کس قدر گستاخی کی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ذکر کیا۔

مقام تعریف مقام تصریح ہوتا ہے نہ کہ مقام اخفاء

اور پھر کیا باعث ہوا کہ محل تعریف میں جو مقام تصریح و اعلام ہوتا ہے یہ اخفاء اور ابہام بلکہ اسی نظر سے کہ یہ محل تعریف ہے یوں خیال میں آتا ہے کہ یہ تعریف ابوبکر ہی کی تعریف ہے اور یہ کنایہ لاجرم اعدائے صحابہ کی تحریف ہے ورنہ رسول اللہ

صلے اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں تو کچھ اندیشہ ہی نہ تھا جو کسی نے یوں چھپایا اور نام نہ بتایا۔ ہاں ابوبکر کی ضد میں بایں غرض کہ یہ مدح ابوبکرؓ کی مدح نہ ہو جائے گو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی تہمت بھی اپنے ذمہ لازم آئے، اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی عداوت (گو بہ جبر) باعث اخفاء نام ہو سکے گوارا کریں، اور اس طرح سے اس مدح کو مدحِ نبوی قرار دیں تو ممکن ہے مگر اوصاف مذکورہ اس توجیہ کو کرنے بھی دیں آپ کے زمانے میں اول تو اقامت سنت اور تخلیفِ بدعت کے کیا معنے؟ جس سے چاہو پوچھ دیکھو اقامت سنت کے لفظ سے کیا متبادر ہوتا ہے؟ ہر کوئی اتنا جانتا ہے کہ اقامت کے لئے سنت کا وجود اور اس کی پستی ہونی چاہیئے نہیں تو پھر اقامت کس کی ہوگی سنو جو کچھ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم احکام فرماتے تھے یا خود کوئی عمل کرتے تھے تو وہ اقامت سنت نہ ہوتی تھی بلکہ اس کو خود سنت سمجھنا چاہیئے، بعد العہد مقرر ہونے احکام سنت کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کونسا ان میں فتور پڑ گیا؟۔ اور پڑ بھی گیا تھا۔ تو آپ نے اس کی کیا اصلاح فرمائی؟

بہر حال کچھ کیجیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی طرف یہ اوصاف ڈھلتے ہیں سو یہ کرامت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہر چند علامہ رضی نے ان کے کلام کو خراب کرنا چاہا مگر معنے وہی رہے اور بدنامی اپنے ذمہ لگائی بھلا اتنا بھی خیال نہ کیا کہ تعریف کے محل میں ایسے کنایات سے کون باتیں کیا کرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیئے۔ اور بعضے شارحین کی رائے یہ ہے کہ اس خطبہ میں حضرت عمر کی تعریف ہے۔ سو حضرت عمر ہمیں کون سے برے ہیں اور حضرت عمرؓ پر جو وہ اس تعریف کو منطبق کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ یوں لکھتے ہیں کہ مجھے مصنف کے ہاتھ کا یعنی علامہ رضی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہج البلاغۃ کا نسخہ مل گیا تھا۔ سو اس میں لفظ فلانے کے نیچے عمر کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مجھ سے فخار بن معد موسوی ادیب شاعر نے ایسا ہی بیان کیا اور میں نے ابو جعفر یحییٰ بن زید علوی سے جو پوچھا کہ اس لفظ سے کون مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں، میں نے کہا کیا امیر المومنین نے اس قدر ان کی تعریف کی انہوں نے کہا ہاں۔

الغرض اس وجہ سے اور نیز اس وجہ سے کہ بعضے خطبوں میں جو حضرت عمر کے نام سے تعریف ہے تو اس کے الفاظ ان الفاظ سے بہت ملتے ہیں بعضے شارحین حضرت عمر کی طرف ڈھلے ہیں پر ظاہر یہی ہے کہ مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں لیکن جب شیعوں نے دیکھا کہ آخر یہ تعریف ہی تو کسی کی اصحاب ثلثہ میں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ او حضرت عمر ہی کی تبلاؤ حضرت عمر آخر حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے داماد تو ہیں۔ ابوبکر صدیق رضؓ سے تو بہر حال کچھ ان کا پاس لحاظ زیادہ ہی چاہیئے۔ لیکن ہمارا ادھر بھی لیکھا ہے اسی واسطے جو روایت کہ خاص ان کی تعریف میں ہے اس کو بھی زیب رقم کرتا ہوں۔

مناقب عمرؓ بزبان امیرؓ الاسمان کتاب الموافقت میں فرین حکیم سے روایت کرتا ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو میں نے کہا حضرت علی کے پاس چلنا چاہیئے اور ان کی سنیں وہ کیا کہتے ہیں سو میں جو ان کی محفل میں آیا تو بہت لوگ ان کے منتظر بیٹھے تھے سو کچھ یونہی دیر ہوئی ہوگی جو حضرت علی رضؓ تشریف لائے۔ اول تو سر مبارک جھکایا۔ پھر اوپر اٹھا کر فرمایا۔ لِلّٰہِ دَرُّ بَاکِیَۃِ عُمَرَ وَا عُمَرَاہ قَوَّمَ الْاَوَدَ وَاَبَدَ الْعَمَدَ مَاتَ نَقِیَّ الثَّوْبِ قَلِیْلُ الْعَیْبِ وَاعُمَرَاہ ذَہَبَ بِالسُّنَّۃِ وَاتَّقَی الْفِتْنَۃَ اَصَابَ وَاللّٰہِ ابْنُ الْخَطَّابِ خَیْرَہَا وَنَجٰی مِنْ شَرِّہَا وَلَقَدْ نَظَرَ لَہٗ صَاحِبُہٗ فَصَارَ عَلَی الطَّرِیْقَۃِ مَا اسْتَقَامَتْ ثُمَّ قَالَ فَقَالَ وَرَحِلَ الْمَرْکَبُ فَتَشَعَّبَہُمُ الطَّرِیْقُ لَایَدْرِی الضَّالُّ وَلَا یَسْتَیْقِنُ الْمُہْتَدِیْ۔

اس عبارت کے معنے بھی قریب قریب پہلی ہی روایت کے ہیں اس لئے بعض شراح جن کا ذکر ہو چکا روایتِ مقدم کو بھی حضرت عمر رضؓ ہی پر محمول کرتے ہیں لیکن اوصاف کو دیکھئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پر پھبتے ہیں۔ چنانچہ مرقوم ہو چکا باقی اس روایت کے الفاظ اس روایت کے الفاظ کے تطابق سے کچھ یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہی آدمی کی تعریف میں ہوں۔ اگر دونوں روایتوں کو جدا جدا شخص کے لئے سمجھئے تب بھی تو کچھ محال نہیں آخر حضرت عمر

کی خلافت بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کا تتمہ تھا بنیاد ساری باتوں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی باندھ گئے تھے ملک شام اور ایران پر جو جہاد ہوا تو پرواز اس کا خلیفہ اول ہی ڈال گئے تھے اور جو جو لوازم خلافت تھے سب کی جڑ وہی درست کر گئے تھے چنانچہ ماہران تواریخ پر پوشیدہ نہیں وہ موجد قوانین انتظام تھے اور حضرت عمرؓ اس کے برتنے والے غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک رستہ ڈال گئے ہیں کہ حضرت عمر اسی رستہ چلتے گئے اگر اس وجہ سے کہ ابوبکر صدیق کے کاموں کو حضرت عمرؓ نے پورا کیا ان کو بھی موصوف باوصاف مندرجہ روایاتِ اول سمجھیں تو چنداں بعید نہیں۔

باب عقیدۂ تقیہ

عقیدہ تقیہ اور اس کے عقلی و نقلی مباحث بہر حال اگر شیعوں کو یہی مرکوز خاطر ہو کہ ہم بجز اماموں کے فرمانے کے اصحاب ثلثہ یا اور اصحاب کے قیامت تک معتقد نہ ہوں گے تو یہ عذر بھی ہم نے ان کا باقی نہ رکھا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا جو مرقوم ہوا مگر ہم جانتے ہیں کہ خوئے بدرا بہانہا بسیار، شیعہ اپنی ناانصافی سے باز نہ آئیں اور بسبب عداوتِ صحابہ کے جو اہل بیت کی محبت سے پہلے ان کی رگ رگ میں رچ گئی ہے عجب نہیں کہ خلاف امیدوں بھی کہہ اٹھیں کہ حضرات ائمہ کی بات کا بھی کیا اعتبار؟ ساری عمر انہوں نے تقیہ میں گذاری اور حق کو ناحق اور ناحق کو حق کہتے کہتے چلدیئے، جب امام الائمہ حضرت امیر المومنین باایں ہمہ شہرۂ شجاعت اور زور کرامت کہ شیر خدا اور علی ولی اللہ ان کا لقب ہے خلفائے ثلثہ سے اتنا کچھ ڈرتے تھے کہ ان کے زمانے میں تو کیا اپنے زمانے میں بھی اظہار مذہب حق نہ کر سکے ہوں تو اوروں کا تو کیا ذکر؟ ہم جب تک ہرگز نہ مانیں کہ یا تو تقیہ کو کوئی باطل کر دکھلائے یا کسی ایسے کی سند تبلائے کہ وہ تقیہ نہ کرتے ہوں۔

اس لئے ناچار تقیہ کی اصل حقیقت بھی کھولکر کچھ کچھ دکھلانی پڑی۔ ناانصافوں سے پلہ پڑا ہے دیکھئے کتنی جھڑکیاں کھائیں اور ہم ان کی دم کے ساتھ لگے ہوئے کہاں کہاں تک جائیں۔ مخدوم من آفرین ہے ان لوگوں کی ہوشیاری پر کہ جن کا یہ دین ساختہ پرداختہ ہے،

ایسی نامعقول باتوں کا بجز بدا اور تقیہ کے رواج ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سنیوں نے کلام اللہ کا حوالہ دیا تو بدا کا عذر کیا، اماموں کا قول پیش کیا تو تقیہ سے الزام دیا اب بیچارے سنی اپنا سامنہ لے کر رہ نہ جائیں تو اور کیا کریں؟ غرض جس نے اس مذہب کو تراشا واقعی نہایت ہوشیار تھا، پر کم فہم بھی ہوں تو اتنے ہوں جتنے حضرات شیعہ کہ دلم و دانہ کی ان کو کچھ تمیز نہیں، ہائے افسوس کیسے کیسے لوگ اس دام میں پھنس گئے یہ نہ سمجھا کہ دین خداوندی کو ایسی باتوں سے کیا علاقہ یہ فقط یاروں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق اور اس کے شاگرد پیشہ ہوتے نہ یہ قواعد تشیع تصنیف ہوتے۔ خیر بہرحال اس حیلۂ اخیر کا جواب بھی دے لیجئے۔ شاید خداوند کریم کسی کو ھدایت نصیب فرمائے۔

تقیہ شیعہ کی اپنی روایات کے آئینے میں مخدوم من اول تو یہ عذر روایات مذکورہ میں بنظر غور پیش نہیں جاتا خاص کر پہلی دو روایات میں حضرت امام سجاد زین العباد رضی اللہ عنہ وعن آبائہ الکرام نے جو کچھ اصحاب کرام کی تعریف فرمائی تو عین مناجات خداوندی اور دعا کے وقت فرمائی ہے خدا سے کیا تقیہ پڑا تھا؟ اگر کسی بنی آدم سے کلام گفتگو ہوتی تو یہ بھی احتمال ہوتا کہ شاید طرفداران صحابہ میں سے ہو اور اگر خدا پر بھی صحابہ کی طرفداری کی تہمت تھی تو سنیوں کے زہے نصیب کہ ان کے پیشواؤں کی خدا بھی طرفداری کرتا تھا لیکن شیعوں کو اپنا فکر چاہیئے معہذا حق مذہب سوا اس کے اور کسے کہتے ہیں کہ خدا ان کی پشتی پر ہو سارا کلام اللہ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ اور اسی قسم کی آیات سے بھرا ہوا ہے باقی خدا کی طرف یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا بھی اصحاب ثلثہ سے ڈرے تھا۔ نعوذ باللہ منہا۔

ہاں اگر شیعہ کہدیں تو کچھ نہیں کیونکہ ان کے عقائد کے موافق تو حضرت علی کا تقیہ بھی کچھ اس سے کم نہیں، شیر خدا جدا تھے۔

موت پر اختیار، غیب کا علم، بے انتہا شجاعت، پھر تقیہ کیوں؟ بایں ہمہ اپنی موت اپنے اختیار میں، چنانچہ کلینی نے اس بات کو ثابت ہی کیا ہے کہ اماموں کی موت ان کے اختیار میں ہے۔ اور

کلینی کیا سارے امامیہ اس پر متفق ہیں کہ علم ما کان مایکون جدا تھا اتنا یقیناً جانتے تھے کہ فلانے وقت فلانے کے ہاتھ سے شہید ہونگا اس سے پہلے نہ اس سے پیچھے، اور تمام عمر میں اس اس طرح بآسائش گذاروں گا کہ باوجود کثرت انبوہ دشمنان میرا کوئی مزاحم حال یا درپے جان و مال نہ ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو میرا کچھ نقصان نہ ہوگا پھر ان سب اختیارات اور علوم کے بعد شجاعت تو ایسی کہ ہزار رستم بھی ہوں تو مان جائیں "ابوبکر و عمر تو کس گنتی میں ہیں" اور کرامت اس قدر کہ درِ خیبر کو اٹھا کر پھینک دیں۔ خانہ ابوبکر و عمر کی کیا حقیقت۔

پھر بایں ہمہ ابوبکرؓ اور عمرؓ سے ڈرے، کوئی انصاف کر کے بتلائے کہ یہ تقیہ خدا کے تقیہ سے کس بات میں کم ہے؟ علاوہ بریں وقت تعریف مذکور ابوبکر و عمر کا بجز نام و کام نام و نشان باقی نہ رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مرے ہوئے سے تو گیدڑ بھی نہیں ڈرتے شیر خدا علی مرتضےٰ پھر روباہ مری ہوئی سے دبے تو قیامت آگئی، خیر کہاں تک کہیئے مطلب اتنا ہے کہ دعا کے وقت کہ جو وقت مناجات عالم السر والخفیات ہے اس وقت تقیہ کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ منافقین کا نماز پڑھنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، منافق بندوں کو دھوکا دیتے تھے اور درصورت تقیہ نعوذ باللہ حضرت امام سجاد خدا کو۔ کیونکہ یہ تو ہم یقیناً جانتے ہیں اور شیعہ بھی کہتے ہیں دانا کیوں نہ ہوں اس کے خلاف نہ کہیں گے کہ حضرت امام کی عبادت روی دریا تھی سو کسی سنی یا معتقد خلفا کے استرضا کا تو ان کی عبادت میں احتمال ہی نہیں۔ بجز اس کے کہ بخیال جانبداری خلفا جو خدا سے ظہور میں آئی یہ خیال دل میں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند کریم بہ سبب خلفا اور بے اعتقادی صحابہ سے اگرچہ حق ہی ہو ناراض نہ ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات جناب من ایسی محفل میں تقیہ کا احتمال کرنا جس پہلو سے پلٹ کر دیکھو دین کو برہم درہم کئے دیتا ہے۔ یا خداوند کریم کی طرف برائی عائد ہوگی تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا یا ائمہ کی طرف ... نعوذ باللہ منہ کثیرا۔ بہرحال تقیہ کے پردہ میں یہ دشمنان اہلبیت ائمہ کو کیا کیا کچھ نہیں کہہ لیتے واقعی بہت خوبصورتی سے ہجو کرتے ہیں۔

حضرت امیر نے بعد وفات صدیق کے مناقب حلفاً بیان کئے اسوقت خوف بھی نہ تھا بھلا امام سجاد تو رستم

دیدہ اور ظلم کشیدہ دشمنان سفاک تھے تیسرے نہ وہ شجاعت تھی جو حضرت امیر میں تھی نہ وہ کرامت تھی جو حضرت امیر میں تھی اگر ان کے حق میں کوئی تقیہ کا دعوے کرے تو شاید کوئی بیوقوف فی الجملہ مان بھی جائے لیکن ستم تو یہ ہے کہ حضرت امیر کی نسبت با اینہمہ زور و شجاعت دبادو یکتائے علم و کرامت و استمرار صحت و سلامت کہ زمان خلفاء ثلثہ سے لے کر اپنی خلافت تک بے اندیشہ گذاری اپنی نیند سوئے اپنی بھوک کھایا یہ احتمال کیا جائے کہ انہوں نے ایسے دس جھوٹ پر قسم کھائی کہ ان کی بدولت آسمان گرجائے تو عجب نہیں اور زمین پھٹ جائے تو دور نہیں، کجا یہ اوصاف جمیلہ اور محامد علیہ کہ لگ بھگ انبیاء کے اوصاف اور لوازم کے ہیں کجا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بزعم شیعہ ابلیس سے بھی بڑھ کر کہ اس کا برا کہنا مستحب بھی نہ ہو اور ان کا تبرا فرض، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا جائے تو عجب نہیں کیونکہ موافق مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کے ایسے ویسے لوگوں کے فرضوں کا ثواب دس گنا ہو تو ہو اس لئے کہ اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو دہ چند ثواب ملے گا۔

اور لعن شیخین اس قدر مقبول ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات مرقوم ہے کہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما پر ہر صبح لعنت کرنی ستر نیکیوں کے برابر ہے اور پھر طرفہ یہ ہے کہ ابلیس اور نمرود اور شداد اور فرعون اور ابوجہل اور امیہ بن خلف اور ابولہب وغیرہم دشمنان خدا و رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا لعن او تبرا ماشہ بھر نیکی کے برابر نہیں کسی نے ایسوں ہی کی تعریف میں کہا ہے۔ " بریں عقل و دانش بباید گریست"، بالجملہ ایسے لوگوں کی تعریف جو ابلیس اور نمرود اور فرعون اور ابوجہل وغیرہم سے بھی بڑھ کر ہوں اور پھر تعریف بھی اس قدر کہ دس بڑے بڑے کمالات لقسم بیان کئے جائیں ایسے کاملوں سے جن کا نام حضرت علی شیر خدا جن کے اوصاف اوپر مذکور ہو چکے جب ہی ہو سکتی ہے کہ کافر ہونے کے یہ معنے ہوں کہ خدا کا بڑا ہی مطیع و فرمانبردار ہو، سو اگر کفر کے یہی معنے ہیں تو کون مردود برا مانتا ہے ایسی گالیاں تو جتنی چاہیں شیعہ دے لیں بجز تسلیم اس طرف سے انشاء اللہ جواب ہی نہ ہوگا

بیت۔ بدم گفتی و خورسندم عفاک اللہ نکو گفتی ٭ جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا

سبحان اللہ کس کس پیچ سے حضرات ائمہ کی معصومیت بلکہ بزرگی کو بٹہ لگاتے ہیں۔ خوارج سے شیعہ (ہم جانیں) کچھ دو انگشت زیادہ ہی ہوں گے پر اتنا ہی کہ شیعہ سنوار کر چھان پھوڑ کر عیب لگاتے ہیں اور خوارج اناڑیوں کی طرح بے سوچے سمجھے گنوار کا سا لٹھ مار بیٹھتے ہیں۔

حکایات تقیہ کی روایات کتب شیعہ بزور تکذیب کرتی ہیں

القصہ یہ عذر لوچ عاقلوں کے سامنے کہ ائمہ معصومین اصحاب ثلثہ یا اور مہاجرین اور انصار کی تعریف بوجہ تقیہ کیا کرتے تھے قطع نظر اس کے کہ عقل کے نزدیک یہ عذر لاطائل گوزشتر کے نرخ بکتا ہے یوں بھی تو قابل تمسک نہیں کہ جن بزرگواروں کی طرف تقیہ کی تہمت کرتے ہیں ان ہی بزرگواروں کے افسانے جو ان کی معتبر کتابوں میں منقول ہیں باواز بلند تقیہ کی تکذیب کرتی ہیں ہر چند سب کا اس رسالہ میں درج کرنا ممکن نہیں لیکن "مشتے نمونہ خروارے" دو تین روایتیں جو امام الائمہ حضرت امیر کے اظہار حق اور صدق حال پر دلالت کریں درج کی جاتی ہیں تاکہ بحکم متابعت بزرگان اوروں کی بزرگی اور خوبی بھی کذب اور ریا سے پاک و صاف ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ جب شمس الائمہ کا حال یہ ہے کہ تقیہ میں جو بقول شیعہ ان پر منجملہ فرائض ہی تھا اس قدر تقصیروار تھے اور احکام کا تو کیا ذکر؟ تو اور ائمہ کا کیا حال ہوگا۔؟

امیر کا حکم کہ سچائی اختیار کرو خواہ کچھ بھی ہو

نہج البلاغت میں جو شیعوں کے نزدیک اصح الکتب اور متواتر ہے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تقیہ کے ابطال میں دلیل قوی اور برہان کامل ہے عَلَامَةُ الْإِيمَانِ إِيثَارُكَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جہاں سچ بولنا ضرر کرتا ہو ایسی جگہ سچ بولنے کو پسند رکھے۔ جھوٹ بولنے پر جو نفع دیتا ہو۔ اس روایت سے صاف نکلتا ہے کہ جو تقیہ کرے اس میں ایمان نہیں کیونکہ علامت ایمان کی یہ ہے کہ جان و مال کا ضرر گو ہو جائے پر جھوٹی بات زبان پر نہ لائے۔

امام کی شجاعت اور اشتیاق جنت

دوسری روایت بھی نہج البلاغت ہی کی سنیے

قَالَ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنِّیْ وَاللّٰہِ لَوْ لَقِیْتُھُمْ وَاحِدٌ اَوْ ھُمْ طِلَاعُ الْاَرْضِ کُلِّھَا مَا بَالَیْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ وَاِنِّیْ مِنْ ضَلَالَتِھِمُ الَّتِیْ ھُمْ فِیْھَا وَالْھُدَی الَّذِیْ اَنَا عَلَیْہِ لَعَلٰی بَصِیْرَۃٍ مِنْ نَفْسِیْ وَیَقِیْنٍ مِنْ رَبِّیْ وَاِنِّیْ اِلٰی لِقَاءِ اللّٰہِ وَلِحُسْنِ ثَوَابِہٖ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیشک قسم اللہ کی اگر ان سے تن تنہا مقابل ہوں اور وہ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہوں تو میں ہرگز کچھ پروا نکروں۔ اور نہ گھبراؤں اور مجھے ان کی گمراہی اور اپنی ہدایت کا حال عیاں ہے اور اس بات کا خداداد یقین ہے اور میں خدا کے ملنے یعنے مرنے اور اس کے ثواب کے انتظار اور امید میں ہوں،، اب غور فرمائیے جو شخص تن تنہا اتنے دشمنوں سے بھی نہ ڈرے جو تمام روئے زمین کو ڈھک لیں اور ڈرنا تو درکنار پروا اور گھبراہٹ تک نہ ہو۔ بلکہ مرنے اور جنت کا مشتاق ہو ایسے لوگوں سے تقیہ کے ہونے کے کیا معنے؟ ایسے لوگ بھی اگر ڈرنے لگے تو قیامت آگئی معہذا تقیہ بغیر خوف کے تو ہوتا ہی نہیں اگر مر جانے کا خوف ہے تو وہ اماموں کو ہوتا ہی نہیں کیونکہ اول تو ان کی موت ان کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ کلینی نے اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے اور تمام امامیہ کا اس پر اتفاق ہے پھر وہ کسی سے کیا ڈریں اور کیوں ڈریں؟ دوسرے علم وقائع گذشتہ اور نیز وقائع آئندہ سب ان کو مستحضر، خود اپنے مرنے کا حال اور کیفیت بتفصیل وتشریح معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت سے پہلے ڈر ہو ہی نہیں سکتا۔

انبیاء اور ائمہ کا منصب صبر وتحمل اور حق گوئی ہے۔

اور اگر خوف مال یا آبرو یا بدگوئی خلائق کا اندیشہ یا کسی قسم کی تکلیف کا خوف ہے تو انبیاء اور ائمہ کا کام یہی ہے کہ تکلیفیں اٹھایا کریں اور تحمل کیا کریں اور دشمنوں کی قوت وشوکت اور اپنی بے کسی اور بے زری کا لحاظ نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نمرود سے نہ چھپے اور آگ میں گرنا قبول کیا حضرت موسیٰ فرعون سے نہ ڈرے اور آخر نوبت جلاوطن ہونے کی پہنچی حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو برس تک کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں شیعوں نے بھی سنی ہوں گی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا

مقتول ہونا شہرۂ آفاق ہے حضرات شیعہ ہی انصاف کر کے فرمائیں کہ ان کے مقتول ہونے کا باعث سوا کلمۃ الحق اور حق گوئی کے اور کیا تھا عزت چھوڑ یہاں تو جان پر کھیل گئے۔ حضرت امیر جو انبیاء سے افضل نہیں تو مساوات میں تو شیعوں کے نزدیک کلام ہی نہیں آبرو تک کا خدا سے دریغ کریں۔

تقیہ اگر فرض تھا تو امام حسین کی شہادت معصیت ہوگی

اور خود خلف رشید حضرت امیر رضی اللہ عنہ سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ عنہ جان نازنین کو نثار راہ خدا کر گئے اگر تقیہ سنت حضرت علی بلکہ فرض خداوندی تھا تو اس سے زیادہ اور کونسا موقع تقیہ کا ہوگا کہ تیس ہزار فوج جرار بر سر کارزار، زن وفرزند ہمراہ، ننگ وناموس کا اندیشہ، نہ کھانا نہ دانا، نہ پانی کا سامان نہ آڑ کے لئے کوئی مکان، اور اس طرف سے فقط اتنی طلبگاری کہ بیعت یزید قبول کر لو پھر جہاں جی چاہے چلدو، بڑے حیف کی بات ہے جان و مال سب برباد گئے، زن وفرزند پر جو کچھ گذری سب جانتے ہیں پھر تس پر خاتمہ ہوا تو یوں ہوا کہ فرض مفترض معمول بہ اہل بیت پر عمل نہ کیا، لے گناہوں کو مفت کے مظلمہ میں گرفتار کیا، ان کا وبال نعوذ باللہ اپنی گردن پر لیا نعوذ باللہ اگر یہی تقیہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دو دست بدتر از ہزار دشمن، بہ نسبت حضرت امام الشہداء نعوذ باللہ عقیدہ خسر الدنیا والآخرۃ رکھتے ہیں، واللہ کہ ان الفاظ کے کہتے ہوئے جی ڈرتا ہے مگر خداوند عالم الغیب والشہادہ خوب جانتا ہے میں تقیہ سے نہیں کہتا کہ یہ سب دوکد بدولت حضرات مدعیان دروغ فرقہ مسمے الشیعہ کے ہے ورنہ یہ خاکپائے غلامان اہل بیت ان حضرات کو اکابر اولیاء اللہ اور عمدۂ صدیقین اور افسر مخلصین اور خلاصہ محسنین اور زبدۂ متقین اور سر حلقہ محبوبین سمجھتا ہے، حاشا وکلا جو بطور شیعہ دعوے دروغ ہو۔

امام کا اپنی کرامت سے حضرت عمر کو مرعوب کر دینا

تیسری روایت راوندی کی کہ مقتدا شیعہ اور شارح نہج البلاغت ہے کتاب خرائج الجرائح میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔

اِنَّ عَلِیًّا بَلَغَہٗ عَنْ عُمَرَ اَنَّہٗ ذَکَرَ شِیْعَتَہٗ فَاسْتَقْبَلَہٗ فِیْ بَعْضِ طُرُقَاتِ بَسَاتِیْنِ الْمَدِیْنَۃِ وَفِیْ یَدِ عَلِیٍّ قَوْسٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ بَلَغَنِیْ عَنْکَ ذِکْرُکَ لِشِیْعَتِیْ فَقَالَ اِرْبَعْ عَلٰی ظَلْعِکَ فَقَالَ عَلِیٌّ اِنَّکَ لَھٰھُنَا

ثُمَّ رَمٰی بِالْقَوْسِ عَلَی الْاَرْضِ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ کَالْبَعِیْرِ فَاغِرًا فَاهٗ وَقَدْ اَقْبَلَ نَحْوَ عُمَرَ لِیَبْتَلِعَهٗ فَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهَ اَللّٰهَ یَا اَبَا الْحَسَنِ لَا عُدْتُ بَعْدَهَا فِیْ شَیْءٍ وَجَعَلَ یَتَضَرَّعُ اِلَیْهِ فَضَرَبَ یَدَهٗ اِلَی الثُّعْبَانِ فَعَادَتِ الْقَوْسُ کَمَا کَانَتْ فَمَضٰی عُمَرُ اِلٰی بَیْتِهٖ ۔ الخ۔

یہ روایت بہت بڑی ہے کہاں تک نقل کروں اتنے الفاظ بھی بہت ہیں پر حاصل معنی اس کا بیان کئے دیتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو یوں خبر پہنچی تھی کہ عمر کچھ شیعہ علی کو برا کہتے ہیں سو اتفاقات سے بعضے مدینہ کے باغوں کی راہ میں ان کے سامنے آگئے حضرت علی نے فرمایا اے عمر مجھے یوں خبر پہنچی ہے کہ تو میرے شیعہ کو برا کہتا ہے۔ عمر نے کہا اے میاں اپنی خیر مناؤ۔ حضرت علی نے فرمایا تم اتنے ہو گئے۔ پھر کمان کو جو زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا تھا اونٹ کے برابر منہ کھولے ہوئے حضرت عمر کی طرف نگلنے کے ارادہ سے دوڑا۔ عمر نے کہا خدا کے واسطے خدا کے واسطے اے ابو الحسن پھر اس کے بعد ایسی بات کبھی نہ کہونگا اور لگے گڑگڑانے۔ حضرت علی نے اس اژدہا کی طرف جو ہاتھ لپکایا پھر وہی کمان کی کمان ہو گئی۔ خیر عمر اپنے گھر چلے گئے اس روایت کو دیکھئے تو تقیہ کی تو گردن ہی توڑ دی۔ خلیفوں .. اور اصحاب میں بڑی دھوم دھام حضرت عمر ہی کی تھی اور سنی بھی انہیں کی شوکت اور دبدبہ کو بہت زبان پر لایا کرتے ہیں سو جب ان کا یہ حال ہو کہ ایک کرشمے سے ان کو ڈرا دیا اور بیچارے تو فقط اشارہ کے تھے۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت امیر کا سکوت جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے افعال اور حرکات پر تھا یہاں تک کہ غصب فدک دیکھا کئے۔ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور ان سے بیعت کرلی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ سب بوجہ حقانیت تھا نہ بوجہ تقیہ ورنہ اس زور اور قدرت اور اس کرامت کا آدمی اور کون تھا جو ان سے اندیشہ یا ہراس رکھتا اور اگر بالفرض یہ زور و بل اور یہ قدرت خداداد کسی میں ہوتی بھی تب غصب دختر طاہرہ مطہرہ تو ہرگز گوارا نہ ہوتا۔ اہل ہند جو تمام ولایتوں کے لوگوں کے نامردہ پن میں امام ہیں ان میں کا بھنگی اور چمار بھی اس سہولت سے بیٹی نہیں دیتا۔ جس طرح حضرت امیر نے اپنی دختر مطہرہ کو حضرت عمر کے حوالہ کر دیا

آپ بھی دیکھتے رہے اور صاجزادی بھی، پھر صاحبزادوں میں بھی ایک وہ تھے کہ جنہوں نے تین ہزار فوج جرار کا مقابلہ کیا حالانکہ وہ زمانہ ضعیفی اور تحمل کا تھا اور بہن کے نکاح کے وقت عین شباب تھا اور تس پر تماشہ یہ ہے کہ ہنگامہ کربلا میں جو دشمنان سفاک نے حرم محترم اور زنان اہلبیت کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو کیا کچھ غضب اور جوش آیا شیعوں کو تو شہادت نامہ کربلا ازبر ہی ہوگا۔ لکھنے کی کیا حاجت۔

تقیہ از روئے عقل و نقل و عرف

بالجملہ روایات شیعہ خود تقیہ کی جڑ اکھاڑتی ہیں فقط سنیوں ہی کا قصور نہیں، اور اب آگے اور لکھنا ہمیں ضرور نہیں کہ بحمد اللہ عاقلان منصف کے لئے یہ بھی بہت ہے مگر بنظر اتمام حجت اور مزید توضیح یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور نقل اور عرف سے بھی اس بات میں استفتا کیجئے تاکہ شیعوں کی آنکھیں تو کھلیں کہ ہم کس خواب خرگوش میں مدہوش ہیں۔ جناب من عقل کی رو سے دیکھئے تو پیغمبروں اور اماموں کا تقیہ ایسا ہے جیسے کسی معلم کو لڑکوں کے پڑھانے اور تادیب کے لئے نوکر رکھا جائے اور وہ معلم تعلیم اور تادیب تو درکنار الٹا لڑکوں کے ہمرنگ ہو کر گیند بلا یا گلی ڈنڈا کھیلنے لگے، تو پیغمبروں اور اماموں کیلیے خدا کی طرف سے تقیہ کا فرض ہونا ایسا ہی ہے جیسا معلم اور مودب کو اہل مکتب یہ حکم دے کر پڑھایئے، پر چاہیئے تمہارے اور لڑکوں کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے، خبردار ایسا نہ کرنا اور ان کی تادیب میں تقصیر نہ ہو لیکن جس طرح سے لڑکے چاہیں سر مو اس میں تفاوت نہو نہ ان کو ڈرائیو، نہ ماریو نہ اپنی طرف سے کچھ کہیو بلکہ وہ کھیلیں تو ان کے ساتھ تم بھی کھیلنے لگیو۔

اب اہل انصاف انصاف فرمائیں کہ یہ بات کچھ عقل کی ہے اور اس میں اور پیغمبروں اور اماموں کے تقیہ میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تقیہ بھی اتنا کچھ کہ دین برباد ہو گیا تمام امت محمدی گمراہ ہو گئی تس پر اپنا ننگ و ناموس جاتا رہا پر چاہیئے زبان سے کلمۃ الحق نکلے اس کی نوبت نہ آئی۔ کھل کھیلنا تو کجا اور پھر باایں‌ہمہ حضرات شیعہ معتقد اس بات کے کہ دین شیعہ عین مطابق عقل ہے اور کیونکر نہ کہیں خداوند کریم تو ان کے اعتقاد کے موافق باایں‌ہمہ خداوندی اور احکم الحاکمین ہونے کے محکوم عقل ہے اور عقل کی اطاعت اس کے ذمہ فرض ہے۔ واہ سبحان اللہ کیا خدا کی قدردانی ہے جب خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کسی کو کیا شکایت؟ اول تو

خدا کو محکوم بنایا اور اس کے احکم الحاکمین ہونے سے جو کلام اللہ میں بعینہٖ انہیں الفاظ سے مذکور ہے ہاتھ اٹھایا دوسرے ایسا خلاف عقل حکم اس کے نام لگایا کہ جس سے بزعم خود نعوذ باللہ خدا کو گنہگار اور تارک فرض ٹھہرایا تعالی اللہ عن ہذہ العیوب علوا کبیرا۔

تقیہ از روئے کلام اللہ اور از روئے نقل تقیہ کا حال پوچھئے تو سینکڑوں آیتیں ایسے تقیہ کی برائی پر (جیسے حضرات شیعہ آپ کرتے ہیں اور اماموں کے ذمہ لگاتے ہیں) دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ الٹے تقیہ نہ کرنے کی خوبیاں کلام اللہ سے جتنی چاہو نکال لو یہاں تک کہ جان کے جانے کے وقت بھی تقیہ کے نہ کرنے ہی کی بہبودگی کلام اللہ سے ثابت ہوتی ہے۔ کلام اللہ کوئی عنقا چیز نہیں جو نہ ملے اگر شیعوں کو بوجہ یاد نہ ہونے کلام اللہ کے میری طرف جعل کا احتمال ہو تو مطابق کر دیکھیں کہ کلام اللہ میں سورہ بقر میں دوسرے سیپارہ میں نصف سے کچھ بعد یہ آیت ہے کہ نہیں۔؟

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔

یعنے کیا تم کو اے مسلمانو یہ گمان ہو گا کہ تم جنت میں یونہی چلے جاؤ اور تم پر وہ حالت نگذری ہو جو پہلوں پر گذری کہ ان کو شدت کا خوف اور تکلیفیں پیش آئیں اور جھڑ جھڑائے گئے یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان دار تھے گھبرا کر یوں کہنے لگے۔ کہ خدا کی مدد کب ہوگی۔ سو خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہی لگی ہوئی ہے۔

اور اس آیت کو بھی دیکھ لیں۔ سورۂ آل عمران میں چوتھے سیپارہ میں مابین ربع اور نصف کے یہ آیت ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

یعنی بہت سے نبی ہوئے ہیں جسکے ساتھ میں ہو کر بہت سے اللہ والے دشمنوں سے لڑے ہیں سو جہادوں میں جو تکلیفیں ان کو پیش آئیں تو ان تکلیفوں کے سبب وہ کچھ ڈھیلے ہوئے نہ سست

ہوئے نہ کفار سے کچھ دب نکلے اور اللہ صابروں سے محبت رکھتے ہے۔

تقیہ جنت سے محرومی کا سبب ہے ان دونوں آیتوں کو خدا لنبظر غور اور بچشم انصاف دیکھئے اور بے روی و ریا فرمائیے کہ مرضی جناب باری کس طرف ہے درصورتیکہ عوام مومنین کے حق میں یوں کہا تبلایئے تو امام اور پیغمبر تو امام اور پیغمبر ہیں وہ تو دین کی باتوں میں عوام سے بڑھ کر ہوتے ہیں پہلی آیت کی رو سے تو تقیہ کی صورت میں جنت سے امید ہی منقطع ہے پھر اس سے زیادہ اور تقیہ کو کیونکر وضع کرینگے باقی سنیوں کی بے بسی اور بے کسی کا عذر ہو تو جناب باری تعالے نے پہلے اس کا دفعیہ فرمادیا ہے الا ان نصر اللہ قریب یعنی گھبراؤ مت ہماری مدد پاس ہی لگی ہوئی ہے۔

خوف کفار سے سست ہونا ممنوع ہوا تقیہ تو دور کی بات ہے اور دوسری آیت میں تقیہ تو تقیہ کفار کے خوف سے سست ہو جانے اور ضعیف ہو جانے پر تنبیہ کرتے ہیں کیونکہ تقیہ کی برائی کی طرف تو اشارہ وَمَا اسْتَكَانُوا میں آگیا تھا اس لئے کہ اس کے معنے یہی ہیں کہ اُن لوگوں نے کفار کے آگے باوجود تکلیفات کے بظاہر کی چاپلوسی نہ کی اور یہی تقیہ ہے اور کیا تقیہ کے سر سینگ ہیں پھر جو دو باتیں اور فرمائیں کہ نہ سست ہوئے نہ ضعیف ہوئے تقیہ سے دو نمبر اور ادھر کو کھینچا ہے تاکہ اس سے دور رہیں اور اس میں گرفتار نہ ہو جائیں سبحان اللہ خدا بھی کیا منتظم اور مدبر ہے یہ وہی قصہ ہے، بمرگش گیر تا بہ تپ راضی شود۔ لیکن آفرین ہے شیعوں کی بھی ہٹ دھرمی پر کہ تپ پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ موت تو درکنار اور کیوں راضی ہوں جہاد کو کیوں سر دھریں اور جہاد تو جب ہو گا جب ہو گا۔ سنیوں کے گھروں کے پلاؤ اور قورمے کیوں ہاتھ سے کھوئیے اور کیوں ان کے تیر ملامت کا نشانہ ہو کر اپنے نصیبوں کو روئیے جنت گئی بلا سے گئی۔

نقد را بنسیہ گذاشتن کار خردمنداں نیست

اور میں نے جو یہ عرض کہ اس آیت میں تقیہ وغیرہ سے روکتے ہیں ہر چند اہل فہم کے نزدیک محتاج بیان نہیں لیکن باندیشہ خوش فہمی شیعہ گذارش ہی لازم ہے اس آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے جسے تامل ہو دیکھ لو کہ جناب باری تعالے اس امت کے لوگوں

کو خاص کر صحابہ کو پہلی امتوں کے حال سنا سنا کر سست ہونے اور ضعیف ہونے اور تقیہ کرنے سے روکتے ہیں اب اہل انصاف سے التماس ہے کہ باوجود ان تنبیہات کے اگر کوئی نہ مانے اس کو کیا کہیئے وہ ناکارہ لوگوں میں سے ہوگا یا عمدہ اور عمدہ بھی اس قدر کہ مستحق ثواب ہو جیسا اہلِ تقیہ فرماتے ہیں۔

تقیہ سبب عتاب ہے، نہ کہ موجب ثواب حق تو یوں ہے کہ تقیہ والے مورد عتاب ہیں چنانچہ ان آیات سے ظاہر و باہر ہے ثواب کجا اور تقیہ کر کے منصب پیغمبری اور مرتبہ امامت پر مامور رہنا تو درکنار ویسے بھی خیر نہیں خاص کر ایسے تقیہ کے ساتھ کہ بزعم شیعہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ائمہ کرتے تھے صحابہ معلومین کے ساتھ کہ جو ان کے عقیدے کے موافق نعوذ باللہ ابلیس سے بھی بڑھ کر تھے چنانچہ اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہمیشہ ہم نوالہ اور ہم پیالہ رہے۔ اور ہمیشہ ان کی رضاجوئی میں عمر عزیز کو بسر کیا خداوند کریم تو ارشاد فرمائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ یعنے اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم اگر تو بعد حق و ناحق کے معلوم کرنے کے ان کی خواہشوں کے موافق کچھ بھی کرے گا تو تیرا کہیں ٹھکانا نہیں نہ تیرا کوئی دوست تجھے چھڑا سکے گا۔ نہ کوئی تیری مدد کرنے والا ہے جو خدا سے بچالے گا" اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم باایں ہمہ ممانعت و تہدید پھر بھی ان کی دلجوئی سے باز نہ آئے۔ خدا کی خواہش پر ان کی خواہش کو مقدم رکھا۔

انبیاء خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے القصہ خداوند کریم تو عوام تک کو تقیہ کے کرنے سے روکے اور شیعہ خواص کو بھی تقیہ کرنے والا اور وہ بھی دائم التقیہ سمجھیں حالانکہ خاص امانت رسالت کے پہنچانے والوں کی (جو شیعوں کے نزدیک بھی پیغمبر اور امام ہیں) جناب باری علامت ہی یہ فرماتا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں اور اللہ کے پیام کے پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ سورۂ احزاب کے پانچویں رکوع میں یہ آیت موجود ہے انبیاء کے حق میں فرماتے ہیں اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ یعنے انبیاء کے اوصاف یہ ہیں پہنچاتے ہیں اللہ کے پیام اور اسی سے ڈرتے ہیں اور سوا اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے اس آیت کو دیکھئے کہ فقط انبیا کا نہ ڈرنا ہی اس میں نہیں جو کوئی شیعہ یوں کہنے لگے کہ تقیہ دین کے چھپانے کو کہتے ہیں کیا ضرور ہے کہ ڈر ہی کے سبب چھپاتے ہوں بلکہ کچھ اور مصلحت ہو سو یہ احتمال اول تو ان کا جی جانتا ہے کہ کیسا نامعقول ہے پھر باایں ہمہ شاید کوئی اس بات میں کچھ زبان زوری بھی کرتا لیکن جناب باری تعالے تو علام الغیوب ہے، شیعوں کی ہٹ دھرمی تو پہلے ہی سے جانتا تھا اسی لئے پہلے ہی یہ پچڑ لگادی الذین یبلغون رسالات اللہ۔

خاتم الانبیاء کو تبلیغ کا تاکیدی امر پھر انبیاء میں سے بھی خاص کر جناب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کو نرا خاص کر حکم جداگانہ سنایا۔ تاکہ مزید تاکید ہو اور کوئی کسی قسم کی سستی اور مداہنت ظہور میں نہ آجائے چنانچہ سورہ حجر میں فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ یعنی سنادے کھول کر دین کی بات اور مشرکین کا کچھ دھیان نہ کر، اور پھر اس کے آگے برابر تاکید پر تاکید اسی بات کی چلی جاتی ہے کہ کہنے میں قصور نہ کر جسے شک ہو دیکھ لے اور پھر باایں ہمہ سورہ احزاب میں یوں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ حاصل یہ ہے تمہارے حق میں رسول اللہ ہی کا اقتدا انہیں کی چال ڈھال اور راہ روش پر رہنا اچھا ہے جسے اللہ کی اور پچھلے دن کی امید ہے،، اس آیت نے ساری امت کے ذمہ یہ بات واجب کر دی جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم حق بات کے کہنے اور اظہار دین میں دریغ نہیں کرتے تھے تم بھی نہ کرو پھر خاص کر ائمہ تو ائمہ ہیں وہ تو تبلیغ دین اور اظہار حق ہی کے لئے بھیجے گئے ہیں بلکہ شیعوں کے نزدیک رسولوں سے زیادہ نہیں تو برابری میں تو حرف ہی نہیں اور برابری نہ سہی جب ایک کام پر مامور ہوئے تو اس میں اوروں سے تو زیادہ ہی کنج دکاؤ چاہیئے

انبیاء اور ان کے نائب سب کا مقصد انذار و تبشیر ہے معہذا خداوند کریم فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ۔ یعنے ہم نہیں بھیجتے مرسلین کو مگر فقط بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے،، اور مرسلین کلام اللہ کی اصطلاح کے موافق فقط پیغمبر ہی کو نہیں کہتے بلکہ جو خدا کے احکام پہنچائے پیغمبر ہو یا نائب پیغمبر چنانچہ سورہ یسین میں جو اِنَّا اِلَيْكُمْ

مُرسَلُون ہے اس سے نائبان حضرت عیسٰےؑ مراد ہیں حالانکہ وہ نبی نہ تھے نائب نبی تھے اور امام کے تو خود یہی معنے ہیں شیعوں کے نزدیک کہ نائب نبی ہو۔ باقی کوئی یوں کہے کہ حضرت کے یاروں کو جو رسول کہا تو بایں معنے کہ وہ حضرت عیسٰے کے بھیجے ہوئے تھے اور آیت وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ میں وہ مراد ہیں جو خدا کے بھیجے ہوئے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسٰے کے نائبوں کے بھیجنے کو بھی خداوند کریم نے اپنی طرف نسبت کیا اور یوں فرمایا ہے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ یعنی ہم نے بھیجا اور یوں نہیں فرمایا کہ عیسٰے نے بھیجا جب حضرت عیسٰے کے نائبوں کو خداوند کریم اپنا بھیجا ہوا مرسل کہے تو ہمارے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کے نائب تو اس کے بھیجے ہوئے کیوں نہ ہوں گے؟ اور جب اس کے بھیجے ہوئے اور مرسل ہوئے تو موافق آیت مذکورہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ ان کا کام بھی یہی ہے بشارت اور ڈرانا۔ پھر اب فرمایئے کہ تقیہ کہاں سے آگیا؟ ہم سے تو نہیں ہو سکتا کہ منہ اُٹھا کر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی نسبت یوں گمان بھی کریں کہ وہ فرمودہ الٰہی میں سرِمو بھی تفاوت کرتے ہوں؛ ہمہ تن اظہار دین میں مشغول تھے اور کیوں نہ ہوں اول تو آیت مذکورہ سے خود مترشح ہے کہ پیغمبر تبلیغ رسالت میں قصور نہیں کرتے پھر نائب کیونکر اخفا کرینگے۔ نہیں تو پھر نائب ہی کیا ہوئے اور مخالف ہوئے (جیسے لکھے کے مٹانے والے)۔

آنحضرت کی بعثت کا مقصد ہی اظہار دین تھا

دوسرے جناب باری تعالےٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی غرض یہی بیان فرماتے ہیں کہ اظہار دین کے لئے ان کو بھیجا ہے۔ سورہ فتح اور سورہ صف اور سورہ توبہ میں ہے هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دیکر تاکہ سارے دینوں پر غالب اور ظاہر کردے۔ اب سنئے کہ اظہار دین اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت میں منسوب ہے تب تو مطلب ظاہر ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ اظہار دین خدا ہی کو کرنا مدنظر تھا پر اس طور پر اور اس سامان سے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سو جو کچھ دین کی ترقی ان کے سبب ہوئی وہ سب خدا

ہی نے کی لیکن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بیچ میں ایسے تھے جیسے کاریگر اور کار کے بیچ میں آلات ہوتے ہیں تو اس صورت میں مطلب ظاہر کیا اظہر ہے کیونکہ خدا کا ارادہ اظہار کا ہوگا تو پھر کون چھپا سکے گا بلکہ اس آیت میں ایک دلیل کامل ہر سنیوں کے مذہب کی حقیقت کی کیونکہ در صورت تقیہ شیعہ جو سنی بن جاتے ہیں تو ظاہر میں دین اہل سنت ہوتا ہے اور باطن میں مذہب شیعہ تو مذہب اہل سنت تو دین حق ٹھہرا اس لئے کہ لیظهره میں جو ضمیر ہے تو دین الحق کی طرف راجع ہے اور مذہب شیعہ علی الدین کلہ میں داخل رہا۔ اور ظاہر ہے کہ ماسوا دین حق کے سب دین باطل ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ اظہار جو اس آیت سے مقصود ہے وہ حضرت امام مہدی کے زمانے سے پہلے ہونا چاہیئے" وجہ اس کی یہ ہے کہ غالب ہونے کے لئے دو چیزیں ہونی چاہئیں ایک غالب ایک مغلوب۔ ایسے ہی ایک چیز جو ایک چیز سے ظاہر ہو تو وہ دوسری بھی ہونی چاہیئے۔ سو اس آیت میں ظاہر ہے علی الدین کلہ بھی لیظهره کے ساتھ ہے اور اس کے ملنے سے یہ معنے ہوگئے ہیں کہ اور دینوں سے یہ دین ظاہر ہوگا نہ یہ کہ اور دین باقی ہی نہ رہیں گے۔ سو حضرت امام کے وقت میں شیعہ ہی فرمادیں کہ اور دین رہے گا یا نہیں؟ معہذا لیظهره ارسل سے متعلق ہے تو وہ اظہار ارسال کے متصل ہی چاہیئے سو ایسا اظہار سوا مذہب اہل سنت کے اور کسی دین کو اب تک میسر نہیں آیا شیعہ ہی فرمائیں کہ میں جھوٹ کہتا ہوں یا سچ ہے اس کے بعد ہر چند اب کچھ ضرورت نہیں کہ منقولات میں سے ابطال تقیہ کی کوئی سند اور بیان کی جائے۔

تبلیغ دین انبیاء علماء اور ائمہ پر فرض ہے

لیکن مزید توضیح کے لئے اتنا اور معروض ہے کہ جب کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو اول دفعہ تو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اگر وہ اظہار حق نہ کرے اور بالکل چپکا بیٹھ رہے تو فرض تبلیغ احکام اس کے ذمہ رہ جائے اور فرضیت تبلیغ احکام کی انبیاء اور درویشوں اور علماء کے ذمہ سب کے نزدیک مسلم ہے اور کسی اور پر نہ ہو ہمارے پیغمبر آخرالزمان صلے اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ احکام کی فرضیت اس آیت سے واشگاف ہے۔

یَآ اَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ یعنے اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے

اور اگر یہ نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اسی طرح اور لوگوں کو فرماتے ہیں۔
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنے اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت بلاتی نیک کام کی طرف اور حکم کرتی اچھی بات کا اور منع کرتی ناپسند کو، سو یہ حکم ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے جاننے والوں کو ہے سو اسی کا نام عالم اور درویش ہے جتنا کوئی زیادہ جانے اتنی ہی اس کے ذمہ فرضیت زیادہ ہوگی۔ سو اماموں سے زیادہ اس باب میں اور کون ہوگا؟ لہٰذا اگر انبیاء مہر سکوت منہ پر لگا کر بیٹھ رہیں اور سرے سے منہ کھولیں ہی نہیں تب تو انبیاء کا گنہگار ہونا لازم آئے گا اور اگر احکام الٰہی پہنچائیں تو ظاہر ہے کہ احکام الٰہی تو نفس کے خلاف ہی ہوں گے۔ اسی واسطے مطیع و فرماں بردار کوئی کوئی ہوتا ہے ورنہ پھر بدبخت کوئی کوئی ہوتا اور حب نفس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو لاکھ میں سے ایک تو مثل ابوبکر صدیق کے بے کھٹکے مانتا ہے ورنہ سو سو حجتیں نکالتے ہیں بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے ہیں پھر اس وقت اگر آدمی لوگوں کی بدگوئی اور ایذا رسانی سے ہٹ رہے تو اس میں اور دنیاداروں میں کیا فرق رہا؟ ہر کوئی اس کو مطلب کا یار سمجھ کر دونی تکذیب پر کمر باندھے گا اور جو ساتھ ہو گئے تھے وہ ہٹ رہیں گے سو دین کی خیریت ہوئی اور نبوت بھی ختم ہوئی اور اگر ایسے وقت میں پکارا اور لوگوں کی بدگوئی اور نقصان جان و مال سے نہ ڈرا تو آگے پھر آسانی کا وقت ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ بعد شدت اور کلفت کے نصرت بھیجتا ہے چنانچہ آیت اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ الخ کے آخر میں جو اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ہے اپنے ماقبل سے مل کر یہی کہتا ہے اور جب آسانی ہوئی اور خدا کی مدد آپہنچی تو پھر تقیہ کس مرض کی دوا ہے؟ الغرض انبیا کے حق میں کوئی صورت تقیہ کے روا ہونے کی معلوم نہیں ہوتی اور چونکہ ائمہ ہدیٰ بھی نائبان پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم ہیں اور نائب کا وہی کام ہوتا ہے جس کام کے لئے منیب ہوا کرتا ہے تو بیشک تبلیغ احکام ان کے ذمہ میں فرض ہوگی اور ان کی کیا تخصیص ہے سب ہی پر فرض ہے۔ چنانچہ ابھی مرقوم ہوا لیکن یہ خاص اسی کام کے لئے ہوتے ہیں اور پھر ائمہ ہدیٰ معصوم بھی ہیں صدور گناہ کا احتمال نہیں تو ان سے بھی تقیہ کا ہونا ممکن نہیں جیسے کہ انبیاء سے ممکن نہیں۔

آنحضرت کی مکی زندگی تقیہ کا استیصال ہے

سو بفضلہ تعالےٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے احوال کے مطابق کرنے سے یونہی معلوم ہوتا ہے کہ حق گوئی میں انہوں نے ذرہ برابر دریغ نہیں کیا بلکہ اس سبب سے جان و مال، عزت و آبرو سب کو برباد کیا ہے اور اپنی بات سے نہیں ہٹے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حال تو ظاہر ہے سب اہل اسلام نے سنا ہوگا، آپ کی ایذاؤں کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ سالہا سال تک کفار نے ذات برادری سے نکالے رکھا مکہ سے باہر پڑے رہے یہ عہد کر لیا تھا کہ ان سے نہ کوئی بیع و شرا کرے نہ ان کا کوئی کام مزدوری غیر مزدوری سے کردے اور زبانی طعن و تشنیع اور دشنام اور دست درازیاں تو جاری رہیں۔ آخر یہ ہوا کہ قتل کا ارادہ ہوا اور آپ چھپ کر مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ اگر تقیہ فرض کیا درست بھی ہوتا تو آپ کیوں اتنے مصائب اٹھاتے؟ اور کیوں بیت اللہ جیسی اشرف چیز کو چھوڑ کر آتے؟ ابولہب اور ابوجہل کیوں دشمن ہوتے برائے خدا کوئی تبلائے تو سہی کہ ان ملعونوں کو سوائے حق گوئی کے آپنے اور کیا ستایا تھا زمین ملک ان کے نہیں دبالئے تھے ملک و دولت ان کے نہیں چھین لئے تھے علیٰ ہذا القیاس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈالے گئے اور ہجرت کر کے وطن سے چلے آئے تو آپنے سوا حق گوئی اور اظہار حق کے اور کیا گناہ کیا تھا؟ لہٰذا مجملہ مثل آفتاب روشن ہو گیا کہ انبیاء نے نہ تقیہ کیا اور نہ ان سے تقیہ ہو سکے۔

علیٰ ہذا القیاس جو ان کے نائب ہیں نہ انھوں نے تقیہ کیا نہ ان سے ہو سکے، چنانچہ حضرت امام حسین سید الشہداء کی جان نازنین پر جو کچھ گذرا وہ سب جانتے ہیں باعث اس کا فقط حق گوئی تھا ورنہ یزید کا کلمہ کہہ دیتے تو جان کی جان بچتی اور الٹی مال و دولت اور اعزاز و اکرام ہوتا اور حضرت امام الائمہ حضرت امیر کا امیر معاویہ سے لڑنا سب پر روشن ہے سوائے انکے اور اماموں کا حال بھی سنا ہوگا کہ سلاطین سفاک کے ہاتھ سے کیا کیا ایذائیں ان کے نصیب ہوئیں قید خانوں میں محبوس رہے اگر تقیہ کر لیتے تو کیوں یہ ذلت اور خواری اور کیوں یہ محنت و دشواری اٹھاتے؟ ہاں عوام مومنین کی نسبت اگر کوئی کہے تو فرضیت تو درکنار؟ البتہ جواز معلوم ہوتا ہے اگر عذر قرار واقعی ہو، مثلاً لڑکے اور عورتیں اور اندھے

اور لنگڑے اور اپاہج اور قیدی اور سوا اس کے جو کوئی ایسا ہی ناچار ہو تو اس کو بقدر ضرورت کفار سے موافقت جائز ہے بشرطیکہ جان کا یا کسی عضو کا اندیشہ ہو (اپنی یا اپنی اولاد یا ماں باپ وغیرہ کا) اور اگر کچھ یونہی تکلیف کا اندیشہ ہو جسے تحمل کر سکے تو پھر کفار سے موافقت کرنی ہرگز جائز نہیں۔

صبر کے فضائل اور ترغیب جس سے تقیہ کی حقیقت کھلتی ہے۔

اور بایں ہمہ پھر ثواب اس میں ہے۔ کہ تقیہ نہ کرے کیونکہ صبر کی جو جا بجا تعریفیں کتاب اللہ میں آئی ہیں۔ تو ایسوں ہی کے واسطے ہیں نہیں تو تقیہ میں کیا ایذا تھی جو صبر کی ضرورت ہوتی؟ اس میں تو اور پلاؤ اور متنجن میسر آتے ہیں اور حضرت اور قبلہ بن جاتے ہیں اسی لئے کلام اللہ میں جتنی صبر کی تاکید ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں۔ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یعنے سب انسان ٹوٹے میں ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق گوئی اور حق پر قائم رہنے اور صبر کی نصیحت کی۔ شیعوں کے مذہب میں حق گوئی تو کہاں، حق کے دبا لینے کی تاکید ہے، ابوبکر صدیق کو تو ایک فدک کے دبا لینے میں اس قدر برا کہتے ہیں۔ یہ جو تمام حق خداوندی یعنے دین حق کے دبا لینے کی فرضیت کے قائل ہیں ان پر کتنے ہزار لعنت چاہیے؟ اور سوا اس کے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الصَّابِرِیْنَ وَاصْبِرُوْا وغیرہ آیات صبر سے کلام اللہ بھرا ہوا ہے اگر تقیہ فرض ہوتا صبر کوڑی کے کام کا بھی نہ تھا معہذا کہیں ایک جگہ گو اس کا حکم آیا؟ بالجملہ اگر تقیہ کہیں ہے بھی تو عوام کے واسطے ہے اور ان میں بھی معذوروں کے لئے نہ ہر کسی کے لئے، اور اُن کے واسطے بھی جان کے خوف میں اور وہ بھی جائز ہے واجب نہیں بلکہ ثواب کی بات یہی ہے کہ نہ کرے اور کرے بھی تو واجب ہے کہ بقدر ضرورت کرے۔

جہاں اظہارِ حق نہ ہو سکے ہجرت واجب ہے

اور عین حالت تقیہ ہجرت کی فکر میں رہے اور جب قدرت پائے آنکھ بچا کر کہیں ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں اظہارِ حق سے کوئی مانع نہ ہو کیونکہ کلام اللہ میں ہجرت کی برابر تاکیدیں بھری ہوئی ہیں۔ اِنَّ اَرْضِیْ وَاسِعَۃٌ

فَاِیَّایَ فَاعْبُدُوْنِ۔ یعنے میری زمین واسعہ ہے گھر کی کیا تخصیص ہے جہاں بن پڑے وہاں ہی چلے جاؤ اور میری ہی عبادت کرو" دوسرے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفّٰھُمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ ظَالِمِیْٓ اَنْفُسِھِمْ قَالُوْا فِیْمَ کُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃً فَتُھَاجِرُوْا فِیْھَا فَاُولٰٓئِکَ مَاْوٰھُمْ جَھَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِیْرًا۔ یعنے جو لوگ ملائکہ ان کی جانیں قبض کرتے ہیں اور وہ ہجرت کے مقدمہ میں تقصیروار تھے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم ضعیف تھے بے بس ایک زمین میں پڑے تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی جو تم ہجرت کر لیتے سو ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے انجام کی"

اور سوا ان آیات کے اور بہت آیات میں ہجرت کا حکم ہے سو ہجرت کا حکم اسی اندیشہ سے ہوتا ہے کہ احکام دینی ظاہر نہیں ہو سکا کرتے بالجملہ عوام کو یہ بشرائط مذکورہ جائز ہی واجب نہیں، ورنہ ایسے ہی ہٹے کٹوں کو جو زمین میں لات ماریں تو پانی نکل آئے ہرگز اخفاءِ حق جائز نہیں، ان کو یہ لازم ہے کہ اگر وطن میں یا جہاں کہیں وہ ہوں اظہار حق نہ کر سکیں تو وطن چھوڑ کر چلے جائیں۔

اکراہ میں بھی اظہار حق افضل ہے۔

چنانچہ آیہ لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰہِ فِیْ شَیْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْھُمْ تُقٰۃً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّٰہُ نَفْسَہٗ وَاِلَی اللّٰہِ الْمَصِیْرُ فقط اتنی ہی اجازت پر دلالت کرتی ہے کہ اپنا بچاؤ کر لو پر کفار سے موافقت اور دوستی مت کرو سو بچاؤ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اس جگہ سے چلدے تسکین خاطر کے لئے معنے ساری آیت کے لکھے دیتا ہوں حاصل یہ ہے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور ان سے موافقت اور صلح نہ رکھیں، مومنوں کو سوا خدا کے اور کسی کی موافقت اور دوستی نہیں چاہیے اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے حساب سے کسی شمار میں نہیں مگر ہاں یہ تمہیں اختیار ہے کہ کچھ اپنا بچاؤ کر لو اور پھر یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ سے ڈراتے ہے اور پھر اللہ کی طرف سب کا ٹھکانا ہے" یعنی مجھ سے ڈرنا چاہیے کہ میری طرف آنا ہے کافروں سے کیا ڈرتے ہو؟ ان سے موافقت تو

جب کرلے جب ان کی طرف نہیں جانا ہوتا فقط ہاں اگر آدمی ان کے پنجوں میں پھنس جائے محبوس ہو یا مثل محبوسوں کے جیسے اندھے، اپاہج، لنگڑے لولے لڑکے بچے عورتیں بیمار اور پھر تس پر کفار زبردستی بھی کریں اور وہ زبردستی بھی ایسی ہو کہ عادت کے موافق اس کو اٹھا نہیں سکتا جیسے قید و قتل تو خیر اختیار ہے اگرچہ ثواب اس میں ہے کہ کھل کھیلے کیونکہ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ سے فقط اجازت ہی معلوم ہوتی ہے کہ اکراہ کی صورت میں فقط بظاہر موافقت کرلے۔ سو اکراہ اسے ہی کہتے ہیں جو مذکور ہوا لیکن ان آیات سے جو خدا کی راہ میں مارے جانے کے فضائل ان میں بیان ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ثواب اظہار ہی میں ہے۔

سیدنا ابراہیم کے کسی واقعہ سے اخفاء دین ثابت نہیں

باقی حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا کوئی زبان پر لائے تو کمال بے حیائی کی بات ہے، انہوں نے بظاہر جھوٹ بولا حقیقت میں جھوٹ نہیں بولا قصہ ان کا معروض ہے معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا اور بت پرستی سے منع کیا اور بتوں کی ہجو کرنی شروع کردی تو حضرت کے باپ ہی اول تو مخالف ہو گئے اور ان کا کہنا ماننا تو درکنار؟ ان کو دھمکانا شروع کیا یہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح ان کے بتوں کو توڑ دیئے اتفاقاً کفار کی عید کا دن آگیا لوگ ان کے پاس بھی آئے کہ چلو انھوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کے یا کتاب (نجوم کی) دیکھ کے یوں فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں کفار نے سمجھا کہ جیسے ہم نجوم کا اعتبار کرتے ہیں یہ بھی نجوم کو مانتے ہیں سو انہیں نجوم کی راہ سے کچھ یوں معلوم ہوا ہے کہ میں جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا اور یہاں حقیقت میں ستاروں کو یا کتاب کو برائے نام ہی دیکھا تھا، اور یہ جو کہا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یا تو کچھ آثار بیماری کے ہونگے یا آدمی بیمار ہوا ہی کرتے ہیں اور زبان سے کہا ہی نہ تھا کہ مجھے ستاروں کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا جو جھوٹ ہوتا ہاں وہ یہی سمجھ گئے کہ انہیں نجوم سے یہ بات معلوم ہوئی جب وہ اپنی عید میں چلے گئے تو انہوں نے ان کے سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا پر ایک بڑے بت کو کچھ نہ کہا۔

آخر جب کفار ہٹ کر آئے تو انہیں خبر ہوئی انہیں ہی اپنے بتوں کا دشمن سمجھتے تھے

سو انہیں ہی پکڑا ان سے جو پوچھا تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ صاحب اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے سو یہ دوسرا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی دیوانہ بھی یوں نہ کہے کہ ایسا جھوٹ ہے جسے ہم جھوٹ سمجھتے ہیں بلکہ ایسی بات ہمارے محاورہ میں بڑا سچ گنا جاتا ہے ان دونوں قصوں کو غور کیجئے اور پھر فرمائیے کہ یہ اخفاء حق ہے یا اظہار حق ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اسی کام کی بدولت آگ میں ڈالے گئے خاص کر یوں کہنا کہ بڑے نے کیا ہے یہ جھوٹ کیا، سچ سے بھی زیادہ اصلی مطلب پر دلالت کرتا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ جواب کیا تھا ایک چڑانا تھا۔ ایسے میں تو ان کو غصہ نہ آتا تب آتا اور حقیقت میں چھپاتے تو دین کو اس وقت چھپاتے، سو چھپانا تو درکنار حضرت نے اول تو ان کو چڑایا اور پھر کیا کیا سوال جواب کئے کہ رستم کا حوصلہ نہیں جو ایسے وقت میں ایسی بات کہے اور اول دفعہ جو ان کو نجوم کی طرف دیکھ کر دھوکا دیا تو کچھ جان کا بچاؤ آپ کو مدِ نظر نہ تھا مال کا بچاؤ آپ کو مدِ نظر نہ تھا آبرو کا پاس آپکو نہ تھا بلکہ اپنی جان کے کھونے کا شوق لگا تھا فقط مطلب اتنا تھا کہ یہ جائیں تو تنہائی میں ان کے بت ٹکڑے کیے جائیں۔ سو یہ کام کرنا جان پر کھیلنا تھا ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ رسوم کفار اور ان کی عبادت اور اشعار سے بھی یکسو رہیں بہرحال یہ جانبازی کا سامان تھا۔ اور جانبازی کو تقیہ کہنا ایسوں ہی کا کام ہے کہ جنکو دُم کی اور ناک کی تمیز نہ ہو۔

اخفائے علاقہ زوجیت اخفائے دین نہیں ہے

بارے رہا تیسرا جھوٹ وہ یہ ہے کہ حضرت اپنی بیوی سارہ کو لیے ہوئے ہجرت کئے ہوئے جاتے تھے ایک بستی میں جا کر پہنچے جہاں کا حاکم بڑا ظالم اور نہایت زانی تھا اس کے شیطانی لشکر میں سے کسی نے حضرت سارہ کے حسن و جمال کی خبر کردی اس مردود نے ان کو بلوا بھیجا تب حضرت ابراہیم نے بایں خیال کہ اگر اس مردود کو حضرت سارہ کا کچھ زیادہ خیال ہوا تو یوں سمجھ کر کہ خاوند کو سب سے زیادہ غیرت ہوتی ہے ایسا نہ ہو پیچھا کریں مجھ کو مروا نہ ڈالے۔ جب حضرت سارہ کے لے جانے کو اس کے پیادہ آگئے تو یوں فرمایا کہ اے سارہ اگر وہ ظالم تجھ سے پوچھے تو یوں کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں کیونکہ ہم تو دونوں دینی بہن بھائی ہیں معہذا حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے چچا کی بیٹی بھی تھیں تو یہ بھی حقیقت میں جھوٹ نہ تھا اور اگر بالفرض والتقدیر یہ کہنا جھوٹ ہی تھا تب دین کا اخفاء تو نہ تھا اگر اخفاء

تھا تو علاقہ زوجیت کا انعقاد تھا اور وہ بھی بایں غرض کہ یہ جان جو حق گوئی میں جانے کے لائق ہے ایسا نہ ہو کہ ایسے قصہ میں جائے اور خدا کی راہ میں جاں نثاری کا ارمان دل کا دل میں رہ جائے غرض اس جگہ جان کا بچانا بھی اسی لئے تھا کہ کل کو اظہار حق کروں اور خدا کے کام میں جان دوں ایسے قصے میں نہ مروں۔ بالجملہ حضرت ابراہیم کے معاملات سے تقیہ کا ثابت کرنا کمال دانشمندی اور خوش فہمی پر دلالت کرتا ہے علی ہذا القیاس جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر جانا اور غار ثور میں چھپنا یہ سب کا سب اظہار حق کے باعث تھا، ورنہ ابوجہل اور کفار مکہ کی موافقت میں تو کچھ زیان ہی نہ تھا۔ اس کو تقیہ کہنا اس سے بھی بڑھ کر ہے ایسا تقیہ یہ بھی ہے کہ آدمی دشمن کے وار کو ڈھال سے روکتا ہے اگر بچاؤ کر لینے کے معنی تقیہ ہے تو یہ تو عین اظہار حق ہے کیونکہ بچاؤ کی تو جب ہی ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرا کوئی درپئے ایذا ہو۔

بچاؤ اور تقیہ میں فرق عظیم ہے اس مقام پر ہر کسی نے غالباً تقیہ شیعہ اور بچاؤ میں فرق سمجھ لیا ہوگا پر مزید توضیح کے لئے میں بھی کچھ عرض کئے دیتا ہوں تقیہ مصطلح شیعہ میں دشمن کے دل سے خیال ایذا ہی نکل جائے ہے۔ کیونکہ تقیہ میں تو اپنے مذہب کا فقط بدل لینا اور اپنے آپ کو ہم مذہب دشمن بنا لینا ہوتا ہے سو چونکہ اختلاف مذہب میں دشمنی دینی کے باعث تقیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو درصورت تبدیل مذہب دشمنی ہی نہ رہے گی بلکہ برعکس دوستی بن جائے گی اور بچاؤ کی صورت میں دشمنی اور بڑھ جاتی ہے اور خیال ایذا رسانی دوبالا ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب تک دشمن اپنے قابو میں رہتا ہے اور ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کو ایذا دے سکیں۔ تو اس کا دل تو کچھ چنداں رشک نہیں ہوتا دوسریوں بے فکری ہوتی ہے کہ جب چاہیں گے اسے ذلیل و خوار کر دینگے تیسرے جب وہ کچھ اپنا بچاؤ کر لیتا ہے تو پھر اپنا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادا اب یہ ہم پر وار نہ کرے تو ان وجوہ سے اعداء کو خیال ایذا رسانی تا مقدور زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جو کچھ ان سے بن پڑا کرتا ہے دریغ نہیں کیا کرتے تو اس صورت میں مقربان الٰہی کو سخت مصیبت پیش آیا کرتی ہے بالجملہ یہ فرق لطیف یاد رکھنا چاہیئے کہ بہت کارآمد ہے۔

حضرت امیر (بزعم شیعہ) سنت احمدی و ابراہیمی و موسوی پر عمل پیرا نہ ہو سکے

جب یہ بات مقرر ہو چکی تو اب اہل انصاف رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جو ہنگام قیام مکہ معظمہ اور اثنائے ہجرت میں پیش آئے حضرت امیر کے احوال سے جو بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پیش آئے ملا کر دیکھیں اگر اصحاب کرام مرتد ہو گئے تھے تو بیشک حضرت امیر بھی بحکم متابعت پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے، جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ابوجہل اور امیہ بن خلف وغیرہم سے پیش آئے اور آپ پر بھی وہ سانحے گذرتے جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر گذرے آخر کو ایک نہ ایک دن تو نوبت ہجرت پہونچتی اور سنت احمدی اور سنت ابراہیمی اور سنت موسوی کی تکمیل ہو جاتی۔ لیکن شکایت تو یہ ہے کہ حضرت امیر نے کبھی منہ کھول کر ایک دفعہ بھی یوں نہ فرمایا کہ میں دین حق پر ہوں اور تم دین باطل پر اور اگر آپ نے اظہار حق کیا تو دو حال سے خالی نہیں۔ کہ یا اصحاب نے انکا کفر مانا تسلیم کر لیا تب تو تقیہ کی کیا ضرورت اور ان پر کیا اعتراض ہے؟ بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ عین موافق مرضی مرتضوی ہوا اور نہ مانا تو کیا سبب کہ ایسے دشمن کو کسی قسم کی ایذا دی اور اگر یوں کہیئے کہ بسبب شجاعت مرتضوی یا امداد خداوندی کے وہ کچھ ایذا نہ پہنچا سکے تو اول تو یہ خلاف معقول رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کون سے حضرت امیر سے کم تھے جو آپ پر یہ آفتیں آئیں حاشا دکلا جو حضرت امیر نے کبھی تقیہ کیا ہوا اگر تقیہ کرتے تو مکہ معظمہ ہی میں کرتے اور کبھی کیا ہوتا تو امیر معاویہ کے ساتھ ضرور کرتے بہت ہوتا تو یہ ہوتا کہ قتلان عثمان مارے جاتے وہ کون سے آپ کو ایسے عزیز تھے کہ جن کے پاس و لحاظ میں اتنے کچھ شر و فساد کے دین میں روادار ہوئے۔

حضرت سید الشہداء نے تو بے گناہوں کو اور وہ بے گناہ بھی کیسے کہ اپنے قوت بازو اور اپنے لخت جگر کو اس دین ہی کی بابت قتل کروایا اور اپنے آپ بھی جان بحق ہوئے اور زن و فرزند ننگ و ناموس کا بھی کچھ لحاظ نہ فرمایا حالانکہ یہ سب کشت و خون بظاہر لاحاصل تھا تیس ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں اتنے آدمیوں اور اس بے سروسامانی پر کیا امید کامیابی تھی بخلاف حضرت امیر کے کہ وہ اگر قاتلان عثمان غنی کو امیر معاویہ کے حوالہ کر دیتے تو خلافت کی خلاف

بنی رہتی ایک باغی جو مسند دین تھا اپنا مطیع و منقاد ہو جاتا دین کی ترقی ہوتی اور پھر بایں ہمہ کچھ بے جا بھی نہ تھا آخر قاتلان حضرت عثمان ظالم تھے مظلوم نہ تھے اور نہ سہی ہمراہیاں امام الشہداء کے برابر تو بے گناہ بھی نہ تھے۔ حق یوں ہے کہ یہ سب تہمت اخفاء حق اور عیب نامردہ پن ان حضرات شیعہ کا لگایا ہوا ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم۔

دوران خلافت میں بھی امیر پر تقیہ واجب تھا | اور طرفہ تر شیعوں کا گوز شتر اور سنئے سید مرتضیٰ جو بڑے محقق مذہب شیعہ ہیں وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت امیر پر اپنی خلافت اور حکومت کے زمانے میں بھی تقیہ باقی تھا، الٰہی یہ تقیہ نہ ہوا ایک جان کا وبال ہوا کسی راہ حضرت امیر کا پیچھا چھوٹتا ہی نہیں مگر کوئی ان سے پوچھے کہ اگر اس وقت بھی تقیہ ان پر واجب تھا تو امیر معاویہ کو کیوں معزول کیا۔ حضرت تو پہلے سے ان سے ڈریں تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کا مکر بہت بڑا ہے حالانکہ مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عباس کی صلاح بھی یہی تھی کہ ابھی معزول نہ فرمایئے بعد استقامت معزول فرمایئے گا مگر آپ نے نہ مانا اور یہ نہ ماننا آخر کو موجب کیا کیا خرابیوں کا ہوا یہ سب شیعوں ہی کی کتابوں میں ہے۔

سید مرتضیٰ صاحب کی دلیل سنئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت مرتضوی برائے نام تھی امیر معاویہ ہمیشہ ان سے لڑتے رہے مہذا آپ کی فوج اور آپ کے ساتھی اکثر اولاد صحابہ تھے جو آپ کے دشمن جان گذرے ہیں اور ان کے دل میں خلیفہ اول اور ثانی کا عدل اور فضل جما ہوا تھا اگر حضرت امیر اس وقت کما ینبغی اظہار حق کرتے تو بہت دشواری ہو جاتی گمان غالب تھا کہ فوج بھی پھر جاتی اس سبب سے عالم خلافت میں بھی ان پر تقیہ واجب تھا اور اظہار حق حرام،

اس اعتقاد میں ہر چند سید مرتضیٰ نے تمام اماموں کا خلاف کیا ہے کیونکہ وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ قبل خلافت آپ پر تقیہ واجب تھا اور بعد خلافت آپ پر بھی حرام تھا۔ لیکن بزعم خود بڑی دور اندیشی اور کمال چالاکی کری تھی پر خدا نے چلنے نہ دی۔

خلافت امیر میں تقیہ کے بہتان کا پس منظر | انہوں نے اپنے عندیہ میں اس کا بچاؤ کیا تھا۔ کہ مبادا کوئی سنی حضرت کے ایام خلافت کے خطبوں اور ملفوظات کو جن میں اصحاب کرام خصوصاً

خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کی تعریف ہے دیکھ کر ناک میں دم کر دے یا یہ گرفت کر بیٹھے کہ دین شیعہ حق ہے تو حضرت امیر کی خلافت تو سب میں اخیر تھی آپ نے کیوں نہ اس کو شائع ذائع کیا اگر آپ دین شیعہ کو رواج دیتے اور اسے مشہور کرتے تو روئے زمین میں یہی دین ہوتا اور سنیوں کا دین نیست و نابود ہو جاتا۔ جیسے ابوبکر اور عمر نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمہارے گمان کے موافق نیست و نابود کر دیا اور اپنا ساختہ پرداختہ مروج کر دیا اور آپ کے بعد کسی نے دین کے باب میں چنداں کنج کاوی نہیں کی سو آپ ہی کا دین باقی رہنا چاہیئے تھا القصہ حضرت امیر آخر میں خلیفہ ہوئے تھے یہ بات دین کی ترقی کے لئے ایسی مفید ہوئی تھی کہ درصورت برعکسی ترتیب کے ہرگز متصور نہیں پھر کیا سبب کہ دین اہل سنت و جماعت ہی مشہور رہا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی دین اہل سنت ہی پسند تھا۔ الغرض اس اندیشہ سے سید مرتضیٰ صاحب نے یہ چکر کھایا اور یہ پلٹے لئے تھے

حضرت امیر وسائل رکھتے ہوئے بھی اظہار دین نہ کر سکے | لیکن یہ نہ سوجھی کہ خلافت اور ولایت اسے کہتے ہیں کہ ملک میں تصرف ہو حکم احکام چلتے ہوں محصول اور خراج رعیت سے وصول کر سکے چور قزاق کو سزا دے سکے سو یہ بات سوا شام کے اور کون سے ملک میں حاصل نہ تھی خصوصاً حجاز اور عمان اور حرمین اور بحرین اور عراقین اور آذربائیجان اور فارس اور خراسان میں بے کھٹکے آپ کی حکومت تھی پھر یہ تھوڑی سلطنت تھی؟ امیر معاویہ کے پاس تو اتنا ملک تھا بھی نہیں وہ اپنے ملک میں جو حکم چاہتے تھے جاری کرتے تھے ادھر ابوبکر صدیق کو دیکھو کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فقط ملک عرب میں حکومت چھوڑ کر اس عالم سے تشریف لے گئے تھے اور پھر تیسرے چار طرف معاندین زور پر تھے مسیلمہ کذاب اور بنو حنیفہ ملک یمامہ میں ایک طرف اور سجاح متنبیہ بنی تمیم میں کہ ان سے بڑھ کر عرب میں کوئی قبیلہ ہی نہ تھا جداسی برسر پرخاش، منکرین زکوٰۃ اپنی ہی طرف کو کھنچ رہے تھے بنو عسفان جامہ سے باہر جدا نکلے جاتے تھے ادھر گرد و نواح مدینہ کے مرتدین کا جلا زور شور تھا آپ کے ساتھی گنے چنے مکہ مدینہ والے ہی تھے اور پھر بایں ہمہ کسی بات میں کسی سے نہ دبے، اور کسی حکم میں مداہنت نہ کی اگر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے طور پر راضی کر دیتے اور اوروں کو ان کے طور

پر تو کچھ مشقت نہ ہوتی۔

صدیق نے بے سروسامانی میں اظہار حق کیا ابوبکر صدیق باوجود اس قلت سامان اور عدم شجاعت کے اتنے دشمنوں سے بھی نہ گھبرائے۔ حالانکہ اکثر ان کے دشمن لڑائی کے مشتاق تھے اور بعضے بعضے تو چھوٹے سے بادشاہ تھے۔ اور حضرت علی با اینہمہ شجاعت وکرامت اور زور و قدرت اور شوکت اور سلطنت اور امامت و ولایت کہ ابوبکر کو ایک بھی ان اوصاف جزیلہ میں سے نصیب نہ تھا اظہار حق میں (اور بھی کسی امر میں نہیں) اتنی سستی فرمائیں؟ اگر ابوبکر صدیق کو یہ اوصاف کہیں سے مل جاتے پھر کافر نام کوئی پھونس کا آدمی بھی دنیا میں رہتا تو ہمارا ذمہ تھا باقی یہ کہنا کہ آپ کی فوج اکثر اولاد صحابہ تھی اگر کوئی سنی کہتا تو زیب بھی دیتا، سید مرتضیٰ صاحب کس منہ سے کہتے ہیں قاضی نور اللہ صاحب کی نہیں سنتے وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ قریش میں سے کل پانچ ہی آدمی تھے باقی تیرہ قبیلہ معاویہ کے ساتھ اس لئے آپ کو فتح میسر نہ ہوئی۔ بالجملہ شیعوں کے اقرار سے آپ کے ہمراہی کوفیان جاں نثار تھے جو مقتدایان شیعہ ہیں اگر وہ نہ ہوتے اور صحابہ کی اولاد ہی ہوتی تو جیسے ان کو عدل اور فضل شیخین کا (دیکھے بھالے) اعتقاد تھا اور اس کے باعث ان کی راہ روش پسندیدہ تھی ایسے ہی اپنے ماں باپ سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی سنے سنائے یاد تھا۔

معہذا اگر پھر جاتے تو کیا تھا آخر دین مرتضوی میں وہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہیں کہ منکر بھی معتقد ہو جاتے۔ متعہ کا آوازہ سن کر امیر معاویہ کے ہمراہی بھی ہمراہ ہو جاتے بلکہ جس اہل مذہب کے کان میں یہ بشارت پہنچی کہ جیتے جی یہ مزے ہیں اور مر کر یہ مرتبے۔ کیسے ہی دین کے پکے کیوں نہ ہوتے حضرت امیر کی ہمرکابی اختیار کرتے علاوہ بریں غسل رجلین کی تخفیف تراویح سے بے کھٹکے ایسا دین اور ایسا ایمان تو قسمت ہی سے ملتا ہے اگر اظہار دین خود کرتے تو تمام ملک عرب اور طوائف عجم ممد و معاون ہوتے سبحان اللہ سنیوں سے مقابلہ اور پھر یہ سامان، اتنا ہی سوچا ہوتا کہ ابتداء سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممد و معاون وہی لوگ تھے جو آپ کے دشمنان جانی کے بھائی

برادریا اولاد تھے خالد بن الولید، عکرمہ بن ابی جہل بلکہ خود حضرت عمر کہ ابوجہل کے بھانجے اور ابوبکر صدیق ابوقحافہ کے بیٹے، حضرت عثمان ابوسفیان کے قرابتی، علٰے ہذا القیاس اور لوگ ایسے ہی تھے۔

مقربان الٰہی کا طریقہ اظہار حق کرنا اور جفائیں اٹھانا ہے اب بس کیجئے اور ایک دو آیت لکھ دیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ مقربان الٰہی کا کام ہمیشہ سے ستم کشی اعداء دین رہا ہے۔ اور مدام اچھے لوگوں نے ان کے ہاتھ سے ایذائیں اٹھائی ہیں، اور خداوند کریم کو دین کے مقدمہ میں سختی اور پختگی پسندیدہ ہے نہ کہ سستی اور مداہنت إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - یعنے جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو حق بات کہتے ہیں ان کو سخت عذاب کی بشارت سنا دے،، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اچھے لوگ تقیہ نہیں کیا کرتے بلکہ حق گوئی میں دریغ نہیں کرتے اور اسی سبب سے ان کو قتل کر دیتے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - یعنی اے ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا تو بلا سے اللہ اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے خدا کو محبت ہوگی اور خدا سے ان کو محبت ہوگی مومنوں کے سامنے تو ذلیل نظر آئیں گے اور کافروں کے سامنے بڑے سخت ہوں گے خدا کی راہ میں جہاد کرینگے۔ اور کسی کے بھلا برا کہنے سے نہ ڈریں گے،، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے محب ومحبوب وہی لوگ ہیں جو کافروں کے سامنے دب کر نہ رہیں اور ان کی خوشامد نہ کریں۔ بلکہ ان سے کھچے ہی رہیں اور کسی کی ملامت سے نہ ڈریں اب فرمائیے کہ تقیہ میں سوا کفار کی خوشامد اور ان کی موافقت اور اندیشہ ملامت کے اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ محبوبوں اور محبوں کا کام نہیں بلکہ دشمنان

خدا اور رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔

تقیہ عرف اور دستور کی کسوٹی پر

اب الحمد للہ کہ عاقلان منصف کے لئے خوبی تقیہ عقل ونقل سے خوب واضح ہوگئی مناسب وقت یوں ہے کہ عرف اور دستور خلائق پر بھی اس کو منطبق کر کے کچھ اس کی بزرگی بتلا دیجئے۔ جملہ آفاق میں پسندیدہ خلائق پختگی اور استقامت ہے اور تلون کو سب لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ خاص کر دین کے مقدمات میں اور وہ بھی پھر اتنا کہ ایک دفعہ شوراشوری اور پھر بالکل بے نمکی، سو پیغمبران دین اور ائمہ ہدیٰ اگر ایک دفعہ احکامِ دین سنا کر پھر خوف جان یا خوف آبرو سے ہم کاسہ کفار ہو جائیں تو سب کے نزدیک یہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ لوگ خام طمع دنیا طلب ہیں۔ پھر وہ معجزات کا عطا ہونا جو محض حسنِ اعتقاد خلائق کے لئے ہے سب رائیگاں ہو جائے اور جو لوگ کہ آمادۂ ہدایت ہوں، وہ منحرف ہو جائیں اور جو راہ پر آلئے ہوں وہ اس حب جاہ کو دیکھ کر بے اعتقاد ہو کر پلٹ جائیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کو سخت دنیا دار سمجھیں۔ معہذا ظاہر ہے کہ نصیحت کی تاثیر کے لئے خود عمل کرنا رکن اعظم ہے۔ جب تقیہ ہوا تو عمل کجا؟ تو لاجرم اس صورت میں ہدایت کی کوئی صورت نہیں۔

بالجملہ تقیہ کے بطلان پر عقل و نقل اور عرف تینوں متفق ہیں پر جس کی چشم انصاف کور ہو اس کو کیا نظر آئے؟ اور نقل مشہور ہے بلکہ حدیث شریف ہے حُبُّكَ الشَّیْءَ یُعْمِیْ وَیُصِمّ یعنے تجھے اگر کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کے عیوب اور نقصانات کے دیکھنے سننے میں وہ محبت تجھ کو اندھا بنا دیتی ہے اگر محبت مذہب دل سے ایک طرف کر کے ان تقریروں اور اثبات تقیہ کی تقریروں کو موازنہ کریں تو انشاء اللہ مولوی عمار علی صاحب بھی توبہ کر اٹھیں میر نادر علی کو تو شیعہ کیا بنائیں؟ اور اب ہم کو اسکی ضرورت نہیں رہی کہ بعد اس کے بھی کچھ بیان کریں لیکن اتمام حجت کے لئے اتنا اور معروض خدمت علماء شیعہ ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر فرض محال تقیہ ثابت بھی ہو جائے، تو موافق جمہور شیعہ حضرت امیر پر ہنگام خلافت تقیہ حرام تھا پھر تعریف صحابہ کو تقیہ پر کیوں محمول کیا جائے؟

حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہ کہنے والے کے لئے حضرت جعفر کی بددعا

اور سلمنا کہ ہنگام خلافت بھی ان پر تقیہ فرض تھا تو قطع نظر اس کے کہ یہ تعصب ہی تعصب ہے اور اس قول کے قائل نے عقل کی بھی ناک کتر لی ہے اس میں کیا عذر کریں گے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ موافق مذہب شیعہ وہ خدا کی طرف سے تقیہ کرنے سے ممنوع تھے اور تقیہ ان پر حرام تھا۔ علی بن عیسےٰ اردبیلی امامی اثنا عشری اپنی کتاب کشف الغمہ عن معرفت الائمہ میں نقل کرتے ہیں۔

سُئِلَ الْاِمَامُ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ حِلْیَةِ السَّیْفِ هَلْ یَجُوْزُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَلّٰی اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّیْقُ سَیْفَهٗ فَقَالَ الرَّاوِیْ اَتَقُوْلُ هٰكَذَا فَوَثَبَ الْاِمَامُ عَنْ مَكَانِهٖ فَقَالَ نَعَمْ الصِّدِّیْقُ نَعَمْ الصِّدِّیْقُ نَعَمْ الصِّدِّیْقُ فَمَنْ لَّمْ یَقُلْ لَهُ الصِّدِّیْقُ فَلَا صَدَّقَ اللّٰهُ قَوْلَهٗ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔

یعنے حضرت امام ابوجعفر یعنے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ وعن آبائہ الکرام سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کے قبضہ پر چاندی سونے کا کچھ نقش ونگار یا بوٹے وغیرہ بھی درست ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں درست ہے اس لئے کہ ابوبکر صدیق نے اپنی تلوار پر چاندی کا جھول کرایا تھا راوی نے کہا کیا آپ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں۔ آپ غصہ میں اپنی جگہ سے اچک بیٹھے اور فرمانے لگے ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں صدیق، جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچی مت کیجیو۔ فقط۔ اب گوش گذار اہلِ انصاف یہ ہے کہ سب امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی بن عیسی اردبیلی علم و فضل میں یکتا اور نقل اور روایت میں بڑے معتمد علیہ ہیں انکی روایت پر کوئی سقم نہیں پکڑ سکتا۔

امام جعفر پر تقیہ حرام تھا

باقی رہی یہ بات کہ حضرت امام محمد باقر پر تقیہ کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سو یہ وجہ معقول اس کا جواب بھی ہم سے معقول ہی سنئے۔ کلینی میں روایت ہے:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِیْرٍ عَنْ اَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ

۲۳

جَلَّ اَنْزَلَ عَلٰی نَبِیِّہٖ کِتَابًا فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ہٰذِہٖ وَصِیَّتُکَ اِلَی
النُّجَبَاءِ فَقَالَ وَمَنِ النُّجَبَاءُ یَا جِبْرِیْلُ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ
وَوَلَدُہٗ کَانَ عَلَی الْکِتَابِ خَوَاتِیْمُ مِنْ ذَہَبٍ فَدَفَعَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِلٰی عَلِیٍّ وَاَمَرَہٗ اَنْ یَفُکَّ خَاتَمًا مِنْہُ فَیَعْمَلُ بِمَا
فِیْہِ ثُمَّ دَفَعَہٗ اِلَی الْحَسَنِ فَفَکَّ عَنْہُ خَاتَمًا فَعَمِلَ بِمَا فِیْہِ ثُمَّ
دَفَعَہٗ اِلَی الْحُسَیْنِ فَفَکَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ فِیْہِ اُخْرُجْ بِقَوْمٍ
اِلَی الشَّہَادَۃِ فَلَا شَہَادَۃَ لَہُمْ اِلَّا مَعَکَ وَاشْتَرِ نَفْسَکَ لِلّٰہِ
فَفَعَلَ ثُمَّ دَفَعَہٗ اِلٰی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فَفَکَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ فِیْہِ
اِنِ اطْرَقْ وَاصْمُتْ وَالْزَمْ مَنْزِلَکَ وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَاْتِیَکَ
الْیَقِیْنُ فَفَعَلَ ثُمَّ دَفَعَہٗ اِلٰی ابْنِہٖ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ
عَلَیْہِ السَّلَامُ فَفَکَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ فِیْہِ حَدِّثِ النَّاسَ وَاَفْتِہِمْ
وَانْشُرْ عُلُوْمَ اَہْلِ بَیْتِکَ وَصَدِّقْ اٰبَاءَکَ الصَّالِحِیْنَ وَلَا
تَخَافَنَّ اَحَدًا اِلَّا اللّٰہَ فَاِنَّہٗ لَا سَبِیْلَ لِاَحَدٍ عَلَیْکَ ثُمَّ دَفَعَہٗ
اِلٰی جَعْفَرٍ الصَّادِقِ فَفَکَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ فِیْہِ حَدِّثِ النَّاسَ
وَاَفْتِہِمْ وَلَا تَخَافَنَّ اَحَدًا اِلَّا اللّٰہَ وَانْشُرْ عُلُوْمَ اَہْلِ
بَیْتِکَ وَصَدِّقْ اٰبَاءَکَ الصَّالِحِیْنَ فَاِنَّکَ فِیْ حِرْزٍ وَاَمَانٍ فَفَعَلَ
ثُمَّ دَفَعَہٗ اِلٰی ابْنِہٖ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ وَہَلُمَّ اِلٰی قِیَامِ الْمَہْدِیِّ
وَرَوَاہُ مِنْ طَرِیْقٍ آخَرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیْرٍ اَیْضًا عَنْ اَبِیْ
عَبْدِ اللّٰہِ وَفِیْہِ فِی الْخَاتَمِ الْخَامِسِ وَقُلِ الْحَقَّ فِی الْاَمْنِ
وَالْخَوْفِ وَلَا تَخْشَ اِلَّا اللّٰہَ انتہی

حاصل روایت کا یہ ہے کہ کلینی میں معاذ بن کثیر سے روایت ہے وہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے نبی پر ایک کتاب اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری وصیت ہے نجبا کو، آپ نے فرمایا جبریل نجبا کون ہیں؟

جبریل نے کہا علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد، اور اس کتاب پر سونے کی مہریں لگی ہوئی تھیں (یعنی جیسے خطوں پر لاکھ لگاکر مہر لگا دیتے ہیں ایسے ہی اس خط پر لاکھ کی جگہ سونے کی مہریں لگی ہوئی تھیں) سو حضرت پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت نامہ کو حضرت علی کو دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مہر کو توڑیں اور جو اس کے نیچے سے نکلے اس پر عمل کریں، پھر انہوں نے حضرت امام حسن کو دیا انہوں نے بھی ایک مہر توڑ کر اس کے نیچے جو کچھ نکلا اس پر عمل کیا، پھر انہوں نے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے مہر توڑی تو اس کے نیچے سے یہ نکلا کہ ایک قوم کو شہادت کی طرف لے جا۔ اس لئے کہ ان کی شہادت تیرے ہی ساتھ ہے، اور اپنی جان کو اللہ کے واسطے خرید لے، سو انہوں نے ویسا ہی کیا بعد اس کے انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو وہ وصیت نامہ دیا، انہوں نے مہر کو توڑا تو اس میں نکلا کہ سر جھکا کر بیٹھ رہ اور اپنے گھر ہی میں رہ، اور اپنے رب کی عبادت کئے جا یہاں تک کہ موت آجائے، سو انہوں نے ویسا ہی کیا، پھر انہوں نے وہ وصیت نامہ اپنے بیٹے امام محمد باقر کو دیا انہوں نے جو مہر کو توڑا اس میں یہ پایا کہ لوگوں سے حدیثیں بیان کر اور فتوے دے اور اپنے اہل بیت کے علوم کو پھیلا، اور اپنے آباو اجداد صلحا کو سچا کر اور سوا خدا کے کسی کے کسی سے مت ڈر، اس لئے کہ کوئی تجھ پر قادر نہ ہو سکے گا، پھر انہوں نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ وصیت حوالہ کی، انہوں نے جو مہر توڑی تو اس میں بھی یہ پایا کہ حدیثیں بیان کر لوگوں سے، اور فتوے دے اور کسی سے سوائے خدا کے مت ڈر اور اپنے اہل بیت کے علوم کو پھیلا، اور اپنے آباو اجداد صالحین کی تصدیق کر اس لئے کہ تو خدا کے حفظ و امان میں ہے۔ سو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے امام موسے علیہ السلام کو وہ وصیت دی اور اسی طرح حضرت امام مہدی تک ہوتا چلا گیا۔

اور دوسری سند سے کلینی ہی معاذ بن کثیر مذکور کے واسطے سے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے اور اس روایت میں پانچویں مہر میں یعنی حضرت امام باقر کی نوبت میں آتا اور یہی ہے اور کہتا رہ حق بات امن میں اور خوف میں اور سوا خدا کے

کسی سے مت ڈر فقط اس روایت میں غور فرمائیے کہ حضرت امام محمد باقرؒ کو کس تاکید سے تقیہ کی ممانعت ہے پھر بھی حضرت امام محمد باقرؒ جن کو یہ وصیت تھی کہ حق کے سوا کبھی کچھ اور مت کہیو حضرت ابوبکر صدیق کی اتنی کچھ تعریف فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ بجز نبوت کے نہیں اس لئے کہ بعد انبیاء کے کلام اللہ میں صدیقین ہی کو ذکر فرماتے ہیں اور پھر تعریف بھی اس تاکید سے کہ بددعا فرماتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو انہیں صدیق نہ کہیں اور برا کہنے کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں۔

امام جعفر کی بددعا سے حقانیت اہل سنت اور بطلان مذہب شیعہ ظاہر ہوگیا

اہیل اس روایت سے فقط یہی فائدہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا صدیق ہونا بے غل وغش ثابت ہوگیا اور کسی کو تقیہ کے احتمال کی گنجائش نہ رہی، بلکہ شیعوں کے مذہب کا بطلان اور سنیوں کے مذہب کی حقانیت بھی بہ تحقیق معلوم ہوگئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرات شیعہ قاطبۃً خواہ امامیہ خواہ غیر امامیہ خواہ اثنا عشریہ خواہ غیر اثنا عشریہ اس بددعا کے اندر داخل ہیں جو حضرت امام معصوم مستجاب الدعوات امام محمد باقر کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہم کو تو ہم کو شیعوں کو بھی اس کے قبول ہونے میں تامل نہیں سو اس سبب سے ہم کو بالیقین معلوم ہوگیا کہ ان کے دعوے محبت اہل بیت اور دعوے اسلام اور دعوے ایمان سب خداوند کریم کے نزدیک جھوٹا ہے اور آخرت میں بھی خداوند کریم ان کی تکذیب فرمائے گا سو اس سے زیادہ اور کونسا مرتبہ باطل ہونے کا ہوگا دوسرے حضرت علیؓ نے جو کیا سب حسب فرمان الٰہی اور موافق وصیت پیغمبری تھا حضرت ابوبکر صدیق رضؓ اور حضرت عمر رضؓ اور حضرت عثمان رضؓ سے جو بیعت کی، علیٰ ہذا القیاس حضرت امام حسن نے جو خلافت امیر معاویہ کے حوالہ فرمائی سب حسب ایماء خداوندی اور ارشاد پیغمبری تھا بوجہ تقیہ نہ تھا اور جب ابوبکر صدیق رضؓ اور حضرت عمر فاروق رضؓ اور حضرت عثمان ذوالنورین سے حضرت علی نے بیعت موافق ارشاد خداوندی کی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ قابل اسی کے تھے، علیٰ ہذا القیاس دختر مطہرہ حضرت ام کلثوم کا نکاح جو حضرت عمر سے ہوا تو وہ نکاح بھی خدا کے حکم کے موافق ہونے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح سے کچھ کم نہیں، جیسے ان کا نکاح حضرت علی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافق ارشاد خداوندی ہوا تھا ویسے ہی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عمرؓ سے حسب فرمان الٰہی تھا۔ وہو المراد الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ سب حیلہ و حجت امامیہ کا جواب دندان شکن بن پڑا یہ اسی خداوند نعمت کا کرم ہے، حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل۔

امام جعفر پر ایک اعتراض جو خود کشی کی نوعیت رکھتا ہے

مگر ہاں اتنا کھٹکا باقی ہے کہ شاید فرقہ امامیہ اہل سنت کی ضد میں اگر یہ حجت کریں کہ واقعی کلام اللہ اور اقوال عترت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سنیوں کے برحق ہونے اور شیعوں کے باطل پر ہونے کے دو گواہ عادل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اِنِّیْ تَارِكٌ فِیْكُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِیْ اَهْلُ بَیْتِیْ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے ایک ان میں دوسرے سے بڑا ہے وہ دونوں کیا ہیں ایک تو کلام اللہ دوسرے میرے اہبیت فقط"۔ اور اس حدیث کو سنی شیعہ دونوں فریق بالاتفاق برسر وچشم رکھتے ہیں۔ اور اس کو حدیث ہونے کے قائل ہیں القصہ شیعہ اب اگر تین پانچ کریں تو یوں کریں کہ موافق حدیث مسطور کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلے اللہ علیہ السلام سنیوں کے برحق ہونے اور شیعوں کے باطل پر ہونے کے دو گواہ عادل بہت ہیں لیکن اس بات کو کیا کیجئے کہ اقوال عترت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جو ہم تلک پہنچے ہیں تو وہ سب کے سب امام معصوم مستجاب الدعوات اعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی بددعا میں (جس کا ابھی مذکور ہوا) داخل ہیں کیونکہ ہمارے سارے پیشوا ابوبکر صدیق کے صدیق ہونے کے منکر ہیں ان سب کا قول ہر چہ باد باد قابل تسلیم نہ رہا کیونکہ بددعا تو یہی ہے کہ خدا ان لوگوں کی بات سچی نہ کرے پھر جب ان کی بات ہی سچی نہ ہوئی تو ان کی روایات کا کیا اعتبار؟

معہذا اکثر پیشوایان مذہب شیعہ اور راویان اخبار صحیحہ مذہب مذکور کا کافر مطلق اور بے دین محض تھے کہ فتویٰ شیعہ بھی ان کے حق میں بجز تکفیر اور نہیں

ہو سکتا۔ چنانچہ بعض بعض کا احوال کچھ اوپر آیت محمد رسول اللہ الآیت کے ترجمہ اور متعلقات میں گذر چکا اور اوروں کا حال کچھ نہ پوچھئے کہ پردہ ہی میں بہتر ہے، زرارۃ بن اعین کے باب میں تو امام جعفر صادق نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ اہل نار سے ہے چنانچہ کتب معتبرہ میں ابن سماں سے موجود ہے اور قاضی نور اللہ صاحب رقم فرماتے ہیں کہ زرارۃ بن اعین کے چار بھائی حمراؔن، عبد الملکؔ، بکیرؔ عبد الرحمٰن اور زرارہ کے دو بیٹے حسن حسین اور بھتیجے یعنے چاروں بھائیوں کے بیٹے حمزہ محمد خریش عبد اللہ جہم عبد المجید عبد الاعلی عمر سب کے سب زرارہ بن اعین کا سا عقیدہ رکھتے تھے یعنی مثل زرارہ، سب اس بات کے قائل تھے کہ خداوند کریم ازل میں جاہل تھا نعوذ باللہ منہا تو اس صورت میں کُنَّا بِکُلِّ شَیْئٍ عَالِمِیْن کے مضمون کے منکر تھے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کلام اللہ کا منکر کون ہوتا ہے۔

علی ہذا القیاس اوروں کو سمجھئے یہ تو بڑے مقتداؤں اور بڑے حاملان اخبار کا ذکر ہے اور ضعفاء اور مجاہیل کا کچھ حساب ہی نہیں پھر ہم اپنی روایات کا کس طرح اعتبار کریں اس صورت میں ایک گواہ کی گواہی تو ہمارے نزدیک مسلم یعنے کلام اللہ کا فرمانا تو خیر جبراً کرہاً برسر کیونکہ ہر قرن میں تبواتر منقول ہوتا رہا ہے پر دوسرے گواہ کی گواہی یعنی اہلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب قابل اعتبار ہو کہ وہ بھی ایسی ہی طرح منقول ہوا اور یہ بھی نہیں تو سند ایسی تو ہو کہ اس کے راوی دیندار مومن ہوں کافر تو نہ ہوں سو چونکہ ہماری روایات کے ایسے راوی نہیں اور سنیوں کا ہمیں پہلے سے اعتبار نہیں تو فقط ایک گواہ باقی رہ گیا اور شریعت میں ایک گواہ کا اعتبار نہیں اس سے ہم صحابہ کے معتقد نہیں ہو سکتے گو اس میں ہمارے مذہب کی ہی بیخ و بنیاد اکھڑ جائے اور سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ شیعوں کے دین اور روایات کا یہ حال ہے ؎

شادم کہ از رقیباں دامن کشاں گذشتی ٭ گو مشت خاک ما ہم بر باد رفتہ باشد

سو اس کا جواب ہمارے پاس ہر چند بوجہ عقل بہت کچھ ہے لیکن اب بھی بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر تم ہماری ضد میں اپنے مذہب سے بھی دست بردار ہوئے تو صاحب ہم

بارے تم جلیتے۔ خیر اب بفضلہ تعالیٰ یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشہادت ثقلین اعنی کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب شیعہ غلط ہے اور یہی فقط مقصود تھا تو اب مناسب یوں ہے کہ بقدر مناسب اور باندازہ فرصت مولوی عمار علی صاحب کے خط کی بھی خبر لیجئے مگر مناسب یوں ہے کہ اول اس خط کو لفظاً لفظاً نقل کیجئے۔ تاکہ ناظرین جواب کو لذت کامل نصیب ہو اس لئے اول وہ خط ہی پیش نظر کرتا ہوں وہ خط یہ ہے

نقل خط مولوی عمار علی

میر صاحب مظہر عنایت وکرم مجمع محامد شیم زاد بفضلہ وکرمہ بعد سلام کے واضح خدمت عالی ہووے کہ عنایت نامہ تمہارا پہنچا جو کچھ آپ نے لکھا تھا معلوم ہوا آپ نے لکھا تھا کہ مجھے صحت علماء شیعہ سے فدک کے غصب ہونے میں نہیں ہوتی۔ صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کی ملاقات کسی عالم واقف اور خبردار سے آج تک حاصل نہیں ہوئی اگر مجھ سے آپ کی ملاقات ہووے اور میری زبانی آپ سنیں تو آپ پر واضح ہو جاوے کہ اہل سنت بالکل غلطی پر ہیں اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور بھس پر لینا لیپتے ہیں اور تین سوال جو آپ نے عبد الحق کی طرف سے لکھے تھے ان کا جواب مختصر یہ ہے کہ سوال اول میں آپ نے لکھا تھا کہ رسول خدا کی بیٹیوں کا نکاح کس سے ہوا یہ سوال بے محل ہے، اس واسطے کہ جناب رسول خدا کے نطفہ سے ایک بیٹی تھی فاطمہ زہرا سو وہ حضرت علی سے منسوب تھی اور دو بیٹیاں جو اور آنحضرت کی اہلسنت مشہور کرتے ہیں وہ دونوں حضرت کے نطفہ سے نہ تھیں بلکہ وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے نطفہ سے تھیں ہمراہ حضرت خدیجہ کے آئی تھیں اور نام ان دونوں صاحبزادیوں کا رقیہ اور ام کلثوم تھا ابن حجر محدث اہلسنت نے کتاب اصابہ میں لکھا ہے۔ کہ ایک کا نکاح تو ان میں سے عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا اور دوسری کا نکاح ابو العاص بن الربیع سے اور یہ دونوں کافر تھے انتہے، بعد اسکے نکاح ان دونوں کا عثمان سے ہوا جس وقت کہ باوجود قوت اسلام کے کافروں کے نکاح میں ہی ہیں اور پیغمبر خدا نے ان سے علیحدہ نہ کیا۔ اگر عثمان کے نکاح میں آئیں تو کیا قباحت ہے عثمان تو خود مسلمان تھا حضرت کے روبرو

اور ان کافروں سے بدرجہ بہتر تھا۔

البتہ بعد وفات جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے ایسی بدعتیں عثمان نے کیں کہ عائشہ اس کے حق میں کہتی تھی اقتلوا نعثلا لعن اللہ نعثلا اقتلوا احراق المصاحف یعنی قتل کرو اس ریش دراز کو لعنت کرو اس ریش دراز پر، قتل کرو اس قرآن کے جلانے والے کو، چنانچہ استیعاب میں لکھا ہے یہاں تک بدعتیں کیں کہ صحابہ رسول نے تنگ ہو کر اسے قتل کیا یہ سب ماجرا اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے اگر سند اس کی مطلوب ہو گی۔ تو روانہ کر دی جائے گی اور اگر یہ دونوں صاحبزادیاں بھی رسول خدا کے نطفہ سے ہوتیں تو ان کے فضائل کچھ مذکور ہوتے جیسے کہ حضرت فاطمہؑ کے فضائل سنی شیعہ کی کتابوں میں مذکور ہیں سیدۃ نساء العلمین سیدۃ نساء اہل الجنۃ، الفاطمۃ بضعۃ منی اور سوا اس کے فضائل فاطمہ کے صدہا کتابوں میں مذکور ہیں اور ان دونوں کے فضائل ایسے مذکور نہیں ہیں اگر آنحضرتؐ کے نطفہ سے ہوتیں تو البتہ مذکور ہوتے۔

سوال دوسرا علی نے عائشہ سے بہتر جنگ کئے۔ اگر باغ فدک اصحاب ثلثہ نے غصب کیا تھا تو علی نے ان پر جہاد کیوں نہ کیا، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال بھی غلط ہے اس واسطے کہ علی نے عائشہ سے بہتر جنگ نہیں کئے۔ بلکہ ایک جنگ کی تھی سو عائشہ کو شکست ہوئی چنانچہ اہلسنت کی کتابوں میں لکھا ہے اور فدک کے غصب کرنے سے جہاد لازم نہ ہوا تھا اس واسطے کہ جہاد مال دنیا کے غصب کرنے سے واجب نہیں ہے بلکہ پیغمبر اور امام واسطے ترقی دین کے جہاد کرتے ہیں نہ واسطے مال دنیا کے اور علی کے پاس جہاد کرنے کو انصار کب تھے کہ وہ جہاد کرتے، جہاد کرنے کا حکم تنہا کے واسطے نہیں ہے بلکہ جس وقت انصار و مددگار بہم پہونچیں اس وقت جہاد کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول خدا جب تک مکہ میں رہے بسبب نہ ہونے انصار کے حکم جہاد کا نہ ہوا، جب مدینہ گئے کافروں کے خوف سے ہجرت کر کے اور انصار بہم پہنچے تو جہاد کفار پر کیا اور جب تک مکہ میں رہے کچھ نہ ہو سکا۔ بلکہ کچھ کچھ مددگار بھی وہاں موجود تھے۔ ان مددگاروں میں ایک علی بھی تھے ان سے بھی کچھ نہ ہو سکا آخر کفار کے خوف سے سب نے اپنا وطن اصلی چھوڑ دیا مگر ایسے ہی حال علی کا بعد رسول خدا کے تھا کہ خلفاء ثلثہ کے زمانہ میں ان

کو انصار و مددگار بہم نہ پہنچے تو جہاد نہ کیا اور جب بہم پہنچے تو عائشہ پر بھی جہاد کیا۔ اور معاویہ پر بھی۔

اور سوال تیسرا یہ کہ علی کی بیٹیوں کا نکاح کس سے ہوا تھا، جواب اس کا یہ ہے کہ فاطمہ کے پیٹ سے علی کی دو بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی زینب کہ جس کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا اور دوسری بیٹی کلثوم تھی کہ جس کا نکاح محمد بن جعفر طیار سے ہوا تھا فقط یہی سوال تھا جس کا جواب ہوا اگر کچھ زیادہ لکھتے تو زیادہ لکھا جاتا۔ اور فدک کا غصب ہونا جو آپ نے دریافت کیا تھا اس کو ایک دفتر چاہیئے۔ لیکن کچھ مختصر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تحریر کرتا ہوں اگر آپ کی طبیعت میں انصاف ہے تو اسی قدر کفایت کرتا ہے اور جو کچھ لکھتا ہوں یہ سب اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ہے جس شخص کو کچھ تردد ہو مطابق کر لے۔ اور بعد اس کے انصاف کرے کہ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منثور میں اور شیخ علی متقی نے کنز العمال میں اور ابو علی موصلی نے اپنی مسند میں اور صاحب معارج النبوۃ نے معارج النبوۃ میں اور سوا اس کے اور علماء اہل سنت نے روایت کی ہے کہ جس وقت نازل ہوئی آیت وآت ذا القربی حقہ یعنے دے تو اے محمد قریبوں کو حق ان کا،، تو اس وقت پیغمبر خدا نے جبریلؑ سے پوچھا کہ قریب میرے کون ہیں اور حق ان کا کیا ہے جبریل نے عرض کی کہ قریب تمہارے فاطمہ ہے اور حق اس کا فدک ہے فدک اس کو دیدو اس وقت رسول خدا نے فدک فاطمہ کو دے دیا پس تحریر سے ان علماء کی ثابت ہوا کہ رسول خدا نے فاطمہ کو فدک دیا اور فاطمہ مالک فدک کی تھی۔

جب رسول خدا نے دنیا سے رحلت فرمائی اور ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو فدک کو فاطمہ سے چھین لیا اور ان کا قبضہ اٹھا دیا اب فرمایئے کہ یہ غصب نہیں تو کیا ہے؟ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ تاریخ آل عباس کہ کتب معتبرہ اہلسنت سے ہے اس میں لکھا ہے کہ جس وقت اولاد حسنین نے مامون رشید خلیفہ عباسی سے دعوٰے فدک کا کیا تو اس نے دو صد علماء اہل سنت جمع کر کے کہا کہ حال فدک کا راست راست بیان کرو انہوں نے بروایت واقدی

۲، اور بشیر بن ولید بیان کیا کہ بعد فتح خیبر آیت وآت ذا القربی حقہ نازل ہوئی تو رسول

خدا نے جبریل سے پوچھا کہ ذوالقربیٰ میرے کون ہیں اور حق ان کا کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی کہ فاطمہ زہرا تمہاری قریب ہے اور حق اس کا فدک ہے۔ اس وقت رسول خدا نے فاطمہ کو فدک دے دیا جب ابوبکر نے اپنی خلافت میں فاطمہ کو فدک سے منع کیا تو فاطمہ نے فرمایا کہ فدک مجھ کو میرے باپ نے دیا ہے ابوبکر نے قبول کیا اور چاہا کہ فاطمہ کو کاغذ معافی کا لکھ دے اور فدک فاطمہ کو پھیر دے اس وقت عمرؓ نے کہا کہ فاطمہ سے گواہ طلب کر کہ پیغمبر خدا نے اس کو کب دیا ہے؟ اس وقت فاطمہ زہرا حضرت علی اور ام ایمن کہ ایک بی بی تھی اور حسنین علیہ السلام کو گواہ اپنا لائی اور انہوں نے گواہی دی کہ پیغمبر خدا نے فاطمہ کو فدک دیا ہے تو اس وقت ابوبکر نے فاطمہ کو کاغذ فدک کا لکھ دیا کہ اپنے حق پر قابض ہووے عمر نے وہ کاغذ ابوبکر سے لے کر پھاڑ ڈالا اور کہا کہ فاطمہ ایک عورت ہے اور علی اس کا شوہر ہے اپنے نفع کے لئے کہتا ہے ابوبکرؓ نے بھی قبول کیا اور یہ دعوے کرنا فاطمہ کا ابوبکر سے ہبہ فدک کا اور گواہی دینا علی اور حسنین کا اور ام ایمن کا اور رد کرنا اور نا منظور کرنا ابوبکر کا ان کی گواہی کو اہلسنتؒ کی بہت کتابوں میں لکھا ہے مثل صواعق محرقہ اور فصل الخطاب اور معجم البلدان اور ریاض النضرہ اور کنز العمال اور تاریخ حاکم اور جمع الجوامع اور شرح مواقف اور نہایت العقول اور سوا اس کے بہت کتابوں میں ہے لیکن ابوبکر نے فاطمہ کو اور اس کے گواہوں کو اس دعوے میں جھوٹا جانا اور دائے فاطمہ کہ جس کسی نے ابوبکر سے دعوے کیا اس کو ابوبکر نے سچا جانا۔ اور گواہ اس سے طلب نہ کئے جو کچھ اس نے مانگا دیدیا۔

چنانچہ صحیح بخاری میں جابر سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابوبکرؓ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ پیغمبر خدا نے اپنی زندگی میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مال بحرین کا آوے گا۔ تو میں تجھ کو اس میں سے اس قدر مال دوں گا۔ اور مال بحرین کا حضرتؐ کی زندگی میں نہ آیا۔ لیکن اب تمہارے پاس آیا ہے تم اس میں سے مجھ کو دو کہ حضرت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ابوبکر نے یہ بات سن کر اسی وقت تین مٹھی مال کی مجھے بھر کر دی اور گواہ مجھ سے پیغمبر خدا کے وعدہ کرنے کے طلب نہ کئے اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں وجہ اس کی اس طرح سے لکھی ہے کہ ابوبکر نے جو جابر سے گواہ طلب نہ کئے اور دعوے کرتے ہی مال اس کو دیدیا سبب اس کا یہ ہے کہ

جابر سا صحابی معاذ اللہ پیغمبر خدا پر جھوٹا دعویٰ کرے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اگر جابر سچا نہ ہو تو پھر کون سچا ہو سکتا ہے اس واسطے ابوبکر نے اس سے گواہ طلب نہ کئے اور بدون گواہی اس کو مال دے دیا اب کہتا ہوں میں کہ وائے بر دینداری اہل سنت کہ فاطمہ کو جو کہ پارہ جگر رسول خدا ہے جابر کے برابر بھی نہ جانا کہ ادنیٰ صحابی تھا اور ان کے نزدیک فاطمہ کا مرتبہ جابر کے برابر بھی نہ ہوا کہ جابر کو تو بدون گواہوں کے مال دیدیا اور اس کو جھوٹ سے بچایا اور کہا کہ جابر سچا نہ ہوگا تو اور کون سچا ہوگا؟ اور فاطمہ کو جھوٹا سمجھ کر اس سے گواہ طلب کئے جب گواہوں نے اس کی گواہی دی تو ان کی گواہی کو رد کیا علی کو تو کہا کہ یہ شوہر اس کا ہے اپنے نفع کے لئے کہتا ہے۔ علی کو بھی جھوٹا جانا ہر چند علی بھی صحابی تھے۔ لیکن جابر کے برابر سچے نہ تھے اور حسنین کو کہا یہ فرزند اس کے ہیں اور لڑکے ہیں اور ام ایمن جو باقی رہی وہ ایک عورت ہے اس کی گواہی کیسے درست ہووے۔

اب فرمایئے کہ یہ غصب نہیں تو اور کیا ہے۔ سوا اس کے اور غصب کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ عداوت ہے یا دوستی؟ اور مروت اور رعایت حق رسول؟ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ اہل بیت کی دشمنی میں حق رسول کی بھی رعایت نہ کی۔ آپ نے لکھا تھا کہ مجھے غصب فدک کی کسی سے صحت نہیں ہوتی اب آپ کو چاہیئے کہ میری صحت علماء سنت سے کرایئے اور میری باتوں کا جواب لکھوا کر بھجوایئے کہ کیا سبب ہے، کہ جابر کو سچا جانا، اور فاطمہ کو جھوٹا سمجھا اور اس مظلومہ کے گواہوں کو بھی رد کیا۔ اور یہ بھی سننا چاہیئے کہ جب فاطمہ نے جانا کہ ابوبکر نے مجھے ہبہ فدک میں جھوٹا سمجھا تو اس معصومہ نے دعوے وراثت کا کیا اور ابوبکر سے کہا کہ میں پیغمبر خدا کی بیٹی ہوں مجھے ان حضرت کا مال ارث میں پہنچتا ہے اور فدک میرے باپ کا مال ہے مجھے دیدے اس وقت ابوبکر نے ایک جھوٹی روایت قرآن کے خلاف بنا کر کہا کہ میں نے پیغمبر خدا سے سنا ہے کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ انبیاء کا مال سب صدقہ ہے کسی کو ان کے وارثوں میں سے نہیں پہنچتا۔ اول تو یہ روایت خلاف قرآن کے ہے دوسرے یہ کہ پیغمبر خدا نے اپنے وارثوں میں سے نہ بیٹی سے نہ اپنی بیبیوں سے کسی سے کہا کہ میرا مال صدقہ ہے تم کو نہیں پہنچتا تم دعوے نہ کرنا اور حکم خدا کا جو کچھ ان کے واسطے تھا اس

کو ان سے چھپا کر رکھا اور ایک اجنبی شخص سے کہ اس کو کسی طرح کا دخل پیغمبر خدا کی وراثت میں نہ تھا اس کے کان میں کہدیا اور کسی دوسرے صحابی سے بھی نہ کہا

لیکن باوجود اس کے پھر ایک مرتبہ فاطمہؑ ابوبکر کے پاس گئی اور اس وقت ابوبکر منبر پر تھا۔ کہا کہ اے ابوبکر تیری بیٹی تو تیرا ترکہ پاوے اور میں اپنے باپ کا ترکہ نہ پاؤں اس وقت ابوبکر منبر سے نیچے اترا اور کہا کہ لے میں تجھکو فدک دیتا ہوں یہ کہکر فاطمہ کو کاغذ لکھدیا اتنے میں عمر آیا اور ابوبکر سے پوچھا کہ یہ کیسا کاغذ ہے کہا کہ میں نے فاطمہ کو فدک لکھدیا ہے۔ عمر نے وہ کاغذ ابوبکر کے ہاتھ سے لیکر پھاڑ ڈالا اور کہا کہ لوگوں کو کیا دے گا؟ عربوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔

چنانچہ یہ روایت سبط ابن جوزی نے اپنی سیرت میں تحریر کی ہے اور واقدی محدث اہلسنت اور برہان الدین حلبی شافعی نے اپنی سیر میں لکھا ہے فاطمہ نے ابوبکر سے دعوے فدک کا کیا کہ فدک میرا ہے میرے باپ نے مجھکو دیا تھا۔ اس وقت ابوبکر نے فاطمہ کو فدک کا کاغذ لکھدیا جب فاطمہ وہ کاغذ لے کر وہاں سے پھری تو رستہ میں عمر سے ملاقات ہوئی عمر نے فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کیسا کاغذ ہے فاطمہ نے کہا کہ ابوبکر نے مجھکو فدک لکھدیا ہے عمر نے وہ کاغذ ہاتھ فاطمہ سے چھین کر پھاڑ ڈالا اگر کوئی کہے کہ ابوبکر کا اس میں کیا قصور ہے۔ اس نے تو لکھدیا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ابوبکر حاکم تھا اس کو اس امر میں تابعداری عمر کی نہ چاہیئے تھی عمر کو اس شر سے باز رکھتا اور اس کے کہے پر عمل نہ کرتا لیکن وہ تو اس کا ہر امر میں شریک تھا اس کے مشورہ بدون کچھ نہیں کر سکتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ ابوبکر کو اس امر میں سچا جانتے تھے اور علی بھی ابوبکر کو سچا جانتے تھے کہ ابوبکر سچ کہتا ہے پیغمبر خدا کا سب کہ صدقہ ہے کسیکو نہیں پہنچتا تو پھر علی اور عباس نے عمر کی خلافت میں عمر سے جا کر کیوں دعوے کیا پیغمبر کے ترکہ کا اس وقت عمر نے علی اور عباس کو کہا کہ تم ابوبکر کو کاذب اور خائن اور غادر اور آثم جانتے تھے اور مجھے بھی تم دونوں کاذب اور خائن اور غادر اور آثم جانتے ہو اور میں وہی کروں گا۔ جو کہ ابوبکر کرتا تھا یہ روایت صحیح مسلم میں لکھی ہے

اور مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ عثمان کی خلافت میں عثمان سے بھی پھر دعوے کیا تھا پس اگر ابوبکر سچا ہوتا تو ان کے زمانہ میں دعوے ہرگز نہ کرتے معلوم ہوا کہ ابوبکر اس روایت میں بالکل جھوٹا تھا۔ ازراہ عداوت کے روایت بنا کر فاطمہ کا حق غصب کیا اور عمر خود علی

اور عباس سے اقرار کرتا ہے کہ تم ابوبکر کو کاذب اور خائن جانتے تھے اور مجھے بھی تم کاذب اور خائن جانتے ہو پس جس وقت علی نے ان کو کاذب اور خائن جانا تو بیشک ہم بھی ان کو کاذب اور خائن جانیں گے اور یہی مطلب غصب ہے۔ اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جس وقت ابوبکر نے فدک کے دینے سے انکار کیا تو فاطمہ زہرا اس پر غضب ناک ہوئی اور تمام عمر پھر کبھی اس سے کلام نہ کیا اور صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ نے وقت مرنے کے وصیت کی کہ ابوبکر اور عمر میرے جنازہ پر نہ آنے پائیں۔ فقط۔

جواب خط

یہاں تک خط مذکور کی عبارت تھی بلکہ بلاکم و کاست لفظاً لفظاً نقل کر دیا ہے۔

لیکن اب ہماری بات سننے کے لئے بھی تیار ہو جیے تاکہ مولوی صاحب کی اس طمطراق کی حقیقت اور مولوی صاحب کی قابلیت اور علمار شیعہ کی فہم و فراست بخوبی معلوم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ خط ہر چند عبارت میں تو زیادہ لیکن مثل غذا قلیل الکیموس کہ باوجود قلت کیموس کے سیئی الکیموس بھی ہو خلاصہ نکالئے۔ تو کل دو چار ہی باتیں ہیں پھر وہ بھی غلط اگر اعتبار نہ آئے تو دیکھیے۔ اول مولوی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے نطفہ سے فقط ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھا اور اہلسنت جو دو بیٹیاں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اور مشہور کرتے ہیں وہ آپ کے نطفہ سے نہ تھیں بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند کے نطفہ سے تھیں خیر غنیمت ہے، کہ جناب مولوی عمار علی صاحب نے اتنا تو لحاظ رکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہونے سے تو ان کو خارج نہیں کیا ہم ایسی ناانصافی پر اس کے بھی شکر گذار ہیں ورنہ جہاں مولوی صاحب نے جرأت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نصب منقطع کیا تھا اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی ان کا نسب منقطع کر دیتے جیسے بعضے ایسے ہی دشمنان نہانی اہل بیت نے کیا ہے۔ تو کون مانع تھا، بات یہ ہے کہ اس جگہ تو مولوی صاحب نے غیرت کی ناک ہی کتر لی ہے اور موافق

مثل مشہور ہے۔ دروغ گویم بر روئے تو، یہ ستم کئے ہیں کہ سنیوں کی ضد میں اہلبیت پر جفا کر کے (سوکھی)، اپنے ایمان پر بھی تو قلم پھیر گئے نہ کلام اللہ کی سنی نہ اپنی معتبر کتابوں کا لحاظ کیا آفرین ہے کیوں نہ ہوں مولوی عمار علی ع این کار از تو آید و مرداں چنیں کنند

بنات طیبات از روئے کلام اللہ شریف برائے خدا اہل انصاف بے روی و ریا ہو کر میری گذارش کو سنیں اگر بیجا ہو جب ہی کہیں کلام اللہ موجود ہے اگر مولوی عمار علی صاحب کو یہ عذر ہو کہ شیعوں کو کلام اللہ یاد نہیں ہوتا ہم کلام اللہ کے حوالوں کی کیونکر تصدیق کریں تو میں پتے وار تبلاتا ہوں۔ سورہ احزاب میں بائیسویں سیپارہ میں قریب ربع کے آخر کے رکوع سے پہلے رکوع کے شروع ہی میں یوں ارشاد فرماتے ہیں یَا اَیُّھَا النَّبِیُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدْنِیْنَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِھِنَّ یعنے کہدے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنی بیبیوں اور بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں" فقط اب گذارش یہ ہے کہ اتنی بات تو مولوی عمار علی صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ بنات جمع ہے اور جمع کم سے کم تین پر بولی جاتی ہے اور اگر کبھی توسع کر کے دو پر بھی اطلاق کر دیں تب بھی ایک سے تو زیادہ ہی ہوگا بہرحال یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کے سوا اور کوئی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی ہی نہ تھی تب بھی غلط ہوگا افسوس مولوی صاحب کو اتنی شرم بھی تو نہ آئی کہ کوئی سنے گا تو کیا ہوگا مگر مولوی صاحب نے ہم جانے یہ سن رکھا ہے "الحیاء یمنع الرزق" یعنے حیا رزق روک دیتی ہے اس لئے شاید اس پر کبھی دھیان نہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان کیونکہ ایمان کا ثمرہ بالفرض کچھ ہوا بھی تو آخرت میں ہوگا رزق تو آج ہاتھ سے جائے ہے اور پہلے لوگ فرما گئے ہیں۔

"نقد را بنسیہ گذاشتن کار خردمنداں نیست"

بالجملہ یا تو مولوی صاحب یہ تسلیم فرمائیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں تھیں پھر یہ آپ تسلیم کرینگے کہ وہ حضرت رقیہ وغیرہا تھیں کیونکہ سوا ان کے اور کسی کی نسبت تو کسی نے یہ دعوے کیا ہی نہیں ورنہ آیات ربانی کے منکرین کے لئے یہ تازیانہ موجود ہے۔ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَا اِلَّا الْکٰفِرُوْنَ یعنی نہیں انکار کرتے ہماری آیات سے مگر کافر" اور اگر کافر بن جانا گوارا کریں اور اس بات کو نہ مانیں کہ سوا حضرت زہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلے اللہ

علیہ وسلم کے اور بھی کوئی بیٹی تھی تو ناچار پھر ہمیں شیعوں ہی کی کتابوں کی سند دینی لازم ہوگی انھیں تو جھوٹا نہیں بتائیں گے اور اگر ہماری ضد میں ان سے بھی دست بردار ہوں تو سبحان اللہ "چشم ما روشن دل ما شاد"

بنات طیبات کی تعداد از روئے کتب شیعہ بہرحال اس امید پر اس باب میں روایات کتب معتبرہ شیعہ ہی نقل کرتے ہیں، نہج البلاغت میں جو شیعوں کے نزدیک مثل صحیفہ آسمانی اور آیات قرآنی کے ہے اور اس کے مرویات کو سب اثنا عشریہ متواتر سمجھتے ہیں علامہ رضی جو اس کے جامع ہیں حضرت امیر کا قول حضرت عثمان کے خطاب میں یوں نقل فرماتے ہیں قَدْ بَلَغْتَ مِنْ صِھْرِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ مَالَمْ یَنَالَا یعنی الشیخین حاصل اس کا یہ ہوا کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذی النورین کو کسی مقام میں یوں فرماتے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا وہ شرف میسر آیا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بھی میسر نہیں آیا اور شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی تہذیب میں جو صحاح اربعہ شیعہ میں سے ہے اور ہمسنگ کافی کلینی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کرتے ہیں۔

کَانَ یَقُوْلُ فِیْ دُعَائِہٖ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی رُقَیَّۃَ بِنْتِ نَبِیِّكَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی اُمِّ کُلْثُوْمَ بِنْتِ نَبِیِّكَ یعنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دعا میں یوں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ رحمت بھیج حضرت رقیہ پر جو تیرے بنی کی بیٹی ہیں یا اللہ رحمت بھیج حضرت ام کلثوم پر جو تیرے بنی کی بیٹی ہیں"۔ اور اس پر بھی تسکین خاطر نہ ہو اور جناب مولوی صاحب قبلہ اپنی وہی مرغی کی ایک ٹانگ گائے جائیں اور اس کی یوں تاویل کرنے لگیں کہ عرف کی رو سے انہیں بیٹیاں کہدیا ہو لے پالک کو سارا جہاں بیٹا بیٹی کہا کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں حضرت فاطمہ ہی بیٹی تھیں تو میں بھی انشاء اللہ مولوی صاحب سے تسلیم ہی کرا کر چھوڑوں گا کلینی میں روایت موجود ہے۔ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ خَدِیْجَۃَ وَھُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِیْنَ سَنَۃً فَوُلِدَ لَہٗ مِنْھَا قَبْلَ بَعْثِہٖ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَلْقَاسِمُ وَرُقَیَّۃُ وَزَیْنَبُ وَاُمُّ کُلْثُوْمَ وَوُلِدَ لَہٗ بَعْدَ الْمَبْعَثِ اَلطَّیِّبُ وَالطَّاھِرُ وَفَاطِمَۃُ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم

نے حضرت خدیجۃ الکبرا سے جب نکاح کیا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کچھ اوپر پینتیس برس کی تھی۔ سو حضرت خدیجہ سے آپ کے نطفہ سے پہلے نبوت کے تو حضرت قاسم اور حضرت رقیہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئے اور بعد نبوت کے حضرت طیب اور حضرت طاہر اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئے۔ اس روایت میں شیعوں کو کچھ تین پانچ کرنے کی گنجائش نہیں لے پالک ہونے کے احتمال کو بھی پیش نہیں کر سکتے اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں ایک تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اور تین اور۔ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن اور یہی سنیوں کا دعوے ہے

پر مولوی صاحب نے کمال تورع کے باعث تین کے عدد کو منہ پر لانا بھی گوارا نہ کیا اور اہل سنت کی طرف دو ہی صاحبزادیوں کا سوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دعوے کرنا بیان کیا۔ معہذا انہوں نے سمجھا۔ حریف کی بات کو جتنا گھٹایا جائے مناسب ہے سبحان اللہ اس تبحر پر اہلسنت کی بیسیوں کتابوں کے نام گناتے چلے جاتے ہیں کوئی جانے مولوی صاحب کی نظر میں سب گذری ہوئی ہیں حضور کو اس بات کی تو خبر ہی نہیں جو زبان زد عام و خاص اہلسنت ہے اہلسنت کی کتابوں کو دیکھنا تو کہاں نصیب؟ میں جانوں کسی سنی طالب علم سے کتابوں کے نام سن بھاگے ہیں ورنہ بعضی بعضی کتابیں جو حضور نے رقیمہ کریمہ میں ان کے حوالہ سے غصب فدک بیان فرماتے ہیں شاید خواب میں بھی نہ دیکھیں ہوں۔ خصوصاً جمع الجوامع اور مسند احمد بن حنبل، علیٰ ہذا القیاس اور کتابیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ہر چند بعد اس تحریر کے مجھکو کچھ ضرورت تحریر نہیں۔ اہل فہم اور اہل انصاف کے نزدیک دو ٹوک بات ہوگئی۔

مذکور نہ ہونا معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے لیکن مولوی صاحب کی خوش فہمی کی تعریف بھی ہمارے ذمے واجب ہے۔ جناب مولوی صاحب اس دعوے کی دلیل کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے سوا حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی صاحبزادی نہ تھی یوں رقم فرماتے ہیں "کہ اگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں

ہوتیں تو ان کے فضائل بھی مذکور ہوتے۔ جیسے حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے فضائل طرفین کی کتابوں میں موجود ہیں کیا دلیل ہے؟ کسی نے ایسوں ہی کی تعریف میں کہا ہے کہ ع۔ "بریں فہم و دانش بباید گریست" اگر مولوی صاحب کو قواعد استدلال کی خبر نہ تھی تو کسی سے پوچھ لینا تھا۔ آخر اتنا بھی اوروں ہی کی تے چشی کے بھروسے پر ہے جب ہی تو یوں بے تحقیق جو چاہا لکھ دیا، جناب مولوی صاحب معقولات کے طور پر تو اتنا ہی جواب بہت ہے کہ عدم الاطلاع یا عدم الذکر عدم الشے پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے سامنے تو بے نقل کام نہیں چلتا کیونکہ کمال تورع سے معقولات کے ذکر کو تو آپ حرام ہی جانتے ہونگے جناب باری تعالےٰ سورہ نساء کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ یعنی بہت رسول تو ایسے ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے تجھ سے کہلایا ہے پہلے سے اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ان کا قصہ اور احوال ہم نے تجھ سے بیان ہی نہیں کیا۔" غرض اگر کسی کا ذکر نہ کرنا اس کے عدم کی دلیل ہوا کرتے تو لازم آئے کہ سوا ان رسولوں کے جن کا کلام اللہ میں مذکور ہے نعوذ باللہ منہ کوئی اور رسول پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ معہذا یہ کچھ لازم ہے کہ کسی بزرگ کی اولاد سب کی سب برابر ہوا کرے۔ اور اگر اس بات کو مانیں تو مولوی صاحب سنبھل کر مانیں۔ پھر حضرت امام محمد باقر اور زید شہید کو جو انکے بھائی تھے برابر کہنا پڑیگا یہ تو مولوی صاحب نے فرمایا ہوتا کہ اہل سنت حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم کو برابر سمجھتے ہوں۔ حاشا و کلا حضرت فاطمہ کو جو شرف ہے وہ اور کے لئے نہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

عمار علی کی تاریخ دانی باقی یہ جو مولوی صاحب رقم

فرماتے ہیں کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم میں سے ایک کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا یہ مولوی صاحب کی قوت حافظہ کی دلیل ہے "آرے دروغ گورا حافظہ نباشد" جناب من ابو العاص سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا اور وہ دونوں صاحبزادیاں جن کا نام آپ نے لکھا ہے ابو لہب کے دو بیٹوں سے منسوب ہوئیں تھیں اور حافظ ابن حجر کا نام کیوں بدنام کرتے ہو۔ خطا تو اپنی ہے اور لگاتے ہیں اوروں کے ذمہ، اور یہ جو مولوی صاحب

ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود قوت اسلام کے وہ کافروں کے نکاح میں رہیں مولوی صاحب ہی کی جرأت ہے سبحان اللہ وہ حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہ تھیں تو حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تو تھیں۔

اور ہم جانیں کہ شیعہ بھی ام الاطہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی تو پاسداری ضرور کرتے ہوں گے کہ ان کی بیٹیوں کو مسلمان تو ..... سمجھتے ہوں گے اور خیر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مولوی صاحب تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر وہ دونوں کافر ہوتیں۔ تو اس کے کہنے کیا حاجت تھی کہ جس وقت کہ باوجود قوت اسلام کے کافروں کے نکاح میں رہیں اور پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدہ نہ کیا اگر عثمان کے نکاح میں آئیں تو کیا قباحت ہے، عثمان تو خود مسلمان تھا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور ان کافروں سے بدرجہا بہتر تھا انتہی۔ پھر کسی مسلمان کے خیال میں آسکتے ہے۔ کہ باوجود قوت اسلام اور شوکت اہل اسلام کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنےٰ مسلمان عورت کو بھی چہ جائیکہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں، کفار کی قید میں رہنے دیتے۔

مسلمان عورت کو قید کفار سے رہائی دلانے کا قرآنی حکم

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم تو ہر خاص و عام کو اس کی تاکید فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کفار کی قید سے چھڑاؤ یقین نہ ہو تو سورۂ نساء کی یہ آیت موجود ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

یعنی خداوند کریم مسلمانوں کو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم خدا کی راہ میں قتال نہیں کرتے اور ضعیفوں کے چھڑانے کیلئے نہیں لڑتے۔ یعنے واسطے ناتوانوں کے مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے۔ جو یوں کہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خبر گیر اور مددگار بنا دے۔"

معہذا شیعوں کو بھی معلوم ہو گا کہ ان آیات کا نزول قبل فتح مکہ ہے اور فتح مکہ سے پہلے ایسی شوکت اسلام نہ تھی کہ آپ ملک عرب میں جو چاہیں سو کرلیں، سو اگر مولوی صاحب کا یہ مطلب ہے کہ اس آیت کے نزول تک وہ مکہ معظمہ ہی میں تھیں تب تو قطع نظر جھوٹ کے ان کا کفار کے پنجہ میں رہنے کا قائل ہونا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پردہ میں طعن کرنا ہے اور اگر اس آیت کے نزول سے پہلے ہی وہ تشریف لے آئی تھیں۔ سو شوکت ہی آپ کو کونسی تھی جو باوجود اس کے آپ نے ان کا کافروں کے نکاح میں رہنا گوارا کیا اور اگر ہم سے پوچھئے تو حق یوں ہے کہ قبل بعثت نبوی کے دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا بعد بعثت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ابولہب برسر پرخاش حضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہوا تو عداوت کے باعث اپنے بیٹوں سے کہ کے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ سو وہ دونوں اول سال ہجرت ہی میں مدینہ منورہ آگئی تھیں، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جو پہلے ہی سال ہجرت میں واقع ہوا ہے ایک صاحبزادی تو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ اور انہیں کی بیماری کے باعث حضرت عثمان کو حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ مگر تاریخ دانی اور راست بیانی مولوی صاحب پر ختم ہے جو چاہیں فرمادیں۔

ذوالنورین کے فضائل اور واقعہ شہادت کی تفصیل

باقی حضرت عثمان کے باب میں جو کچھ مولوی صاحب نے لکھ کر اپنی عاقبت خراب کی ہے اس کا جواب ہم سے نہیں ہو سکتا ہم کس کو کہیں ہمیں حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں بمنزلہ دو آنکھوں کے ہیں بجز اس کے کہ یوں کہیں کہ مولوی صاحب کو خدا سمجھے اور کیا کہیں اور یہ جو ارشاد ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عثمان رضی اللہ عنہ نے بدعتیں کیں۔ اس کا جواب تو جب لکھا جاتا جب ان کو لکھتے معہذا آیت وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمنوا اور اس کے مابعد کی آیات کے ترجموں میں بزرگی اصحاب ثلثہ بالخصوص اور باقی اصحاب بالعموم مذکور ہولی ہے اس لئے اس گزشتہ پر نکتہ گیری مناسب نہیں اور باقی حضرت عائشہ کا حضرت عثمان کی نسبت اُقْتُلُوْا نَعْثَلًا یا لَعَنَ اللّٰهُ نَعْثَلًا یا اُقْتُلُوْا حَرَّاقَ الْمَصَاحِفِ کہنا یہ سب ابن قتیبہ اور ابن اعثم

کوئی سمساطی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور یہ جماعت کی جماعت کذاب مشہور ہیں اور شیعہ غالی ہیں ان کے کہنے کو سنیوں کی طرف نسوب کرنا اسی مثل مشہور کا مصداق بننا ہے «مہ پادے آپ لگادے اوروں کو»، مولوی صاحب کو شرم نہیں آتی کہ ان افسانہ ہائے دروغ کو سنیوں کی کتابوں کی طرف منسوب کر کے ایک دوسرا جھوٹ اپنی گردن پر رکھتے ہیں۔

عمار علی کی فنون عربیہ میں مہارت

خیر جو صاحب کہ ان کتب پر عبور رکھتے ہیں وہ تو حقیقت الامر کو آپ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے اطمینان کے لئے اتنی بات بہت ہے کہ اُقتُلُوْ جو جمع ہے اس کے ترجمہ میں تو قتل کر۔ جو واحد کا ترجمہ ہے رقم فرماتے ہیں چنانچہ ملاحظہ نقل خط مولوی صاحب سے معلوم ہو جائے گا اس میں تو خیر یہ بھی احتمال ہے کہ کرو کی واؤ بہانہ سہو مولوی صاحب کے قلم سے رہ گئی ہو مگر اس میں تو سہو کی بھی گنجائش نہیں کہ لَعَنَ اللّٰہُ کا ترجمہ لعنت کرو، زیب رقم ہے کجا ماضی کجا معنی امر؟ با اینہمہ لفظ اللہ کے ترجمہ میں ضمیر واحد غائب کے معنی واحد حاضر کے کئے، نہ معلوم یہ کون سے محاورہ کے موافق مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے؟ ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ کسی طفل میزان خوان کو مصدر کے معنی بتلا دیجئے تو اگر اس میں پایہ فہم ہوگا تو وہ صحیح صحیح اُقتُلُوْ اور لَعَنَ کے معنے تبلا سکتا ہے مگر جناب مولوی صاحب اس تحریر پر کہ مقتدائے شیعہ اور امام امامیہ اسی سبب سے ہو گئے ہیں ہنوز جمع اور واحد اور ماضی اور امر کے فرق کو نہیں سمجھتے، بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا جاتا کہ یا تو حضور کو میزان تک کا سلیقہ نہیں اور یہ عمامہ بندی اور کرتہ پوشی اور دعوائے علم و امامت فقط اتنی بات پر ہے کہ دو چار باتیں کہیں سے سن بھاگے ہیں، اور بوجہ جعلسازی عوام کی نظر بندی کر کے روٹیاں مروڑتے پھرتے ہیں یا قدر قلیل مایۂ علم تو ہے پر خداوند کریم نے موافق وعدہ وَاللّٰہُ لَا یَھْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ مولوی صاحب کو بوجہ شامت بداعتقادی اور بدگوئی مقربان الٰہی صحابہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اظہار بطلان مذہب مولوی صاحب کے لئے اتنی بھی تو ہدایت نہیں کرتا کہ ترجمہ ہی ٹھیک کرلیں۔

بہرحال اس سلیقہ اور اس استعداد پر ایسے ایسے مضامین عالی میں گفتگو کرنے

کو تیار ہیں اور اہل سنت سے کہ ان کا طریقہ ہو بہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں ہرگز گنجائش حرف گیری نہیں الجھنے کو موجود ہیں اور با ایں ہمہ ایسی ایسی کتب کا حوالہ دیتے ہیں کہ بجز ادیب کامل ان کا مطلب صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اس استعداد کو دیکھ کر تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اگر بالفرض کچھ فریب نہیں تب بھی غلطی فہم سے تو مولوی صاحب کی باتیں خالی نہ ہونگی مگر ایک توجیہ ہو سکتی ہے یعنی یوں کہئے کہ مولوی صاحب بھی سچ فرماتے ہیں بیشک اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ان روایات کو لکھ کر یوں لکھدیا ہے کہ یہ روایات موضوع اور افترا ہیں شیعوں کی گھڑی ہوئی ہیں وہاں کچھ اور مطلب تھا مولوی صاحب کمال فطانت سے اپنا مطلب سمجھ گئے۔

سو اس قاعدہ پر اگر مولوی صاحب جمے رہیں تو ہمیں یقین ہے کہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے کتاب اللہ سے مال کے نہ دینے کے مضمون نکال کر مالداروں سے بہت سا کچھ کما لیں گے کیونکہ کلام اللہ میں لَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰھُمُ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ کے بعد ھُوَ خَیْرًا لَّھُمْ لکھا ہوا ہے تو کل کو مولوی صاحب فرمانے لگیں گے زکوٰۃ کا نہ دینا بہتر ہے ادھر فرعون کے حق میں رَبُّکُمُ الْاَعْلٰی مذکور ہے تو فرعون کو رب اعلیٰ بتائیں گے، علیٰ ہذا القیاس مولوی صاحب کا یوں رقم فرمانا کہ استیعاب میں لکھا ہے یہاں تک بدعتیں کیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ ہو کر اسے قتل کیا سراسر دروغ اور بہتان صاف ہے اتنی بات تو عوام اور نادان بھی جانتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کوئی شخص حضرت عثمان کی نسبت حرف گیر نہیں۔ دل و جان سے ہر کوئی اُن کا معتقد خالص ہے اور مبتدع اور اہل بدعت کو اہل سنت سراسر گمراہ سمجھتے ہیں اور کلی مخالفت ان سے رکھتے ہیں اور کیونکر مخالفت نہ رکھیں بدعت تو خلاف سنت ہی کو کہتے ہیں سو اگر ایسی معتبر کتابوں میں حضرت عثمان کی نسبت مبتدع ہونا مذکور ہوتا تو اہل سنت میں سے ان کا کوئی نام بھی نہ لیتا چہ جائیکہ یہ اعتقاد۔

یہ سب مولوی عمار علی صاحب کی جعلسازی ہے مگر موافق نقل مشہور «حق بر زبان جاری شود»، مولوی صاحب بلکہ پیشوایان مولوی صاحب اس جھوٹ میں

بھی بلبیاختہ حق کہہ گذرے اتنا تو معلوم ہوا کہ اہل بدعت قابل قتل ہیں۔ سو اہل سنت کو سمجھنا چاہیئے کہ وہ کس درجہ کو مقبول ہوں گے اور جب اہلسنت مقبول ہوئے تو لاجرم شیعی مردود اور داخل زمرۂ اہل بدعت اور قابل قتل ہوں گئے القصہ اگر آدمی فہمیدہ ہو اور مولوی صاحب کی ان فریب بازیوں کو دیکھے تو بلا تامل دجال نہیں تو کوچک ابدال دجال سمجھے اللہ اللہ ایسے فریب باز ہم نے بھی نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے اپنی کتابوں کی روایات کو جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے بنت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہونے پر دلالت کرتی ہیں چھپا کر اگر جھوٹ بول دیا تو بظاہر یہ احتمال تھا کہ اہلسنت کو شیعوں کی روایات کی کیا خبر ہوگی پر اس بے حیائی کو دیکھنا کہ اہل سنت کے سامنے اہل سنت ہی کی کتابوں کے حوالہ سے جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گویم برروئے تو۔

ذی النورین کے بچاؤ کے لئے صحابہ اور اہل بیت کی جانکاہی

خیر مولوی صاحب کو تو اس شرمانے سے کب شرم آتی ہے حیا تو حیا والوں ہی کو آتی ہے۔ اس لئے لازم یوں ہے کہ صحابہ کا اور اہلبیت کا بدل وجان حضرت عثمان کے بچانے کی تدبیروں میں مصروف رہنا اور متمنی اجازت حضرت عثمان درباب قتال اہل ہوا ہونا روایات صحیحہ اور تواریخ طرفین سے ثابت کیجیے تاکہ مسلمانان سادہ لوح مولوی عمار علی صاحب کی ان ابلہ فریبیوں سے فریب میں نہ آجائیں۔ اور شاید مولوی صاحب کی بھی اس خواب غفلت سے آنکھ کھل جائے اور اس نشۂ ضلالت سے چونک اٹھیں بغور سنئے کہ جو کچھ مولوی صاحب نے رقم فرمایا ہے محض افترا اور سراسر بہتان ہے لڑکے اور دیوانے بھی ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ فقط مولوی صاحب کی شرارت ہے اس لئے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ اور امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص جو حضرت امیر سے لڑتے تھے تو حضرت عثمان کے قصاص ہی کیلئے تو لڑتے تھے چونکہ قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حضرت امیر کے ساتھ ہو لئے تھے اور حضرت بناچاری انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ بسبب کثرت اور شورہ پشتی کے کسی سے دبتے نہ تھے اور بجائے خود یوں سمجھتے تھے کہ جب ہم نے بنی بنائی خلافت کو درہم برہم کردیا تو اوروں کی کیا ہستی ہے؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہم کو تو اس قسم کے توہمات تھے کہ حضرت علی دربارۂ قصاص مداہنت

کرتے ہیں اور امیر معاویہ اور ان کے ذیل کے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان حضرت علی ہی کے اشاروں سے قتل ہوئے ہیں۔

خیر تواریخ طرفین شیعہ وسنی (کی)، حاضر ہیں صحابہ نے بلوا، قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے دبانے میں اپنی طرف سے کچھ قصور نہیں کیا پر مقدر یوں ہی تھا تا مقدور کلمہ کلام سے بلوائیوں کو سمجھایا جب کچھ ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو حضرت عثمان سے قتل قتال کی اجازت چاہی پر حضرت عثمان ہی قتل قتال اور جنگ وجدال کے روادار نہ ہوئے بلکہ کمال تاکید سے مانع آئے لاچار ہو کے صحابہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے باایں ہمہ پانی کے پہنچانے اور بلوائیوں کے ہٹانے میں آخر تک تدبیروں میں مشغول رہے حضرت زید بن ثابت انصار تمام انصاریوں کو لے کر آئے اور جوانان انصار نے کہا اگر فرماؤ تو دوبارہ انصار خدا بنیں عبداللہ بن عمر تمام مہاجرین کے ساتھ آئے اور یہ کہا جنھوں نے تم پر بلوا کر رکھا ہے وہی لوگ ہیں جو ہماری ہی تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں اور اب تک ان صدموں کے ڈر سے پاجامہ میں ہگے دیتے ہیں یہ ساری بڑھ بڑھ کے باتیں کرنی ان کی اس سبب سے ہیں کہ کلمہ گو ہیں اور تم کلمہ گوئی کا لحاظ کرتے ہو اگر فرماؤ تو انہیں ان کی حقیقت دکھلادیں اور وہ بھولے دن پھر انہیں یاد دلادیں حضرت عثمان نے فرمایا۔ یہی بات مت کہو، ایک میری جان کے لئے اتنا ہنگامہ اسلام میں برپا مت کرو مگر باایں ہمہ حضرات حسنین عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر، ابوہریرہ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اور سوا ان کے اور صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ ان کے گھر میں تھے اور جب بلوائی ہجوم کرتے تھے تو یہ سب صاحب پتھر لاٹھی مار مار ہٹاتے تھے اور دروازہ بند کرکر دیتے تھے اور حضرت عثمان کے غلام جو ایک فوج کی فوج تھے یہاں تک کہ اگر آپ ان کو حکم دے دیتے تو اہل بلوا کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہتھیار اور لڑائی کا سامان لے کر حاضر ہوئے اور کمال زاری اور بے قراری سے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خراسان سے افریقہ تک کوئی ہماری تلوار کے سامنے نہیں ٹھیرا اگر حکم ہو تو ان لوگوں کا گھمنڈ نکالدیں اور تماشا دکھلادیں کیونکہ سمجھانے سے تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی انہوں نے دیکھا کہ کلمہ گوئی کے باعث ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا اسلئے روبراہ نہیں ہوتے اور تمہارے اور سوا تمہارے اور بڑے بڑے صحابہ کی بات نہیں سنتے حضرت

عثمان یہی فرمائے جاتے تھے کہ اگر میری خوشی منظور ہے اور میرا حق نمک ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار الگ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو۔ اور جو ہتھیار الگ کر دے گا اسے میں نے آزاد کیا واللہ خونریزی خلائق سے پہلے اگر میں مقتول ہو جاؤں تو یہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ خونریزی کے بعد مارا جاؤں یعنی میری شہادت تو لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا تم لڑو یا نہ لڑو میں مقتول ہوں گا۔ سو کیا فائدہ کہ لوگ بھی مارے جائیں اور مطلب بھی حاصل نہ ہو۔

اور تواریخ فریقین میں موجود ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں اور حضرت جعفر کی اولاد کو اور اپنے چچیرے قبر کو حضرت عثمان کے دروازہ پر متعین کر رکھا تھا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے بیٹوں کو دروازہ پر بٹھا دیا تھا تاکہ بلوائیوں کو دھکے دیتے رہیں۔ سو جب اہل بلوا ہجوم کر کے آتے تھے یہ سب صاحب لاٹھی لکڑی سے جو ہاتھ میں آجاتا تھا لڑتے تھے یہاں تک کہ حضرت سبط اکبر امام ہمام امام حسن رضی اللہ عنہ خون آلودہ ہو گئے محمد بن طلحہ اور قنبر کے سر پر زخم لگا، جب دروازہ کی راہ سے اہل بلوا کو آنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اندر گھسنے کی کوئی تدبیر نہ بنی تو پیچھے سے بعض انصاریوں کے گھر میں نقب دیکر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔

ذوالنورین کے لئے امام کی مدافعت | نہج البلاغت جو اصح الکتب شیعہ ہے اس بات کی گواہ ہے حضرت امیر سے اس میں روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا وَاللّٰہِ قَدْ دَفَعْتُ عَنْہُ۔ یعنی حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے تو حضرت عثمان سے اس بلا اور اس بلوا کو بہت ہی ہٹایا، اس کی شرح میں تمام شراح نہج البلاغت نے روایت کیا ہے کہ حضرت امیر بلوا کے دنوں میں جب حضرت عثمان کے گھر میں آتے تھے تو بلوائیوں کو چابک مار مار دفع کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے اور لعنت کرتے تھے ابن عثم کوفی یعنی شیعوں کا موخ جو حضرت عثمان وغیرہ اصحاب کرام کا دشمن جان ہے وہی اپنی فتوح میں نقل کرتا ہے کہ حضرت امیر نے فرزند ارجمند سبط اکبر امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور کہو میرے والد کا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا ہے فرماتے ہیں میں سنتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے مقدمہ میں

کچھ بہت شور و غل کر رہے ہیں اور کسی کی نصیحت نہیں سنتے اور تمہارے قتل کا مصمم ارادہ کئے بیٹھے ہیں اس لئے تمہاری طرف سے مجھے بہت اندیشہ ہو رہا ہے اگر فرماؤ تو میں بھی آکر تمہارا مددگار ہوں اور ان لوگوں سے لڑوں اور جس طرح بن پڑے ان لوگوں کو تمہارے دروازہ سے ہٹاؤں۔ حضرت امام حسن حسب ارشاد والد ماجد حضرت عثمان کے پاس آئے، اور یہ پیام پہنچایا انہوں نے فرمایا مجھے منظور نہیں کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور ان لوگوں سے لڑیں میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے یوں فرماتے ہیں، اگر ان لوگوں سے لڑو تو لڑو فتح ہوگی اور نہ لڑو تو روزہ ہمارے پاس کھولیو۔ سو اب یہی تمنا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر روزہ کھولئے۔ حضرت حسن چپ ہو کر چلے آئے۔

حضرت امام کا کوئی معاملہ ظاہرداری نہ تھا | اب سنئے اہل ایمان کا تو یہ کام نہیں کہ حضرت امیر کے تمام معاملات کو نفاق اور ظاہرداری پر محمول کریں۔ شیعہ اگر بحکم اَلْمَرْءُ یَقِیْسُ عَلٰی نَفْسِہٖ حضرت امیر اور صاحبزادوں کے ان معاملات اور ان تمام گفتگوؤں کو منافقانہ سمجھیں، تو انہیں اہل ایمان ہی کون سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور نفاق ،، چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی ،، اور اگر بالفرض محال نفاق ہی تھا تو اسی وقت ہو گا اپنی خلافت میں کوفہ میں جب خطبہ میں اس بات پر قسم کھائی۔ کہ میں نے قاتلان عثمان کو بہت ہٹایا تو اس وقت کیا دباؤ تھا جب تو حضرت عثمان بھی شہید ہو لئے تھے اور قطع نظر شجاعت کے کار فرمائے خلافت بھی آپ ہی تھے مرے ہوئے سے تو نامرد بھی نہیں ڈرتے اور بے سروسامان کو ہراس نہیں ہوتا، حضرت علی کو اس شجاعت اور اس شوکت پر کیا ہوا کہ اب تک بھی عثمان کا خوف نہ گیا اگر بزعم شیعہ اس میں کچھ نفاق ہوتا تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آواز بلند یوں کیوں فرماتے۔؟

دفاع عثمان کے لئے دیگر صحابہ کا رویہ | ادھر حضرت عبداللہ بن سلام ہر صبح کو بلوائیوں کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت عثمان کو قتل مت کرو ورنہ ان کے قتل کے بعد بہت سے فتنے فساد اٹھیں گے ،، اور حضرت حذیفہ بن الیمان جن کو منافقین کا علم تھا اور حضرت امیر نے بھی ان کے حق میں اس علم کی گواہی دی، چنانچہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے بلوائیوں کو حضرت

عثمان کے قتل سے بتاکید منع کرتے تھے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ ان کا مارا جانا بہت فتنوں کا باعث ہو جائے گا اب کوئی مولوی صاحب سے پوچھے کہ یہ لوگ جن کا مذکور ہوا صحابہ نہیں تو اور کون ہیں؟ پھر ان میں سے حضرت علی تو وہ ہیں کہ وہ اکیلے لاکھوں کے برابر ہیں۔ خصوصاً شیعوں کے نزدیک، سو اگر بالفرض والتقدیر صحابہ ہی نے ان کو قتل کیا ہوتا تو حضرت علی تو مانع ہی تھے، پھر مولوی صاحب نے کس خوبی پر ہجو کے موقع میں کہدیا کہ صحابہ رسول نے تنگ ہو کر اُسے قتل کیا، مگر میں ہی جو کا مولوی عمار علی صاحب بلکہ تمام شیعہ حضرت امیر اور بزرگان مسطور الاسم کو صحابہ نہیں سمجھتے، یہ تو اوباش کوفہ اور بدمعاشان مصر اور منافقان امت کو صحابہ سمجھتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے قتل کے لئے اکھٹے ہو کر آئے تھے۔ سو مولوی صاحب نے اپنے عندیہ کے موافق سچ ہی کہا ہے، زوف ہے اس عقل ناہنجار پر کہ اپنے مذہب کے پابند بھی تو نہیں، بہرحال یہ جو مولوی صاحب نے لکھا ہی کہ صحابہ نے تنگ ہو کر قتل کیا سراسر بہتان اور دروغ صریح ہے پر جسے نہ خدا کا ڈر ہو نہ خلق کی شرم وہ جو چاہے سو کرے مگر ہم تو اس بے حیائی اور اس جرأت پر غش ہیں کہ کس دلاور سے فرماتے ہیں اگر سند مطلوب ہو تو روانہ کردی جاوے۔

ع۔ چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

| حضرت علی پر بزدلی کا بہتان |

اور یہ جو کچھ جناب مولوی صاحب حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے باب میں رقم فرماتے ہیں کہ ان کی باہم بہتر جنگ نہیں ہوئیں ہیں اور جہاد مال دنیا کے واسطے نہیں ہوتا یہ بجا درست، مگر تعجب ہے کہ اس بات میں مولوی صاحب نے کچھ جھوٹ کیوں نہیں بولا ہم جانیں یہ مثل سچی ہے "اَلْکَذُوْبُ قَدْ یَصْدُقُ" یعنی جھوٹا کبھی سچ بھی بول دے ہے لیکن تاہم بھی حق سے چشم پوشی کر ہی گئے، حضرت علی کے صحابہ ثلثہ سے جہاد نہ کرنے کو اس وجہ پر محمول کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس انصار اور مددگار کب تھے۔ کوئی مولوی صاحب سے پوچھے کہ انصار اور مددگار کی ضرورت جہاد میں فقط اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تن تنہا آدمی مجمع کثیر کے مقابلہ میں کیا کرے گا؟ سو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بوجہ نہ ہونے انصار کے قبل مدینہ منورہ کو آنے کے جہاد نہ کیا تو بجائے خود

تھا کہ آپ میں تن تنہا تاب مقابلہ کفار نہ تھی۔ حضرت امیر کو کیا عذر تھا جو انہوں نے تن تنہا جہاد نہ کیا دیکھو تو وہ خود اپنے حال میں کیا فرماتے ہیں:۔

| حضرت علی تمام دنیا پر بھاری تھے |

نہج البلاغت میں جو اصح الکتب شیعہ ہے علامہ رضی نقل کرتے ہیں۔

قَالَ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنِّیْ وَاللّٰہِ لَوْ لَقِیْتُھُمْ وَاحِدًا وَّھُمْ طِلَاعُ الْاَرْضِ کُلِّھَا مَا بَالَیْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ وَاِنِّیْ مِنْ ضَلَالِھِمُ الَّتِیْ فِیْھَا وَالْھُدَی الَّذِیْ اَنَا عَلَیْہِ لَعَلٰی بَصِیْرَۃٍ مِّنْ نَّفْسِیْ وَیَقِیْنٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَاِنِّیْ اِلٰی لِقَاءِ اللّٰہِ وَلِحُسْنِ ثَوَابِہٖ لَمُنْتَظِرٌ وَّرَاجٍ۔	یعنے فرمایا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ تحقیق قسم اللہ کی اگر میں ان سے تن تنہا ملوں اور وہ اس کثرت سے ہوں کہ تمام روئے زمین کو ڈھکے ہوئے ہوں تو میں کچھ پروا نہ کروں اور نہ گھبراؤں اور مجھے انکی گمراہی اور اپنی ہدایت رجانو آنکھوں سے نظر آرہی ہے اور خدا کی طرف سے اس کا یقین ہو گیا ہے اور میں اللہ تعالےٰ کے ملنے اور اس کے اچھے ثواب کا منتظر اور امیدوار رہوں۔ فقط

جو شخص کہ تمام روئے زمین کے آدمیوں بلکہ اتنے آدمیوں سے بھی جو زمین کو ڈھک لیں تن تنہا نہ ڈرے اس کو انصار اور مددگار کی کیا حاجت؟ ہاں اماموں کی موت اپنے اختیار میں نہ ہوتی تو یوں بھی کہہ سکتے کہ نہ گھبرانے اور نہ پروا کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی مارا بھی نہ جائے شاید اس سبب سے جہاد نہ کیا ہو آپ نے سمجھا میں تن تنہا لڑوں گا تو فتح تو معلوم مارا ہی جاؤں گا پھر کیا حاصل؟ جہاد اعلاء دین کے لئے ہے جب وہ تو حاصل نہ ہو اور فقط جان ہی جاتی رہے پھر جہاد کاہے کے لئے کیجیئے؟ کچھ خدا کو فقط جان گنوانا تو مطلوب نہیں۔

| حضرت علی شجاعت میں بے مثل اور اپنی موت پر قابو یافتہ تھے (بزعم شیعہ) |

اور درصورتیکہ امام کا انتقال اس کے اختیار میں ہو چنانچہ کلینی نے اس کو ثابت کیا اور تمام امامیہ اس پر متفق ہیں تو پھر تن تنہا جہاد میں وہ ترقی دین، ہوتی کہ مجمع کی صورت میں ہرگز ممکن نہیں مددگاروں کی وجہ سے اگر آدمی نہ مارا جائے تو کرشمے کی بات نہیں ہاں تن تنہا ہو کر پھر

تمام جہان جس کو نہ مار سکے اس سے زیادہ اور کیا معجزہ ہوگا ہندو جو عجائب پرست ہیں اگر ایسا معجزہ کسی سے دیکھ لیں تو بیشک پکار اٹھیں لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ایک دو دفعہ بھی اگر ایسی لڑائی لڑ لیتے تو بہت سے بہت تکلیف ہوتی تو اتنی ہی ہوتی کہ آپ زخمی ہی ہو جاتے یا بیہوش ہو جاتے لیکن عموماً یہ اعتقاد لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا کہ چیرتے تو نکلتا اور موافق مخالف سب حلقہ بگوش حضرت امیرؓ ہو جاتے اور دین کی ایسی ترقی ہوتی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرامات مرات کثیر کثیر انبوہ سے جہاد کر نہیں وہ ترقی نہ ہوئی تھی کیونکہ کفار غلبۂ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو بوجہ جمعیت سمجھ کر معتقد نہ ہوئے تھے اسی واسطے اپنے غلبہ کی بھی امید رکھتے تھے اور لڑنے سے دریغ نہ کرتے تھے اگر حضرت امیر تن تنہا لڑتے تو جو مطلب کہ حضرت امام ہمام امام مہدی کے آنے پر موقوف تھا وہ بھی حاصل ہو جاتا اور اہل بیت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گذرا وہ ظہور میں نہ آتا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ لڑنا تو شے دیگر حضرت امیر تو اصحاب ثلثہ کے سامنے کبھی اتنا بھی نہ بولے جتنا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ابوجہل اور امیہ بن خلف اور ابولہب اور ولید بن عقبہ وغیرہم کے سامنے بول لئے تھے، طرفہ تماشا ہے کہ جناب سرور کائنات کے اس زور اور بل اور قوت اور شجاعت کے باب میں کوئی روایت نہ ہو، اور وہ تو حق گوئی کی بدولت کفار نگونسار کے ہاتھ سے عالم تنہائی میں کیا کیا جفائیں اٹھائیں یہاں تک کہ علاوہ دشنام ہائے نافرجام اور دست درازی ہائے بے اندازہ کی نوبت یہ پہنچی کہ گھر بار سب کو الوداع کیا۔

حضرت علی نے پوری زندگی خوف وذلت سے گذاری (زعم شیعہ)

حضرت امیر کو ایک دفعہ بھی یہ نوبت نہ آئی کہ علی الاعلان حق گوئی اختیار کریں اور جفائیں اٹھائیں یا مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے شرف ہجرت کو اضعاف مضاعف فرماتے۔ بلکہ ہم پیالہ اور ہم نوالہ انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھتے عید جمعہ میں انہیں کے خطبہ سنتے انہیں سے رشتہ پیوند قرابت پیدا کرتے تمام عمر یوں ہی گذاری اور بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے تقیہ نہ کیا تھا آپ بھی نہ کرتے، القصہ حضرت امیر کے جہاد نہ کرنے کو اس بات پر محمول کرنا کہ آپ کے ساتھ انصار اور مددگار نہ تھے کمال سفاہت ہے بلکہ درپردہ حضرت امیر کی تکذیب

کرنی ہے تو حضرت امیر تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مقابلہ میں سارا جہان بھی آجائے تو کچھ اندیشہ نہیں، اور پھر بوجہ موت کے اختیاری ہونے کے تنہائی کی صورت میں اور امید بہبودی تھی، اور مولوی صاحب یوں ارشاد فرمائیں کہ حضرت امیر انصار کے محتاج تھے معہذا اور کتابوں کو تو پلٹ کر دیکھیں انصار رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بزعم شیعہ سب انصار و مددگار حضرت امیر تھے، اولاد انصار آپ کی مددگار رہی آپ کے ایام خلافت میں اکثر اولاد انصار آپ کے ساتھ تھی پھر کیا وجہ کہ آپ نے اصحاب ثلثہ کے زمانہ میں جہاد نہ کیا؟ انصاف یوں ہے کہ حضرت امیر دل معین و مددگار خلفائے ثلثہ رہے خصوصاً شیخین، کہ آپ نے ان کی تعریفیں اپنی خلافت میں بھی کی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تقیہ کا نہ تھا باعتقاد جمہور امامیہ اس زمانہ میں آپ پر تقیہ حرام تھا۔ چنانچہ پہلے مرقوم ہو چکا، اور نیز اس زمانہ میں ان کا انتقال ہو چکا تھا مرے ہوئے سے تو نامردوں کو بھی خوف نہیں ہوتا چہ جائیکہ حضرت علی؟ پھر ان سب قرائن کے ملاحظہ کے بعد اور حضرت علی کی شجاعت اور کمالات اور قوت ایمانی کو خیال کر کے اہل فہم کو تو بجز اس کے خیال میں نہیں آسکتا کہ حضرت علی کا سکوت فقط اسی وجہ سے تھا کہ ان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے،

حضرت علی باوجود بے مثل شجاعت کے جگر گوشۂ رسول کو فدک نہ دلا سکے

باقی جناب مولوی صاحب کا یہ ارشاد کہ جہاد مال دنیا کے لئے ہوتا ہے ہر چند درست ہے لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مظلوم کی نصرت دین میں سے ہے یا دنیا میں سے؟ اور مظلوم بھی کون جگر گوشۂ جناب سید الاولین والآخرین، اگر ایسے مظلوموں کی نصرت داخل دین ہے تو حضرت علی نے باوجود اتنی استطاعت کے کہ اکیلے سارے جہان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اپنی جان کا کچھ زیان بھی نہ تھا معہذا انصار ان کے انصار تھے کیوں حضرت زہرا کی مدد نہ کی؟ اگر حضرت زہرا معاف کر دیتی جب بھی ایک بات تھی حسب الارشاد مولوی صاحب موصوف تادم واپسیں ابوبکر صدیق کا ظلم ان کے پیش نظر تھا اور اگر یوں کہیے کہ نصرت مظلوم کار دنیاوی ہے تو دنیا کی خوبی اور بزرگی تو سب ہی جانتے ہیں اس صورت میں نصرت مظلوم اگر ممنوع بھی نہ ہوگی تو موجب ثواب بھی نہ ہوگی واجب تو درکنار پھر باینہمہ ترک نصرت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے جو سینہا کشیعہ لبریز شکایت صحابہ اور اولاد صحابہ ہے محض بیجا ہوا لیکن ہم جانتے ہیں کہ مولوی صاحب نصرت مظلوم کو منجملہ دین بلکہ واجب

ہی قرار دیں گے کیوں اول تو کلام اللہ اور احادیث طرفین اس مضمون سے مشحون ہیں، دوسرے صحابہ کے مطاعن کی کوئی بات چاہیئے مولوی صاحب تو اس پر غش ہیں بلا سے حضرت امیر پر بھی حرف آجائے مگر ہمیں خدا کی ذات سے یقین ہے کہ ہم نے جو کچھ تقیہ کے باب میں اوپر لکھا ہے اگر مولوی صاحب بغور دیکھیں تو زبان سے بھی نہ کہیں گے تو دل سے تو بیشک اس بات کے معتقد ہو جائیں گے کہ حضرت امیر کا اصحاب ثلثہ سے بیعت کرنا اور فدک کے نہ دینے پر سکوت کرنا سب بوجہ حقانیت اصحاب ثلثہ تھا نہ بوجہ تقیہ۔ اور آگے جو کچھ آتا ہے۔ انشاء اللہ وہ تقریر ماسبق کی اور تاکید کرے گا۔ اس مجموعہ کو دیکھ کر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امیر کی وہ لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آپ کسی سے ہارے ہوئے نہ تھے اور بسبب ضعف و ناتوانی کے خلفاء کے ساتھ موافقت نہ رکھتے تھے بلکہ محض خدا واسطے۔ یا وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ آپ ذلیل و خوار بے سروسامان ناتوان ناچاری کے باعث اطاعت کرتے تھے اور آپ کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا تمام عمر اخفاء حق اور کتمان دین میں مصروف رہے، اور باوجود یکہ آیہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (جس کا یہ مضمون ہے کہ خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر) آپ کو یاد تھی پھر بھی حضرت اصحاب کے ساتھ ایسی ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہوئے کہ بظاہر حق و باطل کی تمیز دشوار ہو گئی چنانچہ گروہ اعظم اہلسنت اسی دھوکے میں اصحاب ثلثہ کی حد سے زیادہ توقیر کرنے لگے اور معاملہ سب برعکس ہو گیا دین اصلی بہت ضعیف اور مخفی رہ گیا۔

حضرت ام کلثوم کے نکاح کی بحث تیسرا مطلب حضور کے رقمیہ میں یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو حضرت علی کے صلب اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے شکم سے تھیں ان کا نکاح حضرت محمد بن جعفر طیار سے ہوا تھا ہر چند یہ جواب سوال سائل پر بظاہر منطبق ہے لیکن حقیقت میں دیکھئے کہ یہ جواب سوال سائل سے ایسی ہی نسبت رکھتا ہے جیسے کہ کسی گاہک کے اس سوال کے ساتھ کہ لالہ تیل بھی ہے لالہ کا یہ جواب ہاں میاں آلو بھی ہے اتنا تو مولوی صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ سائل کی غرض اس بات کے پوچھنے سے کہ حضرت

علی کی بیٹیوں کا نکاح کس کس ہوا ہے یہی ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت ام کلثوم دختر مطہرہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر سے ہوا یہ صحیح ہے۔ یا غلط ہے؟ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مولوی صاحب نہ سمجھے ہوں اس لئے کہ بات بھی تو بہت مشکل ہے بہرحال جناب مولوی صاحب نے اس جواب میں طرفہ چالاکی کی ہے کہ جواب کا جواب دے دیا اور بات کی بات رکھ لی مگر نہ معلوم اس جواب میں پہلی چال کیوں بھول گئے یا اور کوئی عمدہ مصلحت نظر آئی یہ تو حضرت ام کلثوم کی مولوی صاحب کی طرف شکایت ہی رہ گئی کہ ان کی خالاؤں کو تو مولوی صاحب نے جفا، قطع نسب سے مستحق اجر عظیم کیا انہوں نے کیا قصور کیا تھا جو مولوی صاحب نے اس عنایت سے محروم رکھا؟ کیا وہ اہل بیت میں نہ تھی جو اس جفا سے دریغ کیا مگر مولوی صاحب کی طرف سے میں جواب دیئے دیتا ہوں اَلْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ یعنے بزرگی پہلوں ہی کے لئے ہے" اس مثل کے خلاف کیونکر کر دیں، شاید ملازمان مولوی صاحب کو یہ گمان ہوا ہو کہ حضرت ام کلثوم بنت سیدۃ النساء کی تزویج کا قصہ حضرت عمر سے بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نکاح کے جو حضرت عثمان سے ہوا تھا ایک جدید امر ہے اور تازہ بات، مبادا اس کا کوئی جاننے والا ہو اور قلعی کھل جائے مگر میں ذمہ کش ہوں اہل سنت ان دونوں قصوں کو یکساں پرانا سمجھتے ہیں اور اس فرق کو فرق نہیں سمجھتے۔ اب کے جناب مولوی صاحب اگر میرنا درعلی صاحب کو یہ مضمون لکھ کر کہ حضرت ام کلثوم حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہی نہ تھیں اصلاح تحریر متقدم کر دیں اور اندیشہ بظنی سنیاں ہو تو عذر بدا موجود ہے آپ کچھ خدا سے تو زیادہ نہیں؟ جب خداوند کریم کو بایں ہمہ علم غیب بدا واقع ہوتا، تو آپ تو آدمی ہی ہیں۔

القصہ مصلحت یوں ہے کہ اسماء بنت عمیس کی طرف منسوب کر دیجئے اور جھوٹ ہے تو بلا سے "چو آب از سر گذشت چہ یک نیزہ چہ یک دست"، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی نسبت میں تصرف کیا ہے نواسی کے نسب میں بھی سہی۔ معہذا اور ابنائے روزگار فقط دنیا کے لئے سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں آپ نے اگر دو جھوٹ حفظ دین کے لئے بول دیئے تو کیا غضب ہوا بلکہ بنظر پاسِ ننگ و ناموس دین اور متابعت

بزرگان اور ائمہ اطہار امیدِ ثواب عظیم ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تقیہ ہے۔

عمار علی کی تلبیس | لیکن جناب مولوی صاحب کے لوازم رائے زنی اور مشورہ گوئی میں سے ہے کہ جملہ مراتب نفع ونقصان سے اطلاع کردیجئے۔ اس لئے معروض ہے کہ بااین ہمہ منافع ایک اس میں نقصان بھی ہے کہ جناب باری تعالےٰ یوں بھی فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی حق باطل کو مت رلاؤ اور نہ چھپاؤ حق کو جان بوجھکر" دوسرے یوں بھی فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" یعنی نہ چھپاؤ گواہی اور جو چھپائے گواہی تو اس کا دل گنہگار ہے"، ان دونوں آیات پر نظر کر لیجئے مگر مجھی سے غلطی ہوئی آپ نے اب کون سی (حق وباطل کے رلانے اور شہادتِ حق کے چھپانے میں) کمی کی ہے جو اس کا اندیشہ ہوا اس سے زیادہ اور کیا رلانا ہوگا کہ حضرت عمر کے نکاح کا نام ہی نہ لیا بلکہ اصل رلانا تو یہی ہے اگر صاف انکار کردیتے اور کہدیتے کہ حضرت زہرا کے یا حضرت علی کے کوئی بیٹی ہی نہ تھی تو یہ رلانا نہ تھا اسے انکار کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے جحود کہتے ہیں اور یہ جو اکثر آتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا تو اسی مقام میں آتا ہے اور یہ انداز کہ جواب کا جواب ہو جائے اور پھر بات ہاتھ سے نہ جائے جیسے مولوی صاحب نے اس مقام میں کیا ہے تو یہ عین حق وباطل کا رلا دینا ہے معہذا حق باطل کے خلط ملط کر دینے میں جو برائی ہے تو فقط اسی سبب سے ہے کہ دوسرا کوئی دھوکا نہ کھائے درصورتیکہ اہل سنت جماعت نے شیعوں کی روایات سے یہ ثابت کر دیا ہو کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تو کیا اندیشہ؟ وہ دھوکے کی بات ہی نہ رہی جس سے ڈرئیے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ دیکھئے آپ کے یہاں کی روایتیں اس باب میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنی عادتِ سلف دغا و فریب کو نہ چھوڑ بیٹے۔

فاروق سے ام کلثوم کا نکاح حضرت عباس نے کیا تھا | قاضی نور اللہ صاحب شہید رابع حضرت عباس عم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے احوال میں رقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس سے بہت محبت تھی اور ان کے حق میں یوں فرماتے تھے کہ عباس میرے باپ کی جگہ ہے اور سوائے اسکے بہت ہی کچھ ان کے فضائل لکھے، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے حضرت عمر کے کہنے کے موافق حضرت امیر سے حضرت ام کلثوم کے نکاح کی خواستگاری کی حضرت امیر نے

اول بار انکار فرمایا دوسری دفعہ سکوت فرمایا، بعد ازاں حضرت عباس نے خود حضرت ام کلثوم کا حضرت عمر سے نکاح کردیا حضرت امیرؓ بوجہ تقیہ منع نہ کرسکے اس لیے چپکے ہو رہے یہ ہے قاضی صاحب کا بیان۔

بزعم شیعہ حضرت عباس اعراف میں ہوں گے | میں نے اپنے اعتقاد کے موافق حضرت عباس اور حضرت کے نام پر لفظ حضرت لگا دیا ہے ورنہ قاضی صاحب سے اس تعظیم کی کسے امید ہے؟ اس لئے کہ حضرت عمر تو ان کے نزدیک حضرت عمر ہیں وہ حضرت عباس کے حق میں بھی اسی بیان کے پس و پیش میں یوں لکھتے ہیں (بلکہ یہ تقریر بھی بطور دلیل ہی بیان کی ہے اور مطلب اصلی ان کا یہ ہے) کہ وہ اعراف میں ہوں گے، لیکن حق بات چھپی نہیں رہتی عاقل خود جانتے ہیں کہ جو ایسے محبوب رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم ہوں وہ اعراف میں کیوں کمد رہیں گے؟ ان کے تو نیاز مند بھی اگر جنت میں چلے جائیں تو کچھ بعید نہیں، حیف صد حیف محبان حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا تو یہ رتبہ ہو کہ ان کے محبوں کو کوئی گناہ ضرر نہ کرے بلکہ گناہ تو گناہ کفر بھی ضرر نہ کرے،

محبوب رسول اعراف میں اور یہودی ونصرانی جنت میں | چنانچہ رضی الدین لغوی نے زینبا ابن اسحٰق نصرانی کے جنتی ہونے کا فقط چند بیتوں[1] کی تصنیف کے باعث جن کے مضمون سے محبت حضرت علی ٹپکتی ہے حکم کر دیا ہے حالانکہ انہیں ابیات سے اس کا نصرانی ہونا ثابت ہے اور ایسے ہی ابن فضلون[2] یہودی کو سب علماء (اس فرقہ کے) بزرگ سمجھتے ہیں اسکا باعث بھی یہی دو تین بیتیں ہیں۔ القصہ حضرت علی کا تو یہ رتبہ کہ ان کے محب بھی اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں جنت میں جائیں اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی جنت میں نہ جانے پائیں اعراف سے آگے

شعر زینبا النصرانی لہ[1]

عدی وتیم لا احاول ذکرهم — بسوء ولکننی محب لهاشم
وما یعترینی فی علیّ واهله — اذا ذکروا فی الله لومة لائم
یقولون ما بال النصاری تحبهم — واهل النهی من اعرب واعاجم
فقلت لهم انی لاحسب حبهم — سری فی قلوب الخلق حتی البهائم

لابن فضلون[2]

رب هب لی من المعیشة سولی — واعف عنی بحق آل الرسول
واسقنی شربة بکف علیّ — سید الاولیاء بعل بتول

۲۸

قدم رکھنے کی اجازت نہ ہو اور پھر محبوب بھی کون؟ چچا جان اور وہ بھی مسلمان، کیونکہ اگر کافر ہوتے تو اعراف تک کی نوبت میسر کہاں آتی۔ کیونکہ کفار کے لئے تو سعیر تیار ہے فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِیْنَ سَلٰسِلَ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِیْرًا یعنی ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور سعیر، دوسری آیت وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَھُمْ نَارُ جَھَنَّمَ یعنی جو لوگ کافر ہوئے ان کا ٹھکانہ بجز جہنم کے اور کچھ نہیں، بہرحال قاضی صاحب کی تحقیق کی خوبی دیکھنی چاہیئے کہ کس دعوی کو کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی بھی ان کو بجائے پدر بزرگوار ہی سمجھتے تھے اگر بالفرض اپنا جی نہیں بھی چاہتا تھا تب اس وجہ سے کہ حضرت عباس کا فرمانا اس قابل نہیں کہ نہ مانیئے ان کا فرمانا قبول کر لیا۔ نہ کہ تقیہ کی وجہ سے چپکے ہو رہے یہ محض حق گمراہ کرتا ہے۔ تو الٹی ہی سمجھ میں آتی ہے۔

حضرت علی کی خاموشی رضامندی کی وجہ سے تھی | بہرحال اتنی بات ثابت ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے بالضرور ہوا ہے باقی رہا عذر تقیہ، سو اہل عقل آپ سمجھ جانتے ہیں کہ یہ خیال خام اہل تشیع نے ورنہ یہ روایت خود ہی اس کی تکذیب کرتی ہے کہ یہ ساختہ بوجہ تقیہ حضرت امیر پر گذرا ہو کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اول تو حضرت امیر اور پھر تقیہ؟ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی یوں کہے کہ شیر ہو کر گیدڑوں سے ڈرتا ہے، اور پھر حضرت امیر کا تقیہ بھی ایسے قصہ میں کہ کوئی کافر بے دین اور بے غیرت اور بے یقین بھی گوارا نہ کرے، معہذا یہ بھی منجملہ محالات عادی ہے کہ محبوب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے خاندان کے ساتھ ایسی جفا ظہور میں آئے اس لئے کہ محبت نبوی تو میزان حق و باطل ہونی چاہیئے، جس طرف کو آپ کی محبت جھکی وہ حق ہو دوسری جانب باطل، الغرض محبوب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم لاریب اہل حق میں سے ہوں گے پھر اہل حق سے کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نواسی کو ایک کافر بے دین کے حوالہ کر دے؟ معہذا ہم نے مانا کہ بوجہ تقیہ ہی حضرت امیر نے یہ نکاح حضرت عمر سے کر دیا لیکن تاہم یہ عذر تقیہ بدتر از گناہ ہے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کو بھی کیوں مانتے ہو؟

فاروق اگر کافر ہوں تو امام علی بھی محفوظ نہیں | بالجملہ یہ نکتہ محفوظ خاطر رکھنا چاہیئے کہ اگر حضرت علی

مسلمان ہیں اور کامل الایمان ہیں تو حضرت عمر ضرور باایمان ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور حضرت عمر اگر نعوذ باللہ کافر ہیں تو حضرت علی نعوذ باللہ پہلے ہیں، کافر نہیں فاجر سہی کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اپنے آپ کیا تو کفر میں کچھ شک نہیں۔ اور زبردستی کر دیا تو باوجود اس استطاعت کے اتنی بے غیرتی نعوذ باللہ کہ ادنی چمار بھی گوارا نہ کرے حضرت علی تو درکنار الٰہی تو خوب جانتا ہے کہ میں اس عقیدہ سے بدل و جان ناخوش ہوں، اور حضرت زہرا کی صاحبزادی کا یہ قصہ بنا چاری لکھتا ہوں کہ کسی طرح مولوی عمار علی صاحب حضرت علی کی طرف سے بدظن نہ رہیں۔

تزویج ام کلثوم کا کتب شیعہ سے ثبوت | اور خیر یہ بھی نہ سہی ہم بھی (ہونگے تو انشاء اللہ تعالیٰ) قاضی صاحب کو اماموں کے اقوال سے جھوٹا کریں گے کتب امامیہ میں صحیح صحیح روایتیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ حضرت امیر نے حضرت عمر کو لائق فائق سمجھ کر اپنی صاحبزادی مطہرہ کا نکاح کیا نہ کہ جبراً کرہاً سُئِلَ الْاِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ عَنْ تَزْوِیْجِھَا فَقَالَ لَوْلَا اَنَّہٗ رَاٰہُ اَھْلًا لَمَا کَانَ یُزَوِّجُھَا اِیَّاہُ وَکَانَتْ اَشْرَفَ نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ جَدُّھَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاَخَوَاھَا الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ سَیِّدَا شَبَابِ اَھْلِ الْجَنَّۃِ وَاَبُوْھَا عَلِیٌّ ذُو الشَّرَفِ وَالْمَنْقَبَۃِ فِی الْاِسْلَامِ وَاُمُّھَا فَاطِمَۃُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَجَدَّتُھَا خَدِیْجَۃُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا حاصل اس کا یہ ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے حضرت ام کلثوم کے حضرت عمر سے نکاح کی وجہ پوچھی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت علی حضرت عمر کو حضرت ام کلثوم کے لائق نہ سمجھتے ہرگز ان کا نکاح ان سے نہ کرتے وہ سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ شرافت والی تھیں، اس لئے کہ نانا تو ان کے جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور دو بھائی ان کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جو جوانان جنت کے سردار ہیں، باپ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام میں شرف اور منقبت رکھتے ہیں اور اماں ان کی حضرت

فاطمہ سیدۃ النساء رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور نانی ان کی خدیجۃ الکبرٰی خویلد کی بیٹی رضی اللہ عنہا فقط،،

شیعہ کو اہل بیت سے محبت نہیں صحابہ سے عداوت ہے۔ اس روایت کو دیکھئے اور حضرت قاضی صاحب کی بناوٹ کو دیکھئے، زون اس دعوئ محبت پر کہ اس پردہ میں کیا کہتے ہیں، مشہور تو یوں کرتے ہیں کہ ہم کو اہل بیت سے محبت ہے اور اس لئے صحابہ سے عداوت ہے، اور ہماری تشخیص میں یوں آتا ہے کہ آپکو اصل صحابہ سے عداوت ہے اور اس سبب اہل بیت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، سو اہلبیت کب اس طرح کھنچتے ہیں؟ بلکہ اس طرف سے کھنچتے ہیں اور کیونکر نہ کھچیں۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ پر تقیہ حرام تھا چنانچہ بحث تقیہ میں اس کی سند گذر چکی، ان کے فرمانے کے بعد بھی حضرت علی اور حسنین کیا ان کے ساتھ بنی ہاشم کو بے غیرت اور بے حیا بتلائے جاتے ہیں، اور طاہرہ مطہرہ جگر گوشہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو جو اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیْرًا کی بشارت تطہیر میں داخل ہے، بدشنام و زنا نعوذ باللہ پیش آتے ہیں، خدا ان خبیثوں کو سمجھے پھر اہل بیت کا ان پر غصہ نہو تو اور کیا ہو جس کے دل میں ایمان ہے وہ ایسی واہیات کو سن کے کانپ اٹھتے ہیں پر خدا جلنے ان تیرہ دردنوں کو کیا ہوا کہ اپنے اس عیب قبیح کے ہنر بنانے کے لئے اماموں پر بھی بہتان باندھتے ہیں یہ لے ایمان کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھتے ہیں اور اپنا گناہ ان ... کے سر دھرتے ہیں اور اس نکاح کے عذر میں یہ ناپاک الفاظ نقل کرتے ہیں کہ جن کی نقل سے بھی جی ڈرتا ہے ترجمہ تو درکنار وہ الفاظ یہ ہیں وَ هُوَ اَوَّلُ فَرْجٍ غُصِبَ مِنَّا، ایخداوند عالم الغیب تجھپر روشن ہے کہ میں بدل و زبان اس خیال ناپاک سے بری ہوں اور یوں سمجھ کر کہ نقل کفر کفر نباشد بایں خیال نقل کرتا ہوں کہ شاید کوئی بے خبران دغابازوں کے دام میں پھنسا ہوا ان کے کفریات سن کر شاید راہ راست پر آجائے۔

حب حضرت علی کفر کے باوجود اگر جنتی بناتی ہے تو قرابت بھی بنائیگی افسوس ایک حضرت عمر کی عداوت کے سبب خاندان نبوی کو تو اتنا بٹہ لگا دیا پر یہ نہ ہوسکا کہ بتصدق اہل بیت حضرت عمر

ہی کو شامل رحمت اور مغفرت خداوندی سمجھ لیتے، کیا یہ نسبت تزویج زینبا بن اسحٰق نصرانی اور ابن فضلون یہودی کے اشعار سے بھی گئی؟ حبّ علی رضی اللہ عنہ میں یہ تاثیر ہے کہ ایمان کی بھی ضرورت نہیں، حالانکہ کلام اللہ سے کفار کا ٹھکانا جہنم ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ مرقوم ہوچکا، پھر کیا اتنی بھی تاثیر نہ ہوگی کہ اپنے واسطے داروں کو بخشوا لیں، بہرحال علماء شیعہ حضرت ام کلثوم کے حضرت عمر سے نکاح ہونے میں متفق ہیں پر بعضے بھولے چوکے حق بات بول جاتے ہیں اور بعضے بری طرح ادا کرتے ہیں۔ سو ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا کَدِرَ لیکن مولوی عمار علی صاحب سب سے بڑھتے رہے انہوں نے سمجھا حق کو حق کہیئے تو مذہب کی خیر نہیں بلکہ مذہب تو مذہب سنیوں سے ہزار مرتبہ زیادہ حضرت عمر کا معتقد ہونا پڑے گا کہ وہ اہلبیت میں داخل ہوجائیں گے اور تقیہ کی صورت میں بھی باوجود جھوٹ بولنے کے وہی خرابی کی خرابی برسر، بلکہ اس سے زیادہ۔ کیونکہ بطفیل اہلبیت حضرت عمر کے ناحق میں اتنی خرابی نہیں جتنا بطفیل عمر اہل بیت کے نہ ماننے میں خرابی ہے خصوصًا حضرت امیر کے، اور درصورت تقیہ ظاہر ہے کہ کمال بے غیرتی اور بزدلی اور بے حیائی اور دین کی سستی اور حدود اور احکام میں مداہنت اور مداہنت بھی اس قدر لازم آتی ہے، سو مولوی صاحب نے ہمارے نزدیک بہت اچھا سمجھا کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہی ٹھیرا تو معقول ہی کیوں نہ بولے گو کچھ زیادہ ہی سہی

چو آب از سر گذشت ؛ چہ یک نیزہ چہ یک دست

چونکہ مولوی صاحب کے اس جعل سے فی الجملہ ہوشیاری ٹپکتی ہے تو عجب نہیں کہ اگر پتے کی بات کہی جائے تو ان کے دل میں لگ جائے اور شاید اس سبب سر دست نہیں تو رفتہ رفتہ حق کو حق سمجھ جائیں ہمیں بھی لازم پڑا کہ کوئی اور روایت بھی بیان کریں۔ کہ اس میں ایک تو مولوی صاحب کا حضرت عمر پر غیظ و غضب کم ہو جائے گا دوسرے کثرت روایات سے شرما کر شادان و فرحان نہیں تو ملتے ہی زبان سے شاید مان جائیں وہ روایت یہ ہے رَوَی ابْنُ اَبِی الْحَدِیْدِ شَارِحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ فِی قِصَّةِ تَزْوِیْجِ اُمِّ کُلْثُوْمٍ فَجَاءَ عُمَرُ اِلَی مَجْلِسِ الْمُهَاجِرِیْنَ بِالرَّوْضَةِ وَقَالَ

زَوِّجُوْنِی زَفِّرُوْنِی قَالُوْا بِمَاذَا یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ قَالَ تَزَوَّجْتُ اُمَّ کُلْثُوْمَ بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

حاصل یہ ہے کہ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغت حضرت ام کلثوم کے نکاح کے قصہ میں بیان کرتا ہے کہ جس جگہ مہاجرین روضہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر آئے اور یہ فرمایا کہ مجھے مبارک باد دو مجھے مبارک باد دو، انہوں نے کہا یا امیر المومنین کاہے کی مبارک باد؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضرت ام کلثوم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے فقط،، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اس نکاح سے بڑا افتخار تھا، اہل انصاف کے نزدیک تو یہی بات کفایت کرتی ہے کہ حضرت عمر کے معتقد ہو جائیں کیونکہ بظاہر افتخار اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے قرابت حاصل ہوگئی، اور کوئی یوں نہ سمجھے، لو ہم کون سے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہیں۔

حضرت ام کلثوم سے فاروق کی اولاد

اب مناسب یوں ہے کہ اس بات کا خاتمہ کیجئے پر بطور تنبیہ ایک اور امر معروض خدمت ہے بعضے امامیوں نے سنیوں کے سامنے شرم اتارنے کے لئے حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سے اخذ کر کے یوں بات بنائی ہے کہ حضرت عمر حضرت ام کلثوم پر قادر نہ ہوئے اور وجہ یہ ہوئی کہ ایک جن بیچ میں حائل ہو جاتا تھا سو ہر چند اس جا جھوٹا ہونا اس روایت نامعقول سے بھی نکلتا ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق کی طرف سے بنائی ہے مگر بایں ہمہ تبواتر ثابت ہے کہ حضرت ام کلثوم کے شکم مبارک سے حضرت عمر کے ایک بیٹا پیدا ہوا ان کا نام زید رکھا، وہ جوان ہوئے آخر کو بیس برس کی عمر میں بنی عدی کی باہم کی خانہ جنگی میں شہید ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ان کی والدہ بھی اسی روز بیماری میں انتقال کر گئی تھیں، اور نو جنازوں کو ایک دفعہ نکالا اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا اور یہ بھی نہ سہی یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ مدت العمر حضرت عمر کے پاس رہیں، حضرت سارہ کسی ایسے کی نواسی نہ تھیں۔ جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم، جب ان کو ایک دم میں چھڑا دیا تو حضرت ام کلثوم کی تو زیادہ ہی قدر کرنی چاہیئے۔

بابُ مباحث فدکُ

الحمد للہ کہ مولوی عمار علی صاحب کی تمام افترا پردازیوں کے جواب سے فراغت پائی مگر جو کچھ انہوں نے دربارہ فدک زبان درازیاں اور افترا پردازیاں کیں ہیں اس کی مکافات میں حسب مثل مشہور جیسے کو تیسا اور جواب ترکی بہ ترکی، مناسب تو یوں تھا کہ ہم بھی کچھ نظم و نثر سے پیش آتے اور مولوی صاحب کی مہملات کے جواب میں مولوی صاحب کو بے نقط سناتے۔ مگر چونکہ ایسی خرافات کا بکنا پاجیوں کا کام ہے ہم کو کیا زیبا ہے کہ ایسی نازیبا باتوں میں مولوی صاحب کے ہمصفیر ہوں اور اپنی زبان کو گندہ کریں اور اہل عقل اور ارباب حیا سے شرمندہ ہوں؟ معہذا اصحاب ثلثہ کی اہانت کے انتقام میں مولوی عمار علی صاحب سے دست و گریباں ہونا تو ایسا ہی ہے جیسا چاند سورج پر تھوکنے کی سزا میں کتے کے کوئی پتھر لگائے یا آسمان کی طرف تھوکنے کے عوض میں کسی کم عقل ناہنجار کے منھ میں کوئی پیشاب کی دھار لگائے ظاہر ہے۔ کہ اول تو چاند سورج کو ان حرکات ناشائستہ سے کیا نقصان؟ بلکہ عقلا کے نزدیک اور دلیل رفعت مکان ہے دوئم کجا شمس و قمر کجا سگ و کم عقل سگ نژاد؟ مساوات ہو تو ایک بات بھی ہے ورنہ سگ اور سگ مزاجوں کی اتنے میں کچھ عزت نہیں جاتی ہاں اپنی اوقات البتہ فی الجملہ خراب جاتی ہے۔ سو ایسے ہی اصحاب ثلثہ کو اول تو مولوی عمار علی صاحب جیسوں کی اہانت یا برا کہنے سے کیا نقصان؟ بلکہ الٹا باعث رفعت شان ہے۔ چاند سورج کی طرح وہ روشن ہوئے تو کتے ان پر بھونکے اور اوروں پر کیوں نہ بھونکے؟ دوئم کجا اصحاب ثلثہ کجا امثال مولوی عمار علی؟ جو ان کے برا کہنے کے عوض میں ان کو برا کہہ کے جی ٹھنڈا ہو اور دل کا بخار نکلے یہاں تو یہی نسبت مذکور ہے۔ سو مولوی عمار علی صاحب جیسوں کے برا کہنے میں ان کی تو کچھ عزت نہیں جاتی جو قصاص تبرا یا اہانت اصحاب ہو، ہاں اپنی اوقات خرافات میں صرف ہوگی۔ سو ہم کون سے مجتہد زمانی طوسی ثانی مولوی میرن صاحب کے چیلے چانٹوں میں سے ہیں جو عقل کی یہ شہادت دربارہ دشنام نہ سنیں ،، دشنام بمذہبے کہ طاعت باشد مذہب معلوم واہل مذہب معلوم ،، اور دشنام کو عبادت نہ سمجھ کر مولوی عمار علی صاحب کو گالیاں دے کر

ان کی عزت بڑھائیں اور مولوی عمار علی صاحب یا امثال مولوی عمار علی صاحب کو چھوڑ کر کسی برے کو برا کہیں تو کس کو کہیں۔

حبِ اہل بیت و حبِ صحابہ ایمان کے دو پر ہیں

اہلبیت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حق میں چشم و چراغ ہیں، ہمارے نزدیک اعتقاد صحاب اور حبِ اہل بیت دونوں کے دونوں ایمان کے لئے بمنزلہ دو پر کے ہیں، دونوں ہی سے کام چلے ہے، جیسے ایک پر سے طائر بلند پرواز نصف پرواز تو کیا ایک بالشت بھی نہیں اڑ سکتا، ایسے ہی ایمان بھی بے ان دو پروں کے سہارے کے موجب فوز مقصود (جس کی طرف اُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یا فَازَ فَوْزًا عَظِیْمًا وغیرہ میں اشارہ ہے) نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا ایمان ایسا ہی ایمان ہے جس کا آیت لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا میں بیان ہے ہاں اگر ہم قدم بقدم حضرات شیعہ ہوتے تو جیسے انہوں نے موافق مثل مشہور غیروں کی بدشگنی کے لئے اپنی ناک کاٹ لی سنیوں کی ضد میں اصحاب کرام کو برا کہہ کے اپنے ایمان کا زیان کیا ہم بھی شیعوں کی ضد میں نعوذ باللہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ کر مثل خوارج و نواصب اپنے ایمان کو خراب کرتے لیکن ہم کو تو پابندی عقل و نقل سے ناچاری ہے شیعہ تو نہیں کہ مثل شتر بے مہار پراگندہ رفتار جائیں۔

حبِ اہل بیت و حبِ صحابہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں

راہ کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو دونوں فریق بمنزلہ دو آنکھوں کے ہیں کس کو چھوڑ دیں جس کو چھوڑیں اپنا ہی نقصان ہو بلکہ جیسے کوئی حسین متناسب الاعضا ہو کہ اس کی آنکھ ناک سب کی سب مناسب اور متناسب ہو ں، اور پھر اس کی ایک آنکھ بیٹھ جائے تو دوسری آنکھ کی زیب بھی جاتی رہے گی، اور تسپر اگر بیٹھی ہوئی آنکھ کے حصہ کی فراخی بھی دوسری ہی آنکھ میں آجائے اور اس میں بجائے سپیدی کبھی سیاہی ہی چھا جائے بجائے حسن ایسا قبیح المنظر ہو جائے کہ دلدادگان قدیمی اور عاشقان صمیمی بھی اس کی صورت پر لاحول پڑھنے لگیں، خاص کر دوسری آنکھ جو باقی رہی ہے بسبب اس کے کہ اپنے اندازہ سے زیادہ فراخ اور کشادہ اور سپیدی کی جا بھی سیاہی ہی ہو گئی ہے، ایسی بری اور بدشکل ہو جائے کی کہ کچھ نہ پوچھو بلکہ اگر چشم باقی ماندہ کو شعور اور اختیار ہو تو اپنی اسی حالت اصلی پر آجائے اور دوسری آنکھ کو بھی

بدستور قائم کر دکھلائے کیونکہ اپنا حسن بھی اصلی کیفیت اور دوسری آنکھ کی معیت میں ہے

شیعوں نے اپنے ایمان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی

سو بعینہ یہی قصہ حضرات شیعہ کے ایمان کے ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اعتقاد صحابہ اور حبِ اہلبیت جو بمقتضائے شہادات کلام اللہ اور عترت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایمان کیلئے بمنزلہ دو آنکھوں کے ہیں (چنانچہ رسالہ ہٰذا کے ملاحظہ کرنے والوں پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ ان دونوں آنکھوں میں سے شیعوں نے ایک آنکھ کو پھوڑ دیا اور اس کے حصہ کی فراخی اور کشادگی بھی بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسری آنکھ کو دے کر اس کو خراب کر دیا۔ یعنے اعتقاد صحابہ کو جو بمنزلہ چشم ایمان ہے اپنے ہاتھوں کھو کر دوسری آنکھ یعنی حبِ اہل بیت کو اسقدر بڑھایا کہ صحابہ کے حصے کی محبت بھی انہیں کے لئے صرف کر دی، پھر جیسے کہ آنکھ میں سفیدی کی جا بھی سیاہی آجائے ان حضرات بزرگوار فرقہ مسمے بشیعہ نے بھی ایسا ہی کیا۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے آنکھ میں تل اور سیاہی اور سفیدی غرض چند قسمیں ہوتی ہیں ایسے ہی عترت میں بھی چند قسمیں تھیں، اولاد اور ازواج اور سوا ان کے اور اقربا کیونکہ باتفاق اہل لغت عترت کے معنے خویش اور اقربا کے ہیں، سو ان سب میں سے حضرات شیعہ نے فقط اولاد کو اور اولاد میں سے بھی فقط دس بارہ کو اور سوا اولاد ایک آدھے کسی اور کو تو مخدوم و مکرم سمجھا باقی سب کے لئے تبرا ہے، پر جنکو اپنا پیشوا اور مقتدا بنایا اور مخدوم و مکرم ٹھیرایا ان کے حق میں محبت کو کچھ ایسا حد سے بڑھایا کہ گویا صحابہ باقی ماندگان عترت کے حصہ کی محبت بھی انہیں کے نثار کی، سو یہ بعینہ وہی مثل ہے کہ آنکھ اپنے اندازہ سے زیادہ کشادہ تو ہوئی تھی پر سفیدی کے عوض بھی سیاہی ہو گئی، شاید اس اجمال میں ناواتفان شیعہ کو بحکم مثل مشہور اَلْمَرْءُ یَقِیْسُ عَلٰی نَفْسِهٖ کے احتمال جعل و تلبیس ہو اس لئے تفصیل اس اجمال کی ضرور کرنی پڑی، تاکہ اپنی کتاب اور اہل کتاب کی طرف مراجعت کرکے بآسانی تحقیق کرکے بعد تطبیق اس اجمال کی تصدیق کریں۔

شیعوں نے عترت میں سے بعض کی تکریم کی اور اکثر پر تبرا کیا

سو تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرات شیعہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دختران مطہرہ حضرت رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم ۲۹

کو سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی نہیں سمجھتے یہاں تک کہ زبان زد خاص شیعہ یہ بات ہوگئی ہے عام تو درکنار خاص بھی اسی حساب سے عام ہی ہیں بلکہ عام سے بھی پرے، اور تو کیا کہوں، حالانکہ انہیں کی کتب معتبرہ سے ان دونوں مطہرات کا بہ نسبت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہونا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ قریب ہی اس بات کی شرح مرقوم ہو چکی، اور حضرت عباس عم بزرگوار سید الابرار صلے اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اور ایسے ہی حضرت زبیر بن العوام کو بھی داخل عترت نہیں سمجھتے، اور اس قرابت قریبہ پر بھی لحاظ نہیں کرتے حضرت عباس کی قرابت تو مشہور و معروف ہی ہے پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی بسبب کثرت علاقہ ہائے قرابت گویا بمنزلہ برادر حقیقی کے تھے اول تو ان کی والدہ حضرت صفیہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی عمہ اور ان کی دادی ہالہ بنت وہب بن عبد مناف رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خالہ اور ان کے باپ کی پھوپھی ام حبیب بنت اسد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی دادی اور ان کی حقیقی پھوپی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پھر ان سب کے بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ہم زلف ان کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن، ماسوان سب کے پانچویں پشت یعنی قصی بن کلاب میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں، علماء نسب لکھتے ہیں کہ اتنی کثرت سے قرابت کے علاقے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔

لیکن آفرین ہے حضرات شیعہ کو کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے دشمن ہوں تو ایسے ہوں کہ حضرت زبیر جیسے قریب عزیز کو تو با وجودیکہ وہ مہاجرین اولین میں اور مجاہدین سابقین میں سے ہیں۔ اور سینکڑوں بشارت فرقانی اور وعدہ ہائے قرآنی ان لوگوں کی بزرگی پر گواہ ہیں۔ از جملہ کفار نگونسار اور منافقین بدکردار سمجھتے ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ باقی رہیں ازواج مطہرات جو امہات مومنین یعنی سب مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کی نسبت جو کچھ حضرات شیعہ ثنا خوان ہیں سب ہی جانتے ہیں، حالانکہ اصل اہلبیت وہی ہیں کیونکہ اول تو اہل بیت کے معنے بعینہ اہل خانہ ہے اتنی بات تو کوئی کچھ نہ جانتے ہوں

مولوی عمار علی صاحب بھی جانتے ہوں گے دوسرے لفظ اہل بیت جو کلام اللہ میں واقع ہوا ہے تو ازواج مطہرات ہی شان میں وارد ہوا ہے۔ گو حضرت علی اور حضرت زہرا اور حضرات حسنین بھی بوجہ عموم لفظ یا بہ سبب التماس حضرت رسالت پناہی صلے اللہ علیہ وسلم اہلبیت ہونے کی فضیلت میں داخل ہو گئے ہیں مزید تسکین کے لیے جس آیت میں یہ لفظ واقع ہے ما قبل اور مابعد سمیت لکھ کر اس کا ترجمہ لکھے دیتا ہوں تاکہ سب شیعہ و سنی متنبہ ہو جائیں

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ	یعنی اے نبی کی عورتو تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی
النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ	عورتیں، اگر تم ڈرو رکھو، تو دب کر نہ کہو بات
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ	پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا	اور کہو بات معقول، اور قرار پکڑو اپنے
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ	گھروں میں اور دکھاتی نہ پھرو جیسا دکھانا
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ	دستور تھا پہلے نادانی کے وقت میں اور رکھو
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَ	نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت میں
أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا	رہو اللہ کی اور اسکے رسول کی، اللہ یہی چاہتا ہے
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ	کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے گھر والو
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ	اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے، اور یاد
تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي	کرو اے پیغمبر کی بیبیو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ	گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقلمندی،
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔	مقرر اللہ ہے بھید جاننا خبردار۔

یہاں تک ترجمہ تھا۔ اب عرض یہ ہے کہ شیعہ ہی اپنے علماء سے پوچھیں۔ کہ میں نے ترجمہ صحیح کیا یا غلط۔ بہرحال ان آیات سے اول یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کہ اہل بیت ازواج ہی ہیں۔

خاندان امام کو عبا میں لے کر دعا کرنے کی وجہ | اسی واسطے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زہرا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک عبا میں لے کر یہ دعا کی کہ

الٰہی یہ میرے اہل بیت ہیں تاکہ وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائیں، یہ ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ قدر شناس چشم پوش اپنے وزیر سے یوں کہے کہ تمہارے گھر کے سب لوگوں کو ہم جدا جدا جگہ کر دیں گے تو وہ وزیر موافق محاورہ کے یوں سمجھ کر کہ ایسے موقع میں بی بی اور بیٹا مراد ہوا کرتے ہیں اور بیٹی اور نواسی مراد نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ دوسرے گھر کی ہوتی ہیں۔ کچھ اپنے جی میں سوچکر وقت دیکھ کر بیٹی اور داماد اور نواسوں کو بھی پیش کرے، وہ بادشاہ اگر پوچھ بیٹھے کہ یہ کون ہیں تو بایں لحاظ کہ بیٹی اور نواسی اور داماد بھی قرابت میں کچھ بیٹی اور پوتی اور بی بی سے کم نہیں، یہ کہے کہ حضور میرے گھر کے لوگ ہیں، تو اس بادشاہ کو گو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ داماد اور نواسی اور بیٹیاں ہیں اس کے گھر کے لوگ نہیں، پر بمقتضائے اپنی چشم پوشی ذاتی کے انکو بھی جاگر دیگا۔

یا لفظ اہلبیت اصل سے عام ہے ازواج اور حضرت علی اور حضرت زہرا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم سب کو شامل ہے گو فقط ازواج ہی کی شان میں نازل ہوا ہو، جیسے دلی والا ایک لفظ عام ہے سب دلی والوں کی نسبت بول سکتے ہیں اگر کوئی دو دلی کے رہنے والوں کو یوں کہے کہ یہ دلی والے ہیں تو اس سے کوئی کودن گنوار تک بھی یہ نہیں سمجھتا کہ دلی والے فقط یہی ہیں ان کے سوا اور کوئی دلی والا نہیں اس تقریر سے سب پر واضح ہو گیا کہ کلام اللہ سے جو ازواج کا اہل بیت ہونا اور حدیث سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین کا اہلبیت ہونا ثابت ہوتا ہے سب صحیح اور درست ہے اگرچہ شیعوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو، بالجملہ ازواج مطہرات کو باوجودیکہ وہ اصلی اہلبیت ہیں اور کلام اللہ میں ان کی شان میں یوں آیا ہے وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں مومنوں کی مائیں ہیں، پھر بھی حضرات شیعہ اپنی زبان نہیں سنبھالتے اور لگام نہیں دیتے، اگر دوسری آیت کا یوں جواب دیں کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں ہماری تو نہیں تو سلمنا پر آیت اول کا۔ یعنے جس سے ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے کیا جواب دیں گے؟ بالجملہ ازواج مطہرات کے اعتقاد اور محبت کا اس مذہب میں یہ حال ہے۔

شیعہ اولاد فاطمہ کی اکثریت کے دشمن ہیں باقی رہی اولاد سو ان کا حال بھی سنئے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کے حضرات شیعہ دشمن جانی ہیں اور برا کہتے ہیں منجملہ ان کے حضرت زید شہید فرزند ارجمند حضرت امام ہمام امام زین العابدین رضی اللہ عنہما جو عالم اور متقی اور متورع تھے، اور مروانیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور ان کے بیٹے یحیے ابن زید ہیں جو بزعم اثنا عشریہ مرتد ہیں، اور ایسے ہی ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم اور جعفر بن امام موسیٰ کاظم جن کا لقب شیعوں نے کذاب رکھ چھوڑا ہے، حالانکہ وہ کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اور بایزید بسطامی انہیں کے مرید ہیں اور جعفر بن علی برادر امام حسن عسکری کہ شیعوں کے عرف میں ان کا بھی لقب کذاب ہے اور حسن بن حسن مثنیٰ، اور ان کے فرزند عبداللہ محض، اور ان کے فرزند محمد نام جو ملقب بنفس زکیہ ہیں کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ اور ابراہیم بن عبداللہ کو اور زکریا محمد باقر کو اور محمد بن عبداللہ بن الحسین بن الحسن، اور محمد بن القاسم بن الحسن، اور یحییٰ بن عمر کو بھی جو حضرت زید شہید کے پوتوں میں سے تھے، کافر اور مرتد جانتے ہیں اور جماعت کی جماعت سادات حسنیہ اور حسینیہ کو جو حضرت زید شہید کی امامت اور بزرگی کے قائل ہیں گمراہ اور اہل ضلالت میں سے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتب انساب اور کتب تواریخ سادات اس بات پر شاہد ہیں کہ اکثر سادات حسنی، حسینی حضرت زید کی امامت اور فضیلت کے معتقد تھے۔

حاصل یہ کہ اکثر اثنا عشریہ ان بزرگواروں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں اور بزعم خود یوں بکتے ہیں کہ یہ سب جگر گوشہ حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لخت جگر حضرت بتول ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک جہنم میں رہیں گے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک دوازدہ امام میں سے کسی امام کی امامت کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسا کسی نبی کی نبوت کا منکر، اور سب جانتے ہیں کہ کافر ابدالآباد تک جہنم میں رہیں گے، الغرض قول اکثر اثنا عشریہ کا یہی ہے اور یہی ان کے قواعد پر منطبق ہے کہ یہ بزرگوار ان مذکور کافر ہیں اور ان کے لئے کبھی نجات نہ ہوگی، اگرچہ بعضے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ گروہ مثل حضرت عباس عم بزرگوار سید الابرار صلے اللہ علیہ وسلم اعراف میں رہیں گے، اور بعضے کہتے ہیں کہ بعد

عذاب شدید کے اپنے آباؤ اجداد کی شفاعت سے نجات پائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں قول پوچ ہیں کیونکہ جب منکر امامت کافر ہوا تو شفاعت کے ہونے اور اعراف میں رہنے کے کیا معنے، شفاعت بالاجماع کافروں کے حق میں نہ کوئی کر سکے اور نہ مقبول ہو، اور اعراف میں کافروں کا جانا خلاف قرآن ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔

یعنے مقرر جو لوگ کہ کافر ہوئے اور کفر پر ہی مرے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اسمیں رہینگے نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ملے گی،

الحاصل حضرات شیعہ کو دعوائے محبت تو اس قدر اور پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اقرباء اور ازواج رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اماموں کی اولاد اور ان کے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک، خاک پڑے اس محبت پر، ان میں اور ناصبیوں میں دس بارہ ہی نمبر کا فرق ہے فقط اتنا ہی تو ہے کہ شیعہ دوازدہ امام اور ان کے بعض اقربا کی بزرگی کے معتقد ہیں اور ناصبی معتقد نہیں، سو اس اعتقاد سے تو ان کی بے اعتقادی ہی بھلی، کیونکہ اول تو یہ فرقہ محبت کے پردہ میں حضرات ائمہ کے ذمہ صدہا عیب لگاتے ہیں اور پھر ان کفریات کو ہر کس و ناکس اپنے بیگانے کے سامنے گاتے ہیں، چنانچہ کچھ کچھ تو اس رسالہ کے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔

اہل شیعہ کی حضرت علی سے محبت جو دشمنی سے بدتر ہے | یہاں ہر چند اس بات کے مفصل لکھنے کا موقع ہے لیکن اس رسالہ مختصر کے مناسب نہیں، اس لئے بطور نمونہ اشارہ کئے جاتا ہوں، حضرت امام الائمہ علی مرتضےٰ رضی اللہ عنہ کے احوال کچھ ایسے تراش رکھے ہیں کہ جس سے ہر کوئی سمجھ جائے۔ کہ نعوذ باللہ وہ بڑے بے غیرت نامرد جھوٹے کذاب تھے، کہ اپنی بیٹی کافروں کے حوالہ کر دی، اور بہ خوف جان نہ اس مقدمہ میں کچھ چون و چرا

کی نہ کسی اور بات میں دم مارا، کافروں کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھیں اور ہمیشہ ان سے ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہے اور ان کی تعریفیں بارہا ایسی کریں کہ مومنان با اخلاص کی اس کے عشر عشیر کبھی ایک دفعہ بھی نہ کی جب ان کا یہ حال ہے تو اوروں کا تو کیا ذکر،

ع :- قیاس کن زگلستان من بہار مرا

خارجی اور ناصبی ہر چند حضرت علی کو برا سمجھتے ہیں پر اتنا نہیں سمجھتے،

انبیاء ائمہ سے بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں | دوسرے پھر اس محبت نامعقول کو اتنا حد سے بڑھایا کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کو بھی اماموں سے گھٹایا، چنانچہ مذہب امامیہ بہ نسبت تمام ائمہ ہدیٰ کے کہتا ہے کہ وہ سب تمام انبیاء سے افضل ہیں حالانکہ کلام اللہ اور خود ان کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ انبیاء سب سے افضل ہیں، کلام اللہ میں برابر انبیا کی نسبت اصطفا اور اجتبا جو بمعنے چھانٹ لینے کے ہے مستعمل ہے اور ظاہر ہے کہ چھانٹی ہوئی چیز باقی سے افضل ہوتی ہے، معہذا کل چار فرقوں کی خداوند کریم تعریف فرماتا ہے انبیاء، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سو ہر جگہ انبیاء ہی کو مقدم کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی باقی تین فرقوں سے افضل اور رتبہ میں مقدم ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے ائمہ ہدیٰ نبی تو تھے ہی نہیں پھر ان تینوں فرقوں میں سے جو نسے کو شیعہ پسند کریں اختیار ہے بہت سے بہت اماموں کو صدیق کہیں گے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تب بھی انبیاء سے بعد ہی میں رہے۔

افضلیت انبیاء کتب شیعہ سے | لیکن ہم جانتے ہیں کہ شیعہ کلام اللہ کی کاہے کو سنیں گے؟ اس لئے مناسب ہے کہ انھیں کی کتابوں سے ان کو جھوٹا کیجئے اور جتا دیجئے کہ یہ جو مثل مشہور ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد، اور ایسے ہی یہ مثل کہ "حق بر زبان جاری شود"، دونوں سچی ہیں، پیشوایان شیعہ نے ہر چند ان روایات کے تراشنے میں جہد بلیغ کیا جس سے اماموں کا انبیاء سے افضل ہونا ثابت ہو جائے لیکن بمقتضائے مثل اول چوک کر بمقتضائے مفہوم مثل ثانی حق بات کہی گئی روی الکلینی عَنْ هِشَامٍ الْأَحْوَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَالِكَ فَهُوَ ضَالٌّ

یعنی کلینی بواسطہ ہشام احول کے زید بن علی سے روایت کرتا ہے کہ مقرر انبیاء اماموں سے افضل ہیں اور بیشک جو اس کے سوا کہے وہ گمراہ ہے فقط ، ادھر ابن بابویہ کتاب الامالی میں بروایت صحیح ایک حدیث طویل کے ضمن میں جس میں حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت امیرالمومنین علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا قصہ مندرج ہے اس طرح روایت فرماتے ہیں ۔

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِسُكَّانِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَاَرْوَاحِ الرُّسُلِ وَمَنْ فِيْهَا اَلَا اِنِّيْ زَوَّجْتُ اَحَبَّ النِّسَاءِ اِلَيَّ مِنْ اَحَبِّ الرِّجَالِ اِلَيَّ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ ۔

یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے باپ دادوں سے روایت کرتے ہیں کہ مقرر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت کے رہنے والوں سے، یعنی فرشتوں سے اور رسولوں کی ارواح سے اور جو سوا ان کے جنت میں تھے، ان سے خداوند کریم نے فرمایا کہ خبردار رہو کہ میں نے اس عورت کا نکاح جو سب عورتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے اس مرد سے کر دیا ہے کہ جو سب مردوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، سا انبیاء کے بعد، غور فرمانے کی جا ہے یہ روایتیں باآواز بلند یہی کہتی ہیں کہ حضرت امیر کا رتبہ بعد انبیا کے ہے مگر ستم یہ ہے کہ باوجود ان روایات کے پھر ائمہ کو انبیاء سے افضل ہی تبلاتے جاتے ہیں، ظاہرا اس کا سبب یہی ہے کہ صحابہ کے حصہ کی محبت اور نیز اکثر اہلبیت کے حصہ کا اعتقاد فقط انہیں چند اشخاص معدودہ کے حق میں صرف کرتے ہیں، سو بہ سبب ادغام اور اجتماع محبت ہائے کثیرہ کے محبت دوازدہ امام اپنی حد سے باہر نکل گئی ۔

اور فی المثل شیعوں کے وہی مثل ہو گئی ۔ جو نصرانیوں کی ہے کہ حضرت عیسےٰ کے ساتھ اس قدر محبت کو بڑھایا کہ ان کو عبودیت سے نکال کر معبودیت تک پہنچایا چونکہ یہ قصہ بعینہ آنکھ کی مثال کا سا ہے، یعنی جیسے کسی حسین متناسب الاعضا متناسق الاطراف کی ایک آنکھ بالکل پٹ ہو جائے اور اس کے حصہ کی فراخی بھی دوسری ہی آنکھ میں آجائے ۔ اور اس ایک ہی کی مساحت دونوں کی مساحت کے برابر ہو جائے اور پھر اس آنکھ میں بھی بجائے سفیدی سیاہی ہی چھا جائے ایسے ہی حضرات شیعہ نے حب اہل بیت اور حب اصحاب میں

سے ایک کو رکھا اور ایک کو کھو دیا، اور جس کو رکھا اس کو ایسا بڑھایا کہ دونوں کے برابر اس ایک ہی کو کر دیا، اور جیسے آنکھ میں سفیدی کی جا بھی سیاہی ہی چھا جائے تو انہوں نے بھی تمام اہل بیت میں سے چند اشخاص معدود کو بزرگ سمجھا اور باقی کو مردود اور مرتد قرار دیا، اور بایں وجہ کہ جن کے ساتھ شیعہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت حد سے ۔ ۔ ۔ بڑھی ہوئی ہے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ باقیوں کے حصہ کی محبت بھی انہیں چند اشخاص معلوم کے لئے ہے تو اس صورت میں جیسے آنکھ مذکور خود نازیبا معلوم ہوگی اور تمام چہرے کو بے زیب کر دیگی، ایسے ہی حب اہل بیت اور حب اصحاب جو بمنزلہ ایمان کی دو آنکھوں کے ہیں ان میں سے اگر ایک جاتی رہے اور دوسری بڑھ جائے تو دوسری بھی نازیبا ہو جائے گی اور ایمان کے حسن کو بھی بے زیب کر دے گی اس لئے بالیقین یوں سمجھ میں آتا ہے کہ دوازدہ امام بھی اس محبت سے خوش نہوں بلکہ متنفر ہوں، اور اس بات کے خواستگار ہوں کہ ان کی محبت اپنے اندازہ پر آجائے تاکہ بری نہ معلوم ہو، اور اس کے ساتھ اصحاب سے بھی محبت اور اعتقاد دل میں جمایا جائے تاکہ جیسے ایک آنکھ سے دوسری کی زیب و زینت ہونے ہی سے چہرہ پر حسن آتا ہے ایسے ہی حب اصحاب سے حب اہل بیت کو زینت ہو اور دونوں ہی سے ایمان اور اسلام کی خوبصورتی ظاہر ہو،

شیعوں نے صدیق کے بارے میں خدا کی گواہی اور ائمہ کی شہادت بھی رد کر دی

سو چونکہ اہل سنت رضا اہل بیت میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں تو یہ خاکپائے غلامان اہلبیت کی طرف سے نیابۃً تمام شیعوں کے عموماً اور مولوی عمار علی صاحب کے خصوصاً کان کھولتا ہے کہ اے مدعیان محبت اہلبیت یہ محبت نامعقول جب تک مقبول نہ ہوگی جب تک کہ حب اصحاب اس کے برابر نہ ہو ورنہ ان کے برا کہنے میں تمہارا ہی برا ہوگا خصوصاً رفیق غار جان نثار سید الابرار صلے اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابوبکر صدیق جن کے صحابی ہونے کا خدا خود گواہ ہے چنانچہ مرقوم ہو چکا اور جن کے صدیق ہونے کی اماموں نے شہادت دی ہے اور بمبالغہ ان کی تعریف کی ہے چنانچہ معلوم ہو چکا ان کا برا کہنا خدا و ائمہ کو جھٹلانا ہے ایسی صورت میں تو ہزار عیب بھی اگر آنکھوں سے نظر آئیں تو یوں سمجھے کہ ہو نہ ہو ہماری نظر اور فہم کا

قصور ہے خدا کا فرمایا اور ائمہ ہدیٰ کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، جن کو ہم عیب سمجھتے ہیں وہ ہنر ہی ہوں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو مت آؤ، ہم تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود اس جلالت قدر اور کمال علم و فضل اور نور نبوت اور وفور عقل کے حضرت خضر کی کشتی کے توڑنے اور لڑکے کے قتل کرنے کو کہ وہ ظلم ہرگز نہ تھا، عین مطابق مرضی خداوندی تھا ظلم عظیم سمجھا حالانکہ خداوند کریم کی ہدایت کے موافق گئے تھے اور جناب باری تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت خضر کے علم اور بزرگی کی اطلاع کر دی تھی، چنانچہ یہ تمام قصہ سورہ کہف میں رکوع وَاِذْ قَالَ مُوْسٰی لِفَتٰهُ سے لے کر رکوع وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْن تک مذکور ہے پھر جب حضرت موسےٰ علیہ السلام جیسے رسول جو مرسلین اولوالعزم میں سے بھی اکثروں سے زیادہ ہیں آدھے قرآن کے قریب انہیں کے ذکر سے پُر ہوگا۔ حضرت خضر کے افعال کی حقیقت کو نہ سمجھیں حالانکہ حضرت خضر محققین کے نزدیک ولی ہیں نبی نہیں اور اگر نبی بھی ہیں تو بالاتفاق اس رتبہ کے ہرگز نہیں جو رتبہ کہ حضرت موسےٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوا تو حضرات شیعہ تو نہ نبی ہیں نہ ولی نہ عقل و دانش سے ان کو کچھ بہرہ۔ چنانچہ اسی لئے یہ مثل ہی ہو گئی ہے کہ اَلشِّيْعَةُ نِسْوَانُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ۔ یعنی شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں۔"

ایسے نادان اگر امت مصطفوی کے سید الاولیائے کسی فعل کی حقیقت نہ سمجھیں تو کیا بعید ہے بلکہ عین مقتضائے قیاس ہے کیوں کہ یہ امت اور امتوں سے افضل، اس امت کے اولیاء پہلی امتوں کے اولیائے سے افضل اور بھی نہیں تو جو اس امت میں ایسا ہو کہ خدا اور ائمہ ہدیٰ دونوں اس کی تعریف کریں وہ تو بیشک پہلی امتوں کے اولیائے سے افضل ہوگا، ایسے شخص کے افعال کی حقیقت تو اگر ائمہ ہدیٰ بھی نہ سمجھیں اور ظلم و ستم کا گمان کریں تب بھی اہل عقل کے نزدیک کچھ حرج نہیں، بہت ہو تو شیعوں کو یہ خلجان ہو کہ ائمہ ہدیٰ ہمارے عقیدہ کے موافق افضل الخلائق ہیں ابوبکر اگر بزرگ بھی ہوں تب بھی ان سے افضل یا ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تم خداوند کریم اور ائمہ ہدیٰ کی گواہی ابوبکر صدیقؓ کی بزرگی کے باب میں قبول کر لو پھر اس کا جواب ہم سے سنو

اگر بالفرض و التقدیر ائمہ ہدیٰ ابوبکر صدیق سے افضل ہی ہوں اور خدا کا مہاجرین کو علی العموم باقی امت سے صراحتہً افضل تبلانا پھر ان میں سے ابوبکر صدیق کو اشارۃً سب سے افضل کہنا، چنانچہ اول مفصل مرقوم ہو چکا تمہارے عقیدہ غلط کے موافق غلط ہو تب بھی تو کچھ دشوار نہیں حضرت موسیٰ بھی تو حضرت خضر سے افضل تھے پھر ان کے افعال کی حقیقت نہ سمجھے اور احسان کو نقصان اور عدل کو ظلم سمجھ کر ایسے مغلوب الغضب ہوئے کہ اپنے سب عہد و پیمان بھول گئے۔

حضرت موسےٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کج فہموں کے لئے عبرت ہے

القصہ مقتضائے ایمان خدا اور آزار ائمہ ہدیٰ تو یوں تھا کہ اگر بالفرض و التقدیر حضرت ابوبکر صدیق بظاہر ملحد و زندیق ہی شیعوں کو نظر آتے تو خدا کی گواہی اور ائمہ کی شہادت کے بعد جو ان کی بزرگی کی نسبت اول میں اور اوسط میں اس رسالہ کے مرقوم ہو چکی ہے اپنی بھی نہ سنتے اور اپنی عقل نارسا کی تکذیب کرتے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے قصہ کو پیش نظر کر کے تسکین خاطر پریشان اور تسلی طبع کج کر لیتے، کیونکہ جناب باری تعالیٰ نے اس قصہ کو ایسے ہی کودنوں کے واسطے بیان فرمایا ہے حضرات شیعہ جیسے عقل کے دشمن اپنی کج فہمی کے باعث خدا کے مقربوں اور دوستوں سے بدگمان ہو کر خدا کو اپنا دشمن بنا لیں۔ قربان جایئے خدا علیم کے۔ کتنی دور کی سوجھتی ہے مگر آفرین ہے شیعوں کی عقل پر بھی کہ اس پر بھی نہ سمجھے، خیر خدا انہیں سمجھے القصہ مقتضائے ایمان و ادب تو یہ تھا۔

بالفرض اگر صدیق سے گناہ ہوا تو وہ نیکی بن چکا، ورنہ ائمہ ان کی تعریف نہ کرتے

اور اگر بحکم ؎ چشم بد اندیش کہ برکندہ باد ؛ عیب نماید ہنرش در نظر یہ بات ان کو دشوار ہی تھی تو یہ تو شیعہ بھی خواہ مخواہ مانیں ہی گے کہ قیامت کو بعض گنہگاروں کے اعمال بد کو حسنہ بنا دیں گے کیونکہ کلام اللہ موجود ہے۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ" یعنی مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کئے تو ان کے گناہوں کو بھی خدا نیکیاں بنا دے گا فقط"۔ اور اگر خوردہ بینان مذہب شیعہ کو یہ خلجان ہو کہ اس آیت میں جن گناہوں کی نیکیاں بنانے کی طرف اشارہ ہے ظاہر میں وہی گناہ معلوم ہوتے ہیں جن کا سیاق میں ذکر ہے۔ اور ظاہر ایام کفر کے گناہ ہیں، سو اگر ابوبکر

صدیق کا کوئی گناہ نیکی بنے گا بھی تو وہی بنے گا جو ایام جاہلیت کے گناہوں میں کا ہوگا۔ ہمیں تو ایسی بہت سی باتوں میں کلام ہے جو بعد زمانۂ ایمان ان سے صادر ہوئیں۔ مثلاً غصبِ فدک کہ وہ بعد وفات سرور کائنات علیہ وعلے آلہ الصلوات والتسلیمات ان سے ظہور میں آیا تو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ ایسا شیوہ انہیں لوگوں کا ہے کہ جن کا دل شبہ میں پڑا ہوا ہے، اور اب تک درجہ یقین اور ایمان تک نہیں پہنچا، اگر ما سبق میں گناہان زمانہ کفر ہی کا ذکر ہو اور انھیں کی نسبت تبدیل کا یعنے نیکی بنا دینے کا اشارہ ہو تب بھی اتنی بات ثابت ہوگئی، کہ خدا کو گناہوں کا نیکی بنا دینا آتا ہے پھر جب کفر کے زمانہ کے گناہوں کو (کہ وہ نسبت گناہان ایام ایمان کے گناہوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں) خدا کو نیکی بنا دینا آتا ہو تو ایام ایمان کے گناہوں کا نیکی بنا دینا تو سہل ہی ہوگا پھر جس کی خدا اور ائمہ ہدیٰ تعریف فرمائیں اس کے ایمان اور بزرگی میں اسے ہی شک ہو سکتا ہے جس کو خدا اور ائمہ ہدیٰ کی بات میں شک ہو غرض جب ایمان اور صلاحیت اعمال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بشہادت خداوندی اور بگواہی ائمہ ہدیٰ ثابت ہوگئی تو اس بات میں کیوں تامل ہے کہ ان کے گناہ نیکیاں ہو جائیں۔

گناہ سے توبہ پر جنت میں داخلہ سب کو مسلّم ہے اور اگر یوں کہیئے کہ گناہوں کا نیکیاں بن جانا توبہ کے ساتھ معلق ہے ابوبکر صدیق کا ہے سے معلوم ہو کہ توبہ کرکے مرے ہیں تو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ اگر معلق ہو بھی تو گناہوں کے نیکیاں بنا دینے کا وعدہ معلق ہوگا کچھ امکان تو معلق نہیں پھر جب خداوند کریم اور ائمہ دین ان کی تعریف فرمائیں تو اگر ان سے یہ خطا ہوئی بھی تھی۔ تب بجز اس کے ان کی تعریف کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ان کی خطا کو بھی جناب باری تعالےٰ نے نیکی بنا دیا ہو گو انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر توبہ ہی پر تبدیل سیئات بحسنات موقوف ہے تو خداوند متین اور ائمہ دین کی تعریف خود اس بات کی گواہ ہے کہ وہ توبہ کرکے اس عالم سے تشریف لے گئے، نہیں تو وہ قابل تعریف تو کجا البتہ لائق ہجو اور مستوجب سزا تھے۔

ہاں اگر شیعہ یہ گرفت کریں کہ خداوند علیم نے تو تعریف پہلے کی تھی یہ خطا ان سے بعد میں سرزد ہوئی تو اس کا جواب ہمارے پاس بجز اس کے کچھ نہیں کہ البتہ شیعوں کا خدا

ایسا ہی ہوگا جیسے چار دن کے بعد کی بھی خبر نہ ہو ہمارا خدا عالم الغیب ہے ازل سے ابد تک سب اس کے پیش نظر ہے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حسب گمان بد شیعہ برے ہی ہوتے، تو خداوند کریم ہرگز تعریف نہ فرماتا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ ایک غلط بات کہہ کے آج شیعوں سے شرماتا۔ اگر خدا کی نہیں مانتے تو نعوذ باللہ ائمہ ہدیٰ تو بزعم شیعہ خدا سے بھی بڑھ کر ہیں، خدا کو تو بدا بھی واقع ہوا، ائمہ کو تو بدا بھی نہیں ہوتا پھر اس پر علم ماکان اور علم مایکون ان کو حاصل، ان کی تعریف کا تو بجز اس کے کچھ جواب ہی نہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے گناہ بھی نیکیاں ہی بن گئے ہوں۔

توبہ کا ثبوت بروایت شیعہ اور یہ بھی نہ سہی ہم اور جواب رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روایات شیعہ اس بات کی شاہد ہیں کہ ابوبکر صدیق گناہ غصب فدک سے تائب ہو کر مرے ہیں چنانچہ ان شاء اللہ تعالےٰ قریب ہی بحوالۂ روایات کتب شیعہ یہ مضمون مرقوم ہوگا کہ ابوبکر صدیق نے گو فدک غصب کر لیا تھا، لیکن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کے حوالہ کر دیا اور نیز یہ بھی مرقوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ ان سے راضی ہوگئیں اب فرمایئے توبہ اور کسے کہتے ہیں اسی کا نام توبہ ہے۔

نیکیاں زیادہ ہونے پر جنت میں داخلہ متفق علیہ ہے اور اگر اس پر بھی شیعوں کے دل کا کفر نہ جائے تو اس کی اور بھی تدبیر ہے آخر شیعوں کے نزدیک بھی اتنی بات مسلّم تھی کہ قیامت کو حساب کتاب کے بعد جس کے اچھے عمل زیادہ نکلیں گے وہ جنت میں جائے گا جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں۔ اور اگر بنظر دوراندیشی ہی تو اس عقدہ میں کچھ شک بھی آجائے تو لیجئے یہ کلام اللہ کی آیت موجود ہے اور کلام اللہ میں سے عم ہی کے سپارہ کی، اس میں سے بھی اول ہی کی سورتوں میں کی، جو شیعوں کے یاد بھی نہیں مثل یاد تو ضرور ہی ہوں گی وہ آیت یہ ہے۔ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ یعنی جنکے عمل تول میں بھاری ہوں گے تو وہ اچھے، اور جن کے عمل ہلکے نکلیں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تجھکو کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ ایک آگ ہے گرم دھکتی فقط۔ اب کچھ تکرار کی بات باقی نہیں۔

سو اس صورت میں خداوند علیم اور ائمہ تعلیم جس کی تعریف فرمائیں وہ اگر خطاوار بھی تھا، تب معلوم ہوا کہ اس کے اچھے عمل زیادہ تھے پھر ان خطاؤں کے باعث ان سے رنجیدہ رہنا ویسا ہی ہے جیسا کسی نے کہا ہے "مدعی سست گواہ چست" یا عربی کی مثل ہے رَضِیَ الْخَصْمَانِ وَمَا رَضِیَ الْقَاضِیْ، یعنی مدعی مدعا علیہ تو راضی ہو گئے پر قاضی جی راضی نہ ہوئے خداوند کریم اور ائمہ دین تو راضی ہو جائیں پر شیعی راضی نہ ہوں۔

مہاجرین اولین سے جنت عدن مغفرت رضا کا وعدہ ہو چکا۔ اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا

اور اس پر بھی خاک ڈالو ابوبکر صدیق کے اچھے عملوں کا زیادہ ہونا بھی شیعوں کو ناگوار ہو، تو اس میں تو کچھ دھوکا ہی نہیں کہ وہ مہاجرین اولین اور مصاحبان رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ سو مہاجرین اولین اور ہمراہیانِ رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کا حال آیت والسابقون الاولون من المھاجرین والانصار اور آیت محمد رسول اللہ الایۃ کی شرح کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی اور اللہ تعالے نے ان کے لئے جنات عدن تیار کر رکھی ہیں اور اللہ تعالے نے ان سے وعدہ مغفرتِ گناہان اور وعدہ اجر عظیم کا کر لیا ہے۔ سو اگر بالفرض والتقدیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گناہ ہی زیادہ تھے یا فرض کرو کہ وہ سراپا گناہ اور ہمہ تن ظلم و جفا ہی تھے تب اس صورت میں جائے طعن باقی نہ رہی کیونکہ خداوند کریم اپنے وعدہ کا سچا اور بات کا پکا ہے، مثلِ حضرات شیعہ نہیں، جن کے دین کی باتوں میں بھی جھل ہے، دنیا کا تو کیا ذکر؟ سو ہم کو یقین ہے کہ خدا ان سے راضی ہے گو شیعہ ناراض ہوں، وہ ناراض ہوں گے خدا کو ناراض اور اہل بیت کو رنجیدہ کرینگے، کیونکہ اہل بیت تو ایسے نہیں کہ گوشۂ عنایت خداوندی کسی طرف کو دیکھیں پھر اس طرف کو نہ جھکیں بلکہ ان کی سعادتِ ازلی اور ہدایت لم یزلی سے یوں یقین کامل ہے، کہ اگر بفرض محال حسب مقالہ شیعہ ابوبکر صدیقؓ نے کچھ ان پر ظلم اور تعدی بھی کی ہو تب اپنے حقوق سے درگذریں اور بلحاظ رضا خداوندی حسب مثل مشہور، ہر عیب کہ سلطان بہ پسند د ہنر است، اپنے اوپر جفا کو وفا سمجھیں، نقل مشہور ہے، جدھر رب ادھر سب، اور اہل بیت اپنے حقوق سے آپ کیا درگذرینگے اور کیا راضی ہوں گے خداوند کریم جب راضی ہو کا سب کو راضی کر دے گا آخر کلام اللہ میں موجو

ہے وَنَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِھِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِیْنَ یعنی خداوند کریم بعضے جنتیوں کے حق میں فرماتے ہیں، "اور نکال ڈالے ہم نے جو کچھ ان کے دلوں میں رنج تھے، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے ہوئے" فقط۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ بعضے جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے باہم دنیا میں رنج و عداوتیں تھیں، پر جب خداوند کریم ان کو جنت میں داخل کرے گا ان رنجوں کو ان کے دلوں سے نکال ڈالے گا۔ سو اسی طرح یہاں بھی تصور فرما لینا چاہیئے۔ آخر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بشہادت کلام خدا اور کلامِ ائمہ ہدیٰ شیعوں کو جبراً اکراہاً تسلیم کرنا تو پڑا ہے، اور اہلبیت کے جنتی ہونے کا پہلے ہی سنیوں، شیعوں کو باتفاق یقین ہے اور اگر شیعہ سنیوں کی ضد میں ان کے جنتی ہونے میں کلام کرنے لگیں تو ان کی ہٹ دھرمی سے کچھ بعید بھی نہیں غرض جب دونوں فریق جنتی ہوئے تو ان کے کینے اور عداوتیں خداوند کریم آپ نکال دے گا۔

حضرت کلیم کا بچھڑے کو جلانا مبنی برحکمت تھا

اور اگر بایں ہمہ فہمائش بلیغ متبعان عبد اللہ بن سبا کو کچھ اثر نہ ہو۔ ۔ ۔ اور جیسے سامری کے ایک کرشمے پر بنی اسرائیل بہک گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہزار معجزوں پر بھی ڈھیٹ راہ پر نہ آئے اس دغا باز کے سخن بے سروپا پر ایسے جمے کہ میرے ان دلائل محکم اور مستحکم سے بھی اکھڑ جائیں تو جیسے حضرت موسےٰ علیہ السلام نے دستاویز ضلالت آمیز سامری کو باطل کر دیا یعنی اس سونے کے بچھڑے کو جو برکت خاکپائے حضرت جبرئیل علیہ السلام بولنے لگا تھا اور بنی اسرائیل اسے پوجنے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا، تاکہ ہر کس و ناکس سمجھ جائے کہ اگر یہ معبود بحق اور خدائے برحق ہوتا تو بندوں کے ہاتھوں سے یوں کیوں ذلیل ہوتا۔ اسی طرح میں بھی حیلہ ہائے حجت نمائے مولوی عمار علی صاحب کو کہ ہو بہو طرز و انداز میں عبد اللہ بن سبا ثانی اور دغا ہائے تازہ کے بانی مبانی ہیں بلکہ ان کی حجتیں اسی سرگروہ شقاوت پژدہ کی تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اسی کی پرانی خرافاتیں ہیں۔ سو ان دلائل قاطعہ سے قطع نظر کر کے مولوی صاحب کے ہاتھ، کاٹے دیتا ہوں تاکہ ہر کوئی جان جائے کہ سخنان پریشان مولوی صاحب اگر قابل پذیرائی اہل انصاف ہوتے۔ تو یوں مثل گوزشتر ہوا کے

سہارے نہ اڑ جاتے۔

غصب فدک پر آیۃ ذالقربیٰ سے استدلال سو گوش گذاران مولوی صاحب کو یہ بات یاد رہے کہ دربارہ غصب فدک جو کچھ مولوی صاحب نے مکاری کر کے زیب رقم فرمایا ہے۔ بزعم خود بہت ہی چالاکی کی تھی۔ لیکن جن کا خدا حافظ ہو ان کو ایسے دھوکوں سے کیا اندیشہ۔

چہ باک از موج بحر آں راکہ باشد نوح کشتیبان

ہاں ایسے عقل کے اندھے جیسے (گستاخی معاف) ملازمان مولوی صاحب ہیں۔ البتہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، مولوی صاحب اپنے نامہ موسومہ میر نادر علی صاحب میں کہ مثل نامہ سیاہ مولوی صاحب کے خوبی کا اس میں نام و نشان نہیں یوں رقم فرماتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر درمنثور میں اور شیخ علی متقی نے کنز العمال میں اور ابو یعلی موصلی نے اپنی مسند میں اور صاحب معارج النبوت نے اور سوا اس کے اور علمائے اہلسنت نے روایت کی ہے کہ جس وقت نازل ہوئی آیت وَاٰتِ ذَالْقُرْبیٰ حَقَّہٗ یعنی دے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبوں کو حق ان کا۔ تو اس وقت پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل سے پوچھا کہ قریب میرے کون ہیں؟ اور حق ان کا کیا ہے؟ جبرئیل نے عرض کی کہ قریب تمہارے فاطمہ ہیں اور حق اس کا فدک ہے۔ **فدک اس کو دے دو، اس وقت** رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فدک دیدیا پس تحریر سے انکی ثابت ہوا کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فدک دیا۔ اور فاطمہ مالک فدک کی تھی جب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی اور ابو بکر خلیفہ ہوئے، تو فدک کو فاطمہ سے چھین لیا اور ان کا قبضہ اٹھا دیا۔ اب فرمایئے کہ یہ غصب نہیں تو کیا ہے۔ انتہی۔ یہانتک مولوی صاحب کی عبارت تھی۔

غصب فدک کے بہتان کا تاریخی جائزہ اب ہماری سنئے کہ یہ اعتراض غصب فدک ایک پرانی بات ہے کچھ ملازمان مولوی صاحب ہی کو نہیں سوجھی، سارے شیعہ اسے ہی گاتے رہے ہیں القصہ مولوی صاحب وہی پرانی قے چاٹتے ہیں جو اگلے اگلتے چلے آئے ہیں پر افسوس یہ ہے کہ ابتدا میں کسی نے یہ دروغ بے فروغ اگر زبان سے نکالا تھا تو جب تک علماء اہل سنت کو اس کی خبر بھی نہ تھی، نکالا تھا لیکن جس وقت علماء اہلسنت نے جوابات دندان شکن سی شیعوں کے

دانت توڑ دیئے تب تو غیرت کی بات یہ تھی کہ اس بات کو منہ پر بھی نہ لاتے اگر صواقع اور صواعق کمیاب تھے تو بفضلہ تعالےٰ تحفہ اثنا عشریہ تصنیف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سرہٗ، اور منتہی الکلام وغیرہ مصنفات مناظر بے بدل مولوی حیدر علی سلمہٗ ربہٗ کہ علماء لکھنؤ بھی ان کے سامنے بول گئے تھے کثرت سے موجود ہیں ان میں اس دروغ بیفروغ کے جو کچھ جواب لکھے ہیں پہلے ان کو رد کرنا تھا جب کہیں اس بات کو زبان پر لانا تھا اگر خدا سے شرم نہ تھی کیا غیرت دنیاوی کو بھی طاق میں اٹھا دھرا، کیسا ہی کوئی نامعقول کیوں نہ ہو، پر اپنی بات کا جواب معقول سن کر ایک دفعہ تو چپ ہی ہو رہا کرتا ہے۔

ہاں نامرد بیحیا کا یہ کام ہے کہ اگر دلاوران شجاعت نژاد کسی ناسزا کی سزا میں کچھ سر زنش کرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں سے معقول کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہاتھا پائی سے مارا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آتا اور اپنی وہی مرغی کی ایک ٹانگ گائے جایا کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے مرد کے ہاتھ چلیں نامرد کی زبان، سو یہی وطیرہ حضرات شیعہ کا ہے کہ اہل سنت کے جوابات دندان شکن سنکر بھی منہ بند نہیں کرتے، اور وہی بکے جاتے ہیں اس موقع میں مناسب تو یوں تھا کہ ہم بھی جوابات سابقہ پر اکتفا کرتے لیکن چونکہ مولوی عمار علی صاحب نے اپنے عندیہ میں میدان خالی دیکھ کر یہ ہاتھ پاؤں ہلائے ہیں۔ تو ہم کو بھی لازم ہے کہ ان کو ان کی حقیقت دکھلا دیجئے۔

یہ آیت مکیہ ہے مکہ میں فدک کہاں تھا؟ سو عرض یہ ہے کہ ملازمان مولوی صاحب کو تو کلام اللہ نہ یاد ہے نہ یاد ہو، اگر یقین نہ ہو تو کوئی صاحب بھی پوچھ دیکھیں کہ یہ آیت کون سے سیپارہ میں ہے؟ بالجملہ اگر مولوی صاحب اور ہم مذہبان مولوی صاحب کو کلام اللہ یاد ہوتا تو اس آیت کو فدک کے باب میں زبان پر بھی نہ لاتے، بلکہ اگر ہم بھی کہتے جب بھی نہ مانتے، وجہ اس سخن کی یہ ہے کہ یہ آیت کل دو جگہ کلام اللہ میں آئی ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، دوسری سورہ روم میں، سو دونوں کی دونوں خیر سے مکہ میں نازل ہوئیں تھیں۔ علماء تو اس بات کو جانتے ہی ہیں۔ پر عوام کی تفہیم اور تسکین کے لیے اتنا اشارہ بہت ہے کہ دنیا میں ہزاروں کلام اللہ موجود ہیں

۳۱ کھولکر دیکھ لیں ان دونوں سورتوں کے اول میں مکیہ لکھا ہوا ہوگا، اور اگر کوئی الٹی کا سمجھن ہار مصاحف

کا بایں وجہ اعتبار نہ کرے، کہ کلام اللہ تو سنیوں ہی کی سی کہے گا تو لیجئے شیعوں ہی کی گواہی موجود ہے۔ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے سورۃ الروم مکیۃ الا قولہ فسبحان اللہ الخ یعنے علامہ طبرسی جس کے حوالہ سے یہ مذکور ہوگا کہ جب آیت فآت ذا القربٰے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فدک حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا وہی تفسیر مجمع البیان میں رقم فرماتے ہیں کہ سورۂ روم سوا آیت فسبحان اللہ الخ سب مکی ہے اب کوئی مولوی صاحب سے پوچھے کہ مکہ میں فدک کہاں تھا؟ فدک تو ہجرت سے چھٹے ساتویں سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آیا تھا۔ اس صورت میں تو سنیوں کی معتبر کتابوں میں بھی اگر تصریح یوں لکھ دیتے۔ کہ یہ آیت بعد خیبر کی فتح کے نازل ہوئی ہے تب بھی اعتبار نہ کرنا تھا۔

کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا مراد ہے؟

بالجملہ پیشوایان مذہب شیعہ نے بات تو بنائی تھی۔ لیکن کیا کریں کلیہ ہے۔ دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔ تقدیر سے چوک گئے۔ باقی کسی کو یہ شبہ ہو۔ کہ مکی اسے بھی کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ یا نواح مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہو۔ خواہ قبل ہجرت ہو یا بعد ہجرت، سو ہو سکتا ہے کہ غزوہ فتح میں مثلاً یہ سورتیں نازل ہوئی ہوں اور اس سبب ان کو مکی کہتے ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ الخ اور سورہ روم کی پہلی آیت کی شانِ نزول خود اس بات پر شاہد ہے کہ ان کا نزول ہجرت سے پیشتر ہے۔

علاوہ بریں مولوی دلدار علی صاحب رسالہ ضیغمیہ میں سنیوں کے اس استدلال پر کہ آیت اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ حرمت متعہ پر دلالت کرتی ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے سو یہ اعتراض جب ہی وارد ہو سکتا ہے کہ مکی مدنی سے یہی مشہور اصطلاح مراد ہو یعنی مکی وہ ہے جو قبل ہجرت نازل ہوئی ہو اور مدنی وہ جو بعد ہجرت نازل ہوئی ہو، اور مولوی دلدار علی صاحب اس باب میں ہمارے موافق ہوں مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں آیت وآت ذا القربٰی کی یہ تفسیر جو مولوی عمار علی صاحب اور سوا ان کے اور شیعہ کرتے ہیں سراسر غلط ہوگی

ذا القربٰی سے سیدہ در حقہ سے فدک مراد ہو تو کئی محذور لازم آئیں گے۔ پہلا محذور خویش پُدری

ماسوا اس کے اہل فہم و دانش سے یہ التماس ہے کہ خدارا میری رو رعایت نہ کریں پر انصاف

کرنا بھی تو کچھ اہل بیت پر ظلم کے برابر نہیں جو اتنا پرہیز ہے کیا ذالقربیٰ کے یہی معنے ہیں اور حقہ کا یہی ترجمہ ہے جو اس روایت میں مذکور ہے، بھلا سنیوں کو اول تو پاس ایمان، دوسرے یہ خبر بھی ہے کہ یہ روایت ساختہ و پرداختہ حضرات شیعہ ہے، پر جیسے یہودی نصرانی، ہندو عربی خوان کہ نہ ان کو یہ خبر ہے، کہ یہ خبر سراسر غلط ہے، اور نہ کچھ پاس عزت و عظمت رسول اکرم نبی محترم صلے اللہ علیہ وسلم، اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے سو بدولت عنایات حضرات شیعہ بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ دشمنان رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو بہ تہمت دنیا طلبی اور حیلہ پردازی متہم کر کے یوں کہیں گے کہ یہ جبرئیل کا حوالہ فقط اس لئے گھڑ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کے دینے میں کوئی تکرار نہ کرے۔ ورنہ کلام اللہ کے الفاظ سے اس تفسیر کو کچھ مساس نہیں، ذالقربیٰ ایک لفظ کلی ہے بمعنی قرابت، فقط حضرت فاطمہ میں کیوں کر منحصر ہو جائے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قرابتی کچھ ایک دو نہ تھے ہزاروں تھے خاص کر حضرت زینب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو بہ شہادت قرآن اور اصح الکتب شیعہ کافی کلینی قرابت میں حضرت فاطمہ ہی کے برابر تھیں، کچھ کم نہ تھیں، چنانچہ سند اس کی اوپر مرقوم ہو چکی، اور اگر یوں کہئے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں تو یہ تو غلط کیونکہ یہ مکی ہے اور ان دونوں کا انتقال مدینہ میں ہوا۔

دوسرا بلاغت کی مخالفت تیسرا بقیہ اقربا پر ظلم

اور سلمنا حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرات حسنین اور حضرت جعفر وغیرہ تو فدک کے قبضہ میں آنے کے وقت موجود تھے۔ اور یہ سب باتفاق عالم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قرابتی ہیں، تو اس صورت میں حضرت فاطمہ کو حق کیا دیا۔ اور سب قرابتیوں کا حق تلف کر دیا، اور اگر ہمارا یقین نہ ہو تو ان معنوں کی تصدیق کے لئے ہم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مولوی عمار علی صاحب کو ہی شاہد لاتے ہیں، دیکھ لیجئے وہ خود اس آیت کے معنے یہی لکھتے ہیں کہ دے تو لے محمد قریبوں کو حق ان کا، دوسرے حقہ کی تفسیر میں فدک کا کہنا بعینہ ایسا ہی مہمل جواب ہے، جیسا کسی نے اپنا نام ہجوں سے بتلایا تھا، ع ف زبر عف غ ف زبر غف، میرا نام محمد یوسف۔ بھلا ایسی پوچ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنے میں انہیں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں کسی نے کچھ کہہ لیا تو کہہ لیا، پر خدا اور

رسول خدا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کیا کہے گا، شاید ان افترا پردازیوں سے یہ غرض ہو کہ ہم سے اگر خدا اور رسول کے موافق نہیں ہوا جاتا، آؤ جتنا ہو سکے خدا اور رسول ہی کو اپنے موافق کر لیں۔ سبحان اللہ ان تیرہ درُوں سے یہ تو نہ ہوا کہ اعجاز کلام اللہ اور شرف رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو آب و تاب دیں اور ظاہر کر دکھلائیں، پر ایسی باتیں کر کے دونوں کو چھپالیا بلکہ ایسی باتیں تراشیں کہ جن کو سنکر ناواقفوں کے تو ایک دفعہ کان کھڑے ہو جائیں، اور جی میں متردد ہوں کہ یہ بلاغت اور فصاحت کلام اللہ کا شہرہ اسی خوبی پر ہے تو بلاغت اور فصاحت معلوم، اس چیستان لاحل بولنے سے کیا حاصل تھا اگر وآتِ فاطمہ فدک فرما دیتے تو لفظ مختصر اور معنی واضح ہو جاتے۔

چوتھا آنحضرت کی طرف ادائیگی حقوق میں کوتاہی کی نسبت ہاں اگر اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بیع یا ہبہ وغیرہ سے حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت فدک میں ثابت ہو جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دینے میں کسی وجہ سے نعوذ باللہ کچھ تقصیر ہوئی ہوتی تو البتہ اس صورت فدک کی جگہ حقہٗ کہنے کا موقع بھی تھا، کیونکہ اگر کوئی کسی کی کوئی چیز دبا لیتا ہے تو اس کو کہا کرتے ہیں کہ فلانے کا حق دے دو۔ القصہ جہاں مخاطب کے پاس کوئی کسی کی خاص چیز دبی ہوتی ہے یا کسی کے ذمہ کوئی حق معلوم ہوتا ہے تو وہاں البتہ اس چیز کا یا اس حق کا لفظ حقہٗ سے تعبیر کرنا بجائے خود ہوتا ہے، چنانچہ اہلِ فہم پر پوشیدہ نہیں، کم فہم نہ سمجھیں تو بلا سے نہ سمجھیں۔

سو اگر مولوی صاحب کا کہنا سچ بھی ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ احتمال محال ہو بھی سکے تب بھی کام نہیں چلتا۔ کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ فدک اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ کی ملک میں ہو، حالانکہ یہ بات خلاف مزعوم شیعہ ہے۔ کیونکہ بیع کے انعقاد سے تو شیعوں کو بھی انکار ہے۔ باقی رہا ہبہ، سو وہ ان کے اعتقاد کے موافق بعد نزول اس آیت ہی کے واقع ہوا، اس لئے کہ وہ اس آیت ہی کو قبالۂ ہبہ سمجھتے ہیں، چنانچہ اس آیت مذکورہ سے صاف ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ شے موہوب قبل از ہبہ واہب ہی کے ملک میں ہوتی ہے، تو پھر فدک کو حقہٗ کی تفسیر میں کہنا روایت کے

بنانے والے کی کمال خوش فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، عیب کرنے کو ہنر چاہیئے۔

پانچواں بنی ہاشم کے لئے خمس حرام اور اگر بپاس خاطر حضرات شیعہ مولوی صاحب کی بات کے بنانے کے لئے موافق نقل مشہور ”دروغ را جزا باشد دروغ“، ہم بھی یوں کہنے لگیں کہ ہاں سچ ہی یہ روایت سچی ہے اور ذالقربیٰ سے مراد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حقہٗ کے معنے فدک ہی ہیں تو مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیں گے کہ اس صورت میں جہاں کہیں کلام اللہ میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اقربا کا ذکر بلفظ ذالقربیٰ ہوگا تو لازم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی مراد ہوں اور جب یہ قرار پایا تو بعد حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے کسی اور کو بنی ہاشم میں سے خمس کا حصہ لینا درست نہو اور وجہ اس نادرستی کی (درصورت مرقومہ) یہ ہے کہ آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کا ترجمہ یہ ہے ”اور جان رکھو کہ جو کچھ تم غنیمت لاؤ کچھ چیز، سو اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور قرابت والے کے واسطے اور محتاج کے لئے اور مسافر کے لئے فقط“، اب خمس کی یہ تقسیم جو اس آیت میں مذکور ہے ہماری تمہاری مقرر کی ہوئی نہیں خدا کی مقرر کی ہوئی ہے اس میں کمی وبیشی مسلمانوں سے تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر جب کہ ذالقربیٰ حضرت فاطمہ ٹھہریں تو بعد ان کے اور کسی کو اولاد میں سے یا بنی ہاشم میں سے ان کے خمس میں سے لینا درست نہو، حالانکہ مذہب شیعہ اس باب میں یہ ہے کہ نصف خمس امام وقت کا اور نصف باقی یتامیٰ اور مساکین اور ابن السبیل کے لئے، اور ظاہر ہے کہ امام شیعوں کے نزدیک سوا دوازدہ ائمہ کے اور کوئی نہیں۔ سو وہ سب کے سب باتفاق شیعہ معصوم ہیں، سو شیعوں کی تقسیم کے موافق جو کچھ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت میں خمس میں سے لیا، یا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ لینگے بفتوائے روایت مرقومہ بالا ظلم اور حرام ہوگا اور اگر کوئی شیعہ مذہب جودت طبع کو کام فرما کر یوں کہے کہ ہر چند ذالقربیٰ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ اور خمس اصل میں انہیں کے لئے ہے لیکن ائمہ کو بوجہ میراث خمس کا لینا جائز ہے تو میری یہ عرض

ہے کہ اول تو میراث بقدر حصہ وارث چاہیئے، سو کیا بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اماموں کے وقت میں سوائے اماموں کے سادات میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا اور کوئی وارث ہی نہ تھا؟ جو نصف خمس سارے کا سارا امام کے لئے تجویز ہوا۔

چھٹا، بعد وفاتِ سیدہ جو غنائم آئیں وہ ان کی ملک نہ تھیں۔ تو حقہٗ کیوں فرمایا؟ اور سلمنا کہ حضرت زہرا کے مال کی وراثت انہیں اشخاص معدودہ کے لئے ہو لیکن جو چیز کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غنیمت آئی یا آئے گی وہ حضرت فاطمہ کی ملک ہی میں نہیں، مالک ہونے کے لئے حیات ضروری ہے تو اس صورت میں اول تو خداوند علیم حکیم کے اس فرمانے کے کیا معنے ہوں؟ کہ جو کچھ غنیمت لاؤ اس کا خمس ذالقربی یعنی حضرت فاطمہ اور یتامیٰ وغیرہ کے لئے ہے۔؟

ساتواں، مالِ غنیمت ائمہ کے لئے حرام ورنہ دیگر مستحقین کے لئے بھی جائز دوسرے جب وہ حضرت فاطمہؓ کی ملک ہی نہ ہوئی تو بوجہ وراثت اماموں نے کیوں لیا، اور یہ بھی نہ سہی خمس وراثت میں نہ آیا ہو بلکہ استحقاق خمس وراثت میں آیا ہو۔ لیکن یہ کیا انصاف ہے کہ ذالقربی یعنی حضرت فاطمہ کا استحقاق خمس تو بطور وراثت اولاد میں منتقل ہو جائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے تیموں اور مساکین اور مسافروں کا استحقاق خمس بطور وراثت ان کی اولاد میں منتقل نہ ہو، اگر یہی توریث ہے تو اس زمانے کے یتامیٰ اور مساکین اور ابناء سبیل کی اولاد بھی ہر چہ بادا باد یتیم ہوں کہ نہ ہوں، اور مساکین ہوں کہ غنی، مسافر ہوں یا مقیم مصرف خمس ہوں اور اماموں کے زمانہ کے یتیم اور مسکین اور ابناء سبیل کو اس میں سے دینا درست نہ ہو وہ یوں ہی خاک پھانکتے پھریں، معہذا جو سخن شناس ہیں وہ اس لفظ فآت ذالقربی حقہٗ سے یوں سمجھتے ہیں کہ جناب باری کا حضرت رسالت پناہی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ارشاد ہوا ہے کہ ذالقربی کا حق پورا پورا ادا کر دو،

آٹھواں، سیدہ کیلئے صرف فدک اور اغیار کے لئے سب کچھ سو اگر ذالقربی حضرت فاطمہ ہو ہیں۔ اور ان کا حق فدک ٹھیرا، تو اس صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تو ادا ہو گئے، باقی جو کچھ بچا اور جو کچھ

سوا اس کے بطور نئی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آیا، یا اس کے بعد غنیمتوں میں سے خمس میں آیا یا اس سے پہلے غنیمت میں سے خمس میں آیا تھا، یا سوا اس کے جو کچھ اس آیت کا مفہوم قرار دیجئے، وہ سب مساکین اور ابن سبیل کا رہا، اور ظاہر ہے کہ فدک اس قدر مجموعہ کے ساتھ ہزارویں حصہ کی نسبت بھی نہیں رکھتا، سو موافق گفتار شیعان "قدر شناسی عالم بالا معلوم"، اس تقسیم میں خدا سے بھی بڑی افراط تفریط ہوئی، کہ حضرت فاطمہ سیدۃ النساء جگر گوشۂ سید المرسلین صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین کے لئے تو فقط فدک اور باقی ساری دولت اغیار کے لئے اگر دنیا سے بچانا تھا تو اس قدر کی بھی کچھ ضرورت نہ تھی قوت لایموت تو فدک سے پہلے بھی ملے تھا نعوذ باللہ منہا خداوند کریم عادل کجا اور یہ تقسیم ناموزوں کجا، یہ بعینہ ایسی ہی تقسیم ہے جیسا کہ مشہور ہے "از صحن خانہ تا بلب بام از آن من وز بام کاخ تا بہ ثریا از آن تو۔"

نواں، خدا پر بے انصافی کا الزام سنیوں کے طور پر تو اس تقسیم کے جواز کی ایک صورت بھی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی شان وہی ہے جیسے کلام اللہ میں ہے ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ۔ لیکن شیعہ تو خداوند احکم الحاکمین کے ذمہ عدل بمعنی معلوم ایسے امور میں واجب بتلاتے ہیں۔ سو بڑے حیف کی بات ہے کہ نعوذ باللہ خدا ہو کر ایسی ناانصافی کہ زیادہ استحقاق والوں کو کم، اور کم استحقاق والوں کو زیادہ۔ اور اگر کوئی صاحب یوں ارشاد فرمائیں کہ یہ روایت سنیوں کی کتابوں کے حوالوں سے مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے، اگر غلط ہو تو شیعوں کو کیا نقصان، سنیوں کے الزام کے لئے اتنا بھی بہت ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کا جواب ہم سے سنئے۔ اول تو یہی غلط کہ روایت شیعوں کی نہیں، کیونکہ مجمع البیان طبرسی میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق کے حوالہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدک عطا فرمایا اور اس کو ان کے سپرد کر دیا۔

اہل سنت کے یہاں روایت کے صدق وکذب کا معیار قرآن مجید ہے باقی رہا یہ سنیوں کی کتابوں میں یہ

روایت پائی جاتی ۔ تو اس کا جواب معقول ہم سے سنئے ۔ جناب من یہ روایت سراسر دروغ ساختہ پرداختہ حضرات شیعہ ہے چنانچہ تقریر ماسبق میں بخوبی اس بات کی تحقیق مندرج ہوچکی ہے ۔ لیکن مزید تسکین کے لئے اتنا اور بھی سنئے کہ سنّی اوّل تو ایسے بے عقل نہیں، کہ جھوٹ سچ کی تمیز ان کو نہ آتی ہو، تسپر کلام اللہ کے حرف حرف کے اکثر سنّی حافظ اور محافظ، ان کو ہر آیت کے سیاق سباق پر نظر رہتی ہے اور ایک مضمون کی جتنی آیتیں ہوتی ہیں ان سب کی خبر رکھتے ہیں جیسے شیعہ بسبب اپنی تیرہ درونی اور کج عقلی اور کلام اللہ کے محفوظ نہ ہونے اور موقع استدلال کے سیاق سباق کے یاد نہ ہونے کے باعث صحیح مطلب کی جگہ غلط سمجھ جاتے ہیں سنی غلط نہیں سمجھ سکتے ۔ کیونکہ وہ بفضلہ تعالےٰ ان عیوب سے پاک ہیں، بلکہ جیسے کسوٹی پر چاندی سونے کو لگاکر کھرا کھوٹا پرکھ لیتے ہیں سنی روایات کو کلام اللہ پر مطابق کر کے صحیح ضعیف کو دریافت کرلیتے ہیں، سو وہ کیونکر ایسی روایات بے سند کو کہ قطع نظر بے سند ہونے کے اس آیت کا سیاق اور سباق بلکہ خود اس روایت کے لفظ اور معنے اس کے غلط ہونے کے گواہ ہوں ۔ اپنی کتب میں درج کریں، یہ سب مقتدایان شیعہ کی چالاکی ہے تاکہ عوام اہلسنت کو اس تلبیس ابلیس سے جادہ مستقیم سے برطرف کردیں ۔

روایت فدک آیت کے سیاق سباق کی مخالف ہے اوّل سیاق سباق آیت کی مخالفت تفسیر مذکور سے گوش گذار اہل انصاف ہے خدارا غور سے سنیں، میں نہیں کہتا کہ میری رو رعایت کریں، ہاں البتہ انصاف کا خواہاں ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں دوسرے رکوع وَقَضٰی رَبُّکَ سے لے کر مابعد تک آیت وَآتِ ذَالْقُرْبٰی حَقَّہٗ کو ملاحظہ فرما کر دیکھیں کہ حروفِ خطاب سے مقصود فقط نفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا تمام امت؟ سو اہل فہم جانتے ہیں کہ مقصود خطاب سے تمام امت کا خطاب ہے ۔ کیونکہ لَا تَعْبُدُوْا اور رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نُفُوْسِکُمْ الخ اور لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ وغیرہ میں تو ضمائر جمع ہی کے ہیں ۔ باقی رہا اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ وَآتِ ذَالْقُرْبٰی وغیرہ میں ہرچند بظاہر بوجہ وحدت خطاب اور بقرینہ وَقَضٰی رَبُّکَ جس میں ظاہراً خطاب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب معلوم ہوتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وَآتِ ذَالْقُرْبٰی وغیرہ میں خطاب خاص رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف ہے

مگر نظر بعموم حکم و لحاظ قرینہ لَا تَعْبُدُوْا وغیرہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہر شخص کے لئے ہے اور اس کا مخاطب ہر عام و خاص ہے، اس میں اور لَا تَعْبُدُوْا میں اگر فرق ہے تو یہی ہے کہ وہاں اعنی لَا تَعْبُدُوْا وغیرہ میں مخاطب متعدد، پر خطاب ایک، اور یہاں دونوں متعدد ہیں، جتنے مخاطب، اتنے ہی خطاب ۔

رہی یہ بات کہ بقرینہ وَقَضٰی رَبُّکَ خطاب بجانب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام وعلیٰ آلہ الکرام معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، کہ جملہ وَقَضٰی رَبُّکَ اس امر کے لئے جب ہی قرینہ ہوسکتا ہے کہ جملہ وَآتِ ذَالْقُرْبٰی وغیرہ اس پر معطوف ہوں، سو اس بات کو اہل معانی و بیان سے دریافت کرنا چاہیئے کہ انشاء کا عطف خبر پر اور ماضی کا عطف امر پر درست ہے کہ نہیں؟ حق یہی ہے کہ جملہ وَآتِ ذَالْقُرْبٰی اگر معطوف ہے تو لَا تَعْبُدُوْا پر معطوف ہے اور اگر یوں کہیئے کہ وَقَضٰی رَبُّکَ اگرچہ بظاہر خبر ہے پر حقیقت میں بمعنی امر ہے قرینہ لَا تَعْبُدُوْا موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی لَا تَعْبُدُوْا کا قرینہ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ اگر یہ جملہ خبر بمعنی امر ہے تو خطاب بھی عام ہے ۔

ہاں یہ بات اس صورت میں قابل استفسار ہے کہ جب دونوں جگہ مخاطب تمام امت ہی تھی تو نظم و نسق عبارت یوں مختلف کیوں ہوا؟ یا دونوں جگہ ضمیر جمع ہوتی؟ یا دونوں جگہ ضمیر واحد آتی؟ سو وجہ اس تغیر و تبدیل کی بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی حکم احکام متعددہ میں سے جو ایک ساتھ صادر فرمائے جائیں، بہ نسبت اور احکام کے زیادہ عظیم الشان ہوتا ہے یا بہ نسبت کسی خاص حکم کے مخاطبوں کی طرف سے تقاعد اور تکاسل کا گمان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں حکام والاشان بنظر مزید تاکید ہر ہر فرد بشر کی طرف خطاب کر کے حکم کیا کرتے ہیں سو یہاں بھی باین لحاظ کہ شرک کی برائی اور بر والدین کی بھلائی ہر عاقل کی عقل میں خود بخود جمی ہوئی ہے اس کی ضرورت نہ دیکھی کہ تہدید منع فرمائیں اور بتاکید راہ پر لائیں فقط تقدیم ذکر پر کہ یہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے ۔ اکتفا فرمایا ۔

ہاں اداء حقوق ذوی القربیٰ علیٰ ہذا القیاس بلحاظ صرف بیجا میں، اکثر بشر قاصر اور غافل نظر آئے، مناسب مقام یہ ہوا کہ زیادہ تر اہتمام کیا جائے ۔ علاوہ بریں امر نہی درباره توحید

وشرکت سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ خالق سے کیونکر معاملہ رکھنا چاہیئے، ادھر اوامر ادائے حقوق اہلِ حقوق اور نواہی اسراف و تبذیر سے یہ غرض ہوتی ہے کہ خلائق کیساتھ کیونکر رہنا چاہیئے۔ غرض معاملات کی دو قسمیں ہیں ایک خالق کے ساتھ ایک مخلوق کے ساتھ، علیٰ ہذا القیاس اوامر و نواہی بھی منقسم بدو قسم ہیں چونکہ اصلاح معاملات منظور ہے اور ہر معاملہ دو ہی شخصوں سے تمام ہوتا ہے سو معاملہ خالق میں تو تمام مخلوق برابر ہیں ایک ہی خالق اور پھر سب کے ساتھ ایک ہی نسبت اس لئے اس کو تو ایک ہی معاملہ تصور کیجیئے، اور معاملہ مخلوق میں ہر شخص کا حال جدا، کیونکہ اول تو ہر ایک کے اقربا جدا، پھر اقربا میں سے بھی ہر شخص سے جدا قرابت، اس لئے ہر قرابتی کے ساتھ ایک جدا ہی معاملہ ہوگا، جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو اب سنئے کہ اول صورت میں تو بلحاظ وحدت معاملہ ایک ہی خطاب مناسب ہے، اور صورت ثانی میں بنظرِ تعدّدِ معاملہ خطاب بھی جدا جدا چاہیئے۔

وآتِ ذی القربیٰ میں مخاطب خاص اور خطاب عام ہے

اور اگر اب بھی کسی کے دل سے خلجان نجائے تو پھر بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ یہ تعصب بیجا ہے مگر تاہم ہمارا مطلب کہیں نہ گیا اگر خطاب خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہوگا تب بھی صحیح یہ ہے کہ مخاطب ساری ہی امت رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ الخ کے معنی یہی ہیں اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ماں باپ میں سے ایک یا دونوں، تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان کو بات ادب کی الخ فقط۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر بعد چالیس برس کے کلام اللہ نازل ہونا شروع ہوا اور والدین آپ کے بچپن ہی میں گذر گئے تھے۔ پھر جو آپکو یہ حکم سنایا گیا تو بجز اس کے اور بھی کچھ معنے ہیں کہ امتیوں کو سنا سنا کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں، سو اسی طرح لفظ آتِ ذا القربیٰ کو سمجھنا چاہیئے۔ اور بیشتر اس قسم کے خطاب کہ سب بڑے کو منہ پر دھر لینا وہاں کہا کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے اس کام کا زیادہ تر اہتمام اور عوام کی طرف سے اس میں کسی طرح کا قاعدہ ظہور میں آیا ہو یا قاعدہ کا گمان ہو تو ایسے میں بڑے محبوبوں اور مقربوں اور افسروں کو منہ پر دھر کے کہا کرتے ہیں تاکہ سب سمجھ جائیں کہ جب

ایسے محبوب اور مقرب کو اس حکم کی یہ تاکیدیں ہیں تو ہمارا تو کیا ذکر ہے ہم کو بدرجہ اولیٰ اس حکم کی رعایت چاہیئے، بالجملہ اِمَّا یَبْلُغَنَّ کے قرینہ سے مثلِ آفتاب روشن ہے کہ گو مخاطب خاص ہے پر خطاب عام ہے چنانچہ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِیْرًا بھی فی الجملہ اس کی طرف اشارہ کرے ہے۔ کیونکہ تبذیر سے منع کرنا کچھ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں اور پھر یہ بات بھی قرینہ مذکورہ سے واضح ہوگئی کہ ماں باپ بھی ذا القربیٰ میں داخل ہیں، بلکہ اس آیت میں زیادہ تر لحاظ انہیں کی طرف ہی لیکن خطاب عام جبھی ہو سکتا ہے۔ کہ لفظ حقہ سے مطلقاً صلہ رحمی مراد ہو، چنانچہ ظاہر اور متبادر بھی یہی ہے، ورنہ حقہ کا مصداق اگر فدک ہی ہو تو پھر کس کس مومن مسلمان کے پاس فدک ہے جو اقربا کے حوالہ کرے۔ بالجملہ سیاق سباق آیت اٰت ذا القربیٰ الخ مندرجہ سورہ بنی اسرائیل تو بشہادت وجوہ مذکورہ اس تفسیر سے انکار کرتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس سورۂ روم کو خیال فرمایئے کیونکہ اللہ یبسط الرزق سے لفظ آتِ ذا القربیٰ کے مابعد تک اگر بغور تامل کیا جائے۔ تو صاف واضح ہو جائے کہ یہاں بھی گو مخاطب خاص رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن خطاب عام ہے کیونکہ پہلے تو یہ مضمون ہے کہ اللہ کو اختیار ہے جس کو چاہے روزی فراخ دے جس پر چاہے تنگ کردے، اسی پر تفریع کر کے فرماتے ہیں کہ تو قرابتیوں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتا رہ۔ یعنی ہم نے اپنی بے نیازی سے کسی کسی کو مفلس اور تنگدست بنا دیا سو تو ان میں سے اس ترتیب کے موافق خبر لیتا رہ۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ یہ بات بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور وہی لوگ فلاح کے پہنچنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بھی ایسے ہی مضمون عام ہیں۔ الغرض یہ جو لفظ ذالک کا اشارہ ہے یعنی یہ جو ارشاد ہوا کہ یہ بات بہتر ہے یہ اسی قرابتیوں کے حقوق اور مساکین اور ابناء سبیل کے حقوق کے ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے، سو اسی طرح سے اشارہ فرما کر کہنا کہ یہ بات بہتر ہے ایمان والوں کے لئے، جبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم عام ہو۔ سو در صورتیکہ فدک مراد ہو تو اس تفسیر کا حال ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہو جائیگا جیسے نعوذ باللہ مشہور ہے۔ من چہ می گویم و طنبور من چہ می گوید۔ الغرض دستاویز ہبہ فدک و

فرمان عطاء فدک شیعوں کے نزدیک سورۂ روم کی آیت تھی۔ سو اس کے سیاق سباق کا بھی حال معلوم ہو گیا۔

حَقَّہٗ کا معنی فدک کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا

معہذا حقہ٬ کی تفسیر فدک ہی ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا معنے حقیقی ہو یا معنے کا ایک فرد ہو۔ اور جیسے کوئی شخص گھوڑے کو نہ جانتا ہو۔ اور وہ کسی سے پوچھے کہ گھوڑا کیا شے ہوتا ہے۔ اور اتفاق سے کوئی گھوڑا اسوقت سامنے آجائے تو وہ دوسرا کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہے گھوڑا، تو یہ جواب بیان معنی اور تفسیر حقیقت نہیں۔ بلکہ حقیقت اسی کے ایک فرد کو بتا کر گویا یوں سمجھا دینا ہے کہ باقی افراد بھی اسی پر قیاس کر کے حقیقت مشترکہ کو سمجھ لو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم حقیقتِ حقِ ذی القربیٰ کو نہ جانتے ہوں؟ اور حضرت جبریل نے ایک فرد کو افراد حقوق ذی القربیٰ میں سے بتلا کر مطلب کا راہ نکال دیا ہو؟ یا یوں کہیئے کہ نہ یہ معنی لغوی ہیں، اور نہ کوئی فرد معین منجملہ افراد کے۔ بلکہ جناب سرور کائنات فقط مقدار حق ذی القربیٰ کو نہ جانتے ہوں، سو اسی کا سوال کیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس مقدار ہی کا ذکر فرمایا۔ بالجملہ ان تین احتمال سے زیادہ اور کوئی احتمال نہیں جس کو غرض اصلی تفسیر مذکورہ کی قرار دیجئے اور حقیقت میں دیکھئے تو ایک بھی احتمال نہیں مطلب آیت کا ظاہر ہے تفسیر کی کچھ حاجت نہیں۔

سو خیر اگر اس معنے کو معنے لغوی قرار دیجئے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہر البطلان ہے کونسا کودن یوں کہدے گا کہ اس لفظ کے معنی لغوی اور موضوع لہ مطابقی یہ معنے ہیں؟ اور اگر یوں کہیئے کہ مدینۃ العلم اور معدن حکمت یعنے سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیمات حقیقت حق ذی القربیٰ کو نہ جانتے تھے اور حضرت جبرئیل نے، ایک فرد کا بیان فرما کر حقیقت الامر سے مطلع فرما دیا تو یہ جرأت بھی مولوی عمار علی صاحب جیسے صاحبوں سے ہو سکتی ہے اہل فہم کی زبان تو ایسی باتوں کے لئے نہیں اٹھتی۔ عاقل چھوڑ دیوانے بھی اتنا تو جانتے ہیں کہ حقیقت حق ذا القربیٰ یہی دینا دلانا ہے چنانچہ لفظ آت خود ہما فیہ یہی کہتا ہے پھر جب کبھی کچھ دینے دلانے کا اتفاق ہو گا۔ وہی ایک فرد اس حقیقت، کا ہو جائے گا۔ باقی رہا تیسرا احتمال بادی النظر میں البتہ فی الجملہ کچھ آیت مذکورہ کے پاس پاس کو پھرتا ہے لیکن

بغور دیکھئے تو جواب خیر سے یہ بھی بعید ہے کیونکہ اول تو اقربا کے حق کی کوئی حد نہیں۔ شیعہ سنیوں کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جتنا کرے اتنا تھوڑا، دوسرے اس صورت میں لازم تھا کہ بگھوں سے یا جریبوں سے مثلاً، یا باعتبار ربع یا ثلث مال کے تعین مقدار بیان فرماتے، اس صورت میں اس سوال وجواب کی وہی مثل ہو جائے گی۔ سوال از آسمان جواب از ریسمان نعوذ باللہ اگر اس احتمال پر حضرات امامیہ جمیں، تو غرابیہ کے اس عقیدہ کو بھی منظور فرمالیں کہ خداوند کریم کی طرف سے حکم حضرت علی کے پاس وحی کے لے جانے کا ہوا تھا۔ پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے غلطی کے باعث حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا دی۔ کیونکہ اس جواب سے بھی حضرت جبرئیل کی خوش فہمی کچھ اس خوش فہمی سے جو غرابیہ کے طور پر در بارہ وحی رسانی ان سے ظہور میں آئی ہے کم نہیں۔

القصہ یہ تینوں احتمال اس تفسیر کے ابطال سے مالا مال ہیں۔ ہاں اگر فدک پہلے سے مملوکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہوتا۔ اور بوجہ غلطی مثلاً رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں ہوتا تو البتہ یہ تفسیر باعتبار ظاہر ٹھیک ہو جاتی لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اتنی بات کے سنی تو درکنار شیعہ بھی قائل نہیں بلکہ باتفاق شیعہ فدک مملوک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، پر بعد نزول اس آیت کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالہ کر دیا علی ہذا القیاس ذا القربیٰ کی تفسیر میں جو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا نام ہے اس میں بھی ان تینوں احتمالوں کا بطلان سمجھئے۔

ابن سبیل اور مسکین بھی استحقاق میں ذا القربیٰ کے ہم پلہ ہیں

اور ان سب باتوں کو جانے دیجئے اگر ذا القربیٰ۔ اور حقہ کے معنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھے تو لفظ مسکین اور ابنِ سبیل بھی اس طرح کے اشکال اور خفاء معنی میں کچھ ذا القربیٰ اور حقہ٬ سے کم نہ تھا۔ علی الخصوص تعینِ مقدارِ حقِ مسکین اور حق ابن سبیل، کہ ان دونوں کا عرف میں بھی کوئی قانون نہیں بخلاف قرابتیوں کے کہ ان کے لینے دیے کا ہر قوم میں ایک دستور بندھا ہوتا ہے، پھر کیا وجہ، کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ذوا اقربا کے حقوق کو تو حضرت جبرئیل سے پوچھا اور مسکین اور ابن سبیل بیچاروں کی بات بھی نہ پوچھی؟ اگر یہ عذر ہے کہ اس روایت

میں نہ سہی، کسی اور روایت میں ہوگا تو مسلم۔ لیکن کسی دوسری ہی روایت سے مثل ذالقربیٰ کے مسکین اور ابن سبیل کے اشخاص معیّن کیجیے۔ اور تعینِ مقدارِ حقِ مسکین اور ابنِ سبیل بیان فرمایئے اور قطع نظر اس بات کے جناب باری تعالےٰ اس آیت میں ایک ساتھ تینوں کو ذکر فرماتا ہے آیت واعلموا انما غنمتم وغیرہ کے ملاحظہ سے بھی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مسکین اور ابن سبیل استحقاق میں ذالقربے کے ہم پلہ ہیں، جیسا ان کا دینا ضروری ہے، ویسا ہی ان کا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو ذالقربے کے حق کے ادا کرنے کا تو فکر ہوا، اور اس باب میں کنج کاؤ اور تفتیش اور استفسار فرمایا اور در بارۂ مسکین اور بیچارۂ ذلیل ابن سبیل کچھ لب کشا نہ ہوئے۔؟

باقی رہی روایات طرفین کی جو در باب فضیلت خدمت گذاری مساکین اور ابناء سبیل کے وارد ہیں، سو ایسی روایتیں صلہ رحمی کے فضائل میں بھی صدہا مشہور معروف ہیں، اگر مساکین اور ابن سبیل اور ان کے حقوق کی تفصیل اور تحقیق کا پہلے سے معلوم ہونا اس قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے تو ذالقربیٰ اور ان کے حقوق کی تفصیل اور تحقیق کا معلوم ہونا بھی صلہ رحمی کے فضائل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے مسکین اور ابن سبیل کے باب میں اگر پوچھنے کی حاجت نہ تھی تو یہاں بھی نہ تھی۔ اور اگر احادیث فضائل صلہ رحمی میں یہ احتمال ہے۔ کہ شاید بعد اس آیت کے نزول کے لب مبارک نبوی سے صادر ہوئی ہوں تو یہاں بھی وہی احتمال، نہ انکی کسی کے پاس تاریخ لکھی ہوئی نہ انکی۔

آیت ذالقربیٰ اگر مدنی ہے تو واعلموا کی طرف اشارہ ہے

یہ سب ردّ و کد تو اس صورت میں ہے کہ جیسا تمام امت خاص کر شیعہ اس آیت کو مکی کہتے ہیں مکّی ہی کہیں۔ اور اگر سارے جہان کے برخلاف جیسے مولوی صاحب نے واقدی اور بشیر بن ولید کے حوالہ سے اس آیت کا مدنی کیا بعد خیبر کے نازل ہونا بیان فرمایا ہے۔ ہم بھی اس کے بعد خیبر کی فتح کے قائل ہوں تب ایک بات میں جھگڑا ہو چکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت بعد خیبر کے نازل ہوئی تو آیت وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ تقسیم آیت واعلموا میں ہے اسی تقسیم کے موافق فتح خیبر سے پہلے ہمیشہ غنیمتیں تقسیم ہوتی رہیں۔ سو اس صورت میں

کیا حاجت تھی۔ کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل سے پوچھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس تقدیر پر آیت آت ذا القربیٰ حقہ میں تقسیم مذکور کی طرف اشارہ ہوگا، اور چونکہ اس تقدیر پر ذوی القربیٰ و مسکین اور ابنِ سبیل تینوں کے حق سے شرح مشرح معلوم ہو جائے گی، تو جو جو خرابیاں بر تقدیر صحت روایت معلومہ معلوم ہوتی تھیں سب کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائیگا، بہرحال چار طرف وجوہات متعددہ اور قرائن داخلی خارجی اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ روایت محض دروغ اور سراسر بہتان ہے، بالجملہ باعتبار روایت کے تو سنیوں کو اس روایت کے غیر معتبر ہونے میں ان وجوہ سے تامل نہیں اور بے تامل یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ مومنو اقربا اور مساکین اور مسافروں سے سلوک کرتے رہو۔ اور اقربا میں سے ہر ایک کے ساتھ درجہ بدرجہ احسان اور محبت اور ادب اور تواضع سے پیش آؤ۔ ماں باپ کے ساتھ ادب اور خدمت گذاری، اور اولاد کے ساتھ محبت اور خبرداری، اور بھائی بند کے ساتھ حسن اخلاق اور مددگاری سے ملتے رہو۔ القصہ علی العموم سب مومنوں کو یہ حکم ہے۔ گو مخاطب فقط رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، نہ یہ کہ فقط رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک حضرت فاطمہ زہراؓ کو فقط فدک حوالہ کرکے اس بار حکم سے سبکدوش ہو کر فارغ البال ہو جائیں۔

روایت مذکورہ کے وضعی ہونے کی دلیل خود عمار علی ہے۔

باقی رہا بطور قواعد روایت کے اس روایت کا غلط ہونا سو اول تو اس روایت کے غلط ہونے میں اس وجہ سے شک و شبہ نہیں کہ مولوی عمار علی صاحب اس بات کے ناقل ہیں، کہ یہ روایت سنیوں کی معتبر کتابوں میں ہے۔ اس سے زیادہ اس روایت کے غلط ہونے کی اور کیا نشانی ہوگی؟ کیونکہ مولوی صاحب کا صدق مقال اور راستی گفتار در بارہ نقلیات (ان تحریروں سے جو قریب ہی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دختران مطہرہ حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام کلثوم جگر گوشہ حضرت بتول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدمہ میں گذری ہیں بلکہ سوا اس کے اور تحریروں سے بھی) واضح ہو چکا ہے، پھر جب مولوی صاحب روایت میں ایسے امانت دار ٹھیرے کہ شیعوں کی ضد میں اپنے علما اور اپنی معتبر کتابوں کو جھوٹ کی طرف نسبت کر دی ہو اور اپنے سب

دین وآئین کا اعتبار کھودیا ہو سنیوں کے ذمے ایک بہتان باندھتے ہوئے ان کو کیا اندیشہ رہگیا۔؟ ایسی باتوں میں یا خدا کا ڈر ہوتا ہے یا دنیا کی شرم ہوتی ہے سو قربان جائیے تقیہ کے اس کے صدقہ سے دونوں کو بغل میں مارا مگر باایں ہمہ منتظروں کے اطمینان خاطر اور ناظرین کے دفع خلجان کے لئے لازم ہے کہ کچھ مفصل بھی بیان کیا جائے۔ تاکہ یہ جو بالاجمال مولوی صاحب کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا ہے۔ خوب دل نشیں ہو کر اہل فہم کو اہل سنت کی حقانیت اور شیعوں کا بطلان کالعیان ہو جائے مگر شاید مولوی صاحب کو اپنی اہانت کی شکایت ہو سو ملازمان مولوی صاحب کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ معاذ اللہ ہم سے ایسا کب ہو سکتا ہے؟ آپ کے دین کو تو دروغ ہی سے فروغ ہے۔ سو فروغ کی باتوں میں اگر آپ کی استقامت ہماری تقریر یا تحریر سے ثابت ہو جائے تو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیئے۔

فصل، کتاب مصنف کتاب کے قابل قبول ہونے کی چھ شرطیں

بالجملہ مزید اطمینان کے لئے اس باب میں کچھ دل لبریز نوک زیر قلم ہے مگر اول بطور تنبیہ یہ گذارش ہے کہ کتابیں آدمیوں ہی کی تصنیف ہوتی ہیں، جیسے آدمی سب طرح کے ہوتے ہیں جھوٹے سچے معتبر غیر معتبر، فہمیدہ غیر فہمیدہ۔ ایسے ہی کتابیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں۔ ملحدانِ بے دین نے بہت سی کتابیں تصنیف کر کے اچھے اچھے بزرگوں کے نام لگا دیئے ہیں۔ اور اس میں اپنے واہیات سینکڑوں بھر دیئے ہیں اور جو کتابیں کہ کبرائے اہل سنت کی تصنیف ہیں۔ اس میں سے بھی اکثر ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کی فیض رسانی کے لئے تصنیف نہیں ہوئیں بلکہ بطور بیاض کے جمع کی گئیں، تاکہ نظر ثانی کر کے ان کی روایات کا حال معلوم کریں، اور اتفاق سے نظر ثانی کا اتفاق نہوا یا ہوا اور کسی وجہ سے وہ بیاضیں لوگوں کے ہاتھ پلہ پڑ گئیں۔ اور بعضی کتابیں ایسی ہیں کہ وہ بہت کمیاب، اور بدرجہ غایت نادر الوجود بلکہ بمنزلہ مفقود ہیں۔ اور وہ ملحدوں اور متبدعوں کے ہاتھ لگ گئیں ہیں انہوں نے اپنی گھڑی ہوئی روایتیں اس میں داخل کر دیئیں۔ یا اہل سنت کے مقابلے کے وقت کسی روایت کو ان کتابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تاکہ اہل سنت خاموش ہو جائیں۔

سو اہل تشیع اکثر ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسی ہی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے ہیں اس لئے

اہل حق کو لازم ہے کہ جب کسی شیعہ سے کسی کتاب کا حوالہ سنے تو اول تو یہ دریافت کرے کہ یہ روایت اس کتاب میں ہے کہ نہیں؟ دوسرے اس کتاب کا حال تحقیق کرے کہ معتبر ہے کہ نہیں۔؟

پہلی شرط اور معتبر ہونے کی یہ صورت ہے کہ کسی کتاب کی روایات کے معتبر ہونے میں چند باتیں ضروری ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کتاب کے مصنف کو تفریح طبائع محزونہ کے لئے فقط قصہ گوئی اور افسانہ خوانی مدِ نظر نہ ہو، بلکہ واقعات واقعی کے مشتاقوں کی تسکین کے لئے اس کتاب کو تصنیف کیا ہو۔ ورنہ چاہیئے کہ بہار دانش اور بوستان خیال کے افسانے، اور چہار درویش اور بکاؤلی کی کہانیں، اور فسانہ عجائب اور فسانہ غرائب کے طومان، سب کے سب دستاویز خاص و عام ہو جائیں۔

دوسری شرط دوسرے یہ کہ مصنف کتاب کسی کی رو رعایت اور کسی سے بغض و عداوت نہ رکھتا ہو اور اس کا حفظِ اخبار اور صدق گفتار اس درجہ کو مشہور ہو کہ اس کی تحریر کی نسبت کسی کے دل میں شک و شبہ نہ ہو، ورنہ طومار کے طومار اخباروں کے لڑکیوں کی زبانوں میں اپنے بزرگوں کی شجاعت اور ان کے غنیموں کی بزدلی سے مشحون ہوا کرتے ہیں، بالاتفاق مسلم ہو جائیں؟ اور یہ جو زبان زدِ خاص و عام ہے کہ اخباروں کا کیا اعتبار؟ ایک حرف بیجا اور عقیدہ ناسزا ہو جائے اور شیعہ سنیوں کی، اور سنی شیعوں کی سندیات بر سر و چشم رکھنے لگیں اور ہر کس و ناکس کی بات قبول کرنے لگیں، اور یہ فرق قوت و ضعف، حفظ و تفاوت، صدق و کذب، اور علیٰ ہذا القیاس یہ تہمت رو و رعایت، اور کینہ و عداوت، ہرگز قابل لحاظ نہ رہے۔

تیسری شرط تیسرے یہ کہ مصنفِ کتاب باوجود صدق و دیانت اور حفظ عدالت کے اس فن میں جس فن کی وہ کتاب ہے، دستگاہ کامل اور ملکہ کماینبغی رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ دین میں مثلاً نیم ملا ہو جس سے خطرۂ ایمان ہو۔ یا طب میں مثلاً نیم طبیب ہو کہ بیمار دل کو خطرۂ جان ہو۔

چوتھی شرط چوتھے یہ کہ وہ کتاب باوجود شرائط مذکورہ کے قدیم سے مشہور و معروف اور ایسے قسم کے لوگوں کے واسطے سے جو مجموعہ اوصاف مرقومہ ہوں دست بدست ہم تک پہنچی ہو

ورنہ لازم کیا الزم تھا کہ انجیل اور تورات جو کلام ربانی ہیں اور اس خدا کی تصنیف ہیں جو بوجہ اتم جامع اوصاف مذکورہ کیا۔ مجموعہ جمیع صفات کمال اور معدن جملہ کمالات جلال و جمال ہے۔ اعتبار اور اعتماد میں ہم پلہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے ہو جائے؟

پانچویں شرط پانچویں یہ کہ روایت کی کتاب میں اعتبار کے لئے ضروری ہے کہ مصنف کتاب نے اول سے التزام اس بات کا بھی کیا ہو کہ بجز صحیح روایتوں اور محقق حکایتوں کے اور روایتیں اپنی کتاب میں درج نہ کروں گا۔ جیسے صحاح ستہ کہ ان کے مصنف نے یہ شرط کر لی ہے کہ بجز صحیح روایت کے اپنی کتاب میں درج نہ کرینگے۔ اسی واسطے ان کتب کا نام صحاح ستہ مشہور ہو گیا سو اگر کوئی کتاب کسی کی بیاض ہو کہ اس نے اس میں ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں اور صحیح غلط حکایتیں اس غرض سے فراہم کر لی ہیں، کہ بعد میں نظر ثانی کر کے صحیح صحیح کو قائم رکھ کر باقیوں کو نقل کے وقت حذف کر دوں گا۔ جیسا امام بخاری اور امام مسلم نے کیا یا صحیح کو صحیح تبلا کر موضوع یعنی بنائی ہوئی باتوں اور گھڑی ہوئی حکایتوں اور ضعیف وغیرہ کو لکھ کر اس کے بعد لکھ جاؤں گا کہ یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے مثلاً جیسے امام ترمذی نے کیا لیکن اتفاقات تقدیر سے ان کا یہ ارادہ پیش نہ گیا، اور یہ آرزو پوری نہ ہونے پائی تھی، جی کی جی ہی میں تھی کہ اجل نے آدبایا، تو ایسی کتاب کی روایات کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا۔ ورنہ کونسا مصنف نہیں کہ اس نے اول ایک مجموعہ بیاض بطور کلیات کے فراہم نہیں کیا؟ امام بخاری سے بہت سندوں سے منقول ہے کہ انہوں نے چھ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر بخاری شریف کی حدیثیں نکالیں ہیں اور عبدالرزاق بخاری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کوئی تین دفعہ حدیثوں کی بیاض اکٹھی کی تھی۔ چھانٹ کر بخاری شریف کا مسودہ کیا تھا۔ چنانچہ یہ مضمون بخاری شریف مطبوعہ دہلی مطبع احمدی کے مقدمہ کی دوسری اور تیسری فصل میں مندرج ہے۔

بہرحال ایسی بیاضوں کا جمع کرنا ایسے ائمہ حدیث کی نسبت بھی ثابت ہے سو اگر اتفاق سے امام بخاری مثلاً بعد فراہمی بیاض قبل اس کے کہ بخاری شریف کی حدیثیں اس میں سے چھانٹ کر بخاری تصنیف کریں، اس دار فانی سے کوچ کر جاتے تو گو وہ بیاض امام بخاری ہی کی تصنیف سمجھی جاتی لیکن کوئی بتلائے تو کیا وہ قابل اعتبار کے ہو جاتی؟ سب جانتے ہیں کہ

اگر وہ ایسی ہوتی تو امام بخاری کو چھانٹنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس صورت میں خود امام بخاری ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ میری بیاض قابل اعتبار نہیں، پھر ہم کیونکر فقط اس سبب سے اس کا اعتبار کرنے لگیں کہ وہ ایسے بڑے محدث امام المحدثین کی تصنیف ہے۔ کہ جہان میں نہ کوئی ثانی ان کا ہوا ہے نہ ہو۔ غرض اگر کوئی کتاب اس قسم کی کسی کو مل جائے اور اس کے مصنف کو کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، اس کی تہذیب اور تالیف کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ کتاب کسی طرح علما کیا جہال کے نزدیک بھی بشہادت عقل قابل اطمینان نہیں۔ ہاں مولوی عمار علی صاحب جیسے ماہر فن حدیث کا ذکر نہیں کہ وہ الٹی کے سمجھن ہار ہیں۔ وہ اگر ایسی نامعقول بات کہہ پڑیں چنانچہ ان کا خط ایسی باتوں سے مشحون ہے۔ تو اس کا جواب بجز اس کے کچھ نہ ہوگا کہ باضافت مصدر الی المفعول کسی نے کہا ہے۔ جواب جاہلان باشد خموشی۔ بہرحال یہ نکتہ محفوظ رکھنا چاہیئے کہ بسبب اس کے ملحوظ نہ رہنے کے اکثر عالم نام سے گرفتار دام اوہام ہو جاتے ہیں چہ جائیکہ جاہل،

چھٹی شرط چھٹے یہ کہ اگر چند روایتیں باہم مختلف ہوں اور پھر اختلاف بھی حد تضاد یا تناقض کو پہنچ جائے دونوں کا صحیح ہونا فقط مستبعد ہی نہ ہو تو پھر ترجیح باعتبار قوت سند ہی کے ہوگی ورنہ لازم ہے کہ شیعوں کے نزدیک روایات شیعہ اور روایات اہل سنت جو مخالف روایات شیعہ ہیں دونوں صحیح ہوں، ایسے ہی کلینی کی یہ روایت کہ کلام اللہ کی سترہ ہزار آیتیں تھیں۔۔۔ لیکن ماسوا، مندرجہ مصاحف متداولہ کے سب چوری گئیں، اور ابن بابویہ صدوق کی روایت کہ کلام اللہ اتنا ہی تھا جتنا اب ہے، دونوں صحیح ہو جائیں۔ سو سب جانتے ہیں کہ اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین دونوں محال ہیں جب یہ بات مقرر ہو چکی، تو گوش گذار اہل انصاف ہو کہ اول تو یہ روایت اور نیز باقی روایتیں جو الزام اہل سنت کے لئے اہل سنت کی کتابوں کے حوالہ سے مولوی عمار علی صاحب نے اپنے رقیمہ میں درج فرمائی ہیں ان کتب میں نہ سمجھنی چاہیئے۔ کیونکہ اعتبار کے ساقط ہو جانے کے لئے آدمی کا ایک جھوٹ بھی بہت ہے۔ مولوی صاحب کا دروغ تو امور متعددہ میں متحقق ہو چکا۔ چنانچہ ناظران ابحاث متعلقہ نکاح حضرت ام کلثوم جگر گوشہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اور ملاحظہ کنان تقریر نسب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بنات مطہرہ

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں۔ گذارش مکرر کی کچھ حاجت نہیں۔ اگر یاد نہ رہا ہو تو پانچ سات ورق پلٹ کر ملاحظہ فرمالیں معلوم ہو جائے گا کہ جب مولوی عمار علی صاحب نے اپنی کتب مشہورہ معتبرہ کی مرویات سے چشم پوشی کر کے ایک غرض خفیف یعنی سنیوں کی بات کے ہلکا کرنے کے لئے رقیمہ موسومہ میرزا نادر علی صاحب میں بہت سا کچھ خلاف واقع لکھدیا، اور پھر جرأت کر کے یہ کہہ دیا کہ اگر سند مطلوب ہو تو روانہ کر دی جائے۔ اور یہ خیال نہ فرمایا کہ ہماری صحیح روایتیں غلط ہوئی جاتی ہیں اگر سنیوں کے سر پر بھی ایک طوفان دھر دیں تو اس میں تو یہ بھی اندیشہ نہیں اور بڑی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ جن کتابوں کے حوالہ سے یہ روایت درج رقیمہ مولوی صاحب ہے، خود انہیں کتب کے مصنفوں کی مشہور کتابیں اس روایت کو رد کرتی ہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالے آئندہ مذکور ہوگا۔

اہل سنت کی کتب میں اہل تشیع کے الحاقات

اور سلمنا کہ یہ روایتیں سنیوں کی بعضی کتابوں میں ملتی ہیں لیکن وہ کتابیں ایسی غیر مشہور ہیں کہ کمیابی میں بیضۂ عنقا سے کم نہیں سنیوں کو اُن کتابوں کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا حفظ اور ضبط تو در کنار۔ سو اگر یہ روایتیں اُن کتابوں میں ہوں بھی تو بلش برین نیست کہ جیسے بعض سیہ کاران قبیلۂ یہود نے منافقانہ نصرانی بن کر انجیل میں بہت سی خرافات خلافِ عقلِ صریح اور مناقضِ نقل صحیح درج کر دی ہیں، ایسے ہی مقتدیان عبداللہ بن سبا یہودی منافق اعنی حضرات شیعہ بھی کہ بالیقین تبدیل و تحریف میں کوچک ابدال یہود مردود اور موافق نقل مشہور "سگ زاد برادر شغال" تیرہ درونی میں ان کے ہمرنگ اور قساوت قلبی اور سنگدلی میں ان کے ہمسنگ ہیں، قدیم سے درپے تخریب دینِ احمدی اور ہمہ تن مصروف تحریف آئینِ محمدی علیہ وعلے آلہ الصلوٰۃ والسلام رہے ہیں اور اہلسنت وجماعت کی جماعت پر دانت پیستے چلے آئے ہیں لیکن بایں وجہ کہ امتیان مسیح علیہ السلام کو نہ حفظ و محافظت انجیل سے کچھ کام تھا۔ اور نہ اس کی تلاوت اور یادداشت میں چنداں اہتمام تھا، یہود مردود کا انجیل پر بھی داؤ چل گیا، چہ جائیکہ دیگر کتب زائد غیر مشہور۔

اہل سنت کا نظام حفاظت

لیکن یہاں یہ حال ہے کہ ایک ایک حرف قرآن پر لکھو کھا سنیوں نے جھونپڑا باندھ رکھا ہے۔ اور ہر ہر روایتِ صحاح ستہ وغیرہ کتب صحاحِ احادیث پر ہزار دل

محدثین بیدار مغز نے تنقیح اور تفتیش اور حفظ وضبط کی یہ نوبت پہنچا دی کہ کسی ملحدِ بے دین کو مجال زیادہ کم کرنے کی باقی نہ رہی، چنانچہ کثرت حفاظ قرآنی اور شیوع محدثین ربانی فرقہ اہلسنت میں اس درجہ کو پہنچی ہے کہ مابہ الامتیاز اور مابہ الافتراق اہل سنت اور شیعہ ایک یہ بات بھی ہو گئی ہے الغرض اس وجہ سے کتاب اللہ اور صحاح ستہ وغیرہ کتبِ مشہورہ اہلسنت تک تو ان تیرہ درونوں کا دستِ تطاول نہ پہنچا۔ گو بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور وعدہ ہائے اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْن اور وَاللّٰہُ مُتِمُّ نُوْرِہٖ نے ان نابکاروں کی سعی بیجا کو انجام تک نہ پہنچایا۔ لیکن نقل مشہور ہے "اصل بد از خطا خطا نہ کند"۔ جیسے اس بات سے ہارے تھے جھک مار کر چپ ہو رہتے۔ لاچار ہو کر کتب غیر مشہورہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کے پھپولے پھوڑے اور بہت سے طوفان ایسے جوڑے کہ عوام کیا بعض علماء سادہ لوح بھی ایک دفعہ کو بچل جائیں سو منجملہ ان کے روایاتِ مندرجۂ رقیمۂ مذکور بھی ہیں۔ لیکن بحمد اللہ فرقہ اہلسنت جماعت کہ ایک جماعت کلاں ہے۔ محققین سے کبھی خالی نہیں رہا، ان کو کو خداوند کریم جزائے خیر دے وہ لوگ ان کی دھوکہ بازیوں کو سمجھ گئے، اور بامدادِ خداوندی اُنہیں روایات میں سے علامات اور امارات کذب و دروغ نکال کر عاقلوں کو متنبہ کر دیا اور عاقلوں کو طریقہ تمیز حق و باطل کا بتلا دیا چنانچہ ان روایات کے ابطال کی تقریر کو دیکھ کر انشاء اللہ یہ دعوے مدلل ہو جائے گا۔

القصہ دغابازان شیعہ کی یہ چالاکی کتب غیر مشہورہ میں چل گئی، اسی واسطے علمائے اہل سنت ان کتب کو ہمسنگ تورات و انجیل سمجھتے ہیں اور ان کی روایات کو معتبر نہیں رکھتے ہاں ان کی روایات کو روایاتِ صحاح ستہ و دیگر کتب صحاح مشہورہ پر پیش کر کے جو مطابق نکلے اس کو بر سر وچشم رکھتے ہیں، اور جو مخالف نکلے اس کو ملحدانِ بدعت کیش دروغ پیشہ شیعہ وخوارج وغیرہ کے سر مارتے ہیں اور جو روایات خلاف و وفاق سے برطرف ہو اگر دلائل عقلیہ کے مخالف ہو تو اس کا بھی یہی حال ہے، ورنہ اگر تکذیب نہیں کرتے تو تصدیق بھی نہیں کرتے۔ بہرحال جو روایت کہ ان کتب میں بلا شرکت غیر بھی پائی جائے اگر روایت صحاح کے مخالف کبھی نہ ہو تب بھی قابل تمسک اور لائقِ حجت نہیں سمجھتے۔ اور مثل مرویات اہلِ کتاب بلکہ خود

انجیل و توراۃ نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب۔

مصنف معتبر ہو تو ضروری نہیں کہ تصنیف بھی معتبر ہو۔

سو اگر کسی شیعہ اکم فہم کو ان کتب کے غیر معتبر ہونے میں اس وجہ سے وثوق نہو کہ اُن کتب کے مصنف منجملہ مقتدایان اہلسنت ہیں تو کوئی ان سے پوچھے کہ انجیل و توراۃ کے مصنف تو خود خداوند اکرم الاکرمین ہیں اگر مصنف کا معتبر ہونا موجب اعتبار کتاب ہو جائے تو قرآن تو قرآن انجیل و توراۃ شیعوں کے نزدیک معتبر ہو جائیں، ورنہ لازم آئے کہ نعوذ باللہ جناب خداوند تعالےٰ کا شیعوں کے نزدیک کچھ اعتبار نہ ہو؟ مگر ہم جانتے ہیں کہ شیعوں کو اس الزام سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ وہ اب کون سے خدا کا اعتبار کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا بے اعتباری ہوگی کہ خدا کی رائے اور علم کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور بدا کے قائل ہو گئے لعنۃ اللہ علیٰ ہٰذا المذہب۔ بہرحال اہلسنت و جماعت کتب غیر مشہور غیر متداولہ کو ہرگز قابل اعتقاد نہیں جانتے اور بملاحظۂ عداوت اور بتجربۂ عادتِ دروغ بزرگواران شیعہ اس سے مطمئن نہیں ۔۔کہ جیسے انجیل و توراۃ کو دشمنانِ دین نے تحریف کر دیا کتب غیر مشہورہ کو ان حضرات نے حسب مطلب بدل دیا ہو،

مصنفِ تحفہ کی ایک عبارت

اور اگر کوئی سادہ لوح میری اس بات کو کودنوں کی بات اور واہیات سمجھے، تو بڑوں کی بات تو بڑی ہوتی ہے دیکھئے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو شیعوں سے بھی زیادہ شیعوں کی عادات اور اصول و فروع مذہب سے واقف ہیں تحفہ اثنا عشریہ میں باب مکائد شیعہ میں جو دوسرا باب ہے کیا فرماتے ہیں' احتیاطاً بعینہا انھیں کی عبارت بلاغت آمیز نقل کرتا ہوں۔

کید سی ؤ دوم آنکہ جمعی کثیر از علماء ایشان سعی بلیغ نمودہ اند، و در کتب اہلِ سنت خصوصاً تفاسیر کہ بیشتر دستمال علماء و طلباءِ ایشان باشند و بعضے از کتبِ احادیث کہ شہرہ ندارند، و نسخ آن کتب متعدد بدست نمی آید، اکاذیب موضوعہ کہ مویدِ مذہبِ شیعہ و مبطل مذہبِ سنیان باشد الحاق نمایند، چنانچہ قصۂ ہبۂ فدک در بعض تفاسیر داخل نمودہ اند کہ سیاق آن حدیث چنین روایت نمودہ کہ لَمَّا اَنْزَلَتْ وَآتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاطِمَۃَ وَاَعْطَاھَا فِدَکَ،، اما حکم آنکہ

دروغ گو را حافظہ نباشد بیاد شان نماند کہ این آیت مکی است و در مکہ فدک کجا بود؟ و نیز بایستے کہ برائے مساکین و ابن السبیل نیز چیزے وقف می کردند تا عمل بر تمام آیت میسر میشد و نیز اعطاھا فدک دلالت صریح بر ہبہ و تملیک نمی کند پس لفظ وھبہا بایستے وضع کرد۔ و علیٰ ہٰذا القیاس در تفاسیر و سیر جستہ جستہ الحاقاتِ ایشان یافتہ میشود، و درین کید ہم اکثر مغفلان از علمائے اہلِ سنت خبطی کنند و تشویش می کشند، و در شہر دہلی در عہد بادشاہ محمد شاہ دو کس بودند از امراء این فرقہ کہ کتب اہل سنت را مثل صحاح ستہ و مشکوٰۃ و بعض تفاسیر بخط خوش مے نویسانیدند و در آن حدیثِ مطلب خود از کتب امامیہ برآوردہ داخل نمودند، و آن نسخ را مجدول و مطلا و مذہب نمودہ بقیمتہ سہل در گذرے میفروختند، و در اصفہان آغا ابراہیم ابن علی شاہ کہ یکے از امراء کبار سلاطین صفویہ بود، ہمیں اسلوب عمل کردہ، لیکن بایں کید ایشان حاصلے نشد، زیرا کہ کتب مشہورہ اہلسنت بجہتہ کمالِ شہرت و کثرت نسخ قابل تحریف نیستند و کتب غیر مشہورہ را اعتبارے نہ، ولہٰذا محققین اہلسنت از کتب غیر مشہورہ نقل را جائز نداشتہ اند، مگر در ترغیب و ترہیب، و در حکم صحائف انبیاء پیشین می شمارند کہ ہیچ عقیدہ و عمل را زان اخذ نتوان کرد بجہت احتمال تحریف انتہیٰ، کلامہ الشریف۔

ترجمہ:۔ تبیسواں مکر۔ ان کے علماء کے بڑے گروہ نے بے حد کوشش کی ہے کہ کتبِ اہلِ سنت میں (خصوصاً تفاسیر میں (جو ان کے طلباء و علماء کی دستمال نبی رہتی ہیں، اور بعض کتب احادیث میں جو غیر مشہور ہیں اور ان کے متعدد نسخے ہاتھ نہیں لگتے) خود ساختہ ایسے بڑے جھوٹ شامل کر دیں۔ جو شیعہ مذہب کی تائید کریں اور مذہب اہل سنت کی جڑ کاٹ دیں، چنانچہ ہبہٗ فدک کا قصہ بعض تفاسیر میں داخل کر کے یوں روایت لاتے ہیں کہ جب آیت وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ نازل ہوئی۔ تو حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کو فدک عطا فرمایا۔ لیکن موافق مثل مشہور۔ دروغگو را حافظہ نباشد۔ جھوٹے کی یادداشت نہیں ہوتی،، ان کو یہ یاد نہ رہا کہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں فدک کہاں تھا؟ اور یہ بھی تو چاہیئے تھا کہ آپ ابن سبیل اور مساکین کے لئے بھی کچھ وقف کرتے تاکہ پوری آیت پر تو عمل ہوتا۔

نیز اَعطَاھَا فِدَکُ یہ الفاظ ہبہ وتملیک پر صریح دلالت بھی نہیں کرتے وَھَبَہَا کا لفظ گھڑنا چاہیئے تھا۔ الغرض اس جیسی کئی مثالیں تفسیرات اور کتب سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس چال میں کئی سیدھے سادھے علمائے اہلِ سنت بھی چکمہ جاتے ہیں، شہر دہلی میں محمد شاہ کے عہد میں دو آدمی جو فرقہ شیعہ کے امراء میں سے تھے، اہلسنت کی کتابیں مثل صحاح ستہ مشکوٰۃ اور بعض تفسیریں خوشخط لکھتے۔ اور ان میں کتب شیعہ سے ایسی روایتیں داخل کر دیتے جو ان کے مطلب کی ہوتیں، پھر ان کی اعلےٰ جلد بندی، جس پر سونے چاندی کا کام بنا ہوا ہوتا کرا کے سستے داموں کسی راہ گذر میں فروخت کر دیتے۔ اسی طرح اصفہان میں آغا ابراہیم ابن علی شاہ جو سلاطین صفویہ کے بڑے امراء میں سے تھا یہی چال چلتا تھا۔ لیکن اس مکر سے ان کو کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اہل سنت کی مشہور کتابیں بے حد شہرت اور کثرتِ تعداد کی وجہ سے تحریف اور تبدیل کو قبول نہیں کرتیں اور غیر مشہور کتابیں ان کے ہاں معتبر ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین نے کتب غیر مشہورہ سے سند لانے کو جائز نہیں رکھا سوائے ترغیب و ترہیب کے، بلکہ ان کو صحف انبیاء جیسا سمجھا ہے جن پر عقیدہ و عمل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ ” کلام مبارک ختم ہوا۔ ترجمہ از ناشر۔

عمار علی نے بعض کتب شیعہ بھی اہل سنت کی طرف منسوب کر دیں

اگر ہم بپاس خاطر مولوی عمار علی صاحب اور بھی چشم پوشی کریں اور ان کے اور ان کے بزرگواروں کے ذمہ اس بات کی نسبت نہ کریں کہ انھوں نے اپنے مطلب کے موافق بعضی روایتیں سنیوں کی غیر مشہور کتابوں میں رلا ملا دی ہیں، تب بھی مولوی عمار علی صاحب کی بات کا پتہ معلوم، کیونکہ جن کتابوں کا حوالہ مولوی صاحب نے درج زمیمہ کریمہ فرمایا ہے۔ ان میں بعضی کتابیں تو ایسی ہیں کہ سنیوں میں سے کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا اور نہ ان کے مصنفوں کا اہل سنت میں سے کوئی نام نشان جانے، مثل تاریخ آل عباس کہ علماء سنت نے اس کتاب کو شاید کبھی سنا بھی نہ ہو بلکہ ایس قسم کی کتابیں ہیں جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے۔

” کید بست وکیم آنکہ کتابے را نسبت کنند بیکے از کبراء اہل سنت و دران مطاعن صحابہ و مبطلات مذہب اہلسنت درج نمایند الے آخرہ “

ترجمہ۔ از ناشر:۔ اکیسواں مکر:۔ کسی کتاب کو اکابر علمائے اہلسنت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں مطاعن صحابہ اور اہل سنت کے مذہب کو باطل کرنے والی روایتیں گھڑ کر داخل کر دیتے۔ سو اگر یہ کتاب موجود بھی ہو تب کسی شیعہ مکار کی ہو گی، اور بعضی کتابیں اس قسم کی ہیں کہ ان کے مصنفوں کو فنِ حدیث اور فنِ تاریخ میں دستگاہ کامل اور تمیز صحیح و غلط ہرگز نہ تھی، جیسے معارج النبوۃ، ہاں مدارج النبوۃ کا حوالہ اگر زیب رقیمہ ہوتا تو ہمارے بر سر و چشم تھا۔ لیکن ایسی معتبر کتابیں سے مولوی صاحب کے ہاتھوں میں کیا آتا۔ ؟

علامہ سیوطی کی تصانیف پر مصنف کتاب کی رائے

اور بعضی کتابیں ایسی ہیں کہ ہر چند ان کے مصنف فنِ حدیث میں مہارت کامل اور مشق کما ینبغی اور تبحر وافر رکھتے تھے، جیسے شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ، لیکن انہوں نے اپنی ان کتابوں میں جن کا حوالہ مولوی صاحب کے رقیمہ میں مندرج ہے یہ التزام نہیں کیا کہ بجز روایات صحیحہ اور کچھ داخل نہ کریں گے بلکہ رطب و یابس بطور بیاض کے جمع کر لیا ہے، جیسے جمع الجوامع، کہ اس کا نام ہی اس بات پر شاہد ہے اور نیز اس کا حال شہرہ علمائے آفاق ہے، یا بغرض تفریق و تمیز صحیح و غلط جمع کیا ہے جیسے تفسیر در منثور۔ اور علے ہذا القیاس موضوعات ابن جوزی۔ کہ ان دنوں کتابوں میں اگرچہ ہر قسم کی مخالف موافق روایتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان روایتوں کے ساتھ اس میں یہ بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے کہ یہ روایات غلط ہیں اور یہ اس واسطے کیا ہے کہ کل کو مولوی عمار علی صاحب جیسے مکار دغاباز ان روایتوں کے بھروسے کسی سادہ لوح کو دھوکا نہ دے بیٹھیں۔ اور اسی غرض کے لئے متقدمین محدثین بھی ایسا کرتے ہیں، چنانچہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد اکثر جگہ لکھ جاتے ہیں ہٰذا حدیث ضعیف۔

اور بعضی کتابیں ایسی کمیاب ہیں۔ کہ اگر مولوی عمار علی صاحب یوں فرمانے لگیں کہ اس کی تمام روایتیں ہو بہو مطابق مذہب شیعہ اور اصول و فروع شیعہ تمام جہاں کی روایات کے مطابق ہے، تو توجہ کیا بی ان کتب کے مولوی صاحب کی کسی سے زبان نہ پکڑی جائے، سچا تو خدا سے ڈرے جھوٹے کو کس کا ڈر، اس کی زبان کو لگام بھی نہیں ہوتی مگر جتنا کچھ اس خط میں مولوی صاحب نے کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں، اور انہوں نے کیا کیا، یہ

مکاریاں اور دغابازیاں تو میراث بزرگواران شیعہ ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ العزیز رقم فرماتے ہیں۔

"کید بست و دوم آنکہ مطاعن صحابہ و مبطلات مذہب اہلسنت از کتب نادر الوجود کمیاب ایشان نقل نمایند حالانکہ در آن کتب اثرے ازان نباشد و بسبب آنکہ آن کتب پیش ہر کس و در ہر وقت و ہر مکان موجود نمیشود اکثر ناظران در شبہ و شک افتند و بخاطر شان رسد کہ اگر این نقل صحیح باشد تطبیق درمیان او و دیگر روایات اہل سنت چہ قسم خواہد بود۔ حالانکہ این بیچارہا عبث دردسرے کشند و نمی فہمند کہ اگر بالفرض نقل صحیح ہم باشد محتاج تطبیق وقتے خواہیم باشد کہ ہر دو روایت در یکدیگر ہم باشند از شہرت و صحت ماخذ و صراحت دلالت و کمیت رواۃ و چون این امور دران نقل مخفی مستور است متابل روایات مشہورہ صحیحۃ الماخذ صریحۃ الدلالۃ چرا باید کرد و کتابہائے کہ ازان فرقہ شیعہ برائے الزام اہلسنت نقل می کنند ہمہ ازین قبیل است کہ نادر الوجود کمیاب میباشند و علی تقدیر الوجدان مصنف آن کتب التزام صحت جمیع ما فیہا نہ کردہ اند بلکہ بطریق بیاض رطب و یابس در آن جمع نمودہ محتاج نظر ثانی گذاشتہ اند اردبیلی صاحب کشف الغمہ و حلی صاحب الیقین از ہمین قبیل دفتر دفتر نقل کنند و بزعم خود گوئے از میدان مناظرہ بزند و ابن طاؤس نیز در مؤلفات خود از ہمین جنس خروہا پر کردہ و باعتقاد خود اہلسنت را الزام دادہ انتہے کلامہ الشریف"

ترجمہ از ناشر: بائیسواں مکر:۔ یہ ہے۔ کہ اہلسنت کی نادر الوجود کمیاب کتابوں سے صحابہؓ کی اہانت کرنے والی اور اہل سنت کے مذہب کو باطل کرنے والی روایات نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کتابوں میں ایسی روایات کا نام نشان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتیں لہٰذا اکثر سننے دیکھنے والے شک و شبہ میں پڑجاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ نقل صحیح ہوئی تو اس میں اور دیگر روایات اہل سنت میں مطابقت کس طرح ہوگی حالانکہ (یہ بیچارے مفت پریشان ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے) اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہو تو تطبیق کی ضرورت اس وقت پڑے گی۔ جب دونوں روایتیں شہرت و صحت ماخذ و صراحت دلالت و عدد رواۃ وغیرہ میں برابر ہوں اور جب یہ باتیں اس مخفی روایت

کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ تو روایات مشہورہ صحیحۃ الماخذ و صریحۃ الدلالت کا مقابلہ کیسے کرسکتی ہے اور وہ کتابیں جن سے اہل شیعہ اہل سنت کو الزام دینے کے لئے روایات نقل کرتے ہیں وہ ایسی ہی ہیں جو ہاتھ نہ آنے والی اور کمیاب ہوں۔ اور اگر ملیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں کہ مصنف نے ان میں مندرجہ تمام روایات کی صحت کا التزام نہیں کیا ہوتا۔ بلکہ بطریق بیاض رطب و یابس اس میں جمع کرکے نظر ثانی کے لائق چھوڑا ہوتا ہے۔ اردبیلی صاحب کشف الغمہ اور حلی صاحب الیقین اس قسم کی روایتوں کے دفتروں کے دفتر نقل کرکے اپنے خیال میں گویا میدان مناظرہ میں جیت جاتے ہیں اور ابن طاؤس نے بھی اپنی مؤلفات اسی طرح کی دھوکہ بازیوں سے بھر رکھی ہیں اور بزعم خود اہل سنت کو بڑے بڑے الزام دے دیئے ہیں

بہرحال جب ان بزرگواروں کی ایسی ایسی بزرگیاں تجربہ معلوم ہوچکی ہوں، تو پھر کتب کمیاب کے حوالہ کا کیا اعتبار رہ گیا؟ اول تو یہی یقین کرنا چاہیئے کہ ان کتب میں اصل سے ان روایات کا نام و نشان بھی نہیں اور اگر اس پر تسکین نہ ہو تو بالفرض اگر ایسی روایتیں ان کتب میں ملیں بھی تو وہ انہیں کذابوں کی تراشی ہوئی ہیں۔ پھر تسپر اکثر یہ کتابیں بطور بیاض کے مجموعۂ رطب و یابس ہیں ان کے مصنفوں کو نظر ثانی کا اتفاق نہ ہوا۔ جو تلخیص کرکے صحیح صحیح روایتیں جدا کرکے باقیوں کو حذف کر دیتے، یا لکھ جاتے کہ یہ روایتیں موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔

واقدی کے بارے میں ائمہ محدثین کی رائے

معتمد امولوی صاحب نے بعضی ایسی کتابوں کا حوالہ لکھ دیا ہے کہ نہ ان کتابوں کو کوئی جانے نہ اس کے مصنف کو کوئی پہچانے، جیسے تاریخ آل عباس، پھر جرأت تو۔ دیکھو کس دلیری سے کہتے ہیں کہ تاریخ آل عباس اہلسنت کی معتبر کتابوں میں سے ہے پھر تسپر اس کتاب میں یہ روایت بھی ہے تو واقدی کی روایت ہے جن کی جھوٹ تو جھوٹ سچی بات بھی جھوٹی ہی سمجھی جاتی ہے ان کی تعریف میں جو کچھ محدثین نے لکھا ہے دیکھئے پیش نظر کرتا ہوں، مجمع البحار میں امام نسائی کے حوالہ سے جو فن حدیث میں امام ہیں اور ان کی کتاب منجملہ صحاح ستہ ہے یوں لکھا ہے کہ امام نسائی نے فرمایا ہے کہ ایسے کذاب جو حدیثوں کے بنانے میں معروف ہیں، چار ہیں۔ ابن ابی یحیٰی مدینہ میں

واقدی بغداد میں، مقاتل بن الیمان خراسان میں، محمد بن سعید مصلوب شام میں، اور پھر زیلعی نے شرح الشفاء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ واقدی کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے بعدازاں امام شافعی کا قول واقدی کی شان میں مقاصد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ واقدی کی کتابیں جھوٹی ہیں۔ اب مولوی صاحب انصاف فرمائیں کہ جب تاریخ آل عباس کا تو یہ حال ہو کہ علماء اہل سنت میں سے کوئی اسے جانتا ہی نہیں اور پھر ان کے راوی ایسے نور علی نور، وروزیرے چناں شہریارے چنیں، تو پھر اہلسنت کیونکر ان روایات پر اعتماد کریں اگر شیعوں کی طرح سنیوں کے دین کا جھوٹ پر دارومدار ہوتا تو البتہ مضائقہ نہ تھا، سو ایسی کتابوں کا ناواقفان اہلسنت کے سامنے حوالہ دینا کمال بددیانتی اور دغا بازی اور بیحیائی کی بات ہے، اہل فہم پر مثل آفتاب روشن ہے، کہ یہ کتاب اگر ہے بھی، تو کسی شیعہ دغاباز کی تصنیف ہے۔

غدار علی کی تاریخ دانی پر اس دغا کا حوصلہ مولوی صاحب کا تو معلوم نہیں ہوتا ہاں البتہ کسی پرانے ابلیس طینت کی کرتوت ہے، ورنہ اس استعداد اور اس سلیقہ پر کہ مامون عباسی کے نام پر لفظ رشید بھی بڑھا دیا، یہ فتنہ گری ممکن معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ عیب کرنے کو ہنر چاہیئے۔ ؎

فلک کا منہ نہیں اس فتنہ کے اٹھانے کا ❊ ستمگر ایک تیرا ناز ہے سارے زمانے کا

سبحان اللہ مولوی صاحب کو اس تبحر اور اس علم و فضل پر کہ اب تک یہ بھی نہیں جانتے کہ ملقب برشید ہارون تھا یا مامون تھا؟ درباره غصب فدک یہ یقین ہو گیا ہے کہ خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شاید اب تک آپ کو اتنا یقین نہ ہو؟ اور تنہائی میں سنیوں پر یہ جوش و خروش ہے کہ جامہ سے باہر نکلے جاتے ہیں۔

فدک فئی تھا موہوب مملوک نہ تھا کوئی مولوی صاحب کو تھامے تو ہم مولوی صاحب کو سارے مراتب سمجھا کر اتنا اور سمجھائیں کہ اگر ہم ان سب مراتب سے درگذریں تو ہمیں ابھی اور بہت گنجائش باقی ہے کیونکہ اول تو آیت مَآ اَفَآءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ جو سورہ حشر میں واقع ہے اس بات پر شاہد ہے کہ قریہ فدک ہو یا غیر، بالاتفاق از قسم فئی تھا مملوک رسول اللہ صلے اللہ

علیہ وسلم ہی نہ تھا چنانچہ انشاء اللہ بحث میراث میں جو حدیث لَا نُوْرَثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ سے متعلق ہے معلوم ہو جائے گا یہ ہبہ ہونے کی کونسی صورت ہے جو روایت ہبہ فدک کو صحیح سمجھئے؟ بلکہ بالیقین غلط ہو گی کیونکہ اس صورت میں روایت ہبہ کلام اللہ کی مخالف ہو گی اور جو روایت کہ کلام اللہ کے مخالف ہو وہ بالاجماع بالیقین غلط ہے، مع ہذا مشہور کتابوں میں جو تمام علماء کی دستمال رہتی ہیں اور اعتبار میں قریب قریب کلام اللہ کے ہیں، وہ روایتیں موجود ہیں کہ وہ فدک کے ہبہ نہ ہونے پر ایسی واضح دلالت کرتی ہیں کہ مولوی صاحب نے جو روایتیں اپنے صحیفہ میں درج فرمائی ہیں وہ فدک کے ہبہ ہونے پر اتنی دلالت نہیں کرتی، سو ان روایتوں کی شہرت اور صحت اور صراحت دلالت کو چھوڑ کر ایسا کون نادان ہو گا کہ مولوی صاحب کے ان ہذیانات پر کان لگائے گا۔ اور سوائے مولوی صاحب کے ایسا کون ہے کہ ان افسانہ ہائے بے سند پر تکیہ جائے گا اگر باور نہ ہو تو ملاحظہ فرمایئے۔

فدک کے مختلف تاریخی دور مشکوۃ شریف جو اشہر کتب اہلسنت ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد کی روایت سے حضرت مغیرہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مروان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروانیوں کو جمع کیا اور کہا کہ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَتْ لَہٗ فَدَكُ فَکَانَ یُنْفِقُ مِنْھَا وَیَعُوْدُ مِنْھَا عَلٰی صَغِیْرِ بَنِیْ ھَاشِمٍ وَیُزَوِّجُ مِنْھَا اَیِّمَھُمْ وَاِنَّ فَاطِمَۃَ سَاَلَتْہُ اَنْ یَّجْعَلَھَا لَھَا فَاَبٰی فَکَانَتْ فِیْ حَیَاۃِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حَتّٰی مَضٰی بِسَبِیْلِہٖ فَلَمَّا اَنْ وَلِیَ اَبُوْبَکْرٍ عَمِلَ بِھَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ حَیٰوتِہٖ حَتّٰی مَضٰی بِسَبِیْلِہٖ فَلَمَّا اَنْ وَلِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ عَمِلَ فِیْھَا بِمَا عَمِلَا حَتّٰی مَضٰی بِسَبِیْلِہٖ ثُمَّ اَقْطَعَھَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ فَرَاَیْتُ اَمْرًا مَنَعَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاطِمَۃَ لَیْسَ لِیْ بِحَقٍّ وَاِنِّیْ اُشْھِدُکُمْ اَنِّیْ رَدَدْتُّھَا عَلٰی مَا کَانَتْ یعنی عَلٰی عَھْدِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ

وَسَلَّمَ وَاَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ"

حاصل اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدک تھا سو اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے، اور دیتے رہتے تھے بنی ہاشم میں کے یتیموں کو اور بے شوہر عورتوں کے نکاح اس مال میں سے کرا دیا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے یہ درخواست کی کہ فدک حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اُن کو عنایت فرمائیں اور ہبہ کر دیں، سو آپؐ نے اس بات سے انکار فرمایا اور بدستور مذکور اسی طرح آپ اس میں سے تادم واپسیں خرچ مذکور نباہتے رہے، یہاں تک کہ آپؐ عالم سے تشریف لے گئے۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی جیتے جی یہی عمل کیا جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بھی واصل بحق ہوئے، پھر جب حضرت عمر والی ہوئے تو وہ بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے موافق عمل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی چل دیئے، پھر جب مروان کا (یعنی اپنے وقت میں) قابو چڑھا تو اس نے اسے اپنی جاگیر کر لیا پھر رفتہ رفتہ مجھ تک نوبت پہنچی اور یہ چیز میرے قبضہ میں آئی، سو میری رائے میں یوں آتا ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کو نہ دی ہو مجھے سزاوار نہیں اور میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے فدک کو اسی انداز پر کر دیا۔ جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں تھا۔ فقط"

یہاں تک حاصل مطلب روایت تھا اب اول تو عرض یہ ہے کہ اس روایت میں جو بعد حضرت عمر کے ذکر کے مروان کی جاگیر بنا لینے کا ذکر ہے تو مولوی صاحب یا کوئی ان کا ہمرنگ ہمسنگ یہ نہ سمجھ جائے کہ حضرت عمر کے بعد متصل ہی فدک پر اس کا قبض و تصرف ہو گیا تھا۔ بلکہ یہاں قصہ کو مختصر کر کے یوں کہہ دیا ہے کہ انجام کار مروان کے قبض و تصرف میں آ گیا۔ ورنہ باتفاق اہل تواریخ حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی بدستور سابق ہی رہا، اور قصہ کے مختصر کرنے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اول تو لفظ اقطعہا اس بات کو تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام اس نے اپنی خلافت میں کیا چنانچہ عربی دان جانتے ہیں کہ اقطاع کے معنے جاگیر کر دینے کے ہیں، - - - - - - - سو جاگیر کر دینے کا اختیار بجز خلیفہ اور کسی کو نہیں ہوتا، دوسرے

اگر قصہ مختصر نہ ہو تو یہ معنی ہوں کہ بعد حضرت عمر کے متصل ہی مروان قابض ہو گیا، اور علی الاتصال قابض رہا اور پھر بعد اس کے متصل ہی حضرت عمر بن عبد العزیز کے قبض و تصرف میں آ گیا۔

سو واقفانِ فنِ تاریخ پر روشن ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بعد حضرت عمر کے حضرت عثمان کے اختیار میں تھا اور ان کے بعد باتفاق شیعہ و سنّی حضرت علی کے اختیار میں تھا، پھر جب کبھی مروان کا زمانہ ہوا تو البتہ اس نے اس کو اپنی جاگیر کر لیا، پھر اس کے مرنے کے بعد کئی خلیفہ ہوئے ان کے بعد کہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی نوبت آئی۔ اور یہ قصہ کا مختصر کرنا کلام اللہ میں بیسیوں جگہ موجود ہے حضرت موسٰی اور حضرت یوسف کے قصہ کو ملاحظہ فرما دیکھیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہی باجماعِ اہل سیر و تواریخ و علمائے حدیث ثابت اور متحقق ہے کہ فدک وغیرہ متروکۂ نبوی حضرت عمر کی خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس کے قبضہ میں تھا، پھر حضرت علی ہی کا قبضہ رہا حضرت عباس کا دخل اٹھ گیا حضرت علی کے بعد حضرت حسن حضرت حسن کے بعد حضرت امام حسین پھر امام زین العابدین اور حضرت حسن بن حسن کا قبضہ رہا، اس کے بعد زید بن حسن برادر حسن بن حسن کا قبضہ رہا رضی اللہ عنہم اجمعین، یہاں تک تو اس کا جمع خرچ بدستور قدیم رہا ان سب کے بعد مروان کے پنجوں میں پھنس گیا یہاں تک کہ نوبت حضرت عمر بن عبد العزیز کی آئی، انہوں نے بسبب کمالِ عدل کے پھر بدستور قدیم کر دیا،

جب یہ گذارش ہو چکی تو اب یہ التماس ہے کہ مشکوۃ تو شہرۂ آفاق ہی ہے۔ ابوداؤد صحاح ستہ میں سے ہے تو جو روایت کہ ایسی کتابوں میں ہو اس کی صحت اور شہرت کو خیال کرنا چاہیئے کہ کس قدر اور کس مرتبہ کی ہوگی۔ معہذا یہ روایت کتنی صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تادم واپسیں فدک جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوۃ و اکمل التحیات کے قبضہ میں رہا، اور باوجود استدعا حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے آپؐ نے ان کو فدک عنایت نہ فرمایا بلکہ جیسے حکیم تیماردار بیمار سے ان چیزوں کے دینے سے انکار کیا کرتا ہے جو اس کو خلل کریں، ایسے ہی حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے خلاصۂ اہلبیت

سے فدک کے دینے سے جو مال دینا تھا انکار فرمایا۔ (اور کیونکر انکار نہ فرمائیں آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جس کا یہ حاصل ہو کہ "اللہ کا ارادہ اے اہلبیت یوں ہے کہ تم سے ناپاکی دور کردے اور تم کو خوب پاک کردے" اس مال دنیا ہی کی طلبگاری کے مقدمہ میں نازل ہوئی ہے)

ہبہ اور عطا میں فرق

بہرحال یہ روایت فدک کے ہبہ نہ ہونے پر مثل آفتاب روشن دلالت کرتی ہے، اور وہ روایت جو بزعم شیعہ دستاویز ہبہ ہے، ہبہ کے ہونے پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی کیونکہ عربی کی روایت میں جس کا ترجمہ مولوی صاحب نے زیب رقم فرمایا ہے لفظاً اَعْطَاهَا ہے سو یہ لفظ عام ہے ہبہ میں بھی بولا جاتا ہے اور عاریت میں بھی استعمال کرتے ہیں سر مو تفاوت نہیں، دونوں موقع میں بلا تفاوت بولتے ہیں، اور بڑی دلیل اس کے عموم کی یہ ہے کہ اعطا کا ترجمہ ہندی زبان میں دینا ہے۔ سو سب جانتے ہیں کہ بسا اوقات عاریتاً کو کہا کرتے ہیں کہ فلانے شخص کو دی ہے یا دے رکھی ہے، القصہ لفظ اعطا سے ہبہ ثابت نہیں ہوسکتا، سو اب روایت مشکوٰۃ کو تو ایک طرف دھریئے اور اس روایت کو جو مولوی صاحب نے درج صحیفہ شریفہ فرمائی ہے۔ ایک طرف رکھئے، اور پھر اسکی صحت اور شہرت اور صراحت دلالت کو اس روایت کے ضعف اور اخفا، اور عدم دلالت مقصود سے موازنت فرمایئے اور پھر فرمایئے کہ کس طرف پلہ جھکتا ہے؟ سو اگر مولوی صاحب عقل کو کار فرمائینگے تو بیشک اس بات کو تسلیم فرمائیں گے کہ واقعی قابل اطمینان اور لائق اعتماد روایت مشکوٰۃ ہی ہے۔ اس روایت مندرجہ مشکوٰۃ سے صاف واضح ہوگیا کہ اگر بفرض محال روایت ہبہ فدک کتب مذکور میں ہو بھی اور یہ کتابیں بھی سب کی سب ایسے لوگوں کی تصنیف ہوں جو موصوف بشرائط اعتبار روایت اعنی صدق وصلاح وفہم و فراست وحفظ و دیانت ہوں اور پھر اس کے بعد اعطاء سے مراد بھی ہبہ ہی ہو تو بیش برین نیست کہ ان کتب کے مصنفوں نے یہ کتابیں بطور بیاض کے اکٹھی کرلی تھیں، اور رطب و یابس غلط صحیح سب ان میں جمع کرلیا تھا، تاکہ بعد الفراغ جمع نظر ثانی کرکے تلخیص کرینگے۔ چنانچہ سب مصنفین کرتے ہیں لیکن اتفاقات تقدیر سے ان کی عمر نے وفا نہ کی یا فرصت نہ ملی سو اس لئے بہت سی روایتیں شیعوں کی بنائی

ہوئی ان کی کتب میں درج ہوگئیں اور کم فہم اپنی غلطی فہم سے ان روایات کو اکابر محدثین کی تصنیفات میں دیکھ کر بچل گئے

اہل شیعہ کی مستندات رطب و یابس سے زیادہ نہیں

چنانچہ شاہد اس کا موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب جو عمدۃ المحدثین اور زبدۃ الموحدین ہیں تحفہ میں رقم فرماتے ہیں کہ "صاحب جامع الاصول نے نقل کیا ہے کہ خطیب نے جو متاخرین محدثین اہلسنت سے ہے، شریف مرتضےٰ سے جو اجلۂ علمائے شیعہ میں سے ہے اور علامہ رضی شیعہ مذہب کا بھائی ہے شیعوں کی حدیثیں اسی غرض سے نقل کیں کہ بعد جمع و تالیف کے ان میں نظر کرے کہ ان کی کچھ اصل بھی ہے کہ نہیں، اور اس سے اوّل شاہ صاحب عمدۃ المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب ہی رقم فرماتے ہیں کہ جو محدثین کہ فرقہ اہلسنت میں آخر میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے جو دیکھا کہ پہلے محدث روایات صحیحہ اور حسنہ کو تو خوب ضبط کرگئے ہیں اور ان میں سعی کی گنجائش نہیں، تو وہ ایسی حدیثوں کی طرف جن کی سندیں ضعیف ہیں یا وہ جھوٹی بنائی ہوئی ہیں یا غلطی سے کسی حدیث کی سند کسی متن کے ساتھ لگ گئی ہے، ایسے متوجہ ہوئے تاکہ سب کو بطور بیاض کے ایک جا فراہم کرکے نظر ثانی کریں، اور موضوعات کو حسان وغیرہا سے جدا کردیں۔ لیکن بسبب کوتاہیٔ عمر اور قلتِ فرصت کے یہ مہم ان سے تمام نہ ہوسکی، مگر جو محدث کہ ان کے بھی بعد پیدا ہوئے انہوں نے ان کی بیاضوں کی حدیثوں میں باہم امتیاز کردیا چنانچہ ابن جوزی نے جسکا حوالہ مولوی صاحب بھی اپنے رقیمہ میں رقم فرماتے ہیں موضوعات کو جدا کردیا۔ اور اس کے مقابل میں حسان لغیرہا کو مقاصد حسنہ میں جدا لکھ دیا۔ اور ایسے ہی سیوطی نے تفسیر درمنثور میں کیا، اور خود ان محدثوں نے اپنی کتابوں کے مقدمہ میں جو بطور بیاض کے ہیں اس غرض کو کھول کر لکھ دیا ہے انتہے"

اہلسنت نے جو روایات بغرض تردید نقل کی ہیں شیعہ انکو سند بناتے ہیں۔

اس نقل سے ہر کس و ناکس سمجھ جائے گا کہ جن کتب کا حوالہ مولوی صاحب نے اپنے خط میں درج کیا ہے وہ اکثر ایسی ہیں کہ ایسی ایسی روایتوں کے رد کرنے اور حقیقت حال کے تبلانے

کے واسطے جمع کی گئیں تھیں، جن روایتوں کو مولوی عمار علی صاحب آذران کے پیشوا گاتے پھرتے ہیں لیکن اتفاقات سے ان کے مصنفوں کو اجل نے آدبایا، اور بعضی ایسی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر دُر منثور اور کتاب ابن جوزی، کہ ان میں اگر ایسی روایتیں ہیں بھی جن سے شیعہ تمسک کرتے ہیں تو وہ اس طور پر ہیں جیسے تحفہ اور منتہی الکلام اور صواقع وغیرہ میں ہبہ فدک کی روایت مندرج ہے، تو ایسا کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تحفہ میں اس روایت کو لکھ کر یہ لکھدیا ہے کہ یہ روایت بنائی ہوئی ہے، سو مولوی عمار علی صاحب بڑے چو کے کہ تحفہ اثنا عشریہ اور منتہی الکلام وغیرہ تصنیفات مولانا حیدر علی کا نام نہیں لکھا۔ اس میں دو فائدہ تھے ایک تو کتابوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی، جس سے ہر کسی کے ایک دفعہ کو کان کھڑے ہو جاتے دوسرے عوام اور جہال اہل سنت شاہ عبدالعزیز اور مولوی حیدر علی صاحب کو جس قدر جانتے ہیں۔ اتنا متقدمین کو نہیں جانتے، اور پھر تسپر یہ مشہور ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے رد رفض پر کمر چست باندھ رکھی ہے، سو اگر ان صاحبوں کا نام بھی ہوتا تو چنداں جھوٹ بھی نہ تھا اور عوام کو ایک بار تو یہ وہم ہو ہی جاتا کہ جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے باوجود شہرۂ علم وفضل وتبحر فن حدیث وباایںہمہ صرف ہمت دربارہ رد روافض اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کردیا، تو ہو نہ ہو یہ روایت صحیح ہی ہوگی، مگر شاید یہ اندیشہ ہوا ہو کہ یہ کتابیں فارسی زبان میں اور پھر کثیر الوجود اور فارسی خوان بکثرت مبادا قلعی کھل جائے۔

بہرحال زوف ہے اس دینداری پر اور اس پرہیزگاری پر، اگر شیوہ دغا بازی اختیار ہی کرنا تھا تو اس کے لئے بھی دنیا جیف تھی۔ دین کو کیوں بٹہ لگایا، اور دین احمدی کو خراب کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر بھی خیر گذری کہ آپ نے سنیوں کے دغا دینے کا ارادہ کیا، جو ایسے ایسوں کو لاحول میں اڑا دیتے ہیں، اور ایسے ویسے دام میں نہیں آتے۔ لیکن شیعوں کی خیر نظر نہیں آتی، کیونکہ جب ان کے ایسے مقتدا کا دماغ چلا ہے۔ کہ یہ تمیز باقی نہیں رہی کہ فلانی روایت فلانی کتاب میں کس غرض سے بیان کی ہے

آیا بطور رد کے یا بطور اعتبار کے اور اعتماد کے، تو لاجرم عنقریب ہی مولوی صاحب اس بات کو تشہیر کریں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم ساحر اور مجنون اور کاہن اور مفتری فرماتا ہے، اور پھر شیعوں کی اندھی عقل سے یقین ہے کہ اس کو تسلیم کر جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ کلام اللہ میں کفار کا قول منقول ہے۔ اور وہ بھی بایں غرض کہ ان کے قول کو رد فرماتے ہیں، بہرحال مولوی صاحب کی یہ چالاکیاں دیکھ کر محبان دینی اور دینداران یقینی کی خدمت میں یہ عرض ہے۔ کہ ان مکاریوں پر نہ جائیں۔ ایسے ہی دجالوں نے دین میں رخنہ ڈالا ہے اس علم کے پردہ میں انہوں نے جاہلوں کے نام کو بھی عیب لگایا، عالم تو درکنار۔

درمنثور کے حوالہ کی حقیقت

اب آگے عرض یہ ہے کہ مجملاً تو اس روایت کا ہونا نہ ہونا بہ نسبت سب کتابوں کے معلوم ہوگیا۔ لیکن اگر مفصل بھی کچھ بیان کیا جائے تو اور اچھا ہے اس لئے ایک دو کتابوں کو بالخصوص ذکر کر کے ان میں اس روایت کا ہونا نہ ہونا بیان کرتا ہوں تاکہ موافق مثل مشہور ،، مشتے نمونہ خروارے ،، مولوی صاحب کے سب جوابوں کا حال معلوم ہوجائے، مگر چونکہ ان سب کتابوں میں سے تفسیر درمنثور کا حوالہ عوام تو عوام بعض علما ساده لوح کو بھی شاید متردد کردے کیونکہ مصنف شیخ جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین اور خلاصۃ المفسرین ہیں۔ اور بسبب کثرت تصانیف اور رواج جلالین وغیرہ کے ان کا نام شہرہ آفاق ہوگیا ہے، تو اس لئے میں بھی انہی کی کتابوں کی نسبت اس روایت کے ہونے نہ ہونے کی تحقیق کرتا ہوں، سو اس لئے گوش گذار اہل انصاف ہوں کہ تفسیر درمنثور میں اس روایت کے ہونے کا کچھ مضائقہ نہیں، کیونکہ وہ موضوعات وغیرہا ہی کے امتیاز کے لئے تصنیف ہوئی ہے۔ سو اس میں یہ کیا اور بہت سی موضوع روایتیں ہیں، لیکن موقع سند میں اس کا نام لینا مولوی صاحب کی کمال حیا اور خوبی ذہن وذکا پر دلالت کرتا ہے سو اگر یہی استدلال ہیں تو کل کو کہنے لگیں گے کہ حضرت عیسے خدا کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ کلام اللہ میں موجود ہے۔

جلالین اور اتقان میں ذالقربیٰ اور حقہ کی تفسیر

اور اگر بوجہ کمیابی درمنثور اس بات کی تسلیم میں تامل ہو تو جلالین اور اتقان تو کثیرالوجود ہیں یہاں تک کہ دونوں چھپ گئی ہیں خصوصاً جلالین، کہ تفسیروں میں میزان الصرف کا حکم رکھتی ہے بلکہ تفاسیر کی بسم اللہ کہیئے۔ سو اُس میں ملاحظہ فرما دیکھیں کہ آیت وَآتِ ذَالْقُرْبیٰ کی تفسیر میں ذالقربیٰ اور حقہٗ کی کیا تفسیر کی ہے اگر ان کے نزدیک روایت متنازع فیہا معتبر اور صحیح ہوتی تو اوّل تو مع حوالہ اس حوالہ کو لکھتے، نہیں تو اختصار ہی کرتے تب بھی اس میں کیا دریغ تھا کہ ذالقربیٰ کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا نام اور حقہ کے بعد لفظ فدک لکھ جاتے؛ حالانکہ اور جا ایسا ہی کیا کہ جو تفسیر کسی لفظ کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہی بعینہٖ لکھدی ہے۔ بلکہ حدیثوں کے حوالہ تک لکھ دیئے ہیں۔ معہٰذا اتقان کے مضامین سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی بنائی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں اول ہی نوع میں اسانید متعددہ سے کہ جن میں سے بعضی سندوں کو اپنے آپ جیّد لکھتے ہیں۔ سورہ روم اور سورہ بنی اسرائیل کا مکّی ہونا مرقوم ہے اور پھر بعد اس کے سور قرآنی کی تفصیل کی ہے کہ فلانی فلانی سورتوں میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی؟ اور فلانی فلانی میں اتفاق ہے کہ یہ مکّی ہے یا مدنی، اور پھر تسپر سورۂ روم اور سورہ بنی اسرائیل کو ان میں داخل رکھا ہے جو باتفاق مکی ہیں، کسی ایک متنفس کو بھی اس کے مکی ہونے میں خلاف نہیں اور اسی اثنا میں یہ بھی تحقیق کی ہے کہ فلانی سورہ اگر مکی ہے تو اس میں فلانی فلانی آیت مدنی ہے۔ پر ان دونوں سورتوں میں سے کسی آیت کو استثنا نہیں کیا، اور اس بات کی سند بھی وہی سند ہے جس کو وہ جیّد لکھتے ہیں۔ اور اگر بعضے علما کے اقوال کے موافق ان دونوں سورتوں میں سے کسی آیت کا استثنا کیا بھی ہے تو اور ہی آیتوں کا استثنا کیا ہے پر اس آیت کو کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ مدنی ہے۔ الغرض اتقان کی عبارت باٰواز بلند یوں کہتی ہے کہ یہ دونوں سورتیں خاص کر یہ دونوں آیتیں باتفاق اہلِ مِلت مکّی ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ شیعہ بھی اس بات میں سنیوں کے

موافق ہیں۔ چنانچہ طبرسی صاحب مجمع البیان کا قول پہلے مرقوم ہو چکا ہے کہ سورہ روم سوا آیت فسبحان اللہ کے سب مکی ہے۔ الغرض اول تو اتقان کی اس تحقیق سے محقق ہوگیا کہ آیت آتِ ذاالقربیٰ مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سوال وجواب میں حضرت جبرئیل کا یوں کہنا کہ ذاالقربیٰ حضرت فاطمہ ہیں ان کا حق فدک ہے۔ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا جواب نامعقول حضرت جبرئیل سے نہیں ہو سکتا، ہاں اگر حضرت جبرئیل شیعہ مذہب ہوتے تو البتہ کم فہمی کا احتمال ہو سکتا تھا۔

سیوطی نے اس روایت کو موضوع سمجھ کر نقل نہیں کیا۔

دوسرے انہترویں[۶۹] نوع میں جو درباره معرفت شروط مفسر ہے۔ فصل اختلاف تفسیر میں یوں رقم فرماتے ہیں، کہ ایسی تفسیریں جن کی سند صحیح ہو بہت کم ہیں۔ اور پھر اس میں بھی ایسی جن کی سند رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور بھی کم ہیں، اور پھر وعدہ کیا کہ میں ان سب کو برابر ترتیب وار بیان کروں گا، چنانچہ موافق اپنے وعدہ کے بترتیب سور قرآنی ان تفاسیر کو مع بیان ماخذ بیان کیا، اور تسپر نہ سورہ بنی اسرائیل میں اس روایت متنازع فیہا کو بیان کیا۔ اور نہ سورۂ روم میں جس کی آیت کو شیعہ دستاویز ہبہ فدک سمجھتے ہیں۔ بلکہ والناس کے متعلق کی جو روایت تھی اس کو لکھ کر آخر میں یہ لکھا کہ یہ ہے جو کچھ مجھے معلوم ہے اور حاضر ہے تفاسیر مرفوعہ میں سے جن کے مرفوع ہونے پر لوگوں نے تصریح کی ہے۔ خواہ وہ صحیح ہیں۔ خواہ حسن ہیں خواہ ضعیف ۔۔۔ خواہ مرسل خواہ معضل لیکن موضوعات اور اباطیل کو میں نے نہیں لیا۔

اب عرض یہ ہے کہ اس وعدہ اور وعدہ کے قرینہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو روایت لکھی ہے، وہ سمجھ کر لکھی ہے، اور جو باوجود معلوم ہونے کے چھوڑ دی ہی وہ سمجھ کر چھوڑ دی، بھولے چوکے نہیں چھوڑی۔ سو یہ روایت متنازعہ فیہا جو نہیں لکھی، تو دیدہ و دانستہ نہیں لکھی۔ اس کو موضوعات اور اباطیل میں سے سمجھا ہوگا جو نہیں لکھا، ورنہ اس کتاب میں ضعیف اور مرسل اور معضل تک نہیں چھوڑا، تو

اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی کتابوں میں کسی ضعیف طریق اور ضعیف روایت سے بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بعد نزول آیت مذکورہ کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو فدک ہبہ کیا ہے۔ جو روایت اس بات پر دلالت کرے وہ لاریب موضوع ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ فدک تادم واپسیں جناب پاک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبض و تصرف میں تھا۔ چنانچہ روایت صحیح اس مضمون کی گذر چکی۔

فدک کے معاملہ میں حضرت علی کا رویہ اس روایت کے بطلان کی بڑی دلیل ہی

اور قطع نظر قوتِ سند اُس روایت کی بڑی دلیل اس کی صحت کی (اور دلیل بھی کونسی جس کو شیعہ بھی مان جائیں) یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے بھی موافق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فدک میں عمل کیا، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے وارثوں پر اس کو تقسیم نہ کیا۔ بلکہ بدستورِ قدیم فقراء اور مساکین اور ابن سبیل میں تقسیم کرتے رہے، اگر اپنا حصہ خدا کی راہ میں دیا تھا۔ تو سب وارثوں کو کیوں محروم رکھا؟ اور یہ بات شیعوں کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ اسی واسطے اس کے چار جواب دیتے ہیں، ان چاروں جوابوں کو مع ان کی تردید کے پیش نظر کرتا ہوں تاکہ خوش فہمی اور انصاف پرستی علماء شیعہ ہر کس و ناکس پر آشکارا ہو جائے۔

اہل شیعہ کی طرف سے حضرت علی کے رویہ کی پہلی تاویل

اول تو یہ کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم غصب کی ہوئی چیز کو نہیں لیا کرتے، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو جو بعد ہجرت کے کفار نے دبا لیا تھا کفار سے نہ لیا، یہ اسی قسم کا جواب ہے۔ جیسا مثل مشہور ہے کہ مرد کے ہاتھ چلیں اور نامرد کی زبان چلے۔

تاویل کا جواب

جناب من رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا اول تو مکان ہی بذات ثابت ہوگا۔ کیونکہ اول تو آپ کے والد اپنے والد کے آگے مر گئے تھے، دوسرے بنی کے وارث ہونے میں کلام، ہاں حضرت علی کے مکان کی نسبت کہیئے تو بجا ہے

اور اگر بوجہ وصیت عبد المطلب کوئی مکان آپ کا بذات خود مملوک بھی ہو، جیسے بعض علماء کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ فرض کیجئے، تو اس صورت میں البتہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کو نہ لینا تو مسلم۔ لیکن یہ کاہے سے شیعوں کو محقق ہو گیا کہ آپ نے اس وجہ سے نہیں لیا؟ نہ لینے کے لئے بہت سے احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ بسا اوقات اپنی چیز چور کو یا غاصب کو معاف کر دیتے ہیں اور معاف کرنا وہاں ہی ہوتا ہے جہاں آدمی اپنے آپ بھی لے سکتا ہے اور اگر اس کو اس کا لینا درست ہی نہ ہو تو پھر معافی کے کیا معنے؟ سو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا ہو، پھر معاف کرنا اپنے حق کا تو صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرے کے معاف کرنے کے کیا معنے؟ سو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر فدک کا لینا ہی درست نہ تھا۔ تو یہ تو اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر بوجہ معافی نہیں لیا تو اپنا حق معاف کیا ہوتا۔ حسنین کا اور ان کی بہنوں کا حق کیوں معاف کر دیا؟ معہذا معاف کرنے کے تو یہ معنے ہیں کہ غاصب یا اس کی اولاد کو چھوڑ دے نہ یہ کہ اپنے قبضہ میں رکھے اور اوروں کو دیا کرے۔

دوسرا احتمال یہ ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ جب کسی چیز پر کفار کا غلبہ اور تسلط ہو جائے، اور مسلمانوں کی حکومت باقی نہ رہے اور نہ کوئی ایسا حاکم رہے کہ جس سے مظلوم فریاد کر کے اپنی داد کو پہنچے، بلکہ خود حکام کفار ہی اس کو دبا لیں، تو وہ چیز کفار کی ملک میں آجاتی ہے اور ان کے سب تصرفات بیع شرا وغیرہ اس میں جاری ہو جاتے ہیں، اور مشتریوں کو وہ چیز حلال طیب ہو جاتی ہے اور یہ حکم اس لئے جائز رکھا گیا کہ اگر یوں نہ کیا جائے تو ایک عالم کی مصیبت آجائے اور سب کے سب حرام خوار ٹھیریں یا ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ ایک ولایت والوں کو دوسری ولایتوں کی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے۔ سو جس ولایت کی چیز کی ضرورت ہو اگر کفار اس کو فتح کر لیں اور وہاں کے اسباب و متاع کو لوٹ کر نیلام کرنے لگیں تو دوسری ولایت والے اگر خریدیں اور استعمال کریں، تو ظالم اور مرتکب حرام کے ٹھیریں، اور اگر نہ خریدیں

یا خریدیں اور استعمال نہ کریں بلکہ اصل مالکوں کو ہٹا کر دیدیں۔ تو یہ سخت دشوار ہے۔ ہر چیز میں اور ہر شخص سے نہیں ہو سکتا۔ اس حکمت کے لئے یہ حکم شارع نے تجویز کیا۔

چنانچہ علماء اہل سنت نے کلام اللہ ہی میں سے اس کی طرف اشارے پائے ہیں۔ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نہ لینے کو اسی پر محمول کیا ہے۔ ورنہ اگر گھر کے نہ لینے کی یہ وجہ ہو کہ اہل بیت شئے مغصوب کو نہیں لیا کرتے، جیسے شیعہ فرماتے ہیں، تو یہ تو بشہادت مولوی عمار علی بلکہ بشہادت عام اسلاف شیعہ غلط ہے کیونکہ مولوی عمار علی صاحب اپنے رقیمہ کریمہ میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں بلکہ حضرت عثمانؓ کی خلافت میں بھی حضرت علیؓ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے دعوائے فدک کا کیا۔ سو اگر شئے مغصوب اہلبیت نہیں لیا کرتے تھے تو حضرت علی نے کس لئے یہ دعوائے کیا تھا۔؟

اور اگر یوں کہیئے کہ ان دونوں خلافتوں میں دعوائے کیا سنیوں کی روایتوں کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ ان کو اس سے الزام نہیں دیا جا سکتا تو یہ شیعوں کے نزدیک بھی مسلّم ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے فدک غصب کر لیا اور زہرا کا دعوے ہبہ نہ سنا تو حضرت زہرا نے میراث کا دعوائے کیا۔

ازروئے قواعد شیعہ سیدہ رضؓ کا مطالبہ فدک غلط تھا۔

سو اگر اہلبیت نبوی رضی اللہ عنہم شئے مغصوب کو نہیں لیا کرتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پھر کیوں فدک طلب کیا؟ اور اگر عقلا شیعہ سنیوں کی ضد میں عقل و انصاف کو طاق میں دھر کر یوں فرمانے لگیں کہ یہ دونوں دعوے اگرچہ بصورت دو ہیں۔ لیکن چونکہ متصل بلافصل واقع ہوئے ہیں ہم ایک ہی دعوائے اسے قرار دیتے ہیں۔ سو بعد گفت و شنود کے ختم ہو جانے کے غصب متحقق ہوا اور پہلے غصب تھا ہی نہیں، جو کچھ خرابی لازم آوے۔

تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ایسے ایسے فقروں میں درگذر کر جاتے ہیں۔ ورنہ اسی بات سے حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا فدک مغصوب کی نسبت دعوے

کرنا ثابت کیا؟ مثل آفتاب روشن ہے۔ لیکن چونکہ علماء شیعہ خصوصاً مولوی عمار علی صاحب کی عقل کی رسائی معلوم ہے۔ اس لئے اس بات سے چشم پوشی کر کے ہم اور جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے، کہ یہی فدک عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے لیا۔ اور وہ انہیں کے ہاتھ میں رہا۔ پھر خلفاء عباسیہ اس پر متصرف ہو گئے یہاں تک کہ سنہ دو سو بیس میں مامون عباسی نے اپنے عامل قثم بن جعفر کو لکھا کہ فدک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد کے حوالہ کر دے۔ سو اس وقت امام علی رضا نے لیا، پھر متوکل عباسی اس پر متصرف ہو گیا۔ بعد ازاں معتضد نے پھر ہٹا دیا۔ چنانچہ یہ سب قصہ مفصل قاضی نور اللہ نے مجالس المومنین میں لکھا ہے اگر کوئی سنی لکھتا تو شیعوں کے نزدیک اعتبار کے قابل بھی نہ ہوتا

قواعد شیعہ کی رو سے حضرت علیؓ کا خلافت قبول کرنا بھی درست نہ تھا

اور اس کو بھی جانے دیجیے، مجالس المومنین کا حال تو پڑھے لکھے یا صحبت یافتہ علماء جانتے ہوں گے یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے بعد شہادت حضرت عثمان کے خلافت مغصوبہ قبول کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید پلید سے خلافت مغصوبہ کے طالب ہوئے، یہاں تک کہ نوبت شہادت کی پہنچی، اور اگر ان امور میں سے ایک بھی ظہور میں نہ آتا، تو شئے مغصوب کے لینے کے جواز میں اور دلانے کے وجوب میں عقلائے اولو الالباب کے نزدیک پھر بھی کچھ تامل نہ تھا۔ کیونکہ سابق میں محقق ہو چکا ہے کہ آیت وآتِ ذا القربیٰ میں گو مخاطب خاص ہے لیکن خطاب عام ہی ہو۔ اگر ذا القربیٰ سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قرابتی مراد ہوں تو ان کے حق کا دلانا سب کے ذمہ واجب ہو۔

اور نیز وجوب عدل و انصاف کی فرضیت سے کلام اللہ بھرا ہوا ہے اور عدل و انصاف اسے ہی کہتے ہیں کہ اہلِ حق کے حقوق دلائے جائیں۔ سو بعد غصب کے اگر مالک کا حق باقی رہتا ہے تو حضرت علی کے ذمہ فدک کا حضرت زہرا کے وارثوں کو پہنچانا فرض تھا۔ اور اگر بعد غصب اہل بیت کا حق ساقط ہو گیا۔ تو اس میں اور عفو میں

۳۶

کیا فرق ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باب میں یہ زبان درازیاں ہیں۔

حضرت علی کے رویہ کی دوسری تاویل دوسرا جواب علمائے شیعہ نے حضرت علی کے فدک میں تصرف مالکانہ نکرنے کا اس طرح دیا ہے، کہ حضرت علی نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا اقتدا کیا۔ یعنے جیسے انہوں نے فدک سے کچھ انتفاع نہیں اٹھایا،

اس جواب پر تو مناسب یوں ہے کہ علمائے شیعہ کے قربان ہو جائیے۔ سبحان اللہ کیا فہم کی رسائی ہے۔ خیر نہمیدہ لوگوں کے لئے تو اس جواب کی تردید کی کچھ ضرورت نہیں۔ کیونکہ عقل خود اس جواب کے مضمون کو ایسے اگلتی ہے جیسے مکھی کو معدہ۔

تاویل کا جواب لیکن چونکہ سب ایک قسم کے نہیں ہوتے۔ تو اس لئے یہ گذارش ہے کہ جن اماموں نے بعد حضرت علی کے باقرار سرگروہ شیعہ قاضی نور اللہ فدک کو لیا، چنانچہ ابھی مذکور ہوا ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ بلکہ حضرت امیر کا بھی کس لئے اقتدا نہ کیا؟ اور نیز یہ اقتدا فرض تھا یا نفل؟ اگر فرض تھا، تو اور اماموں نے کیوں نہ کیا؟ اور اگر نفل تھا تو اول تو ائمہ اہلبیت سے ایسی سنّتِ معمول بہا حضرت علی اور حضرت فاطمہؓ بلکہ معمول بہا حسنین اور معمول بہا حضرت امام زین العابدین کا ترک کرنا مستبعد ہے، اور معمول بہا ہونا حسنین اور امام زین العابدین کا خود ظاہر ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جیسے بناچاری فدک سے منتفع نہ ہوئیں تھیں، ایسے ہی یہ بزرگوار بھی بناچاری منتفع نہ ہو سکے، دوسرے حضرت امیر المومنین نے اس نفل کے واسطے حقداروں کے حق پہنچانے کو جو ان کے ذمہ فرض تھا کیوں ترک کیا۔؟

اقتدا کن افعال میں ہوتا ہے اور نیز کسی کا اقتدا احتمال اظہار یہ میں ہوا کرتا ہے افعال اضطراریہ میں کوئی کسی کا اقتدا نہیں کیا کرتا، ورنہ لازم آئے کہ حضرت امام مہدی حضرات ائمہ ماضیین کا اقتدا تقیہ میں جو بوجہ ناچاری وہ کیا کرتے تھے، کریں، اور ایسے ہی حضرت امام حسین تقیہ میں اتباع حضرت امیر کرتے، سو اگر حضرت زہرا کسی کے ظلم و ستم کے باعث فدک سے منتفع نہ ہو سکیں تو ناچار تھیں حضرت [illegible] اپنے

وقت خلافت میں اس مظلومیت کے اقتدا، کے کیا معنے؟ بااین ہمہ اگر حضرت امیر کو حضرت زہرا کا اقتدا ہی کرنا تھا۔ اپنے حصہ میں کیا ہوتا۔ حضرات حسنین اور ان کی بہنوں کو کیوں محروم المیراث کر دیا۔

اہل شیعہ کی تیسری تاویل تیسرا جواب جو شیعوں نے اعتراض معلوم کا دیا ہے وہ یہ ہے۔ کہ حضرت امیر اس لئے فدک سے منتفع نہ ہوئے تاکہ لوگوں کو متحقق ہو جائے کہ حضرت امیر کی گواہی درباره ہبہ فدک حسبتہً للہ تھی اپنے نفع کی امید پر نہ تھی۔

تاویل کا جواب یہ جواب بھی مثل جواب ہائے سابق سرتاپا خلل ہے، اوّل تو جو لوگ اس مقدمہ میں حضرت امیر کی طرف سے گمان فاسد رکھتے ہیں، وہی لوگ ہوں گے، جنہوں نے حضرت امیر کی گواہی کو قبول نہ کیا، سو وہ لوگ پہلے ہی اس جہان سے چلدیئے تھے، ان کی خلافت میں ان میں سے کون تھا۔ جو اس کے جتلانے کے لئے آپ نے فدک نہ لیا۔؟ اور اگر مُردوں کا جتلانا مدِنظر تھا تو اول تو ان کو اطلاع نہیں ہو سکتی، دوسرے اپنے مرنے کے بعد ان کو خود حضرت امیر کی حقانیت اور اپنا ظالم ہونا معلوم ہو گیا ہوگا۔ سو یہ نہ لینا یوں ہی رائیگاں گیا، بیوجہ حضرت امیر نے مال حلال کو ہاتھ سے کھویا، نہ نفع دین نہ نفع دنیا،

اور اگر یوں کہیئے کہ خلفاء ثلثہ مر گئے تھے تو کیا ہوا، ان کے معتقد اور نواصب تو موجود تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو یہ احتمال پھر بھی باقی رہا۔ جب آپ کی بعض اولاد نے لیا۔ خصوصًا مامون کے زمانہ میں، کہ وہ مائل بہ تشیع تھا اور فدک کو حق اہل بیت ہی سمجھ کر حضرت امام علی رضا کے حوالہ کیا، جب بھی آخر نواصب کو یہ شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ حضرت امیر کی گواہی اس پیش بندی کے لئے تھی، بلکہ بیشتر اولاد ہی کے لئے ایسی ایسی تدبیریں دور دراز کیا کرتے ہیں۔ سو نواصب بحکم المرء یقیس علی نفسہ کے بالضرور یہ سمجھے ہوں گے کہ حضرت امیر کی گواہی فقط اس لئے تھی کہ اگر یہ تیر ہمارے زمانہ میں نشانہ پہ نہ بیٹھا، تو کبھی نہ کبھی تو کارگر ہوگا ہی۔ سو اگر یہی رفع تہمت مدِنظر تھا۔ تو لازم تھا کہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ ہرگز اس

مال کو نہ لیجیو، نہیں تو میری شہادت میں خلل آجائے گا۔

اہل شیعہ کی چوتھی تاویل چوتھا جواب شیعوں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ سب پرہیز گاری اور فدک سے دست برداری تقیہ کی وجہ سے تھی، القصہ شیعہ لاچار ہوکر اپنوں پر آ گئے۔ لیکن "دروغ گورا حافظہ نباشد" علمائے شیعہ کو اس جواب کے وقت یہ یاد نہ رہا، کہ سب آدمیوں کا مذہب تقیہ میں یہ ہے، کہ جب امام جہاد کے لئے تیار ہو اور قتل و قتال میں مشغول ہو تو پھر اس پر تقیہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہرگز تقیہ نہ کیا۔ سو اگر حضرت امیر اپنی خلافت کے زمانہ میں تقیہ کرتے تو اور الٹے مرتکب فعل حرام کے ہوتے، نعوذ باللہ اس جواب والوں نے حضرت علیؓ کی وہی مثل کردی ہے۔ جیسے کہا کرتے ہیں، "یکے نقصان مایہ دیگر شماتت ہمسایہ"، مال کا مال گیا وبال گناہ پلّہ بندھا، خدا نادانوں سے باہ نباہ نہ ڈالے، کسی نے سچ کہا ہے "دشمن دانا بہتر از نادان دوست"۔

تاویل کا جواب معہذا اگر تقیہ خلفائے ثلثہ سے تھا تو وہ خود پہلے ہی اس جہان سے چل دیئے تھے اور مُردوں سے تو نامردوں کو بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یا قیامندوں سے؟ سو وہ یا تو آپ کے لشکری تھے اور شیعہ مخلص)۔ یا منجملہ رعیت، سو رعیت میں سے ایسے امور میں اگر اندیشہ ہوتا ہے تو ان سے ہوتا ہے جن کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ سو یہاں وہ فقرا اور مساکین اور ابن سبیل تھے، ان سے ڈرنا بھی ہموزن خوف مُردگان ہے۔ سوائے ان کے اور کسی کی بلا کو کیا غرض تھی کہ فدک کے سبب حضرت علی رضہ کے مقابل ہو کر اپنی جان کو خطرہ میں ڈالتا۔؟

اور اگر بفرض محال یہ صورت ظہور ہی پکڑتی، تو اول تو حضرت امیر کے برابر کسی میں زور اور بل اور شجاعت اور لشکر نہ تھا، اگر کچھ گمان ہو بھی تو امیر معاویہ یا حضرت عائشہ کی طرف ہوتا، سو انہوں نے اب کونسی کمی کی؟۔ دوسرے ایسے مفسدے

بجز اس کے کہ رعیت بادشاہ کے مقابلہ پر مجتمع ہو جائے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تصور میں نہیں آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو زیر حکم اسلام سوا، ملک عرب اور کچھ نہ تھا، سو وہ بھی بمجرد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سب کے سب منحرف ہو گئے، چنانچہ مختصر اس کا بیان ہو چکا ہے۔

لیکن ابوبکر صدیق با ایں ہمہ تنہائی کہ سوائے سکانِ مکہ و مدینہ اور کوئی ان کا یارا ور مددگار نہ تھا، اور لشکرِ عظیم حضرت اسامہ کے ساتھ بنی غسان کی طرف بھیج چکے تھے، ہرگز نہ ڈرے۔ اور مانعین زکوۃ کی نسبت باوجودیکہ اکثر صحابہ بسبب قلت اعوان و انصار کے ان پر جہاد کرنے سے اندیشہ مند تھے، یوں فرمایا، کہ واللہ اگر وہ ایک رسی بھی جو خدا کی راہ میں دیا کرتے تھے نہ دیں گے، تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ بلکہ یوں بھی کہا کہ اگر اور کوئی نہ جائے گا۔ تو میں تنہا جاؤں گا۔

خلیفہ چہارم کے پاس خلیفہ اول کی نسبت اعوان و انصار کی کثرت جب ابوبکر باوجود اس بے سروسامانی اور کثرت اعداء کے ایسی ناچیز چیزوں پر تن تنہا جہاد کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امیر تو اشجع الناس تھے۔ اور لشکر کثیر جس میں سے اکثر وہ لوگ جنہوں نے ایک بنی بنائی خلافت کو درہم برہم کر دیا، ان کے ہمراہ، اور جس مال پر تکرار وہ مالیت فراوان، اور حق بھی ایسے مظلوموں کا کہ ان پر ظلم ہونا دوسری قیامت پھر نہ جانے کہ حضرت علی کے تقیہ ہونے کے کیا معنے؟ بہرحال جوابات شیعہ تو جیسے ہیں، سب ہی جان گئے، ان جوابوں سے حصول مطلب شیعہ بھی معلوم ہو گیا،

لیکن انہیں ان جوابوں سے نفع ہو کر نہ ہو، سنیوں کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ حضرت علی کا فدک میں تصرف مالکانہ نہ کرنا، اور بدستور سابق رہنے دینا۔ جو سنیوں کا دعوے تھا، سچا ہے، پھر جو ان جوابوں کی تردیدوں کو دیکھے گا، وہ آپ سمجھ جائے گا کہ حضرت علی کا فدک کو بدستور سابق رہنے دینا فقط اسی وجہ سے تھا، کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے تادم وفات کسی کو ہبہ نہیں کیا تھا، اور پھر متروکہ نبی میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی، چنانچہ عنقریب انشاء اللہ مشروحاً مفصلاً اس

کا اثبات آتا ہے جب یہ بات محقق ہو چکی تو ہر دانا و نادان کو محقق ہو گیا کہ روایت متنازع فیہا جو مستند شیعہ ہے، سراسر بہتان اور دروغ تراشیدۂ حضرات شیعہ ہے۔ اور جیسے حسب درایت اس کا غلط ہونا صحیح ہو گیا تھا با اعتبار قوانین روایت بھی ایک افسانہ بے اصل نکلا، علے ہذا القیاس مامون عباسی کے زمانے میں اولاد حسنین کا بہ نسبت فدک دعوے کرنا، اور اس کا دو سو علماء اہل سنت کو جمع کر کے دربارہ فدک استفسار کرنا، الی غیر ذلک بمنزلہ خیالات بوستانِ خیال اور حکایات باغ بہار ہے اگر سراسر غلط نہیں تو مثل مرویات صحیحہ بالکل صحیح بھی نہیں۔

اتنی بات بیشک ظہور میں آئی کہ مامون عباسی نے بوجہ میلانِ تشیع فدک کو اولاد حسنین کے حوالہ کر دیا، القصہ جب ان افسانوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو دعوئے ثبوتِ ہبہ جس پر مولوی عمار علی صاحب بیڑا اٹھا کر عزم اثبات غصب کیا تھا، مثل خانہ شیخ چلی کہ سوائے خیال اور کچھ نہ تھا بنا بنایا ڈھ گیا۔ اور بعد ازیں ہم کو کچھ ضرورت تردید نہ رہی۔ کہ اہلِ انصاف کے لئے فدک کے غصب نہ ہونے میں اتنا ہی سامان سامانِ علم الیقین ہے، اور حضرات شیعہ جیسے نا انصافوں کے لئے اسی قدر جواب دندان شکن اور قاطع ہر مہین و کہین ہے۔

کتب اہل سنت میں دعوئے سیدہ برائے فدک بروایت ضعیف بھی مذکور نہیں۔

لیکن بایں ہمہ اور زیادہ طریق تنزل مناظرہ میں علامت حقانیت ہوتا ہے۔ اس لئے بطور تنزل معروض ہے، کہ اہل سنت کی کتابوں میں سند ضعیف سے بھی یہ روایت نہیں کہ بعد وفات سرور کائنات علیہ وعلی آلہ ..... افضل الصلوات واکمل التحیات حضرت فاطمہ زہرا نے دعوے ہبہ فدک کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا دعوے نہ سنا اور گواہ مانگے، اور حضرت زہرا حضرت علی اور حضرت ام ایمن یا حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین کو علی اختلاف الروایات گواہ لائیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بسبب نہ ہونے دو مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کے ان کی گواہی کو رد کر دیا، یہ سب خوبی اور بزرگی انہی بزرگوارانِ شیعہ کی ہے، کہ ان روایات کو گھڑ کر زادِ راہِ جہنم تیار کیا اور سرمایۂ

نعمت ابدی بہم پہنچایا۔ اور پھر جرأت تو دیکھو کہ علمائے اہلسنت سے جواب طلب ہے۔

محبانِ دین کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ اہلِ سنت کا شیوہ یہ نہیں کہ وقت پڑے پر جھوٹ بول جائیں۔ ان کے مذہب میں تقیہ کے جواز کی بھی کوئی صورت ہوتی تو مضائقہ نہ تھا، اس لئے جو امور واقعی ہیں۔ اگرچہ ظاہر نظر میں جائے گرفت اور محل طعن ہوں، اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ اور انکار نہیں کرتے مثلاً حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا میراث کا دعوے کرنا اور حضرت ابوبکر صدیق کا نہ دینا، اور قضیہ قرطاس اور واقعہ جمل کہ یہ سب امر واقعی ہیں، اور ان کے جواب معقول رکھتے ہیں، اگر جھوٹ ہی بولتے تو جیسے شیعہ وقت پڑے پر جاہلوں کے سامنے اپنی مرویات صحیحہ سے بھی انکار کر جاتے ہیں، سنی بھی ایسے امور سے انکار کیا کرتے، لیکن جو بات اصل سے بے اصل ہو اس کو کیونکر سر دھریئے۔

پر اس عداوت اور اس دیانت کو دیکھئے۔ کہ سنیوں کے دین کی خوبی کے حسد میں مقتدایانِ شیعہ اور پیشوایان امامیہ اپنے دین کو بھی خراب کرنے لگے، اور جھوٹی روایتیں تراش کر سنیوں سے گریباں گیر ہونے لگے، سو دروغ پسندوں کو جھوٹی باتیں ہی سنکر اطمینان ہوتا ہے، اس لئے ہم بھی ان کی خوشی کے لئے یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ شیعہ فرمائیں سب سچ ہے۔ ع۔ دروغ را جزا باشد دروغے

روایت ہبہ کے غلط ہونیکی دو دلیلیں

مگر بپاس خاطر اہل صدق اس روایت کے غلط ہونیکی دو دلیلیں بیان کرتا ہوں، ایک سنیوں کی طرف سے، ایک شیعوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف کی دلیل تو ایسی لیجئے کہ جس سے اپنے دل کا تردد رفع ہو جائے۔ اور دشمن کا اعتراض دفع ہو جائے سو وہ وہی روایت مشکوۃ ہے جس میں عمر بن عبد العزیز کا فدک کو بدستور سابق کرنا مذکور ہے۔ اس روایت کی صحت اور شہرت کی طرف پہلے بھی اشارہ گذرا اور اب بھی کہنا پڑا کہ مشکوۃ کی شہرت تو سب ہی کو معلوم ہے۔ اور ابو داؤد جو اس روایت کا ماخذ ہے۔ وہ خود صحاح ستہ میں سے ہے۔

بالجملہ یہ روایت صحیح سنیوں کی کتابوں میں موجود پھر جو روایت اس کے مخالف

ہو اور وہ بھی ایسی کہ نہ اس کی سند اس کی سند کے برابر، اور نہ اس کا ماخذ اس کے ماخذ کے برابر، وہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر اسکے بعد اگر کوئی کہے کہ سنیوں کی کتابوں میں بطریق صحیح ایسی حدیث موجود ہے جس سے ہبہ ہونا فدک کا ثابت ہوتا ہے، تو نادان بھی سنکر یقین کر لے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو یہ معنے ہوں گے کہ بطور تردید کے، یعنی اس بات کے تبلانے کے لئے کہ یہ روایت غلط ہے۔ اس روایت کو کسی کتاب میں داخل کیا ہوگا، یا کسی نے اپنی کتاب میں اور رطب یابس کے ساتھ اس روایت کو بھی داخل کر دیا ہوگا، کہ بعد میں نظر ثانی کر کے صحیح غلط میں امتیاز کر دیا جائے۔ سو علماء شیعہ نے بوجہ چالاکی اور غلط انداز سے ایسے مواقع سے اس قسم کی روایات کو چن لیا ہے۔

دوسری دلیل شیعوں کی طرف سے جس سے وہ الٹے الزام کھائیں اور خاموش رہ جائیں، سو وہ حضرت علی کا فدک کو بدستور سابق فقراء اور مساکین اور ابن سبیل پر تقسیم کرنا، اور آپ نہ لینا، اور حضرت زہرا کے وارثوں کو نہ دینا ہے جس کو شیعہ برسر و چشم رکھتے ہیں، اور اس کے واقعی ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ اس کی تحقیق اوپر گذر چکی ہے، اور یہ بھی گذر چکا کہ شیعوں نے اس کے عذر میں ہر چند بہت دست و پا مارے لیکن سب رائیگاں گئے۔ بالجملہ اس قضیہ مسلم الثبوت طرفین اور نیز روایت مشکوٰۃ سے ہبہ کا معین ہونا سراسر بہتان اور غلط ہے۔ پھر کیا امکان کہ سیدۃ النساء، جگر گوشۂ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جو شیعوں کے نزدیک معصوم اور ہمارے نزدیک محفوظ ہیں، ایسا دعوائے دروغ با ایں بزرگی سر زد ہوا؟ اور پھر حضرت علی اور حضرت حسنین جو باعتبار طرفین یا معصوم ہیں یا محفوظ، شہادتِ زُور جو ہمسنگ کفر ہے اس طرح برملا علی الاعلان ادا کریں۔

بہرحال یہ روایت سنیوں کی کتاب میں اصلاً موجود نہیں۔ شیعوں کا افترا اور بہتان ہے، پھر ایسی روایتوں سے سنیوں کے الزام کے درپے ہونا اور ان سے ان کا جواب طلب کرنا کمال سفاہت اور عین حماقت کی دلیل ہے۔ باقی یہ جو مولوی صاحب نے نو دس کتابوں کے نام لکھ دیئے ہیں، یہ وہی قدیمی کید ہے، اور پرانی دغا اور فریب کی بات ہے

جو مولوی صاحب کو سینہ بسینہ پہنچی ہے، اور ہم نے اس کی طرف بحوالہ تحفہ اشارہ کیا، جس کا یہ مضمون ہے کہ شیعہ اکثر اپنے مطلب کی باتیں کمیاب نادر الوجود کتابوں سے نقل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کتابوں میں اس بات کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک دو نسخہ میں کسی کتاب کی یہ روایت ہووے بھی، تو وہ بھی بیشک ایسے ہی دغا بازوں کی چالاکی ہے۔ کیونکہ ان کی ایک یہ بھی عادت ہے کہ کتب غیر مشہورہ میں جو خال خال ملتی ہیں، اکثر روایات اپنے مذہب کی یا اپنے آپ تراش کر داخل کر دیتے ہیں، چنانچہ تحفہ ہی کے حوالہ سے یہ بات بھی مفصل مرقوم ہو چکی ہے۔

کتب محوّلہ کے مؤلفین نے صحت کا التزام نہیں کیا

اور اگر فرض کیجیے کہ ان سب کتابوں کے سبھی نسخوں میں یہ روایت ہے، تو اول اس بات کا اثبات چاہیئے کہ ان کتابوں کے مصنفوں نے التزام کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم ان کتابوں میں درج کریں، صحیح صحیح درج کرینگے، ضعیف اور موضوع درج نہ کرینگے۔ سو اس بات کا ثابت ہونا تو معلوم، البتہ معاملہ برعکس ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ اصولِ حدیث کے آخر میں جو مشکوٰۃ مطبوعہ مطبع دہلی کے اول میں لگا ہوا ہے۔ یوں رقم فرماتے ہیں کہ شیخ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں کوئی پچاس کتابوں سے زیادہ کتابوں کی حدیثیں جمع کی ہیں اور پھر اس میں صحیح حسن ضعیف ہر قسم کی حدیثیں لائے ہیں، اسی پر اور کتابوں کو بھی قیاس کر لیجیے "مشتے نمونہ خروارے"، ع قیاس کن زگلستان من بہار مرا

الغرض ان کتابوں کے مصنفوں نے یہ التزام نہیں کیا کہ ان میں بجز صحاح کے ضعیف حدیثیں داخل نہ کریں گے اور یہ بات ویسے بھی تو ظاہر ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کو بھی بمنزلہ صحاح ستہ سمجھتے، اور صحاح میں داخل رکھتے، اور اگر فرض کیجیے کہ ان کے مصنفوں نے اپنی طرف سے التزام ہی کیا تھا، کہ بجز صحیح اور کسی قسم کی روایت ان میں درج نہ کریں گے، تب بھی اطمینان کے قابل نہیں، کیونکہ اہلِ سنت کے نزدیک صحت و ضعفِ حدیث کے باب میں ایک آدھ کا کہا نہیں چلتا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کھا جاتا ہے، اس لئے ان امور میں ضروری ہے کہ اگر سب محدثین کا اتفاق

بھی نہ ہوں تو اکثر تو اس کی صحت کے یا ضعف کے قائل ہوں۔

اور یہ بات اول تو بشہادت عقل ضروری ہے، دوم بہت سے شیعہ خبیث باطن نے بوجہ تقیہ متورع اور متقی بنکر اول تو اپنا اعتبار پیدا کیا۔ اور پھر محدثین اہلسنت کی خدمت میں رہ کر ان سے صحیح حدیثیں روایت کیں، اور انہیں سندوں سے اپنے مطلب کی باتیں بھی ان کے ساتھ رلاکر عالم میں پھیلادیں اور بوجہ تقوائے ظاہر اور پردۂ تقیہ یہ پیچ ان کا چل گیا۔ اکثر ثقات نے بھی ان کو متورع اور متقی گمان کر کے ان کی روایتیں قبول کرلیں اور بوجہ حسن ظن استاد کو ثقہ سمجھا اور سوا اس کے اوپر کے اساتذہ کو ائمۂ حدیث پایا، اس کی وجہ سے ان کی روایات کو منجملہ صحاح سمجھا، اور اس دغا میں آگئے۔

تقیہ کے پردہ میں اہل شیعہ کی خطرناک خیانت

گو متاخرین نے بامداد خداوندی اس دغا کو سمجھا اور ان حدیثوں کو موضوع قرار دیا۔ اور مردود اور متروک ٹھیرایا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ میں باب مکاید میں مکاران شیعہ کی شان میں رقم فرماتے ہیں۔ "کید پانزدہم آنکہ جماعت از علماء ایشان خودرا از محدثین اہل سنت وانمودہ بعلم حدیث مشغول شدند، و از ثقات محدثین اہل سنت سماع حدیث حاصل کردند، و اسانید صحیحہ آنرا یادگرفتند، و بظاہر بحلیۂ تقوے وورع متحلی گشتند تا طالبان را اعتقاد صادق درحق آنہا بہم رسید، و اخذ علم حدیث از انہا شروع نمودند و احادیث صحاح وحسان روایت کردند، ودر اثناء روایت بہمان اسانید صحیحہ موضوعات را کہ مطابق مذہب ساختہ بودند نیز در جملہ مرویات درج نمودند، این کید ایشان راہ بسیاری از خواص اہلسنت زدہ است چہ جائے عوام،

زیراکہ تمیز درمیان احادیث موضوعہ وصحیحہ برجال سند است، وچون رجال بسبب این دغل وتلبیس متحد شدند تمیز مشکل افتاد، وما بہ الامتیاز مفقود گشت، اما چون عنایت الہی شامل علوم اہلسنت بودہ، ائمہ این فن بعد از تحقیق وتفتیش این دغل را دریافتند ومتنبہ شدند بعد از انکشاف جلیۂ حال طائفہ از ایشان بوضع اقرار نمودند

وطائفہ صریح اقرار نہ نمودند لیکن امارات اقرار در انہا قائم شدہ وتا حال آن احادیث درمعاجم مصنفات واجزاء وائمہ وسائر است ، واکثر تفضیلیہ ومتشیعین بدان احادیث تمسک کنند،

اول کسیکہ این دغل را موجد شد جابر جعفی است، کہ بعد از تحقیق حال او بخاری ومسلم بنا بر احتیاط مطلق مرویات او را از درجہ اعتبار ساقط ومطروح ساختند، وترمذی و ابوداؤد ونسائی بامتعابعات وشواہد قبول کنند، وآنچہ او بدان منفرد است رد نمایند وابوالقاسم سعد بن عبداللہ ابی خلف قمی نیز درین باب استاد بر کار است۔ اکثر ناواقفان اہلسنت بجہت تلبیس اسانید او گمان برند کہ از رجال معتبرین ماست، حالانکہ چنین نیست نجاشی کہ صاحب نقد رجال شیعہ است او را فقیہ طائفہ ووجیہ طائفہ قرار دادہ انتہی بلفظہ"

ترجمہ۔ پندرھواں مکر یہ ہے کہ اہل شیعہ کے علماء میں سے ایک جماعت اپنے آپ کو محدثین اہل سنت ظاہر کر کے علم حدیث میں مشغول ہوئی۔ اور ثقات محدثین اہل سنت سے سماع حدیث حاصل کیا۔ اور ان کی اسانید صحیحہ کو یاد کر لیا اور بظاہر تقوی و پرہیزگاری سے آراستہ ہو گئے، حتی کہ طلباء علم کو ان کے بارے میں سچی عقیدت پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان سے استفادۂ علمی شروع کر دیا۔ اور صحیح اور حسن حدیثیں روایت کیں اور اثنائے روایت میں اسناد صحیحہ کے ساتھ اپنے مطلب کی وضع کی ہوئی روایات بھی درج کر دیں۔

علمائے شیعہ کے اس مکر نے بہت سے خواص اہلسنت کا راستہ کاٹ دیا ہے عوام کا تو ذکر ہی کیا۔ وجہ یہ کہ احادیث صحیحہ اور روایات موضوعہ میں امتیاز تو صرف رجال سند ہی سے ہو سکتا ہے۔ جب اس مکر وفریب سے رجال سند ہی گڈمڈ ہو گئے تو تمیز مشکل ہو گئی۔ اور جس امر سے امتیاز حاصل ہوتا وہ مفقود ہو گیا۔

لیکن چونکہ تائید خداوندی اہل سنت کے علوم کو حاصل تھی۔ اس لئے آئمہ فن نے تحقیق وتفتیش کے بعد اس فریب کو سمجھ لیا۔ اور متنبہ ہو گئے۔ پھر حقیقت حال کے ظہور کے بعد علماء شیعہ کے ایک گروہ نے وضع احادیث کا اقرار کر لیا۔ اور دوسرے

نے صریح اقرار تو نہ کیا۔ لیکن ان روایات میں اقرار کی علامتیں قائم ہو گئیں۔ اور اس وقت بھی وہ روایات معاجم، مصنفات و اجزا میں دائر و سائر ہیں۔ اور اکثر تفضیلیہ اور متشیعین ان سے تمسک کرتے ہیں۔

پہلا شخص جو اس فریب کا موجد ہے وہ جابر جعفی ہے کہ اس کی حقیقت کھل جانے کے بعد بخاری و مسلم نے احتیاطاً اس کی تمام مرویات کو ساقط الاعتبار اور مطروح قرار دیا۔ اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اس کی روایات کو شواہد اور متابعات ملنے پر قبول کرنے لگے۔ اور جن روایات کے شواہد و متابعات نہیں ملے، ان کو مردود قرار دیا۔ نیز ابو القاسم سعد بن عبد اللہ ابی خلف قمی بھی اس فریب کاری میں استاد پُر کار رہے۔ اکثر نا واقفانِ اہلسنت اسانید کی گڑبڑ کی وجہ سے خیال کرتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے راویانِ موثقہ میں سے ہے۔ حالانکہ یہ خیال خلاف واقعہ ہے۔ نجاشی جو ناقدِ رواۃِ شیعہ ہے۔ اس نے قمی کو نقیہ طائفہ اور وجیہ طائفہ قرار دیا ہے۔ انتہی ترجمۃً از تا بشیر

اب عرض یہ ہے کہ شاہ صاحب کا لکھا تو آنکھوں کے دیکھے کے برابر ہے۔ شیعہ سنی سب ان کے علم اور تاریخ دانی اور تبحر مذہب طرفین کے قائل ہیں، حتیٰ کہ علم اہلسنت تو اپنا علم تھا علم مذہب شیعہ بھی اس قدر رکھتے تھے کہ علماء شیعہ کو بھی میسّر نہیں چنانچہ تحفہ اثنا عشریہ اس کے لئے گواہ موجود ہے۔ لیکن اگر شاہ صاحب نہ فرماتے۔ کوئی اور کہتا، تب بھی اس بات کا شیعوں کی نسبت یقین بیساختہ ہو جاتا۔ کیونکہ اس تقیہ کی وجہ پر جھوٹ کو ان کیلئے حلال طیب کیا واجب اور فرض تک کر دیا ہے۔

لسان المیزان میں چند فریب کاروں کی نشان دہی۔

لسان المیزان کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام بہت سے شیعان نابکار نے کیا ہے، منجملہ حارث بن غصین ہے جو اعمش سے روایت کرتا ہے، اور اسی قبیل سے حارث بن محمد معکوف ہے۔ اور از انجملہ حسن بن علی بن زکریا بن صالح ابو سعید عدوی مصری ہے، جو ثقات کے نام سے جھوٹی باتیں روایت کرتا ہے، خیر کہاں تک بزرگواران شیعہ کی بزرگی کی تعریف اور مدح میں رطب اللسان رہیئے، کہ اس قسم کے مضمون بہت بھی تھوڑے ہیں۔

پر رفع استبعاد اور تسکین خاطر سادہ لوحان کے لئے یہ معروض ہے کہ آیت فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَے اللّٰہِ کَذِبًا سے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ "ان سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا، جنہوں نے ۔۔۔ اللہ کے ذمہ بھی بہتان لگا دیئے۔" یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ امت کے ذمہ طوفان جوڑ لیا کرتے ہیں، اور کم عقلوں اور سادہ لوحوں کو بمنزلہ شیاطین، راہ سے بے راہ کر دیتے ہیں۔ سو اس آیت میں، اس فن میں حضرات شیعہ سے زیادہ اور کوئی چالاک معلوم نہیں ہوتا۔ اور کیوں نہ ہو، جھوٹ سے ان کے دین کا قوام ہے۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولیں، تو اور کون بولے۔ سو ان کی نسبت جتنا کچھ کہیئے تھوڑا ہے، بالجملہ اگر کتب مذکورہ میں روایت دعویٰ فدک ہو بھی ؟ تو بوجہ حسنِ ظن علمائے اہل سنت اور تقیہ مکارانِ مذہب شیعہ اول وہ روایت سایر ہو گئی، پیچھے سے محققین نے گو اس کے بطلان کا اشتہار کر دیا لیکن تاہم کہاں تک ؟ پھیلی ہوئی بات کا سمیٹنا چھوٹے ہوئے تیر کے ہٹانے کے برابر ہے۔

بہرحال وہ روایتیں مشہور ہو گئیں۔ اور مغفلین کو سراسیمہ کر دیا، اور متشیعین اور مردمان تفضیلی کے لئے سامان اضلال ہو گئیں، جیسا کہ تورات و انجیل کی تحریفات باعث ضلال و اضلال عالم ہو گئیں، پر، جیسے قرآن مجید نے تورات و انجیل کی غلطیوں کی اصلاح کر دی، اور قسمت والوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں پہنچا دیا، ایسے ہی روایات صحاح اور تحقیقات محققین اولوالابصار نے بھی ان تحریفات کا تدارک کر دیا۔ اور جن کا مادہ قابل اصلاح تھا ان کو ہدایت کر دی۔ اور ضلالت سے نکال دیا۔ باقی مولوی عمار علی صاحب یا ان کے اقران و امثال کی اگر اصلاح نہ ہو تو کیا بعید ہے ؟ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی ان کے لئے قرآن جیسی حقانی کتاب سے اصلاح نہ ہوئی، بلکہ تحریفات آبائی اور تبدیلات اسلاف کے پابند رہے۔ ایسے ہی مولوی عمار علی صاحب بھی اس بات میں انہیں کے قدم بقدم ہیں اور موافق نقل مشہور۔ ؎

کند ہم جنس باہم جنس پرواز ؛ کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ

کذابوں کی روایات پر جم گئے، اور اہل صدق کی بات کو نہ مانا۔ سو وہ کیا کریں ؟

مَنْ یُضْلِلِ اللّٰہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ

دعوئے فدک کی روایت اگر صحیح بھی ہو تو بھی کام نہیں چلتا

اور اگر ہم تسلیم کریں، اور مناظرہ میں شیعوں سے نرمی ہی برتیں، اور اس بات کے قائل ہوں کہ اس روایت میں کسی طرح کا قصور نہیں، باون تولہ پاؤ رتی ہے۔ تب بھی شیعوں کی آنکھوں میں خاک ہی رہے گی۔ کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہے۔ تو مشکوٰۃ کی روایت اصح ہے، اور یہ قوی ہے تو وہ روایت اقویٰ ہے، اس کو اس پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ وہی بہر طور مرجح رہے گی اور یہ بات کچھ ہمیں نہیں کرتے کہ اصح اور اقوی کو صحیح اور قوی پر مقدم رکھتے ہیں، تمام عالم ہی کرتا ہے عقل اسی بات کی شاہد ہے، شیعہ ہر چند عقل سے کچھ غرض نہیں رکھتے۔ اسی طریق پر چلتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کریں تو پھر دین سے دست بردار ہوں، کیونکہ ان کے یہاں کے اختلاف کے برابر کسی مذہب میں اختلاف ہی نہیں، چنانچہ ناظران تحفہ اثنا عشریہ اور منتہی الکلام وغیرہ مصنفات مولانا حیدر علی پر پوشیدہ نہ رہے گا، اور قدر قلیل کچھ اس کا پتہ اس رسالہ میں سے بھی ملے گا۔

اور دور کیوں جائیے، مولوی عمار علی صاحب تو یوں فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے اور کوئی بیٹی ہی نہ تھی، اور کلینی بصراحت، اور نہج البلاغت بلکہ خود کلام ربانی تعدد نبات نبوی پر شاہد ہیں چنانچہ اوپر مفصل مذکور ہوا۔

تو اب ہم مولوی صاحب سے استفسار کرتے ہیں کہ (آپ اگرچہ جھوٹے ہیں، پر بزعم خود تو سچے ہی ہیں، اور معتقدوں کے نزدیک تو آپ کی بات سے پھرنا، خدا کی بات سے پھرنا ہے۔ تو آپ کی روایت بھی خواہ مخواہ آپکو صحیح ماننی پڑی، اور کافی کلینی خود اصح الکتب ہے اور نہج البلاغت بمنزلہ وحی آسمانی، اور قرآن خود وحی آسمانی ہے۔ پھر آپ نے بایں وجہ کہ خدا کے فرمودہ میں تو بدا کا احتمال ہے، اور کافی اور نہج البلاغت میں ائمہ کا قول اس بات میں منقول ہے، اور ان کے علوم، علم خداوندی اور علم نبی سے ماخوذ ہیں، اور نبی صلے اللہ علیہ وسلم بھی خدا ہی سے لیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے اقوال میں بھی وہی احتمال رہا، اور آپ کو نہ خدا سے واسطہ نہ رسول صلے اللہ علیہ وسلم سے واسطہ) آپ نے جو اپنے ہذیان اور بکواس کو کافی کی روایت اور حضرت امیر اور خدا کی شہادت سے اصح سمجھ کر مقدم رکھا، یہ ترجیح آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط؟۔

اگر صحیح ہے تو فہو المراد، ورنہ "چشم ما روشن دل ما شاد"، یہ بات تو آپ مانیں گے۔ کہاں میر آیہ[1] قول کہ، "سوائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بیٹی ہی نہیں"، غلط ہے۔ باقی اس ترجیح کو کہ صحیح اصح پر راجح ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہم مرجوح کر دینگے۔ جو نہج البلاغۃ میں مندرج ہے۔

الزموا السواد الاعظم فان ید اللہ علی الجماعۃ وایاکم والفرقۃ فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب

یعنی گروہ اعظم کے ساتھ رہو، اس لئے کہ اللہ کا ہاتھ بڑی جماعت کے سر پر ہے اور دیکھو مجمع سے الگ مت ہو، اس لئے کہ مجمع سے نکلا ہوا آدمی شیطان کے لئے ہے، جیسا کہ ریوڑ سے الگ رہی ہوئی بکری بھیڑیئے کے لئے ہوتی ہے فقط، سو بالفرض بفرض محال مولوی صاحب کی جھوٹی بات یعنی فقط حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی کا بیٹی ہونا اگر سچ بھی ہو تب مرتبہ صحت سے تو آگے چلنے ہی کی نہیں، پھر اس کو اصح اقوال پر ترجیح دینے میں تمام عالم سے علیحدہ ہونا ہے۔ سو اس وجہ سے شیطان کے زمرہ میں داخل ہونا مولوی صاحب کو مبارک سبحان اللہ

ہر کسے را بہر کارے ساختند   مہر او اندر دلش انداختند

شیعوں کو خداوند کریم نے غلطی ہی پر جمے رہنے کے لئے پیدا کیا ہے، جو ایسے ایسے براہین قاطعہ سن کر بھی باز نہیں آتے، اور جیسے اندھا دن کو بھی نور آفتاب سے فیضیاب نہیں ہوتا، یہ کوران دین بھی ان دلائل سے جو مثل آفتاب روشن ہیں مستفیض نہیں ہوتے، الغرض روایت مشکوٰۃ کے مرجح ہونے میں وہی متردد ہو سکتا ہے۔ جو دن کو آفتاب کے ہونے میں متردد ہوتا ہے۔

[1] یعنی مولوی عمار علی کا۔

شیعوں کی پیش کردہ روایت سے بشرط صحت بھی ہبۂ فدک ثابت نہیں ہوتا

لیکن ایسے محتی لاا تیوں کی حجت جواب بھی نہ مانیں ہمیں بھی ختم کر دینی ہے، اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سلمنا علماء شیعہ کی رائے غلط ہی صحیح سہی، اور روایت مشکوٰۃ کو روایت مندرجہ صحیحہ مولوی صاحب پر ترجیح نہ سہی، لیکن جھوٹی بات کسی طرح پاؤں نہیں چلتی، اب بھی شیعوں کی مطلب براری اس روایت سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو روایت اس مضمون کی شیعوں کی چالاکی سے بعضی گمنام کمیاب سنیوں کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہے، تب اس میں ایسا لفظ کوئی نہیں جس سے ہبہ ثابت ہو جائے، بلکہ لفظ اَعطٰی واقع ہے۔ جو ہبہ اور عاریت دونوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دفع تردد کے لئے اس روایت ہی کو بعینہ نقل کئے دیتا ہوں۔

صواعق محرقہ میں جو درباب ردّ روافض تصنیف ہوئی ہے، ابن حجر مکی کی دفضائل میں ابو بکر صدیق کے، اس روایت سے اگرچہ شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی فضیلت ہی نکلتی ہے اور شیعوں نے ہر چند طعن کی بات گھڑی تھی پر خوبی قسمت سے تعریف ہو گئی ہے گو مولوی صاحب اور ان کے اتباع کو وہ پھر بھی عیب ہی نظر آئے۔

؎ چشم بد اندیش کہ برکندہ باد ✧ عیب نماید ہنرش در نظر

خیر وہ روایت یہ ہے۔

اخرج الحافظ ابن شیبۃ اِنَّ زَیْدًا ھٰذَ الامام الجلیل قیل لَہٗ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ اِنْتَزَعَ مِنْ فَاطِمَۃَ، فَقَالَ اِنَّہٗ کَانَ رَحِیْمًا وَکَانَ یَکْرَہُ اَنْ یُغَیِّرَ شَیْئًا تَرَکَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاَتَتْہُ فَاطِمَۃُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِی فَدَکَ فَقَالَ ھَلْ لَکِ شَاھِدٌ فَشَھِدَ لَھَا عَلِیٌّ وَاُمُّ اَیْمَنَ فَقَالَ لَھَا رَجُلٌ وَامْرَاَۃٌ تَسْتَحِقِّیْنَھَا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰہِ لَوْ رَجَعَ الْاَمْرُ فِیْھَا اِلَیَّ لَقَضَیْتُ بِقَضَاءِ اَبِیْ بَکْرٍ۔

حاصل یہ ہے وہ حافظ عمر بن شیبۃ نے کسی سند سے بیان کیا ہے، کہ حضرت زید سے

جو امام جلیل القدر ہیں یعنی زید بن امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے فدک چھین لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ بڑے رحم دل ہیں (یعنی ان سے ایسا کام کب ہو سکتا ہے یہ تو سنگدلوں کا کام ہے وہ تو بڑے رحم دل تھے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انداز کے بدلنے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، اور اس کے بدلنے سے ان کو کراہت آتی تھی، سو حضرت فاطمہ ان کے پاس تشریف لائیں اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مجھکو فدک دے گئے تھا، سو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے، اس پر حضرت علی اور حضرت اُمّ ایمن نے گواہی دی، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے تو حق ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے بعد حضرت زید فرماتے ہیں کہ واللہ اگر یہ مقدمہ میرے یہاں رجوع ہو تو میں اس میں وہی حکم دوں جو ابو بکر صدیق نے حکم دیا۔ فقط،،

اب غور فرمائیے کہ یہ ہر چند افترا کردہ کذّابان شیعہ ہی جو بظاہر بحیلہ تقیہ متقی اور بباطن بدکردار تھے۔ لیکن موافق مثل مشہور ،، حق بر زبان جاری شود،، لفظ وَھَبَھَا جو صریح ہبہ اور تملیک پر دلالت کرتا تھا، واضعان روایت کو نہ سوجھا، لیکن تعریف صدیق اکبر صاف صاف کہنی پڑی، اور یہ تعریف بھی کیسی کچھ؟ اور وہ بھی امام زادہ سے، اور امام زادہ بھی کون؟ جو خود بھی جلیل القدر اور والد ماجد تو ہیں ہی،

خیر منصفوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر یہ روایت جملہ عیوب قادح اعتبار سے مبرا ہو، اور پھر ہمدرجہ روایت مشکوٰۃ بھی ہو تب بھی اعطاء سے بدو وجہ ہبہ ثابت نہیں ہوتا۔ اوّل تو یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب از قبیل مماشات مع الخصم، یعنی بطور تنزل اور تسلیم ہے۔ یعنی اگر تسلیم کیجئے کہ چھین ہی لیا تھا۔ تو اس کی فلانی وجہ بھی، مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس روایت سے ہبہ کا ثبوت نہ ہو گا، بلکہ انکار نکلے گا۔

لفظ عطاء ہبہ اور عاریت میں مشترک ہے، اس پر مسلمہ حدیث سے استدلال

دوسرے یہ کہ اردو میں اعطاء کا ترجمہ دینا ہے۔ سو جیسے ہبہ میں دینا اور اعطاء بولتے ہیں ایسے ہی عاریت
٣٨ میں بھی یہ دونوں لفظ دونوں زبانوں میں مستعمل ہوتے ہیں اور سند اس کی حدیث صحیح

مقبول الطرفین ہے، وہ حدیث یہ ہے۔ اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ یَوْمَ خَیْبَرَ لَاُعْطِیَنَّ الرَّایَۃَ غَدًا رَجُلًا یُحِبُّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَیُحِبُّہُ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ الخ مطلب یہ ہے کہ "غزوہ خیبر میں حضرت علی کے جھنڈا عنایت کرنے سے ایک روز پہلے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل کو لشکر کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور خدا و رسول صلعم کا محبوب ہے فقط"، اب غور فرمائیے کہ اس حدیث میں بھی اعطا، کا مادہ موجود ہے، پر کسی نادان کو بھی یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ جھنڈا ہبہ کر دیا، بلکہ جیسا دستور ہے کہ چپراس سپاہیوں کو، اور قلمدان وزارت وزیروں کو، اور خزانہ کی کنجیاں خزانچیوں کو دیدیا کرتے ہیں، اور وہ دینا بطور امانت ہوتا ہے اسی لئے جب ان کو معزول یا موقوف کر دیتے ہیں، تو یہ سب اشیاء چھین لیتے ہیں، ایسے ہی سپہ سالاران کو جھنڈے کا دیدینا بھی بوجہ دیانت ہوتا ہے خصوصًا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ اس زمانہ میں بلکہ اصحاب کرام کے زمانہ میں ہر مہم کیا ہر لڑائی کا ایک جدا ہی افسر ہوتا تھا، اور اس لڑائی میں تو خود سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات واکمل التحیات ہی سپہ سالار تھے، فقط لڑائی کے وقت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو اس قدر انبوہ کا افسر کر دیا تھا، جو مقابلہ پر بھی بھیجے گئے تھے، الغرض جھنڈا عطا کرنا بطور امانت تھا۔

اور جب عطاء اور اعطا امانت میں بھی مستعمل ہوا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِیْ فِدَکَ یعنی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے مجھکو فدک عطا فرما دیا ہے۔ باین معنے ہو کہ فدک مجھکو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے لئے مستعار دے رکھا ہے۔ اور محاصل اس کا میرے لئے معاف تھا۔ سو گو اس کو اپنا مملوک نہیں سمجھتی۔ لیکن آخر تم کسی نہ کسی کو اس کو یا اس کے محصول کو دوگے ہی، سو مناسب یوں ہے کہ ہمارے ہی پاس رہے۔ کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے بھی ہے، اور اس کے محصول کو ہم مدت سے کھاتے ہیں، تم اس کے محصول کو مثل محصولِ دیگر متروکہ نبوی علے صاحبہا الف الف صلوۃ وسلام

کے فقراء اور مساکین اور ابن سبیل پر تقسیم نہ کرو۔

اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے گواہوں کا طلب کرنا باوجودیکہ رحم دل تھے چنانچہ حضرت زید نے فرمایا ہے، اور رحم دلوں کا یہ کام نہیں کہ ایسی سنگدلی برتیں، اور وہ بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بنت رحمۃ اللعالمین صلے اللہ علیہ وسلم سے کہ جن پر مکافات رحمت پدری تمام عالم کو رحم کرنا چاہیئے۔ چہ جائیکہ ابوبکر صدیق جیسا با نیاز رحمدل) اس وجہ سے تصور فرمانا چاہیئے، کہ مثلاً قریب وفات سرور کائنات علیہ وعلے آلہ افضل الصلوۃ واکمل التسلیمات نے فدک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو برائے چندے مستعار عطا فرمایا ہو، پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ قصہ معلوم نہ ہوا ہو، بلکہ باین نظر کہ مدام فدک میں تصرف مالکانہ حضرت سرور کائنات صلے اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ہی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، بجائے خود یہ سمجھے ہوئے تھے کہ فدک بھی حسب ایما حدیث مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ کے (جس کا مذکور عنقریب ہی آتا ہے انشاء اللہ تعالےٰ) وقف عام ہے، اس میں اچانک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے یہ بات سن کے اس وقت جانِ صدیق رض عجب شکنجہ میں آگئی کہ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر ہوئے، رعایت رضا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک طرف، اور پابندی اتباعِ سنت نبوی علے صاحبہا الف الف صلوۃ وسلام جس کی طرف حضرت زید نے باین لفظ اشارہ فرمایا وَکَانَ یَکْرَہُ اَنْ یُغَیِّرَ الخ ایک طرف، اور دونوں جانبیں واجب الرعایت

مگر چونکہ رعایت جانب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا بھی مبنی وجوب اتباع نبوی واقتدار مصطفوی صلے اللہ علیہ وسلم ہی پر تھی، اور پاسداری قرابت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور فرضیت ہر چند بمراتب موکد ہے، لیکن لِمَ ادنکی یہی ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے "بمرگش گیر تا بہ تپ راضی شود"، تو جیسا کہ آیت لَا تَقُلْ لَّھُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْھَرْھُمَا میں ممانعت تو بظاہر ہوں۔ کہنے اور جھڑکنے سے ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ جب ہوں کہنے اور جھڑکنے سے رکیں گے تو گالی گفتار اور جوتی پیزار بدرجہ اولےٰ نہ ہوگی، تو

ایسے ہی یا سداری قرابت سے بھی مقصود یہی ہے کہ جب امور دینی میں بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی گوارا نہ کریں گے۔ تو امور اخرویہ میں تو بالاولی مطیع و منقاد رہیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا رسول کرکے بھیجنا اصل امور دینی کی اصلاح کے لئے ہے، خصوصًا حقوق مالی میں اور وہ بھی فدک۔ کہ بشہادت دستور نبوی صلے اللہ علیہ وسلم فقرا اور مساکین اور ابن سبیل کی حق تلفی کا فی الجملہ خلجان ساتھ لگا ہو۔ کیونکہ تادم آخریں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مصرف فدک رہے، معہذا اہل حق موقع رعایت میں رعایت والوں کو زیادہ دبایا کرتے ہیں۔ اس لئے انصاف والے اپنوں کی رعایت نہیں کیا کرتے، تو ان وجوہ سے مرجح اور موجہ یہی تھا کہ محاصل فدک میں دستور نبوی صلے اللہ علیہ وسلم کو ہرچہ بادا باد دستور العمل رکھئے۔

لیکن بحکم مَا لَا یُدْرَكُ کُلُّہٗ لَا یُتْرَكُ کُلُّہٗ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بسبب کمال اخلاص اور نہایت پاس و نیاز کے اس بات کے جویا ہوئے، کہ تا مقدور دلداری حضرت زہرا کی جائے، اور جس قدر بن سکے خاطر مبارک حضرت زہرا رضی اللہ عنہا پر میل نہ آنے دیجیے، بایں ہمہ اپنی غلط فہمی کا جدا احتمال۔ اس لئے طالب شہود ہوئے۔ تاکہ شاید کسی گواہ کی تقریر سے کوئی اشارہ نبوی اس بات کی طرف پایا جائے۔ کہ گو ترکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم وقفِ عام ہے لیکن پھر بھی مستعیر یا اقربا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اولی اور اقدم ہیں، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق بوجہ پاسداری قرابت نبوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے دو ٹوک بات کہنے میں متامل اور متردد تھے اور اپنا مافی الضمیر (یہ بات کہ میں وہی کروں گا۔ جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے) بلحاظ دل شکنی جگر گوشۂ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم آشکارا نہیں کہہ سکتے تھے۔

تو خدا ساز غیب سے تدارک ہوا۔ اور بحکم وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا "جو شخص خدا سے ڈرے۔ خدا اس کے لئے بلاؤں سے نکاسی کی صورت کر دے ہے" وہ لطیفہ غیبی پیدا ہوا کہ جس سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رنجش کا کھٹکا بھی جاتا

رہا، یعنے گواہ ملے تو ایک مرد اور ایک عورت ہی ملی، نصاب شہادت بھی پورا نہ ہوا، جو کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہے، بلکہ ایک عذر معقول ہاتھ آیا اور عذر معقول اہل عقل اور دینداروں کے نزدیک مقبول ہی ہوتا ہے وَالْمَعْذُرُ عِنْدَ کِرَامِ النَّاسِ مَقْبُوْلٌ اس لئے ہم بالیقین جانتے ہیں کہ یہ بات موجب مزید اقتدار حضرت ابوبکر صدیق نہیں تو باعث رفع رنج قلب پاک حضرت زہرا تو ضرور ہی ہوئی ہوگی،

چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جانا جو شیعوں کی کتابوں کے حوالہ سے عنقریب انشاء اللہ مذکور ہوگا اس بات پر شاہد ہے۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ قول وَاللّٰہِ لَوْ رَجَعَ الْاَمْرُ اِلَیَّ لَحَکَمْتُ فِیْھَا بِمَا حَکَمَ اَبُوْ بَکْرٍ یعنی واللہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس رجوع ہوتا تو میں وہی حکم کرتا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، بآواز بلند یہ کہتا ہے کہ حضرت زہرا کو حضرت ابوبکر سے کچھ ملال نہ تھا، اور تھا تو انجام کار باقی نہیں رہا، بلکہ مبدل بخوشی ہو گیا تھا ورنہ اگر ابوبکر صدیق سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس جہاں سے ناخوش تشریف لے جاتیں تو اہلبیت میں سے ایک بھی ابوبکر کو بھلائی سے یاد نہ کرتا، چہ جائیکہ ایسی بڑھ کے تعریف؟" القصہ اگر علمائے شیعہ کو ہمارا یہ کہنا کہ یہ روایت موضوع ہے مسلم ہو تو فبہا، ورنہ اس روایت میں کوئی بات خلاف اہل مذہب سنت کو نہیں پہنچتی، جو علمائے شیعہ دہن دریدہ ہو کر زبان دراز کریں۔ اور الزام اہلسنت کے لئے اس روایت کو زبان پر لائیں، ہاں اگر توجیہ وجیہ جو مذکور ہوئی نہ بن پڑے تو البتہ شیعوں کی فی الجملہ کچھ بن پڑے۔

لفظ عطا کو معنے ہبہ بنانے کی ناکام کوشش

مگر شاید علما شیعہ بعد تجسس بسیار و جد و جہد بیشمار یوں بات بنانے لگیں کہ ہرچند عاریت کے موقع میں اعطا رکا مستعمل ہونا مسلم، لیکن یہ معنے حقیقی ہیں اور عاریت معنے مجازی، اس لئے استعمال میں جب تک کوئی قرینہ صارفہ معنی ہبہ سے نہ پایا جائے تب تک معنے عاریت مفہوم نہیں ہو سکتے، سو اول تو یہ بات ہی غیر مسلم، مستدل و مدعی کو لازم ہے کہ دعوے بے دلیل زبان پر نہ لائے، ورنہ

ایک حرف خفیف لانسلم میں وہ دعوے مسترد ہو جائے گا۔

اور یہ بھی نہ سہی، جیسے علمائے شیعہ ایک دعوائے بے دلیل پیش کر کے بزعم خود اہلسنت کے سامنے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، ہم بھی ایک بے دلیل یوں دعویٰ کرتے ہیں، کہ یہ لفظ ان دونوں فردوں میں مشترک معنوی ہے، یا ان دونوں معنوں میں مشترک لفظی ہے اور یہ دعوے ایک وجہ سے بہ نسبت دعوی علمائے شیعہ معقول بھی ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع کہ میں مستعمل ہو، سو اس صورت میں ہر ایک معنی کے لئے کوئی قرینہ چاہیئے، جو دوسرے معنے سے صارف ہو۔

تعین معانی کے لئے قرائن کی بحث

معہذا یہ کچھ ضرور نہیں کہ قرینہ مذکور لفظی ہی ہوا کرے، اور وہ بھی لفظ کثیر المعنے کے پس و پیش ہی لگا ہوا ہو، بلکہ قرینہ کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ مخاطب کو فہم مطلب میں غلطی نہ پڑے، سو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بعد زیب دینے مسند خلافت اس بات کی تحقیق کی ہو، کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مملوکہ کیا کیا ہے، سو اس تحقیقات میں یہی متحقق ہو گیا ہو کہ فدک تادم بازپس مملوکہ مقبوضہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی رہا۔ بلکہ خود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور دیگر اہلبیت کے اقراروں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہو۔ اور ظاہر بھی یہی ہے۔ کیونکہ ایسی بات گھر ہی کے لوگ جانا کرتے ہیں۔

لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور خود اس کا بندوبست اور جمع خرچ کرنا چاہا، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بایں وجہ کہ مجھ کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہے، مزاحم حال ہوئی ہوں، اور اس حجت سے یہ غرض ہو کہ گو فدک ہمارا مملوک نہیں لیکن اولیٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے، اور اس کی آمدنی ہمارے ہی پاس آیا کرے، اب منصفان شیعہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بشہادت قواعد علم مناظرہ مدعی کے خصم کے لئے بھی تو احتمالات ممکنہ خلاف دعوائے مدعی ہی کفایت کرتے ہیں۔ سو اس احتمال کے امکان میں اہل عقل تو کیا امکان ہے جو انکار کریں؟ اور ایسے ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ بعد وقوع اس اجرا کے حضرت زہرا کا یہ فرمانا کہ مجھ کو رسول اللہ

صلے اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بجز عاریت اور کسی معنے پر محمول نہیں ہو سکتا۔ اور با وجود مملوک نہ ہونے کے پھر اتنا تحکم بوجہ ناز اہل بیت و نیاز صدیق اکبر جو خصوصاً اس موقع میں کہ رعایت بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے کہے اور کہے کے بھروسے ہر صحابی خلفاء پر تحکم کر لیتا تھا، چہ جائیکہ اہلبیت؟ اور ان میں سے بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور وہ بھی حضرت صدیق اکبر پر، کہ نیاز مند خاص اہلبیت تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین،

حضرت عمر کا بوجہ قرب مسجد حضرت عباس کے پرنالے کا توڑ ڈالنا، اور ان کا یہ تحکم کہ یہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا تم نے کیوں توڑا؟ اور پھر حضرت عمر کا اس پرنالے کو اپنے ہاتھ سے درست کرنا کتابوں میں مذکور ہے لیکن۔ ع:۔ ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مکانے دارد۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا یہ تحکم بر سر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بوجہ حدیث ما ترکنا صدقۃ جس کا ذکر قریب ہی انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ مجبور تھے، اور پھر گواہوں کی تقریر سے بھی کچھ عقدہ کشائی نہ ہوئی، کوئی اشارہ کسی قسم کا حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے دینے پر گواہوں کی تقریر سے ظاہر نہ ہوا۔

فدک کے لئے سیدہ کی شہادت بھی نامکمل تھی

معہذا گواہی بھی اپنی مقدار معین کو نہ پہنچی، اور اوپر بشہادت دستور نبوی شرکت فقراء اور مساکین اور ابن سبیل کی جس قسم اور جس مرتبہ کی کہی جائے، اس مال میں ثابت۔ القصہ روایت متنازع فیہا، اگر بپاس خاطر شیعہ ہم تسلیم ہی کریں! تو کوئی بات خلاف مذہب اہلسنت اور مناقض حدیث مشکوٰۃ اس روایت سے نہیں نکلتی۔ بلکہ الٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف نکلتی ہے۔ سو علمائے شیعہ اگر اس روایت کو موضوع سمجھیں تو فبہا۔ ورنہ اگر تسلیم کریں تو بجمیع اجزائہا تسلیم کریں۔

حضرت زید کے بارے میں دریدہ دہنی اور اسکا جواب

اور اگر یہ عذر نامعقول پیش کریں، کہ ہر چند یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن حضرت زید ہمارے عقیدہ کے موافق نعوذ باللہ منہا

کافر مرے ہیں، کیونکہ امامت حق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا تھا کہ وہ امام وقت تھے۔ اور امام ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے، پھر جو انہوں نے جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور جو شخص کہ امام نہ ہو اور بایں ہمہ دعوی امامت کا کرے، تو وہ بعینہ ایسا ہی ہے، جیسا کوئی نبی نہ ہو اور پھر دعوے نبوت کا کرے، سو جیسا وہ کافر ہے، بلکہ کافروں میں بھی اشد، ایسا ہی یہ ہے۔ پھر ان کی بات کا اپنے مذہب کی تائید میں کیا اعتبار؟ ہاں ہبہ ہونا فدک کا جو مخالف مذہب حضرت زید یعنی مذہب اہل سنت ہے البتہ مقبول ہوتا، لیکن اس کو توجیہ عاریت نے نہ چلنے دیا۔ تو اس کا جواب قاضی نور اللہ صاحب، سنیوں کی طرف سے آپ دے گئے ہیں، اس لئے ہم کو کیا ضرورت کہ حضرت زید کی بزرگی کے اثبات میں دردسر اٹھائیں؟ ان کی روایت نقل کئے دیتا ہوں، کہ ان کا لکھا شیعوں کے نزدیک وحی آسمانی سے بھی زیادہ ہے، مثل نوشتۂ تقدیر کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، قاضی نور اللہ صاحب مجالس المومنین میں فضیل بن یسار کے اقوال میں امالی شیخ ابن بابویہ سے نقل کر کے بروایت فضیل بن یسار ہی رقم فرماتے ہیں کہ "گفت[1] در محاربہ زید بن علی با طاغیانِ لشکرِ ہشام با او ہمراہ بودم، وچوں بعد از شہادت زید بمدینہ رفتم و بخدمت حضرت امام جعفر صادق رسیدم، آنحضرت از من پرسید کہ اے فضیل با عم من در قتالِ اہلِ شام حاضر بودی؟ گفتم بلے، انگاہ پرسید کہ چند کس را از ایشان کشتی؟ گفتم شش کس را، فرمود مبادا ترا شکے در استحلال خون ایشان باشد؟ گفتم اگر شکے دران میداشتم چرا ایشانرا می کشتم آنگاہ شنیدم

[1] ترجمہ از ناشر، "فضیل نے کہا کہ زید بن علی کی لڑائی جو طاغیان ہشام کے ساتھ ہوئی تھی میں اس میں شریک تھا حضرت زید کی شہادت کے بعد جب مدینہ گیا اور حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اہل شام کے ساتھ جو میرے چچا نے قتال کیا۔ تو اس میں حاضر تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس وقت آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے شامی قتل کئے؟ میں نے عرض کیا چھ آدمی۔ فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں ان کا خون حلال ہونے میں شبہ ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھے کوئی شک ہوتا تو میں ان کو قتل کیوں کرتا۔ اس وقت میں نے سنا کہ آنحضرت نے فرمایا۔ الخ

کہ آنحضرت گفت، اَشْرَکَنِیَ اللّٰہُ فِیْ تِلْکَ الدِّمَاءِ وَاللّٰہِ زَیْدٌ عَمِّیْ وَھُوَ وَاَصْحَابُہٗ شُھَدَاءُ عَلٰی مِثْلِ مَا مَضٰی عَلَیْہِ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ وَاَصْحَابُہٗ انتہی بلفظہٖ فارسی کا ترجمہ تو اکثر جانتے ہی ہیں پر عربی کا ترجمہ لکھنا پڑا۔ وہ یوں ہے، "خدا مجھکو ان خونوں کے ثواب میں شریک کرے، واللہ حضرت زید میرے چچا اور انکے اصحاب سب شہید ہیں، اور یہ سب قصہ ایسا ہی ہے۔ جیسا حضرت علی اور ان کے یاروں پر گذرا فقط"، اب حضرت امام ناطق بحق امام جعفر صادق کی اس تمنا اور اس تشبیہ کو دیکھنا چاہیئے! امام کے منہ سے جو لفظ نکلے تو سراسر صحیح ہے، سو اگر یہ تشبیہ صحیح ہو تو یہ معنے ہوں کہ حضرت زید کا حال حضرت امیر المومنین کے حال کے ہم پلہ تھا۔ تو اس صورت میں حضرت زید کا کافر ہونا تو غلط۔ البتہ زبدۂ اولیا اور عمدہ اتقیاء میں سے ہوں گے۔ ورنہ شہید ہونا کجا۔؟ اور پھر حضرت امیر کے حال کا ان کے حال سے مماثل ہونا تو محال ہی ہوگا؟ یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ عقیدۃً اور عملاً اور حالاً حضرت زید متبع اور مطابق حضرت امیر کے ہوں، فرق ہو تو مقدار ہی کا ہو۔ یعنے جیسے چھوٹی تصویر اپنے سے بڑے ذی تصویر کے ہر بات میں سوا مقدار کے مطابق ہے۔ حضرت زید بھی حضرت علی کے (سوائے عظمت اور زیادتی مراتب کے ہر بات میں مطابق ہوں، سو یہ فرق اور ائمہ میں بھی ہے۔ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق وغیرہم بلکہ حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین درجہ میں کون سے حضرت علی کے برابر ہیں۔؟

فدک کے بارہ میں حضرت زید کا قول ہی صحیح ہے بہر حال حضرت زید کی بات باون تولہ پاؤ رتی کی ہوگی خصوصاً ایسی اختلافی بات کہ جس میں بے غور لب کشائی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ سنی شیعہ دونوں کے قول کے موافق بالاتفاق اس خلاف میں ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے، بالجملہ روایت متنازع فیہا بالیقین موضوع ہے، اور بایں ہمہ موضوعیت جو سنیوں کی بعضی کتابوں میں پائی جاتی ہے، تو اول تو اس کا حال خوب مفصل معلوم ہو چکا، دوسرے اس روایت کو بفرض الزام شیعہ بھی درج کرتے ہیں کہ جو روایت تمہاری بنائی ہوئی اور تمہاری دستاویز اعتراض ہے، وہی روایت ہمارے مفید مطلب ہے

چنانچہ صواعق محرقہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل ہی میں اس کو لکھا ہے۔ پر جو الٹی کے سمجھن ہار ہیں۔ وہ الٹی ہی سمجھتے ہیں، اور بے سوچے سمجھے ایسے ایسے مواقع میں سے بھی لوگوں کے دھوکا دینے کو (جیساکہ مولوی صاحب نے کیا ہے) نقل کر دیتے ہیں چنانچہ مولوی عمار علی صاحب نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور پھر ہرگز شرم و حیاء پاس کو بھی نہیں پھٹکتی۔

شیعہ قرآن و حدیث کے کسی لفظ کے معنی متبادر مراد نہیں لے سکتے

اور اگر اس پر بھی علماء شیعہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئیں ! اور شرم کی آنکھیں بند کرکے یوں فرمانے لگیں کہ گو اعطاء بمعنے عاریت بھی آتا ہے لیکن تاہم متبادر معنی ہبہ ہی ہیں خصوصًا۔ اس روایت میں، تو اس کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ متبادر ہونا ہبہ کا لفظ اعطٰی سے اس روایت میں مسلم، لیکن اوّل تو شیعہ ملفوظاتِ ائمہ خصوصًا کلمات مرتضوی کے جو صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مدح میں صادر ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ اس رسالہ میں بھی منقول ہوئے ہیں، معنی متبادر ہی لے کر شیعہ ہونے سے دست بردار ہوں، اور ایسے ہی آیات قرآنی جو صحابہ کی مدح میں وارد ہوئی ہیں، ان کو اپنے معنے متبادر ہی پر رکھ کر بدل و جان معتقد ہو جائیں، اس وقت اگر ہم --- سے اس قسم کی درخواست کریں، تو فی الجملہ بجا بھی ہے۔ اگر وہاں وہ مان جائیں، تو خیر جوں توں یہاں ہم مان جائیں، دوسرے اگر معنے متبادر ہی ہر کلام کے لئے جایا کریں تو پھر یہ فرق باریک فہمی وغیرہ سراسر لغو ہو جائے، اور اکثر غلط فہمیاں درست ہو جائیں کیونکہ بیشتر سبب غلط فہمی کا یہ تبادر فہم ہوتا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے۔

اور اختلافات ائمہ اہلسنت اور ایسے ہی اختلافات باہمی مجتہدین شیعہ مبنی اس اصل پر ہیں، خاص کر اصولیوں اور اخباریوں کا اختلاف جو شیعوں میں باہم پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے، کہ اخبار ظاہرہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو معنی متبادر ہوتے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور اصولی اپنے عندیہ میں غور کرکے معنی مقصود شارع پر عمل کرتے ہیں، اور تبادر معانی ظاہر اخبار کا لحاظ نہیں کرتے، سو حضرت مولوی

عمار علی صاحب اگر اس روایت میں بوجہ تبادر معنے ہبہ ہم سے الجھنے کو تیار ہوتے ہیں، تو پہلے اپنے مذہب اصولیین سے دست بردار ہو کر اخباری بن جائیں۔ پھر ہم سے دو چار ہوں۔ اس وقت ہم بھی ناچار بحکم کَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ اس ردّ و کد سے (کہ عاقل کو ہر جگہ معنی متبادر ہی ملحوظ رکھنا چاہیئے، جیسے عوام کا کام ہے ؟ یا معنٰے محقق کی تحقیق ضروری ہے۔ جیسے محققین کا شیوہ ہے ؟) اعراض کرکے دوسری طرح مولوی صاحب کے کان کھولیں گے۔

روایت فدک منقطع ہے

اعنی ہم نے مانا کہ لفظ اعطاء کے معنی روایت متنازع فیہا میں یہی ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلّم نے فدک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ہبہ ہی کر دیا تھا۔ لیکن مولوی عمار علی صاحب بلکہ تمام علمائے شیعہ اس میں کیا ارشاد کرینگے کہ یہ روایت منقطع ہے، حضرت زید اس زمانہ میں کہاں تھے ؟ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے دعوٰے ہبہ فدک کیا ؟ یہ بات اگر بالفرض واقع میں وقوع میں آئی ہے۔ تو قریب وفات حضرت سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوت والتسلیمات ظہور میں آئی ہے۔ بلکہ متصل بعد وفات ہی۔ چنانچہ سب جانتے ہیں۔ سو اس زمانہ کے وقائع کا مشاہدہ اور ان کی روایت اور شہادت بجز صحابہ اور کسی کا کام نہیں۔

الغرض حضرت زید کا یہ قول ایک قول بے سند ہے۔ کوئی بات بے سندِ متصل لائق اعتبار نہیں، ہاں اگر حضرت زید شیعوں کے امام ہوتے تو علم غیب کی وجہ سے سنیّوں کو نہیں، تو شیعوں ہی کے نزدیک اُن کا قول حجت ہو جاتا ؟ پر شیعوں کے نزدیک تو مومن بھی نہیں، چہ جائیکہ علم غیب اور امامت ؟ ہاں منکرِ امامت امام وقت تھے۔ جس سے ولی بھی کافر ہو جائے، اور سنیّوں کے نزدیک گو حضرت زید اکابر اولیاء میں سے ہوں۔ لیکن تاہم آدمی ہیں۔ جب تک سند نہ ہو کیونکر معلوم ہو کہ انہوں نے جس سے یہ بات سنی ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں ؟ صحابہ کی ملاقات میں تو احتمال ہے، باقی رہے تابعین سو ان میں جھوٹے سچے نیک و بد سب طرح کے ہیں۔

اور اگر بالفرض کسی معمر صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی بھی تو بھی کیا لازم ہے کہ وہ صحابی اس وقت حاضر ہی تھے؟ یا ان کو کسی دوسرے صحابی سے یہ بات پہنچی ہی تھی، اور پھر حضرت زید نے بھی انہیں سے سنا ہو! احتمال ہے کہ جس صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ ان کو یہ بات معلوم نہ ہوئی ہو؟ اور اگر معلوم بھی ہو تو انھوں نے ان سے نہ سنا ہو بلکہ کسی تابعی سے سنا ہو؟ بلکہ زبان زد عوام ایک بات دیکھ کر اسی کے موافق نقل کر دیا ہو، یا بطور تسلیم قول معترضین یہ بات فرمائی ہو؟ بہرحال احتمالات چند در چند قادح اعتبار روایت موجود ہیں، پھر بایں ہمہ احتمالات کوئی کیونکر اس روایت کو دربارۂ دعوئے ہبہ فدک قبول کرلے۔

مشکوٰۃ کی روایت مرفوع متصل ہے | خصوصًا در صورتیکہ آیت اور روایت صحیح متصل بلکہ مرفوع اعنی روایت مشکوۃ اس کے مخالف موجود ہو، مگر شاید کوئی کم فہم اس کے وقوع ہونے میں اس وجہ سے کلام کرے کہ روایت مشکوۃ میں بھی عمر بن عبدالعزیز سے جو تابعی ہیں ایک روایت بے سند منقول ہے۔ کیونکہ وہ بھی تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود نہ تھے۔ سو گو ہم کو بعد غیر معتبر ہو جانے روایت متنازع فیہا کے اس روایت کا غیر معتبر ہونا مضر نہیں لیکن تاہم بپاس خاطر شیعہ اس کسر کو بھی مٹائے دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ روایت مشکوۃ میں ہر چند حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کا قول ہے۔ لیکن اس قول کو مغیرہ بن شعبہ جو صحابی ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔ اور صحابی کا ایسی بات کو بیان کرنا جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یا فرمایا ہے حکمًا مرفوع ہی چنانچہ واقفانِ اصولِ حدیث جانتے ہیں۔

معہذا قرینہ نقلیہ بھی اس بات کو تقاضا کرتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ فرمانا صحیح ہو۔ کیونکہ اس قول کو حجت (نہ لینے فدک کی) قرار دیتے ہیں، کوئی بات مفید مطلب اس سے ثابت نہیں کرتے، اور نہ لینے کے لئے جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک کا نہ دینا حجت ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا ہبہ کر دینا ہو سکتا ہے۔ سو اگر یہ قضیہ ان کے نزدیک صحیح نہ ہوتا۔ بلکہ الٹا ہبہ کا

کرنا صحیح ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ نقصان دنیا تو یوں کرتے کہ فدک کو دے دیا، اور نقصان دین یوں کرتے کہ جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی کس پر؟ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر! جس کی سزا میں جہنمی ہونے کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی متواتر، کیوں کہ حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص جان بوجھ کر میرے ذمہ کوئی جھوٹی بات لگا دے۔ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں کرلے، بالاتفاق محدثین کے نزدیک متواتر ہے، بلکہ متواتر باللفظ اگر ہے تو یہی ہے بہرحال اگر روایت حضرت زید بن علی بن الحسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم موضوع نہ کہیں، اور چشم پوشی کر کے یوں تسلیم ہی کر لیں، کہ واقعی یہ بات حضرت زید ہی کی فرمائی ہوئی ہے۔ تب اس کے آگے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تک مٹ گیا ہے۔

فدک تا دم آخر خاتم الانبیا کے تصرف میں تھا | معہذا جیسے علاماتِ صحتِ روایت مشکوٰۃ ظاہر ہیں، چنانچہ مذکور ہو چکا، ایسے ہی روایت متنازعہ فیہا کے (علاوہ بے سند ہونے کے) امارات کذب بھی ظاہر و باہر ہیں۔ کیونکہ باتفاق مورخین فدک تا دم بازپسیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبض و تصرف میں تھا۔ اور بے قبض ہبہ موجب ملک موہوب لہ نہیں ہوتا۔ واہب ہی کی ملک میں رہتا ہے۔ اور ملک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حال خود حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ بعد وفات وقف ہو جاتی ہے، پھر جو دربارۂ ہبہ گواہ طلب کئے، تو یوں کہیئے، ابوبکر صدیق کی دنیا کی ہوشیاری اور ان مسائل کی واقف کاری کے کہ جو امور دنیا میں مفید پڑیں۔ شیعہ بھی معتقد ہیں۔ جب نہ دنیا ہی ٹھیرا۔ تو ایسی مشکل راہ کیوں چلے جس میں اندیشہ ہار جانے کا ہو۔؟

کیونکہ اگر گواہ اپنی مقدار معین کو پہنچ جاتے تو پھر یہ عذر بھی بے جا تھا۔ کہ ہبہ بے قبض تمام نہیں ہوتا، ہر کوئی یوں جانتا کہ سارے نہ دینے کے بہانے ہیں۔ اگر یہ عذر قابل سماعت تھا۔ تو پہلے ہی کیوں نہ پیش کیا اور گواہوں کے طلب کرنے کو

شیعہ معمول تحقیق حق پر کرتے ہیں، تو اسکے بعد جو کچھ پیش آیا، وہ خواہ مخواہ عدل و انصاف ہوگا۔ کیونکہ حکم خداوندی ہی کے موافق عمل کیا ہے، کوئی قاعدہ نہیں گھڑ لیا، باقی بیں نے جو کچھ تقریر در بارۂ طلب گواہان لکھی ہے، اگر اس کو شیعہ تسلیم کر لیں تو ''چشم مار وشن و دل ما شاد'' ورنہ ان کی کوتاہ فہمی سے امید تو یہ نہیں۔

اگر فدک ورثہ تھا تو شخص واحد کا قبضہ بقیہ ورثاء پر ظلم تھا

علاوہ بریں جب بالاجماع یہ بات مقرر ہوئی۔ کہ فدک تادم آخر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبض میں رہا، تو باتفاق شیعہ وسنی اگر آپ نے ہبہ کیا بھی، تب بھی حضرت فاطمہ کی ملک میں نہ آیا پس حضرت فاطمہ جو شیعوں کے نزدیک معصوم اور ہمارے نزدیک محفوظ ہیں کہیں ایسا غلط دعوے کرتیں جس میں بہر حال حق تلفی خلائق ہے؟ اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث جاری ہوتی ہے تو وارثوں کی حق تلفی ظاہر ہے، ورنہ فقراء اور مساکین کی حق تلفی، یہ بھی نہ سہی بلکہ آپ کا ترکہ وقف ٹھہرا خلیفہ کو اختیار ہے جسے چاہے دیدے۔ پس اگر حضرت فاطمہ کے پاس آگیا۔ تو اور بھی اچھا ہے، لیکن اس طرح فن و فریب سے لینا فریب بازوں اور دنیا سازوں کا کام ہے

بہر حال علامات صدق روایت مشکوٰۃ اور امارات کذب روایت متنازع فیہا اہل فہم کے نزدیک تو ایسی روشن ہیں، جیسے اہل نظر کے سامنے آفتاب، یوں مولوی عمار علی صاحب یا ان کے اقران و امثال اگر نہ سمجھیں تو پھر ہمیں کوئی یوں نہ کہے کہ یہ کیا کہتا ہے، ان کے حسب حال پھر یہ شعر پڑھا جائے گا۔ ؎

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم ؛ چشمہ آفتاب را چہ گناہ

غرض روایت مشکوٰۃ کی وہ روایت ہم پلہ نہیں ہو سکتی جو اس کو چھوڑ کر اس روایت پر یقین کریں۔ بلکہ موافق قواعد مرقومہ بالا کے لازم ہے کہ بسبب تعارض روایت مشکوٰۃ کے (کہ وہ درحقیقت روایت ابوداؤد ہے، جو صحاح ستہ میں سے ہے اور صحاح ستہ کی روایات کی صحت اور قوت کو یہی بہت ہے کہ ان کا نام صحاح ہے) اس روایت کو جو حضرت زید کے نام لگا رکھی ہے، رد کریں۔

دعوئے ہبہ بغیر قبض مسلّم نہیں، علامہ حلی کا فرمان

اور سلمنا کہ روایت بھی صحیح اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ہبہ کا دعوائے کرنا بھی درست لیکن اتنی بات سنی و شیعہ کے نزدیک بالاتفاق مسلّم ہے کہ ہبہ بے قبض تمام نہیں ہوتا، تا وقتیکہ قبض و تصرف واہب کا رہے گا، اسی کی ملک بھی رہے گی، چنانچہ ارشاد علامہ حلی میں مطلب اوّل مقصد دعوے میں مرقوم ہے فَلَا نُسْمَعُ دَعْوَى الْهِبَةِ مُجَرَّدَةً عَنْ دَعْوَى الْقَبْضِ یعنی نہ سنا جائے گا دعویٰ ہبہ بے دعوئے قبض کے،، اور فدک بالاجماع تادم واپسیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبضہ میں تھا، آپ حین حیات تک فدک میں تصرف مالکانہ کرتے رہے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا دخل آپ کی زندگی میں نہیں ہونے پایا، اس بات میں مورخین طرفین، بلکہ محدثین فریقین متفق ہیں۔ مورخین کے اخبار کے لکھنے کی اول تو اس وجہ سے حاجت نہیں کہ کتب تواریخ پر ہر کسی کو عبور میسر آسکتا ہے، پر علم حدیث تک نوبت کسی کسی کی پہنچتی ہے۔ اکثروں کو مضامین احادیث کی اطلاع نہیں ہوتی۔ دوم تواریخ کی بات اعتبار میں احادیث کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔

دعوئے ہبہ فدک کے بطلان پر احادیث طرفین سے استدلال

اس لئے طرفین کی روایات احادیث ہی کی طرف اشارہ کئے جاتا ہوں، پہلے تو یہ وقف ہونے کے معنے میں ہی نہیں تراشتے، سنیوں کی روایت لیجئے، اول تو وہی روایت مشکواۃ جو مرقوم ہو چکی اس بات پر تبصریح شاہد ہے۔ دوسرے مشکوٰۃ ہی میں ابوداؤد کی حدیث بروایت مالک بن اوس بن الحدثان مرقوم ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے اس بات کے استدلال میں کہ مال فئے قابل تقسیم نہیں کچھ ایسا بیان کیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں جدا جدا مصرف کے لئے وقف رکھیں تھیں۔ بنو النضیر، خیبر، فدک، سو فدک کے مصرف کے بیان میں فرماتے ہیں، وَاَمَّا فِدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ یعنی فدک مسافروں کی خدمت گزاری کے لئے وقف ہے اب بحکم قواعد مناظرہ تو ہمیں اپنی ہی کتابوں کا حوالہ بہت ہے، کیونکہ ورود اعتراض کے

لئے ضروری ہے کہ ایسی بات ہو، کہ جس پر وہ اعتراض ہو، اس کے مسلمات اور مانی ہوئی باتوں کے خلاف ہو۔ اور درصورتیکہ اس کے مسلمات کے خلاف نہ ہو تو اعتراض اعتراض ہی نہیں۔ سو درصورتیکہ ہم نے اپنی کتابوں سے یہ ثابت کر دیا کہ فدک تا دم باز پسیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبضہ میں رہا اور پھر کتاب بھی ایسی معتبر، کہ حجت، منجملہ صحاح ستہ ہے، تو پھر از روئے دعوائے ہبہ اعتراض ہی لغو ہو گیا۔ کیوں کہ ہبہ بالاتفاق طرفین بے قبض موجب ملک ہی نہیں۔

لیکن معترض کا سکوت اور ہے، اور اطمینان کچھ اور، اتنی بات سے شیعہ ساکت ہو جائیں گے۔ لیکن بجائے خود سنیوں کی بات سے ان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لئے گذارش دیگر ہے، مجاج السالکین جو کتاب معتبر امامیہ ہے، اور نیز دیگر کتب معتبر امامیہ میں روایت ہے جس کا اس جگہ فقط مضمون ہی لکھے دیتا ہوں۔ عبارت بعینہا انشاء اللہ آئندہ مرقوم ہو گی۔ اس کا مضمون یہ ہے

"جب ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ان سے کھنچنے لگی۔ اور ملنا ملانا چھوڑ دیا، اور پھر فدک کے مقدمہ میں کچھ نہ بولیں تو یہ بات انہیں بڑی دشوار معلوم ہوئی۔ اسلئے یوں چاہا کہ انہیں راضی کیجئے، سو ان کے پاس جا کے عرض کیا، کہ اے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صاجزادی آپ کا دعوے سچا ہے پر کیا کروں، میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تمہارے خرچ کے موافق تمہیں دیکر اور عاملوں کی مزدوری دے کر جو کچھ بچتا تھا، اسے فقراء اور مساکین اور ابن سبیل میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا۔ تو اچھا اسی طرح کرتے رہو۔ جس طرح میرے باپ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، کہ لو میں قسم کھاتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ویسے ہی کئے جاؤں گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا قسم بھی کھاتے ہو کہ اس طرح ہی کرو گے؟ آپ نے مکرر عرض کی کہ قسم خدا کی میں اسی طرح کروں گا، اس پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے یوں فرمایا، کہ خدایا تو گواہ رہ، سو اس بات پر راضی ہو گئیں اور عہد لے لیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا خرچ

دے کے باقی کو فقراء اور مساکین اور ابن سبیل کو دیدیا کریں تھے فقط۔"

سنئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عذر کرنا کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے آپ کے حوالہ کرنے میں معذور ہوں، اور پھر حضرت فاطمہ کا اس میں کچھ انکار نہ کرنا، بلکہ یوں فرمانا کہ اچھا یونہی کئے جاؤ۔ اور پھر اس پر خوشی سے راضی ہو جانا، صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تا دم باز پسیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کا قبض و تصرف تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔

پس حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دعوئے ہبہ میں تکذیب نہیں کی۔ تصدیق ہی کی، لیکن قانون شرعی کے موافق عمل کیا، تاکہ آپ ناحق دینے کے وبال سے، اور حضرت فاطمہ ناحق لینے کے عذاب و نکال سے محفوظ رہیں، اور رہا انہیں جو گواہ طلب کئے۔ تو اسی لئے طلب کئے ہوں، کہ اگر گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی فدک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تو گو بسبب عدم قبض کے اب تک ان کی ملک میں نہیں آیا۔ لیکن پھر اولے یہی ہے، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالہ کیا جائے، پر اس کو کیا کیجئے کہ شہادت اپنے نصاب کو نہ پہنچی، اور بمجرد دعوے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ان کے حوالہ نہ کیا تو اسکی وجہ انشاء اللہ آگے مذکور کی جاوے گی، امیدوار باید بود۔

مگر شاید کسی شیعی مذہب کو یہ خلجان ہو کہ ابوبکر صدیق کی یہ احتیاط کہ حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے ہبہ میں بھی (اور ہبہ بھی حضرت فاطمہ کے لئے) وہی شرط قبض و تصرف ملحوظ رہی، کچھ دل کو نہیں لگتی، بلکہ از قبیل دغا و فریب معلوم ہوتی ہے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا تو اشارہ بھی کافی تھا، آپ کا اشارہ اور اوروں کا فعل تام بھی برابر نہیں ہو سکتا، سو اس وہم کو خدا ہی دل سے کھوئے تو کھوئے، یہ اسی قسم کا وہم ہے جو ہنود اور یہود اور نصاریٰ اور مجوس کے دل میں بہ نسبت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور خوارج کو بہ نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کھٹکتا ہے، ان مردودوں کو

بھی یہی گمان ہے۔ کہ یہ دعوئے رسالت اور امامت جو ان دونوں صاحبوں سے منقول ہے۔ ایک دنیا طلبی کا ڈھنگ تھا، کچھ دل کو نہیں لگتا۔ بلکہ از قبیل دغا و فریب معلوم ہوتا ہے۔ ع۔ بدگماں وہم کی دارو نہیں لقمان کے پاس۔"

دوستو! اہلِ عقل اور اہلِ انصاف سے بات کہکے ہر کسی کا دل شاد ہوتا ہے، پر جاہل نادان ناانصاف دریدہ دہن دراز زبان سے بات کہہ کے بجز اس کے کہ اپنا مغز خالی ہو، اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کا علاج تو دُرّہ ہے، یہاں حدیث و قرآن اور دلائل عقلیہ کا بیان نہیں چلتا، پر یوں سمجھ کر کہ جہاں چار نادان ہوتے ہیں، وہاں ایک عاقل بھی ہوتا ہے۔ مولوی صاحب سے امید فہم نہیں تو کیا سارے علماء شیعہ ایک ہی سانچے کے ڈھلے ہوئے ہیں؟ اپنا مافی الضمیر عرض کرتا ہوں۔

مسئلہ شہادت اور شاہدین کی تعداد پر محققانہ بحث۔

جناب من اگر یہ ماجرا اور یہ سرگذشت بلاکم و کاست اس طرح ہو جس طرح شیعہ گاتے پھرتے ہیں۔ اور بفرض محال حضرت ابوبکر صدیق نے گواہ طلب کئے ہی، تو اول تو اس کی وجہ کہ کیوں گواہ طلب کئے؟ مذکور بھی ہوئی ہے۔ دوم انشاء اللہ اور وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، لیکن درصورتیکہ یہ مقدمہ کسی وجہ سے ہو۔ گواہ طلب کرنے کے قابل ہو، تو بلا شبہ پھر گواہ گواہوں ہی کی طرح چاہیئے۔ نہیں تو مفت کا دردِ سر تھا۔ سو علماء شیعہ ہی فرمادیں، کہ گواہوں کی کیا مقدار کلام اللہ میں بیان فرمائی ہے؟ اور اس میں پھر کسی کی کچھ تخصیص بھی ہے۔ کہ فلانی قسم کے آدمی ہوں؟ تو پھر کچھ اس عدد اور اس کیفیت کی ضرورت نہیں، معہذا صدقِ نیت حضرت ابوبکر صدیق پر یہ بات گواہ ہے۔ کہ ان کی خلافت میں جو حضرت عثمان نے ان سے یہ بات کہی، کہ میں نے مرض وفات میں سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات سے حکم کے بلوالینے کی اجازت لے لی ہے، تو انہوں نے ان سے بھی گواہ طلب کیا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کچھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بزعم شیعہ کاوش بھی تھی۔ تو حضرت عثمان سے تو بزعم شیعہ وسنی محبت اور موافقت اور دوستی ہی تھی، پھر کچھ

دنیا بھی نہیں پڑتا تھا۔ شیعہ مذہب نہ تھے۔ جو تقیہ کا احتمال ہو، پھر جو حضرت عثمان سے انھوں نے گواہ طلب کئے۔ تو کیوں کئے؟ یہ باتیں کمال دیانت اور استقامت پر دلالت کرتی ہیں۔

لیکن شیعہ اپنی عداوت سے ناچار ہیں۔ کینۂ بیجا نے ان کا قلب تیرہ و تار کردیا ہے، حق و باطل کی تمیز نہیں رہی، اچھی باتوں کو بُرا اور بری باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ سو اس کا جواب تو ہماری طرف سے چھ سو برس پہلے شیخ سعدی کہہ گئے ہیں۔

؎ چشم بد اندیش کہ برکندہ باد ❊ عیب نماید ہنرش در نظر۔

باقی یوں کہنا کہ گواہ ثبوت دعوے کے لئے ہوتے ہیں۔ اور جب مدعی کی طرف سے خاطر جمع ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ گواہ طلب کئے جائیں، تو اس کی جوابدہی خدا کے ذمہ ہے۔ کیونکہ خدا ہی نے علی الاطلاق یہ حکم دیدیا ہے کہ بڑوں دو گواہ اعتبار نہ کیا کرو، یہ قانون سینوں نے نہیں گھڑ لیا۔ بہرحال خداوند کریم نے اہل بیت یا اصحاب یا کسی ولی یا صالح کا استثنا نہیں کیا۔ سینوں کو تو خدا کے اتباع سے کام ہے۔ شیعہ بھی اگر اتباع خداوندی کریں تو فبہا، نہیں اپنا سر کھائیں۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو سنی یہ حکم کاہے کو مانتے۔ کہ ابر کے دن اگر کوئی شخص چاند دیکھے اور اس کی گواہی بسبب تنہائی یا اتہام فسق و فجور قاضی قبول نہ کرے تو لازم ہے کہ وہ سب کے شریک حال رہے۔ اور روزہ رکھے، یا گرد و غبار میں محاق کے دو روز کے اعتبار سے اگر کبھی انتیسویں کا چاند ہوتا تو انتیسویں کو افطار کرلیا کرتے۔ علی ہذا القیاس صلحا اور علما یا صالحات عورتوں کی گواہی میں یہ قید لغو ہو جاتی بلکہ جن کفار کا صدقِ مقال تجربہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے نام کے مسلمانوں سے زیادہ سچے نکلتے ہیں ان کا کہنا خواہ ایک ہو یا زیادہ قبول ہوا کرتا، بالجملہ اس بات میں اپنے اطمینان کا اعتبار نہیں، پابندی قوانین مدِ نظر ہے، تاکہ امتحان عبودیت اور خود مختاری ہو جائے۔

ہاں حکمت اور مصلحت اس قانون میں البتہ یہی ہے کہ ثبوت حق ہو جایا کرے

سو اگر رائے پر حکام وقت کے چھوڑا جائے، تو اول تو اندیشہ ردّ و رعایت، دوسرے ہر کسی کو یہ دعوےٰ ہو سکتا ہے کہ میری بات قابل اطمینان ہے۔ پس جس صلح اور انتظام کے لئے حکام مقرر کئے جاتے ہیں، وہ صلح اور انتظام تو در کنار؟ البتہ فساد اور جنگ و جدال کی توقع ہے۔ اس لئے قانون کلی مقرر کر دیا جس میں اکثر مصلحت مذکورہ پائی جائے، سو برخلاف اس کے اگر کسی صورت میں کبھی مصلحت مذکورہ نہ بھی پائی جائے گی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

الغرض یہ وہم (کہ حضرت فاطمہ کے صدق مقال کے بالاتفاق شیعہ و سنی قائل ہیں۔ پھر کیا ضرورت ہوئی کہ گواہ طلب کئے گئے۔؟ اس مطالبہ گواہان سے حضرت فاطمہ کی طرف سے بدگمانی ٹپکتی ہے یا نادھندی کی بو آتی ہے، بسبب کوتاہ فہمی کے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں فہم والوں سے کلام ہے: نادانوں سے کام نہیں۔

سیدؤ تو ضابطۂ شہادت کی بہت زیادہ پابند ہوں گی

معہذا سب جانتے ہیں کہ مدار بزرگی اطاعت خداوندی پر ہے۔ چنانچہ کلام اللہ میں خود فرماتے ہیں اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰکُمْ یعنی بیشک اللہ کے نزدیک زیادہ تعظیم تکریم اسی کی ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہو، تو اس صورت میں لازم پڑا کہ ان قوانین کی رعایت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو زیادہ تر ہو۔ اور جو ان قوانین کی رعایت کرے وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو زیادہ محبوب اور اسکی آپ کے دل میں زیادہ جگہ ہو۔ سو حضرت ابوبکر صدیق کا گواہوں کا طلب کرنا بقرینہ آیت مذکورہ موجب نشاط خاطر مبارک حضرت زہرا رضی اللہ عنہا ہوا ہوگا۔ پھر نہ معلوم کہ شیعہ کیوں لڑے مرتے ہیں۔ یہ وہی مثل ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ تو راضی ہو گئے۔ پر قاضی جی راضی نہیں ہوتے۔

اور اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ گواہوں کا جھوٹا جاننا کچھ اور ہے اور ان کی گواہی کے موافق حکم نہ دینا کچھ اور ہے؟ جب تک کہ شہادت اپنی مقدار کو نہ پہنچے، یعنی دو مرد عاقل بالغ یا ایک مرد اور دو عورتیں بایں صفت موصوف نہ ہوں تب تک حاکم کو جائز نہیں، کہ ان کے کہے کے موافق مدعی کی ڈگری کر دے۔ اگرچہ کیسے ہی معتبر کیوں نہ ہوں۔ اور ان کے کہنے سے کتنی ہی تسلی کیوں نہ ہو جائے

سو اس حکم نہ دینے اور ڈگری نہ کرنے کو کوئی نادان ہی یوں سمجھے تو سمجھے۔ کہ گواہوں کی تکذیب کی، ہاں درصورتیکہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ایک مقدمہ میں موافق مدعی کے متفق اللفظ ایک بات کہیں، تو پھر بجز عدم اعتبار گواہان کے کوئی صورت ڈگری نہ کرنے اور مدعا علیہ سے قسم لینے اور مدعی کے دعوے کے نہ سننے کی نہیں۔ سو شیعوں کے کہے موافق اگر اس روایت کو ہم تسلیم بھی کر لیں تب ظاہر ہے کہ حضرت علی اور حضرت ام ایمن کی گواہی نصاب مذکور کو نہیں پہنچی بلکہ حضرت حسنین کی گواہی مل کر بھی (جیسا کہ جناب دروغ مآب مولوی عمار علی صاحب پخچر لگاتے ہیں) مقدار مذکور اور حد مسطور کو نہیں پہنچی کیونکہ دونوں صاحبزادے اس زمانہ تک نابالغ تھے۔

سو اس گواہی کے موافق حکم نہ کرنے میں یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اور ان کے گواہوں یعنی حضرت علی اور حضرت ام ایمن اور حسنین کو جھوٹا جانا، ہاں ان کی استقامت، شریعت اور سنت پر ثابت ہوتی ہے۔ لیکن نقصان فہم کا کچھ علاج نہیں، بیوقوفوں کی اصلاح انبیاء سے بھی نہیں ہوتی، ہم تو کس شمار میں ہیں۔ شاہد اس کا یہ ہے، کہ امام غزالی کی بعضی کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہے۔ کہ ایک بار حضرت عیسےٰ علیہ السلام کوہسار کی طرف بھاگے جاتے تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ ایسے افتان خیزان اس طرف کیوں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نادان آتا ہے، اس نے عرض کی کہ پھر آپ کو کیا اندیشہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ بیوقوفی کا کچھ علاج نہیں وہ کسی کے فیض صحبت یا برکت نصیحت سے زائل نہیں ہوتی، الٹے اسی کا اثر پڑ جائے، تو پڑ جائے فقط، اور کسی نے سچ کہا ہے۔ کہ ؎

لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ یُسْتَطَبُّ بِہٖ   اِلَّا الْحَمَاقَۃَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَھَا

یعنی ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ علاج ہے جس سے اس کے زائل ہونے کی تدبیر کی جاتی ہے پر حماقت ایسی بیماری ہے۔ کہ اس کا کچھ علاج ہی نہیں۔

منہج الکرامت کی روایت کے مطابق حضرت صدیق نے فدک سیدہ کو دے دیا تھا۔

اور اگر بایں ہمہ بیان واضح شیعوں کی دل کی گھنڈی نہ کھلے، اور حضرت صدیق جیسے صادق کی طرف گمان فاسد ہی رہے، تو لیجئے اب توزبان کو لگام دیجئے اور اپنا کام کیجئے، یہ روایت کتاب منہج الکرامت میں جو شیخ ابن مطہر حلی کی تصنیف ہے۔ موجود ہے۔ انہوں نے سنیوں کی طرف سے جواب شافی وکافی لکھ رکھا ہے۔ القصہ اہل سنت کو تخفیف تصدیع ہوئی۔ اور انھیں کی لاٹھی انہیں کا سر۔

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا۔ وہ روایت یہ ہے

لَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ اَبَابَكْرٍ فِيْ فِدَكَ كَتَبَ لَهَا كِتَابًا وَرَدَّهُ عَلَيْهَا

یعنی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو دربارہ فدک وعظ وپند کیا، تو ابوبکر صدیق نے فدک کی جاگیر کا کاغذ حضرت فاطمہ کے نام لکھ کر فدک انہیں کو ہٹا دیا فقط،، درصورتیکہ یہ روایت صحیح شیعوں کی ایسی معتبر کتاب میں جسکا نام منہج الکرامت اور پھر تصنیف ایسے علامہ کی جس کا نام ابن مطہر حلی ہو پائی جائے تو پھر سنیوں سے کیوں الجھتے پھرتے ہیں؟ اس روایت کے قربان جایئے۔ اس روایت نے تو شیعوں کو تین پانچ کے قابل نہیں رکھا۔ اب تک مولوی صاحب نے ہبہ اور میراث ہی کا دعوےٰ کیا تھا۔ وصیت یا بیع یا کسی عمل کی اجرت کا احتمال باقی ہے۔ سو ہماری طرف سے اس کی بھی اجازت ہے کہ لگتے ہاتھ ان وجوہ سے بھی طعن کرلیں کسر نہ چھوڑیں۔ سنیوں کا کچھ لحاظ نہ کریں، اول تو ان کو یہ روایت مل گئی ہے، دوسرے ان کی پشتی پر خدا ہی، جہاں اس روایت کا پتہ لگا دیا، آگے بھی وہ کام چلا دے گا۔

اب سننے کی بات ہے کہ مولوی صاحب ہر بات میں اپنی کتابوں سے جھوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور سنیوں کی کتابوں سے مات کھاتے جاتے ہیں، یہاں تک تو ناظرین کو معلوم ہی ہوگیا، اور آگے اور انشاء اللہ معلوم ہو جائے گا۔ سو سخنہائے گزشتہ کے دروغ ہونے سے علاوہ اب جس بات کا جتلانا مدنظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اول تو مولوی صاحب کا یہ طوفان دیکھئے کہ حضرت علی اور ام ایمن کی گواہی کا بیان لکھتے لکھتے یہ جولانیوں پر آئے کہ حضرات

حسنین کو بھی ساتھ سان لیا۔ یہ نہ شرمائے کہ الزام خصم کے لئے ضرور ہے کہ وہ بات لکھئے۔ جو اس کے نزدیک بھی مسلم ہو۔ سو مسلم ہونا تو معلوم؟ جو روایت کہ سنیوں کے نام لگا رکھی ہے حضرات حسنین کا نام تو اس میں بھی نہیں۔ اور اگر اپنے بہتانوں اور اپنے کتب خانوں کے بھروسے سنیوں کو الزام دیتے ہیں، تو یہ الزام تو مثل فوارہ انہیں کے سر پر پڑے گا، ورنہ یوں تو پھر ہر ہر بات ہر ہر شخص سے ہارینگے۔

حضرت عمرؓ پر عمار علی کا بہتان

دوسرے مولوی صاحب کا یوں رقم فرمانا کہ ابوبکر صدیق نے تو جاگیرنامہ حضرت زہرا کے نام لکھ دیا تھا، پر حضرت عمر نے پھاڑ ڈالا، مولوی صاحب نے کیا سمجھ کر لکھا ہے؟ یا بے سمجھے ہی لڑنے کو دوڑتے ہیں، سنیوں کی کتابوں سے اگر لکھتے ہیں تو سنیوں کی کتابوں میں تو اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ اور اگر اپنی کتابوں کے بھروسے پر زبان درازیاں ہیں تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ ،،جواب جاہلاں باشد خموشی،، سبحان اللہ ایسا مناظرہ کسی نے نہ سنا ہوگا، کہ اپنی کتابوں کے کیا۔ بلکہ اپنے خوابوں کے بھروسے دوسروں کو الزام کا ارادہ رکھیں، دوسرے منہج الکرامت کونسی سنیوں کی کتاب،؟ اور شیخ ابن مطہر حلی کون سے سنی؟ یا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی خالا کے بیٹے تھے؟ جو اتنا جملہ زائدہ یعنی پھاڑ ڈالنے کا قصہ ہضم کر گئے۔؟

مولوی صاحب تو نئے ہی مفتری ہیں، شیخ ابن مطہر حلی ان کے بھی پیشوا اور استاد ہیں، اور متقدمین سابقین میں سے ہیں، جو بات مولوی صاحب میں ماشہ بھر ہوگی۔ وہ ان میں من بھر سمجھنی چاہیئے، اگر اس بات کا جھوٹا سچا کچھ بھی پتہ ہوتا، تو وہ تو سوئی کو بھالا کر دکھاتے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہت سے شاگرد رشید استاد سے بڑھ جاتے ہیں، شیخ مطہر حلی میں ایک بڑا قصور رہ گیا تھا، وہ مایۂ عقل تو رکھتے تھے، پر چشم بد دور مولوی صاحب اس قصور سے بھی مبرا ہیں۔

حضرت صدیق کے حضرت جابر کو بغیر شہادت کے مال دینے کے وجوہ

اب مولوی صاحب کی یہ شکایت باقی رہی، کہ ابوبکر صدیق نے حضرت جابرؓ کی بات تو بے گواہوں کے مان لی، پر ستم تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی بات باوجود ایسے معتبر گواہوں کے بھی نہ مانی، سو اس کا

اول جواب تو یہی ہے کہ یہ روایت اگر سنیوں کی کتابوں میں ہوتی تو البتہ اس شکایت کا کم فہموں کے نزدیک محل اور موقع تھا ہو اس روایت کا سنیوں کی کتابوں میں ہونا نہ ہونا اور اس کا موضوع ہونا نہ ہونا دیکھنے والوں پر انشاء اللہ بخوبی واضح ہو جائے گا۔ اور بے اسکے کہ سنیوں کی کتابوں میں یہ روایت پائی جائے یہ شکایت کرنی اپنی فہم و فراست کی خوبی بیان کرنی ہے۔

اگر یہی الزام ہوا تو کل کو سنی پنڈتوں کی پوتھیوں اور سکھوں کی گرنتھ اور یہود و نصاریٰ کی تورات و انجیل محرف کے لکھے ہوئے سے ملزم ہو جائیں گے؟ اور ان کتابوں کی باتیں مان جائیں گے، اور شیعوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا سب طرف لیکھا ہے۔ ہندو یا سکھ بن جاتے ہیں تو انہیں کچھ نقصان نہیں، اور یہود و نصاریٰ کے ہم مذہب ہو جاتے ہیں، تو انہیں کچھ زیاں نہیں، اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا۔ تو بتلا دیتا کہ شیعوں کو ان سب کے ساتھ ایسی نسبت ہے، جیسے حیوان مشہور مسمی بہ اشتر گاؤ پلنگ کو اونٹ اور بیل اور چیتے سب کے ساتھ نسبت مشابہت ہے۔

اور سلمنا کہ یہ روایت سنیوں کی ان کتابوں میں جن کا حوالہ مولوی صاحب دیتے ہیں کسی ایک دو نسخہ میں ہے بھی؟ تو اول تو وہ کتابیں غیر مشہور اور غیر معتبر، دوسرے وہ بھی شیعوں کا الحاق ہے، چنانچہ تحقیقات مسطورہ بالا کو دیکھ کر ناظرین کو انشاء اللہ شبہ نہ رہے گا۔ اور بایں ہمہ پھر وجہ طلب گواہاں معلوم ہو چکی ہے، اس کے ملاحظہ سے آپ واضح ہو جائے گا کہ حضرت جابر کا قصہ (یعنی ایسے مال کا بے شاہد دے دینا جو ایسوں ہی کے دینے کے لئے ہے۔ اور قسم کا ہی اعتبار کر لینا) اس کو حضرت فاطمہ زہرا رضی کے قصہ کے ساتھ (جس میں بے تحقیق دیدینے میں اندیشہ حق تلفی فقراء و مساکین و ابن سبیل تھا) کچھ نسبت نہیں۔ جو اس کو اس پر قیاس کیا جائے یعنی گواہوں کا طلب کرنا قضیۂ فدک میں ہو سکتا ہے۔ کہ بوجہ خیر خواہی حضرت فاطمہ رضی زہرا ہو۔

تفصیل اس اجمال کی ہر چند معلوم ہو چکی، پر نا انصافوں سے کام پڑا ہے۔ اس لئے مکرر عرض ہے، کہ باتفاق شیعہ و سنی اس میں تو کلام ہی نہیں کہ تادم بازپسیں

فدک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبض و تصرف میں رہا، پھر جب ابو بکر صدیق کو یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ متروکہ انبیاء وقف ہو جاتا ہے۔ اور ہبہ بے قبض مفید ملک نہیں ہوتا۔ تو اس میں تو کلام ہی نہ تھا۔ کہ یہ چیز حضرت فاطمہ زہرا کی ملک تو نہیں، پھر جو گواہ طلب کئے جائیں تو اس لئے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تحقیق ملکیت مد نظر تھی۔ جو کسی نادان کو یہ شبہ پڑے کہ ہائے افسوس حضرت فاطمہ کی بات تو گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو، اور جابر کی خبر بے گواہوں کے سنی جائے۔ اور بے تکرار مسلم ہو۔ بجز اس کے اور کوئی احتمال نہیں کہ شاید گواہوں کی تقریر سے کوئی اشارہ نبوی اس جانب پایا جائے، کہ فدک کو حضرت زہرا ہی کو دیدینا چاہیئے۔ اب کوئی عاقل غور کر کے فرمائیں۔ کہ یہ بات حضرت فاطمہ کی دوستی اور خیر خواہی کی بات ہے یا دشمنی اور بدخواہی کی۔

حضرت جابر کو نہ دینے میں خلاف وعدہ کا احتمال آنحضرت کی طرف عائد ہوتا ہے

مگر مولوی صاحب کی عقل تو حاشیہ نشین لے اڑے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہ زہرا رض کا اعتبار نہ ہوا، اور حضرت جابر کا اعتبار ہوا معہذا حضرت جابر کے نہ دینے میں یہ احتمال تھا کہ ہر خبر جھوٹی تو ہوتی ہی نہیں۔ اگر واقعی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ان کو اس وعدہ کے موافق نہ دیا جائے گا تو ایک گونہ خلاف وعدہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف عاید ہو گا۔ اور یہ خلاف وعدگی ہر چند مجبوری تھی کیونکہ تادم آخر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بحرین نہ آیا۔ لیکن شان نبوت بہت رفیع ہے اور پھر نبوت بھی کس کی نبوت؟ اس مرتبہ رفیع پر اتنا قصور بھی نازیبا ہے خصوصاً جب یہ لحاظ کیا جائے۔ کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم روضۂ مبارک میں زندہ، اور حضرت ابو بکر بمنزلہ داروغہ آپ کے کارکن، اور مال بحرین موجود، اگر واقع میں وعدہ وقوع میں آیا ہے۔ اور درصورت طلب گواہاں حضرت جابر کے پاس گواہ نہ نکلے؟ کیونکہ کچھ ضروری نہیں کہ کسی کے سامنے ہی وعدہ کیا ہو، تو اس صورت میں لاریب عاقلوں کے نزدیک اخلاف وعدہ بجانب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عاید ہو گا۔

القصہ مقتضائے احتیاط ایسے امر میں یہی تھا کہ بے طلب گواہان ان کا مطالبہ

پورا کیا جائے۔ اگر وعدہ واقعی تھا تو فبہا۔ ورنہ کچھ نقصان نہیں، آخر وہ مال صحابہ ہی پر تقسیم ہوا۔ بخلاف فدک کے کہ اس کے دینے میں لاریب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نظر آتی تھی، بسبب قبضہ مستمرہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کہ تا دم آخر فدک مملوک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی۔ تو وہ بمقتضائے حدیث مَاتَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ کے جس کی تحقیق کا ہم وعدہ کرتے چلے آتے ہیں، اور اب انشاء اللہ تعالےٰ بہت ہی قریب اس کا ذکر آتا ہے، وہ وقف ہو چکا تھا۔ کسی بیٹا بیٹی یا بھائی برادر بیوی باندی کا اس میں حق نہ تھا۔ پھر اس کو کسی کے دعوے کے باعث دے دینا۔ اس حدیث کے موافق عمل نہ کرنا ہے۔ مگر مولوی صاحب کے مذہب میں جو ارشادات نبوی پر چلے، اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ایفاء وعدہ اور اداء قرض کا بے وصیت خیال رکھے۔ اس سے برا کوئی نہیں۔ آپ عمل نہیں کرتے۔ پھر جو عمل کرے گا، وہ آپ برا لگے گا۔

اہلِ انصاف کے نزدیک تو اتنی بات بھی (کہ بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے۔ اور مال بحرین آیا، تو انہوں نے یہ منادی کردی کہ اگر کسی کا کچھ قرض رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہو، یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ وعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اسکو بھگتا دیں گے اور پھر بے دستاویز بے گواہ دینا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت جابرؓ نے اسی منادی کے باعث پندرہ سو کما لئے۔) اس بات کے لئے دلیل کامل ہے کہ ابوبکر صدیقؓ کو حق تلفی اہلبیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خطرہ بھی نہیں گذرا، چہ جائیکہ کوئی چیز دبالیں۔ کسی عاقل کے تصور میں آسکتا ہے کہ جو شخص فقط اس خیال پر کہ مبادا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کسی کا قرض رہ جائے یا آپ کی بات میں فرق آجائے۔ بے تحقیق تھیلیوں کا منہ کھولدے۔ ایسا کھلا ہوا حق پھر وہ بھی جگر گوشۂ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے دبا بیٹھے۔

علاوہ بریں نہ آپ کھایا نہ اپنوں کو کھلایا، بلکہ بدستور قدیم اہل بیت اور مصارف مقررہ میں صرف کیا۔ اور مفت دنیا کی ملامتیں اور بار عذاب آخرت سر پر لیا، کوئی حضرات

شیعہ سے پوچھے، کہ ابوبکر جیسے ہوشیار کو کہ جس کی ہوشیاری کی قسم کھائی جائے غصب کرنا بھی نہ آتا تھا اور ان سب کو جانے دیجیے۔ ایسا فرق لیجیے۔ کہ اہل عقل حضرات ابوبکر کی فہم و عقل پر آفرین اور علماء شیعہ کی کجیٔ عقل اور بلادت طبع پر نفرین کریں۔ وہ فرق یہ ہے کہ دعوے ہبہ فدک جو حضرت زہراؓ سے بزعم شیعہ ظہور میں آیا، تو سنیوں کے طور پر تو منشاء حدیث صحیح مَاتَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ کے جس کا عنقریب انشاء اللہ ذکر آتا ہے۔ معارض اور مخالف تھا، اور شیعوں کے طور پر استحقاق ورثہ نبوی کے مناقض، اور دعوائے جابرؓ کے کوئی استحقاق یا کوئی حدیث معارض اور مخالف نہ تھی۔ کیونکہ جس مال میں سے انکو دیا گیا۔ وہ مال کسی کے ترکہ کا نہ تھا، اور نہ کوئی حدیث اور نہ آیت اس کے بیان تصرف کے لئے نازل یا وارد ہوئی تھی، بلکہ وہ مال یا خمس یا عشر یا خراج کی قسم کا تھا سو حضرت جابر بہر طور اس کا استحقاق رکھتے تھے۔

اور یہ بھی اہل عقل پر ظاہر و باہر ہے کہ گواہ تعارض کے رفع کے لئے ہوتے ہیں۔ اور ایک جانب راجح کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے دو متخاصمین کے رفع مخاصمت کے لئے گواہوں کی ضرورت پڑی، اور در صورتیکہ کوئی خبر یا دعویٰ بلا مزاحم عقلی یا نقلی، یا خبری یا عیانی کے پایا جائے۔ اور مخبر اور مدعی بھی مومن مسلمان ہو، تو پھر حکم نبوی یہ ہے کہ ظُنُّوا الْمُؤْمِنِیْنَ خَیْرًا۔ اب التماس یہ ہے کہ حضرات شیعہ اگر دو چار گھڑی کے لئے کسی سے عقل مستعار لے کر اس فرق میں غور فرمائیں، تو اس فرق کے مان جانے میں کچھ کلام نہیں، ورنہ ایسے ہی عقل کے دشمنوں کے لئے کلام اللہ میں اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ آیا ہے۔ اگر بوجہ یاد نہ ہونے کلام اللہ کے یہ خطاب کان تک نہیں پہنچا۔ تو یہ سفارت ہمیں کرتے ہیں۔

جب نوبت یہاں تک پہنچی، تو اب یہ اور التماس ہے، کہ دقیقہ سنجان معانی رس پر تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا، کہ حضرت جابر سے گواہوں کا طلب نہ کرنا، چنانچہ روایات صحاح میں موجود ہے۔ اور نیز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے گواہوں کا طلب کرنا، اگر بالفرض والتقدیر بفرض محال جیسے حضرات شیعہ فرماتے ہیں، واقع میں وقوع میں آیا ہو؟، تو

حضرت ابوبکر صدیق کی کمال فہم، اور نہایت اطاعت واتباع رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے، اگر یہ دونوں باتیں معیوب ہیں، تو مولوی صاحب ابوبکر صدیق پر بایں وجہ طعن کرنے میں معذور رہیں، اور لاجرم طاعنانِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصیب بصواب اور ماجور رہیں لیکن اس صورت میں بڑی تعریف کی بات یہ ہوگی، کہ فلانا بڑا گدھا ہے اور سرتاپا بیوقوف ہی فسق وفجور میں یکتائے روزگار، دروغ وبدماغی میں مشہور ہر کوچۂ بازار۔

سو اس صورت میں ہم کو مولوی صاحب کی تعریف کرنی لازم ہے مگر نظم تو سر دست بن نہیں پڑتی، ملازمان مولوی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے، کہ آپ عنایت فرماکے یہ قدر قلیل نثر ہی قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ اس فہم وفراست پر اصحاب کبار پر یہ زبان درازیاں؟ پھر اس پہ یہ دھوکے بازیاں؟ کہ عوام کو ایک بار تو یہی یقین ہوجائے کہ مولوی صاحب کی بات سراسر بجا ودرست۔ اعنی آپ میر نادر علی صاحب کو رقم فرماتے ہیں "اب فرمائیے یہ غصب نہیں تو کیا ہے۔ سوا اس کے اور غصب کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ عداوت ہے یا دوستی؟ اور مروت اور رعایت حق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم؟ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ اہل بیت کی دشمنی میں حق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بھی رعایت نہ کی، آپ نے لکھا تھا۔ مجھے غصب فدک کی کسی سے صحت نہیں ہوتی۔ اب آپ کو چاہیئے کہ میری صحت علمأ اہلسنت سے کرائیے، اور میری باتوں کا جواب لکھوا کر بھجوائیے۔ کہ کیا سبب ہے کہ جابر کو سچا جانا اور فاطمہ کو جھوٹا سمجھا؟ اور اس مظلومہ کے گواہوں کو بھی رد کیا انتہی بلفظہ"، سو منصفان فہمیدہ اور فہیمان سنجیدہ کی خدمت میں یہ عرض ہے، کہ مولوی صاحب کو میرے لکھے ہوئے جواب سمجھا کر یہ سمجھا دیں کہ دیکھو یوں جواب لکھا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا کچھ علاج نہیں، کہ مولوی صاحب کی یہ درخواست ہے کہ میری صحت علماء سنت سے کرائیے۔ مولوی صاحب تو سراپا غلط ہیں۔ غلط کا صحیح کرنا اور صحیح کہنا سنیوں کو نہیں آتا، ہاں غلط کی جگہ صحیح بنا سکتے ہیں۔ اس لئے اتنا ہوسکتا ہے، کہ ملازمان مولوی صاحب سے یہ کہا جاوے،

کہ مولوی صاحب غلط ہیں، جب ہی تو اپنی صحت کراتے ہیں۔ ظاہر وباطن سے صحیح علماء اہل سنت ہیں۔ اگر ہدایت منظور ہے تو غنیمت سمجھو

خیر یہ قصہ تو بہت دور دراز ہے۔ مولوی صاحب کی ہذیانات بے معنے کا جواب چاہیئے۔ اور ان کی حقیقت الامر کھول کر دکھلایئے، تاکہ معلوم ہوجائے کہ مولوی صاحب اپنے ہوش میں نہیں۔ اس بیداری میں جو اوروں کے خواب سے بدتر ہے۔ مولوی صاحب بڑے برّاتے ہیں، ورنہ عقل کا کام نہیں، کہ باوجود ایسے ایسے دلائل واضحہ کے جن کا مذکور ہوچکا۔ پھر بھی غصب فدک کا ان کے دل میں خیال آئے، اور ابوبکر صدیق جیسے عادل متقی اور مطیع خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم ٹھیرائے، ابوبکر صدیق کے پاس اگر اور فضائل گوناگوں نہ ہوتے تو یہی حکایت ان کی فضیلت کے لئے بہت تھی، کیونکہ عاقل سمجھتے ہیں۔ کہ ملامت دنیا خاص کر اہل عزت سے بے سبب نہیں اٹھائی جاتی۔ دیندار دین کی عزت اور دنیادار دنیا کی عزت کو جان ومال سے عزیز سمجھتے ہیں، اور عزت بھی عزیز نہ ہو تو پھر کونسی چیز عزیز ہوگی، اسی کا عزیز ہونا ہے، کہ عورتیں باوجودیکہ مرد نہیں نامرد ہیں۔ غیرت کے پتے جان کو تلف کردیتی ہیں، اور ڈوب مرتی ہیں، یا زہر کھا لیتی ہیں، مردوں کا تو کیا ذکر؟

ابوبکر صدیق کا جان بوجھ کر بدف تیر ہائے ملامت ناکسان ہونا کیونکہ ایسے مواقع میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہی انجام ہوتا ہے۔ بجز اس کے نہیں ہوسکتا ہے، کہ پابندی خداوند عالم اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے مجبور تھے، ورنہ جو شخص نہ خود کھائے۔ نہ اپنوں کو کھلائے۔ کاہے کے لئے کسی کی چیز دبائے؟ ایسا شخص اگر ایسے موقع میں ایسے شخصوں سے تو گواہ طلب کرے۔ اور حضرت جابرؓ سے طلب نہ کرے۔ رقطع نظر وجوہ مذکورہ بالا کے) بجز اس کے اور کوئی احتمال نہیں ہوسکتا۔ کہ انصاف اور اہل انصاف کو لازم ہی ہے۔ کہ رد ورعایت کے موقع میں زیادہ تشدد اور سخت گیری سے پیش آیا کریں۔ اور غیروں سے بہ نسبت اپنوں کے نرم رہا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے اقربا کی رد ورعایت نہ کرنے میں بوجہ محبت فقط اپنا دل

ہی دُکھا کرتا ہے۔ کچھ اندیشہ ملامت نہیں ہوتا۔ بلکہ امید کلمۃ الخیر ہوتی ہے اور اپنے پیرزادوں اور بزرگ زادوں کی رورعایت نہ کرنے میں مریدان جان نثار کا بوجہ محبت دل جدا دکھا کرتا ہے۔ اور بوجہ اندیشہ ملامت جان پر جدا ہی بنا کرتی ہے۔

سو جب اپنے قرابتیوں کی رورعایت نہ کرنی اور غیروں سے نرمی برتنی محمود خلائق ہوئی، تو پیرزادوں کی رورعایت نہ کرنی اور بھی زیادہ سمجھنی چاہیئے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی پیرزادی ہو، کہ نہ اس رتبہ کا کوئی پیرزادہ ہوا ہے، نہ ہو، اور ابوبکر صدیق جیسا مرید ہو جس کی صدق و وفا اور جاں نثاری اور الفت اور محبت اور خدمت گذاری کے کلام اللہ اور اقوال عترت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم چنانچہ گذرا، دو گواہ عادل کیا۔ بلکہ اس بات کے گواہ ہوں کہ ایسا یار وفادار نہ کوئی ہوا ہے۔ نہ ہو۔ کیونکہ ایسے رتبہ والے ایسے ویسے کی ایسی تعریف نہیں کیا کرتے۔ تو اس صورت میں حکم خداوندی پر قائم رہنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مرد کا کام ہے، نہ وہ ہوں نہ اتنی دشواری۔ اور اس قدر ملامت عوام کالانعام اور دشنام ہائے خبیثان نافرجام اپنے سر پر اٹھا ہیں، پر زور ہے شیعوں کی عقل پر کہ ان کو خوبیاں بھی برائی ہی نظر آتی ہیں۔ ؎

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد ❊ عیب نماید ہنرش در نظر

مطیعان خدا پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں ❊ سمجھتے ہی نہیں یہ رافضی انکو خدا سمجھے

شیعوں کی اہلبیت سے اور نصاریٰ کی حضرت عیسےٰ سے ایک جیسی محبت ہے

طرفہ تماشا ہے کہ بیدین دینداروں پر بے دینی کی تہمت لگائیں، اور مخلصانِ قدرشناس کو مقلدیانِ عبداللہ بن سبا یہودی دشمن اہل بیت بتائیں۔ اگر قدرشناسوں سے حد سے گذر جانے والے ۔۔۔ بڑھ جایا کریں، اور قدرشناس دشمن سمجھے جایا کریں؟ تو نصاریٰ حضرت عیسےٰ کے محب اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت حضرت عیسےٰ کی دشمن ہونے چاہئیں۔ غور کر کے اگر دیکھیں، مفرط فی المحبت اس کا محب نہیں جس

کی محبت کا مدعی ہوتا ہے۔ بلکہ اپنی خیالی تصویر کا محب ہوتا ہے، نصاریٰ جو دعوئی محبت حضرت عیسےٰ علیہ السلام کرتے ہیں، تو حقیقت میں ان سے محبت نہیں کرتے۔ کیونکہ دار و مدار ان کی محبت کا خدا کے بیٹا ہونے پر ہے۔ سو یہ بات حضرت عیسےٰ میں تو معلوم؟ البتہ انکے خیال میں تھی۔ اپنی تصویر خیالی کو پوجتے ہیں۔ اور اسی سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسےٰ کو خداوند کریم نے ان کی واسطہ داری سے برطرف رکھا ہے۔

ایسے ہی شیعہ بھی اپنی خیالی تصویر سے محبت کرتے ہیں، ائمہ اہلبیت سے محبت نہیں کرتے، اس محبت پر محبان قدرشناس کو دشمن اہلبیت سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا نصاریٰ بزعم خود رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دشمن عیسےٰ سمجھتے ہیں، دشمنیٔ اہل بیت تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دختران مطہرہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی بیٹیاں ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ کلام اللہ اور احادیث کلینی وغیرہ اور اقوال حضرت امیرؓ اس بات پر شاہد ہیں۔ اور حضرت عائشہ محبوبۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ممدوحہ جناب کبریا کو جن کی طہارت اور بزرگی میں سورہ نور میں آیات متعددہ موجود ہیں، اور سوا ان کے اور بیبیوں کو جو بشہادت آیہ کریمہ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ تمام مومنین کی مائیں ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ عم بزرگوار سید الابرار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الجبار القہار کو اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جو سوا اس کے اور بھی ناتے رکھتے ہیں، اور حضرت سید الشہدا شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے داماد مصعب بن زبیر اور حضرت عمر فاروق داماد حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت زید شہید فرزند سعید حضرت امام ہمام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور سوا ان کے اور اقربا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور اولاد امجاد ائمہ اطہار کو جو بشہادت لفظ عترت اور اہل بیت میں داخل ہیں۔ شیعہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں اور دشنام ہائے نافرجام دیتے ہیں۔

چنانچہ کچھ کچھ اوپر گذرا، پھر ان بے حیاؤں کو غیرت نہیں آتی کہ صحابہ کو دشمن اہلبیت بتاتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق کو حضرت فاطمہ سے عداوت ہوتی تو اہل سنت میں سے ابوبکر

صدیق کا کوئی نام بھی نہ لیتا یا مثل خوارج کوئی حضرت فاطمہ کو تعظیم یاد بھی نہ کرتا بلکہ الٹی نعوذ باللہ جیسے شیعہ اصحاب کبار پر تبرا کرتے ہیں، تبرا کیا کرتے، اب مولوی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ وائے بر دینداری اہلسنت الخ انصاف فرمائیے کہ صحیح ہے یا ہمارا یہ کہنا کہ وائے بر دینداری وعقل وہوشیاری شیعہ خصوصاً مولوی عمار علی صاحب کہ صحابہ کی دشمنی میں حق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بھی رعائت نہ کی، بلکہ خدا کی شہادت اور ائمہ اطہار کی گواہی کو رد کیا۔ اہل بیت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں جس کو یوں سمجھا کہ اس کا گوشۂ عاطفت صحابہ کی طرف مائل ہے اسی کو کافر اور مرتد جب چاہا سو کہا۔

اگر عذر نامعقول تقیہ نہ ہوتا تو حضرت علی اور حسنین اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضوان اللہ علیہم وعلی آلہم ومتبعیہم اجمعین کی بھی خیر نہ تھی۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اصحاب کبار کی تعریف میں کیا کمی کی ہے۔؟ خصوصاً حضرت علی اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم کہ ہمیشہ ممد اور معاون اور ہم نوالہ وہم پیالہ اصحاب کبار خصوصاً اصحاب ثلثہ رہے۔ پھر ہم سے تو اس بات کا فرق پوچھتے ہیں کہ فاطمہ سے تو گواہ طلب کئے اور جابر سے کیوں نہ طلب کئے۔ اب ان سے کوئی پوچھے۔ کیا سبب ہے کہ حضرت علی ودیگر بعض ائمہ کی تعریفوں اور معاونتوں اور موافقتوں کو تو تقیہ پر محمول کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عباس وغیرہم کی ابوبکر صدیق کے ساتھ موافقتوں اور ان کے حق میں ان کی تعریفوں کو تقیہ پر کیوں نہیں محمول کرتے؟ یا مثل حضرت عباس اور حضرت عمر اور حضرت زید شہید حضرت علی اور دیگر ائمہ اطہار کے اقوال اور احوال کو نفاق اور ریا سے خالی کیوں نہیں سمجھتے؟

اگر ام ایمن اور حضرت علی کی گواہی اتنی اہم ہے تو خدا اور رسول، قرآن و ائمہ اہلبیت کی گواہی صحابہ کے بارے میں کیونکر اہم نہ ہوگی

اور نیز کوئی ان سے یہ سوال کرے کہ ہم نے مانا حضرت ابوبکر نے حضرت علی اور حضرت ام ایمن وغیرہما کی گواہی کے موافق عمل نہ کیا۔ لیکن وہ حکم خداوندی سے مجبور تھے، خداوند کریم کا حکم یہی ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہونی چاہئیں۔ حضرات شیعہ جو خدا کی اس شہادت کو کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک

حضرت فاطمہ رض ہی نہ تھی بلکہ آپ کی کئی بیٹیاں تھیں تسلیم نہیں کرتے اور علی نہ حضرت علی کا اسی تعدد بنات میں ہمصفیر خداوندی ہونا جو شیعوں کے نزدیک سچا نہ ان کا کہا مقبول نہ پڑا تو کیا بلا پیش آئی؟ یہاں تو یہ عذر بھی نہ تھا خدا تعالیٰ او علی دو اذن مل کر تو دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں سے زیادہ ہی ہیں۔ پھر کہ ہے کہ حضرت علی اور ام ایمن کی گواہی تو قابل سند ہوا اور حضرت علی اور جنار پاک کبریائی کی قابل سند نہ ہو؟

اور اگر مولوی صاحب کی خاطر سے اس طوفان ہی کو تسلیم کریں کہ حضرت اور حضرت ام ایمن اور حسنین رض چاروں نے گواہی دی تھی؟ تب قطع نظرا کہ اب بھی مقدار مقررہ شہادت کو یہ شہادت نہیں پہنچی۔ اور شیعوں کو جا۔ دم زدن نہیں شیعہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ مدائح صحابہ سے کلام اللہ مشحون تھا ہی۔ اقوال عترت طاہرہ اور ملفوظات ائمہ اطہار بھی ان کی صفت وثنا سے مملو ہیں۔ اور اماموں میں سے بھی ایک آدھا نہیں بلکہ تین چار کے قو تو اس احقر نے بھی اس رسالہ میں نقل کئے ہیں۔ پھر باوجودیکہ اس گواہی میر عدد ائمہ اطہار ہی دو سے بڑھ گیا خدا تو درکنار؟ پھر کیوں اعتبار نہیں کے اب رد شہادت اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ وائے بر دینداری شیعہ کہ صحابہ کی عداوت میں نہ خدا کا اعتبار کیا نہ ائمہ اطہار کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال کیا نہ بزرگواران مذکور کے افعال حمید اور احوال پسندیدہ پر دھیان دیا۔ پھر الٹے چور کوتوال کو پکڑیں اور الٹے نکٹے ناک والوں کو ہنسیں؟ مولوی عمار علی اور ان کے ہم مذہب ابوبکر صد پر طعن کریں جن کی بزرگی کا خدا بھی گواہ ہو۔ اور ائمہ اطہار بھی اقرار کریں۔ کفرا نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ اور دشمنیٔ اہلبیت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟

تفصیل ان امور کی اور سندیں ان روایات کی سب اس رسالہ میں مندرج ہ ہیں اس لئے ان کی تکریر میں تقصیر کی۔ ناظرین رسالہ ہذا بے دماغی نہ فرمائیں بلکہ پلٹ کر دیکھ

کیا ستم ہے ؟ کہ اگر ایک روایت موضوع بے سند میں جس کا اعتبار کسی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں اس کا نشان ہے۔ یہ دیکھ لیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے گواہ طلب کئے اور ان کی بات بے گواہوں کے نہ مانی۔ اور پھر گواہوں پر بھی ان کے دعویٰ کو مسترد کیا۔ تو ان سب خوان الشیاطین کا وظیفہ ہی یہ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت ام ایمن کو جھوٹا جانا۔ حالانکہ اس روایت میں تکذیب اور سوء ظن کی بو تک نہیں آتی۔ بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسبب پابندی قانونِ خداوندی حکم موافق مرضی حضرت زہرا رضی اللہ عنہا نہ دے سکے۔ اور اپنے آپ آیات قرآنی اور شہادت ائمہ ربانی کو جو بطرق متواترہ یا اسانید معتبرہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور کسی طرح لائق اعراض و انکار نہیں بہر طور قابل اعتبار نہیں ہضم کئے بیٹھے ہیں۔ اور زبان تک نہیں لاتے حالانکہ اعتبار احادیث و آثار کے لئے باتفاق ایک راوی معتبر بھی کفایت کرتی ہے نصاب شہادت کی حاجت نہیں چہ جائیکہ تواتر اور تکاثر۔

چونکہ یہ قضیہ بہت دور جا پڑا اور جس قدر لکھا گیا گو قلیل ہے لیکن اہل فہم کیلئے کثیر ہے۔ اس لئے عرض رسا ہوں کہ اگر بالفرض بفرض محال روایتِ ہبہ اور قضیۂ طلب گواہان صحیح بھی ہو تب بھی دامن حال صدیق اکبر لوثِ خطا اور آلودگی جفا سے صاف مصفّٰی ہے۔ معہذا روایت منہج الکرامۃ ابن مطہر حلی سے یہ بات تو صاف ہی معلوم ہو گئی کہ گناہِ حق تلفی فدک تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے سر نہیں لے گئے۔ باقی رہا ان سے گواہوں کا مانگنا اور حضرت جابرؓ سے گواہوں کا نہ مانگنا۔ تو اول تو وجوہ متعددہ اس کے مرقوم ہو چکیں۔ اہل فہم سمجھتے ہیں کہ وہ وجوہ کیسی برجستہ اور ایک سے ایک چڑھتی ہوئی ہیں۔

سیدہ سے گواہی طلب کرنا خطار اجتہادی بھی جو باعثِ قدح نہیں

علاوہ بریں ابو بکر صدیق کچھ معصوم نہ تھے ایک امام مجتہد تھے۔ اور مجتہد سے اہل سنت کے نزدیک خطا بھی ہو جاتی ہے۔ بلکہ مجتہد تو مجتہد انبیاء سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات شیعوں کو بھی چار و ناچار ماننی پڑے گی کیونکہ سورۂ انبیاء میں رکوع وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ کے شروع

ہی میں ایک کھیتی کے تنازع میں جو مقدمہ حضرت داؤد کے دربار میں پیش ہوا تھا مذکور ہے سو اس قصہ میں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی رائے مختلف ہوئی اور خدا نے حضرت سلیمان کی رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمٰنَ (یعنی ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو) تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد سے جو بالاتفاق نبی ہیں اور معصوم ہیں اجتہاد میں غلطی ہوئی۔ سو اسی طرح حضرات شیعہ اگر ابو بکر صدیق کو بعذر غلطیٔ اجتہاد معذور رکھیں۔ اور یوں سمجھیں کہ ابو بکر صدیق نے یا حضرت جابر سے گواہوں کے نہ طلب کرنے میں غلطی کی۔ یا حضرت فاطمہ سے گواہوں کے طلب کرنے میں غلطی کھائی تو کیا نقصان ہے ؟ بہت ہو گا تو یہ ہو گا کہ جس کی خدا اور ائمہ تعریف کریں اس کے برا کہنے سے بچ گئے اور اگر یوں بھی ناک سیدھی نہیں ہوتی تو نہ سہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نعوذ باللہ اول مرتبہ میں نیّت بد ہی تھی ؟ اور اس سبب سے ٹالتے تھے کہیں گواہ طلب کئے کہیں جھوٹے خدا کہنے والوں کو پکڑے بنالے تھے۔ لیکن روایت منہج الکرامت ابن مطہر حلی اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے وعظ و پند سے انھوں نے فدک حضرت فاطمہ کے حوالہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انھوں نے اس گناہ سے توبہ کی کیونکہ وعظ کے سبب جو کوئی کسی گناہ سے باز آئے تو وہ توبہ ہی ہوتی ہے۔ توبہ کے اور کچھ سرسینگ نہیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ یعنی توبہ کرلے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کا نہ کرنے والا یعنی جیسے وہ عذاب خداوندی سے ناجی ہے ایسے ہی یہ بھی ناجی ہے۔

حضرت سجاد اگر باوجود ابلیس کے کلی تصرف کے مومن ہیں۔ تو ابو بکر بطریق اولیٰ ہیں

معہذا اگر توبہ نہ کرتے جب کچھ اندیشہ نہ تھا کیونکہ بشہادت آیات مذکورۃ الصدر ان کے ساتھ خداوند صادق القول نے وعدہ مغفرت گناہان کر لیا ہے۔ سو سنیوں کو یہاں تک کچھ نہیں کیونکہ ان کی اصطلاح کے موافق ابو بکر صدیق ولی ہیں نبی نہیں۔ جو معصوم ہونا ضروری ہو۔ پر مشکل تو شیعوں کو ہے شیعی اور اور اد خوان جس نے صحیفہ کاملہ حضرت سجاد زین العباد دیکھا ہے یا سنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حضرت سجاد جو موافق عقیدۂ شیعہ معصوم ہیں۔ اور دست برد شیطان سے مطمئن۔ اپنے حق میں

کیا فرماتے ہیں کہ قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ عِنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ وَضُعْفِ الْيَقِينِ وَإِنِّي أَشْكُو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي وَطَاعَةِ نَفْسِي لَهُ یعنی شیطان نے میری باگ پکڑلی ہے بدگمانی اور ضعف یقین میں اور مجھے شکایت ہے اُس کے بُرے پڑوس اور اپنے نفس کے مطیع شیطان ہو جانے کی فقط)

اب التماس یہ ہے کہ امام کی بات جھوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ خاصکر شیعوں کے نزدیک نہیں تو کافر ہو جائیں۔ پھر جو شیطان کی حضرت زین العابدین پر یہ چیرہ دستی ہے تو اس کا کیا جواب ان کے لئے تو کلام اللہ میں کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں جس کو سنکر اُن کے جنتی ہونے کا قطعی یقین ہو جائے۔ اور کسی طرح کا احتمال باقی نہ رہے۔ گو شیعہ ان کو بجائے خود معصوم و مغفور اور ہم محفوظ و مغفور سمجھتے ہیں۔

معہذا لفظ سوء ظن اور ضعف یقین اور طاعت نفس ایسے الفاظ ہیں کہ خطائی الاجتہاد پر بھی منطبق نہیں سکتے علیٰ ہذا القیاس نہج البلاغت میں جو مجموعۂ خطب حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ہے اس میں بھی ایسے ایسے مضامین مندرج ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر یہ ہے کہ کلام اللہ میں بہت سے انبیاء کی نسبت تذکرۂ خطا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت یونس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ سو ان سب کے مقابلہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے فقط ارادۂ غصب بہت ہی تھوڑا ہے کیونکہ وہ معصوم نہ تھے۔ اے پروردگار بے نیاز اس سراپا نیاز و اخلاص کی جان لے تو آگاہ ہے کہ کس قدر میرے دل میں بہ نسبت حضرت زین العابدین و دیگر ائمہ اطہار و انبیاء کبار اخلاص اور اعتقاد اور محبت اور نیاز ہے۔ یہ جو کچھ لکھا جاتا ہے بایں نظر نقل کفر کفر نباشد حضرات شیعہ کی کفریات کے مقابلہ میں لکھا جاتا ہے

فصل

حدیث ما ترکناہ صدقۃ کی تحقیق انیق | اب آگے سنئے مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں

اب اور سننا چاہیے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جانا کہ ابوبکر نے مجھے ہبہ فدک میں جھوٹا سمجھا تو اس معصومہ نے دعوے وراثت کا کیا۔ اور ابوبکر سے کہا کہ میں پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں مجھے اُن حضرات کا مال ارث میں پہنچتا ہے۔ اور فدک میرے باپ کا مال ہے مجھے دیدے اس وقت ابوبکر نے ایک جھوٹی روایت قرآن کے خلاف بنا کر کہا کہ میں نے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہ حضرت فرماتے تھے کہ انبیاء کا مال سب صدقہ ہے کسی کو ان کے وارثوں میں سے نہیں پہنچتا۔

اول تو یہ روایت خلاف قرآن ہے۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثوں میں نہ بیٹی سے نہ اپنی بیبیوں سے کسی سے نہ کہا کہ میرا مال صدقہ ہے ان کو نہیں پہنچتا تم دعویٰ نہ کرنا۔ اور حکم خدا کا جو ان کے واسطے تھا اس کو ان سے چھپا رکھا۔ اور ایک اجنبی شخص سے کہ اس کو کسی طرح کا دخل پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہ تھا اس کے کان میں کہدیا اور کسی دوسرے صحابی سے بھی نہ کہا۔ انتہی بلفظہ

مولوی صاحب تو فرما چکے۔ اب ہماری بھی سنئے قدما رفریب بازان شیعہ بوجہ وراثت فدک کے نہ دینے میں ابوبکر صدیق پر طعن کیا کرتے تھے۔ جب اہل سنت سے جوابات معقول اس اعتراض کے ان نامعقولوں نے سنے۔ اور مجال دم زدن باقی نہ رہی۔ تو ان کے لواحق نے روایات ہبہ تراش کر برنگ دیگر طعن شروع کیا۔ اور اس دعوے کے ثبوت تک پہنچانے کے بہت سے حیلے کئے۔ یہاں تک کہ بعض کتب غیر مشہورۂ اہل سنت میں بھی الحاق کیا۔ اور سنّی بن کر طالب علمان اہل سنت کو دھوکا دیا اور اس روایت کو روایت کیا۔ لیکن یہ فریب بھی نہ چلا اور بسبب وضوح امارات کذب روایات مذکورہ۔ اور کھل جانے حیل راویان روایت۔ اور غیر معتبرہ اور غیر مشہور ہونے ان کتب کے۔ جن میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ اول تو یہ روایت پایۂ اعتبار سے ساقط ہو گئی۔ دوم خدا ساز دروغ و اصفان روایت کام آیا۔ اور بمقتضائے مثل مشہور" دروغگو را حافظہ نباشد" روایت تو بنائی پر بنانی نہ آئی۔ یہ بھول گئے کہ ہبہ بے قبض موہوب لہ مفید ملک نہیں۔ اور نیز ایک مرد اور ایک عورت یا دو لڑکوں سے مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔

گواہوں کی شرعی تعداد اور آنحضرت کا دم آخر قبضۂ فدک۔ صدیق کی صفائی کا مضبوط سامان | بہر حال انھوں نے اپنی

طرف سے کمی نہیں کی لیکن قربان جائیے خداوند عظیم اور رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی قدر شناسی اور طرفداری کے کہ ابوبکر صدیق کے طعن سے بری کرنے کی پہلے ہی وہ تدبیریں کر گئے جس کے سبب شیعوں کو طعن کر کے بجز غوغائے سگانہ اور شور غرابانہ اور کچھ حاصل نہ ہو۔ خداوند کریم نے تو گواہی کے اعتبار کے لئے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی قید لگادی۔ اور جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات واکمل التحیات والتسلیمات نے تادم آخر اپنا تصرف رکھا اس لئے ناچار ہو کر شیعیان خراب طینت کو مکرر اپنی عاقبت کے خراب کرنے کا فکر ہوا۔ وصیت کی روایت تراشی مگر پھر وہی بات ہے کہ جھوٹی بات کے پانوں نہیں چلتے یہ نہ سمجھے کہ وصیت تو اسی مال میں جاری ہوسکتی ہے جس میں میراث جاری ہو۔ جب میراث جاری ہی نہیں ہوا تو وصیت کے کیا معنے۔

القصہ جب اس طرف سے بھی قافیہ تنگ ہوا تو علماء شیعہ کو سخت دشواری پیش آئی کہ نہ طعن کئے بن پڑے اور نہ چپ رہنے سے کام چلے ہے۔ اگر طعن کریں تو کس منہ سے کریں؟ اور خاموش بیٹھیں اور مذہب سے دست بردار ہوں تو عوام شیعہ کو کیا منہ دکھلائیں؟ اور نذر و نیاز کس سے لیں؟ اور اموال اموات کو کیونکر ہضم کریں؟ تو باقیماندگان شیعہ نے اپنے متقدمین کے انھیں گوز ہائے شتر مذکورۃ الصدر کو کمی بیشی کر کے زبان پر رکھا اور پھر زبان درازیاں شروع کیں سو مولوی عمار علی صاحب نے بھی اپنے رقیمہ کریمہ اسمی میرزا در علی صاحب میں ایسا ہی کیا۔ لیکن بحکم مثل مشہور "عیب کرنے کو ہنر چاہیے" ان کا یہ حوصلہ نظر نہیں آتا کہ مضامین مندرجہ رقیمہ کو جو فی الجملہ بطرز جدید ہیں۔ اپنے آپ تراشے ہوں۔ یہ بات کہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے قبضہ کی پخ لگائی کہیں حضرت علی اور حضرت ام ایمن کی گواہی کے ساتھ حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہی بڑھائی، کہیں ہبہ اور میراث دونوں کی نسبت بہ ترتیب مذکور دعویٰ کرنے کا دعویٰ کیا کہیں حضرت عمر کے کاغذ پھاڑ ڈالنے کا بزعم خود الزام دیا

کسی بڑے مکار یکتائے روزگار کی چالاکی نظر آتی ہے۔ پر مولوی صاحب بحکم میلان طبیعت حیلہ دوست اور نیز بغرض فروغ مذہب سراسر دروغ ان بہتانوں کو نقل کر کے تنہائی میں جامہ سے باہر نکلے پڑتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے آجتک کسی سنی واقف کار کی کوئی بات نہیں سنی۔ نہیں تو یہ سب پوچھک بھول جاتے انھوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ بہت سی چھینا جھپٹی میں فدک میں سے کچھ تو ہاتھ آئے گا اور بہت سے جھوٹ ملکر ایک سچ کے برابر تو ہو جائیں گے۔

لیکن بفضلہ تعالیٰ مذہب اہل سنت میں یہ قوت ہے اور کیوں نہ ہو۔ سچی بات پکی ہی ہوتی ہے۔ کہ علماء تو ایک طرف امثال احقر ہیچمدان بھی جوابات دندان شکن سے شیعوں کے دانت توڑنے کو بہت ہیں۔ چنانچہ اعتراض سابق کا جو کچھ خاکہ اڑا ہے وہ تو ناظرین کو معلوم ہی ہو چکا۔ اسی پر اس اعتراض کو بھی قیاس کر لیجئے۔ ع قیاس کن ز گلستان من بہار مرا ؛ اور اگر بے جواب کے اس اعتراض کا دل سے کھٹکا نہیں جاتا تو لیجئے مولوی صاحب یوں رقم فرماتے ہیں۔

"کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے دعویٰ میراث کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جھوٹی حدیث خلاف کلام اللہ کے بنا کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی بات کو رلا دیا۔

مخدوم من سچا آدمی سچی بات کو مان لیا کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے دعوئے میراث کیا۔ اگر ہم کو ہٹ دھرمی مدنظر ہوتی تو اس روایت کو کتابوں میں سے بھی حذف کر دیتے۔ فقط انکار تو درکنار کوئی موضوع روایت تو تھی ہی نہیں جو بعد از عدم اعتبار پیچھا چھڑا لیتے۔ اور اتنی ہی بات منصفوں کے نزدیک ہمارے اس دعوے کے معتبر ہونے کو کہ روایت ہبہ غیر معتبر ہی کفایت کرتی ہے۔ پر خداوند کریم ہم کو مولوی عمار علی صاحب کے ہم رنگ نہ کرے کہ نہج البلاغت اور کافی کلینی جیسی معتبر کتابوں میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہونا ثابت اور متحقق ہو۔ اور پھر ان کی بیٹیاں

ہونے سے انکار کر جائیں اور الٹی الٹی حجتیں لائیں چنانچہ مذکور ہوا۔

حدیث مذکور کلام اللہ کے عین مطابق ہے

مگر مولوی صاحب کا یہ فرمانا کہ "حدیث خلاف کلام اللہ کے بنائی" خلاف واقع ہے۔ واقف کار تو اتنی بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ شیعوں کو کلام اللہ سے کیا سروکار؟ جس قوم میں کلام اللہ کا چرچا ہی نہ ہو وہ کلام اللہ کو کیا سمجھیں جو یہ سمجھیں کہ فلانی بات کلام اللہ کے موافق ہے فلانی مخالف۔ مگر علم الیقین عین الیقین کے برابر نہیں ہوتا اس لئے اتنی گذارش کرنی پڑی کہ علماء شیعہ خصوصًا مولوی صاحب اپنے قصور فہم سے ناچار ہیں۔ ورنہ کلام اللہ اور حدیث معلوم جس کی تحقیق کا ہم نے اوپر بھی وعدہ کیا ہے باہم مخالف نہیں بلکہ موافق کیا متعانق ہیں۔ مزید توضیح کے لئے اول سے تقریر مخالفت ایسی طرح بیان کیجئے جس سے شیعہ اور علماء شیعہ بھی ممنون احسان ہوں۔ بعد ازاں اثبات موافقت سے ان کو یہ شرمایئے کہ سر بگریباں ہوں۔ مخدوم من ظاہرًا مولوی صاحب دوروں کے تیروں کے بھروسے لڑتے پھرتے ہیں جس قدر کہیں سے سن لی وہی کہدی۔ ورنہ خیر و عافیت ہے جو یہ طرز نا معقول اختیار کیا کہ جو باتیں ان کے مفید مطلب تھیں وہی منہ پر مہر لگا کر بیٹھ رہے۔ ان کو لازم تھا کہ اول اثبات مخالفت کرتے جب کہیں کسی سے خواستگار جواب ہوتے۔ یہ کس نا معقول نے ان کو طرز مناظرہ سکھایا کہ دعوے بے دلیل پیش کرتے ہیں۔

انصاف کی رو سے تو اس کے جواب میں ہم کو فقط لانسلم کفایت کرتا ہے۔ یعنی اتنا بہت ہے کہ ہم یوں کہدیں کہ ہم نہیں مانتے اور اگر ہم بھی بے دلیل ایسے ہی دعوے کرنے لگیں۔ بلکہ تمام عقائد اہل سنت کو یوں ہی بے دلیل پیش کرنے لگیں تو کوئی پوچھے مولوی صاحب کے پاس کیا جواب ہے۔ معہذا ہم تو نہیں کہہ سکتے پر اگر کوئی ناصبی یا خارجی بہ نسبت ان روایات کے۔ جو فضائل ائمہ اور استحقاق امامت وغیرہ خصوصیات مذہب شیعہ حضرات شیعہ اماموں سے نقل کرتے ہیں۔ یوں کہنے لگے کہ اپنے مطلب کے لئے اماموں نے یا شیعوں نے خلاف قرآن یہ وہ باتیں

گھڑ لیں۔ تو پھر بجز اس کے کہ مولوی صاحب اپنی زبان کو منہ میں سمیٹ رہیں اور کیا کر سکیں گے لیکن ہمارے احسان کو دیکھئے کہ اول بمقدار رسا شیعہ ہی بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر تقریر مخالفت تحریر میں لاتے ہیں۔

اہل شیعہ کا حدیث ما ترکنا ہ صدقۃ پر اعتراض

واضح رہے کہ نہایت کوشش کر کے علماء شیعہ نے یہ بات نکالی ہے، کہ حدیث ابو بکر صدیق جس کا یہ مضمون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ہماری انبیاء کا کوئی وارث ہی نہیں۔ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ وقف ہے۔ باوجودیکہ راوی فقط ابو بکر صدیق ہی ہیں کلام اللہ کے مخالف ہے۔ اور جو حدیث اللہ کے مخالف ہو اگر بالفرض اس کے راوی بہت سے بھی ہوں تب بھی چہ جائیکہ ایک راوی۔ بالخصوص اہل سنت و جماعت کے نزدیک کہ ان نزدیک کلام اللہ میزان صحت و ضعف و معیار صدق و کذب اخبار۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اول تو حدیث مذکور اس آیت کے مخالف ہے يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ جس سے بالبداہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث کا جاری ہونا نکلتا ہے۔ کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو پہلے سے کہے دیتا ہے کہ تمھاری اولاد میں لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملا کرے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام صوم صلوٰۃ حج زکوٰۃ میں شریک ہیں ایسے ہی اس حکم میں بھی امت کے شریک رہیں گے۔ معہذا اس آیت میں نبی غیر نبی کی کچھ تخصیص نہیں۔ پھر یوں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں۔ اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔ دوسری اور آیت وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَوَرِثَ دَاوٗدَ سُلَيْمَانُ کے (جیسے اور انبیاء کے ترکہ میں میراث کا جاری ہونا بھی نکلتا ہے) مخالف اور مناقض ہے۔ کیونکہ دوسری کا ترجمہ تو یہ ہے "کہ وارث ہوئے حضرت سلیمان حضرت داؤد کے۔ اور پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا

علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ الٰہی مجھ کو اپنے پاس سے ایک ولیعہد عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو فقط "

سو دوسری آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی تھے ان کے ترکہ میں میراث جاری ہوئی۔ اور پہلی آیت سے گو یہ بات بتصریح نہیں نکلتی لیکن اول تو حضرت زکریا علیہ السلام سے جو مشہور نبی ہیں ایسے قدیمی حکم کے خلاف طلب کرنا مستبعد ہے۔ تصور میں نہیں آتا کہ جو حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لیکر ان کے زمانہ تک برابر معمول بر رہا ہو ان کو بڑھاپے تک معلوم نہ ہوا اور نہ اس باب میں کوئی وحی آئی۔ حالانکہ زمانہ پیری موت کا مقدمہ ہوتا ہے ایسے وقت میں لازم ہے کہ جو موت نبی کے متعلق مسائل ضروری ہوں ان کی اطلاع کی جائے تاکہ اس کے موافق وصیت کر جائے۔ ورنہ جو بات نبی ہی کو معلوم نہ ہو تو پھر امتیوں کے معلوم ہونے کی کیا امید ہے۔

بایں ہمہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات کی دعا کے جواب میں بطور تنبیہ وعتاب اِنِّیْ اَعِظُکَ اَنْ تَکُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ فرمایا اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا خلاف مرضی جناب باری تعالےٰ تھی۔ حضرت زکریا کی اس التجا کے جواب میں بشارت قبول دعا پہنچائی گئی۔ کچھ تنبیہ وعتاب نہیں کیا۔ اس بات کا وہم جاتا کہ یہ عتاب اسی سبب سے ہوا کہ حضرت زکریا نے وراثت کا کیوں نام لیا۔ بہرحال ان آیات سے اتنا ثابت ہوا کہ انبیاء کے مال میں بھی میراث جاری ہوتی ہے۔

پھر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العموم سب انبیاء کو شامل کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارے گروہ کے گروہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا کیونکر صحیح ہو بلکہ ان دونوں آیتوں سے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو بعضے روایات حدیث مذکور میں لفظ لَا نُوْرَثُ بھی آیا ہے یعنی ہم بھی کسی کے وارث نہیں ہوتے یہ بھی

غلط ہے کیونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت سلیمان علیہما السلام بھی بالاتفاق نبی ہیں۔ جب وہ دونوں اپنے اپنے والد کے وارث ہوئے تو یہ بات کہ کوئی نبی کسی کا وارث ہی نہیں ہوتا سراسر غلط نکلی یہ ہے تقریر مخالفت کلام اللہ وحدیث مذکور۔ اس سے بہتر شاید شیعہ بھی تقریر نہ کر سکیں۔

اعتراض کا جواب | اب ہماری بھی تحقیق صحیح اور تنقیح فصیح کے ترازوئے عقل آشیانہ کی طرف متوجہ ہو جیئے۔ کہ ماشاء اللہ کیا دلکشا اور راحت افزا ہے جس سے کان میں پڑتے ہی اطمینان ہو جائے۔ ظاہر کی مخالفت کا خلجان انشاء اللہ تعالیٰ ایسی طرح دور ہو کہ پھر کبھی بھی دھیان نہ آئے۔ بہ ترتیب آیات موافقت کی بات تحریر میں آتی ہے۔ لیکن چونکہ باریک مضامین بے تمہید کے ادا نہیں ہو سکتے اس لئے اول یہ گذارش ہے کہ ہر چند کلام اللہ من اولہ الی آخرہ حرفاً حرفاً خدا ہی کا تصنیف ہے اور اسی وجہ سے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ لیکن مراسلات اور خطوط بنی آدم کلام ربانی بھی دو قسم پر ہے۔ ایک تو جیسے کوئی شخص اپنی طرف سے کسی کو خط لکھے یا کوئی شخص کسی قاصد کو پیام دے کر بھیجے۔ تو اس صورت میں وہ عبارت بھی اسی شخص اور اسی شخص کی ہوتی ہے۔ اور وہ خط اور وہ پیام بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ خط رساں اور پیام بر فقط مثل ہوا ہوتے ہیں۔ کہ ایک کے منہ کی آواز دوسرے کے کان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی قسم کا تو اکثر کلام اللہ ہے مثال کے لکھنے کی کچھ حاجت نہیں یعنی جیسے خدا کا تصنیف ہے ویسے ہی خدا کی طرف سے امت کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دونوں کو یا کسی خاص قوم کو خطاب ہے سو اکثر تو عبارات ایسی ہی ہیں نشان دہی اور تحریر مثال کی کچھ ضرورت نہیں۔

پر شاید شیعہ بے لکھے نہ سمجھیں اس لئے یہ ایک دو مثال کافی دوافی مرقوم ہیں۔

یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ یٰبَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ اذْکُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ۔ یٰٓاَیُّهَا الرَّسُوْلُ الخ یٰٓاَیُّهَا النَّبِیُّ الخ پہلی آیت میں بے تخصیص کسی نیک و بد کے سب بندوں کو یہ حکم ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں بنی اسرائیل کو سنایا جاتا ہے کہ اے گروہ بنی اسرائیل میری فلانی نعمت یاد کرو۔ اور دو آیتیں باقی ان میں خاص رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے بہرحال جیسے یہ عبارات خدا کی تصنیف کی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ان کے مضامین بھی

خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ کسی اور کا پیام سلام نقل نہیں فرماتے۔

دوسری یہ صورت ہے کہ جیسے لکھنا پڑھنا جاننے والے کسی ایسے جاہل کا خط جسے فارسی نہ آتی ہو فارسی میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو عبارت گو اس منشی ہی کی ہوتی ہے کوئی نادان بھی یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبارت اس مرد جاہل کی ہے پر مضمون اس جاہل ہی کا ہوتا ہے۔ اور خط بھی اسی کا گنا جاتا ہے۔ یا جیسے کسی کو کوئی شخص کچھ تلقین کرے کہ تو اپنے فلانے مطلب کے لئے فلانے سے یوں کہیو۔ جیسے مختاروں اور وکیلوں سے لوگ مسودہ کرالیا کرتے ہیں، تو گو عبارت تلقین کرنے والے ہی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے پر اس کا مضمون کہنے والے یا عرضی والے ہی کا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کلام اللہ میں بعض بعض عبارات ایسی ہیں کہ گو وہ بھی خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں لیکن ان کے مضامین بندوں کی طرف سے سمجھے جاتے ہیں جیسے قُلْ یا ایھا الکافرون اور قُلْ ھُوَ اللہ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور سوا اس کے جہاں لفظ قل یا قولوا اول میں ہے۔ اور پھر بعد میں ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے ملاحظہ سے یوں معلوم ہو کہ متکلم مخاطب ہیں۔ مثلاً قل اعوذ کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے محمد میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متکلم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بعد قل کے جتنی عبارت ہے اس سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے سمجھنی چاہیے۔

لیکن جیسے زبانی تلقین میں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ تلقین کرنے والا یوں کہے کہ تو یوں کہیو۔ عرض کے مسودہ میں اس کی ضرورت نہیں۔ کہ اس کے اول میں یوں لکھدیں کہ تو یوں کہیو بلکہ مسودہ کرکے یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کلام پاک خداوند کریم میں بھی بعضی عبارتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں کی طرف سے علی العموم فقط۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن اس کے اول میں قل یا قولوا نہیں بلکہ بمنزلہ مسودہ وکلا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا سب کی طرف سے تصنیف کرکے ان کے حوالہ کر دیا ہے۔ چنانچہ سورۂ فاتحہ اسی قسم کی ہے

خاص کر ایاک نعبد سے لیکر آخر تک۔ جس کا یہ مضمون ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا الخ۔ ظاہر ہے کہ یہ عبارت خداوند کریم نے بندوں کی طرف سے بنا کر ان کے حوالہ کر دی ہے۔ تاکہ وقت حضور دربار خداوندی یعنی وقت نماز کے اس طور پر خداوند کریم سے عرض معروض کیا کریں۔ ورنہ اگر خدا کی طرف سے کہئے تو خداوند تعالےٰ شانہ سے زیادہ کون ہے جو خداوند کریم اس کی عبادت کرے اور اس سے مدد کا خواستگار رہو؟ اور پھر کون سے جناب باری تعالےٰ بے راہی پر ہیں جو سیدھی راہ کی تمنا اور آرزو ہے؟

یُوْصِیْکُمُ اللہ سے آنحضرت مستثنیٰ ہیں اس کے دلائل

جب یہ بات مقرر ہو چکی تو اب متوجہ ہو کر سنئے کہ آیت یوصیکم اللہ بلکہ ابتدا سورہ نساء سے لیکر یہاں تک۔ بلکہ عجب نہیں تمام سورۃ کی سورۃ بمنزلہ سورۂ فاتحہ جناب باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصنیف کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرما دی ہے تاکہ آپ بجائے خود لوگوں کو اس طرح سے سمجھا دیں۔ دلیل اس بات کی کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصنیف کی گئی ہے خدا کی طرف سے نہیں یہ ہے کہ یُوْصِیْکُمُ اللہ فرمایا اور یَا عِبَادِیْ اُوْصِیْکُمْ مثلاً نہ فرمایا اگر خدا ہی کی طرف سے بندوں کے خطاب میں یہ آیت ہوتی تو لازم تھا کہ یَا عِبَادِیْ اُوْصِیْکُمْ مثلاً فرماتے۔ یہ عبارت جو اب موجود ہے صاف اسی پر دلالت کرتی ہے کہ متکلم اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مخاطب امتی۔ آپ اپنی طرف سے ان الفاظ کے پیرایہ میں خداوند کریم کا حوالہ دے کر احکام میراث تعلیم فرماتے ہیں۔ کیونکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ پہلے سے تمہیں خدا تعالیٰ نے آگہی دی ہے کہ تمہاری اولاد میں بیٹوں کو دو بیٹیوں کے برابر ملا کرے۔

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے سررشتہ دار جج یا کلکٹر کا حکم اہل مقدمہ کے سناتے وقت کہا کرتے ہیں کہ صاحب تمہاری نسبت یہ حکم دیتے ہیں۔ اور اگر حاکم خود کلام کیا کرتا ہے تو اہل مقدمہ کو اس کے نام یا لقب سے جیسے چودھری یا شیخ جی مثلاً پکار کر کہا کرتا ہے کہ ہم تمہیں یوں حکم دیتے ہیں۔ یا ہمارا تمہارے لئے یہ حکم ہے مثلاً۔ نہ یہ کہ اپنا نام لیکر

یوں نہیں کہ تمہیں فلاں شخص یوں کہتا ہے۔ پس درصورتیکہ یَا عِبَادِیْ اُوْصِیْکُمْ فرمایا جس کا یہ مطلب ہوتا کہ اے میرے بندو میں تمہیں کہے دیتا ہوں بلکہ یوں ارشاد ہوا کہ اللہ تمہیں یوں کہتا ہے تو بالیقین معلوم ہو گیا۔ کہ جیسے سورۂ فاتحہ سب کی طرف سے بنادی ہے ایسے ہی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنادی ہے۔ تاکہ امت سے اس طرح سے باتیں کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب سررشتہ دار کسی اہل مقدمہ کو کوئی حکم سنایا کرتا ہے تو اس حکم سے اپنے آپ خارج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سوا سررشتہ دار جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں اگر اُس وقت موجود ہوں۔ اور یہ بھی سبھی۔ کہ یوں کہے کہ حاکم تمہارے لئے یوں فرماتے ہیں۔ تب بھی اُس وقت کی گفتگو سے کوئی یوں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سررشتہ دار بھی اس حکم میں داخل ہے۔

علیٰ ہذا القیاس جناب سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اس حکم کے سنانے میں احکم الحاکمین کے سامنے بہ نسبت ہمارے بمنزلہ سررشتہ دار کے ہیں اس حکم سے خارج سمجھنا چاہیئے۔ اور یوں سمجھنا چاہیئے کہ حکم فقط امتیوں ہی کے لئے ہے۔ اور حدیث لَا نُوْرَثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ اس دقیقۂ مخفی کے سمجھا دینے کے لئے۔ اس آیت کی تفسیر ہے۔ پر شیعہ بسبب اپنی کم فہمی اور نہایت کجی طبیعت کے باعث تفسیر کو تبدیل اور تغیر سمجھتے ہیں۔ اور حدیث و آیت میں تخالف جانتے ہیں۔ قصور تو اپنا اور طعن ابوبکر صدیق کے ذمہ۔ اس تقریر کے بعد تو یقین یوں ہے شیعہ اپنے دل میں پشیمان ہو کر مومن خاں کا یہ مصرع پڑھیں۔ ع میں لزام انکو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

الغرض ذرہ برابر حدیث مذکور اور آیت معلوم میں تخالف نہیں۔ بلکہ حدیث مذکور آیت معلوم کی تفسیر ہے۔ اور سنیوں کی سب حدیثیں کلام اللہ کی تفسیر ہیں۔ اہل فہم سمجھتے ہیں اور کم فہم نہ سمجھیں تو اپنا سر کھائیں۔ اور اس حکم سے اور سوا اس کے جو حکم کہ ایسی ہی عبارات میں مندرج ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خارج ہیں جیسے کبھی سررشتہ دار اہل مقدمہ یا رعیت حاکم کو حاکم کا کوئی حکم سناتا ہے اور حاکم کے دل میں سررشتہ دار کی نسبت بھی وہی حکم مکنون خاطر ہوتا ہے۔ تو آگے

پیچھے اس کو متنبہ کر دیتے ہیں کہ تمہارے لئے بھی یہی حکم ہے مثلاً کسی ضلع میں کوئی کلکٹر ہو اور اسی ضلع کا رہنے والا کوئی مالگذار اس کی کچہری کا سررشتہ دار ہو۔ اور بہ نسبت مالگذاروں کے کوئی حکم صادر ہو۔ اور وہ سررشتہ دار مالگذاروں کو یوں حکم سنائے کہ تمہارے لئے یہ حکم ہوا ہے۔ تو گو ان الفاظ سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ سررشتہ دار کے لئے بھی یہی حکم ہے لیکن بایں وجہ کہ سابقاً خلوۃ جلوۃ میں اس کو یہ بات متحقق ہو چکی کہ سب مالگذاروں کے لئے ایک ہی حکم ہے۔ وہ سررشتہ دار بھی وقت تعمیل حکم اسی حکم کا پابند رہے گا۔

سو اگر بعض احکام میں مثل صوم، صلوٰۃ، حج، زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوں۔ اور بفرض وہ بھی ایسے ہی الفاظ سے کلام اللہ میں وارد ہوئے ہیں۔ کہ موافق تقریر مسطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس حکم سے خارج ہونے چاہئیں۔ تو کسی اور قرینہ یا خطاب پنہانی سے آپ کو اپنا شمول اس حکم میں ثابت ہوا ہو۔ مگر چونکہ اس حکم میں یہ متحقق ہو گیا ہو کہ میں اس میراث سے خارج ہوں۔ بلکہ بالخصوص اس بات میں میرے لئے اور حکم ہے۔ تو بایں نظر کہ مبادا صوم و صلوٰۃ کا اشتراک دیکھکر باقیماندگان یہ سمجھ جائیں کہ گو اس آیت سے آپ کا شمول اس حکم میں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن کیا عجب کہ مثل صوم و صلوٰۃ اس حکم میں بھی کبھی وحی جدید کے باعث آپ شریک ہو گئے ہوں۔ اور یہ سمجھ کر اموال متروکہ کو جو بضرورت اخراجات روزمرہ کسی کو دیا نہیں گیا تھا تقسیم کر لیں۔ اور تصرف غیر واجبی سے انجام کار دین و دنیا کی خرابی اٹھائیں لَا نُوْرَثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ فرمایا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استثناء کی دیگر نظیریں۔

اور یہ تخصیص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بعد وفات میراث میں نہیں آسکتا کچھ نئی تخصیص نہیں۔ بہت سے حکم ایسے ہیں جس میں امت کے لئے کچھ حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ اور حکم تھا۔ بشہادت شروع سورۂ مزمل اور آیت وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَہَجَّدْ بِہٖ نَافِلَۃً لَّکَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتفاق اکثر آپ پر فرض تھا۔ اور باقی تمام امت پر فرض نہیں، صوم وصال آپ کے حق میں موجب ثواب تھا باقی تمام امت کے لئے ممنوع۔ اگر کوئی عورت

اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کردیتی تو آپ کو وہ حلال تھی اوروں کے لئے حلال نہیں۔ آپ کے ذمہ مہر اور عورتوں کے حق میں عدل یعنی سونے لیٹنے میں برابری نبھانی فرض نہ تھی گو آپ نے تمام عمر عدل ہی سے گذاری اور مہر بھی دیا۔ اور باقی تمام امت پر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ سب امت کے لئے چار عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اسی سورت کے شروع میں اس تعداد کا ذکر ہے اور باتفاق امامیہ اثنا عشریہ بلکہ اکثر فقہائے شیعہ و سُنی اُس کے یہی معنی ہیں کہ چار تک اجازت ہے آگے نہیں۔ حالانکہ جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات اس حکم سے خارج ہیں۔ آپ کے حق میں سب جانتے ہیں یہ قید نہ تھی۔

اور اس حکم سے آپ کے خارج ہونے کی وجہ بھی یہی نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نہیں بلکہ بمنزلہ آیت یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے کچہری کے عرضی نویس کسی کو عرضی لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ عرضی لکھوانے والے ہی کی سمجھی جاتی ہے عرضی نویس کی کوئی نہیں کہتا۔ ایسے ہی اس حساب سے ان احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم احکام یعنی وعظ پند سمجھنا چاہیئے کیونکہ اس تعداد کے ذکر سے کچھ ہی پہلے شروع میں اس سورت کے اس طرح سے خطاب ہے یَا اَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَۃٍ یعنی اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تمھیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا فقط۔ سو یہ کلام اور یہ خطاب ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے تو بندوں کو ہو ہی نہیں سکتا ورنہ یوں فرماتے یا ایھا الناس اتقوانی فانی ربکم الذی خلقکم یعنی اے لوگو مجھ سے ڈرو اس لئے کہ میں تمھارا وہ رب ہوں جس نے تمھیں پیدا کیا ایک جان سے فقط۔

اب ہو نہ ہو یہ کلام اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور مخاطب اس پند کے امتی ہیں۔ تو لاجرم یہ احکام بھی بہ نسبت امتیوں ہی کے ہوں گے تیماردار جو بحکم حکیم حاذق بیمار کو نصیحت کرتے ہیں کہ تو دوا پی لے اور بد پرہیزی مت کر۔ تو کسی کے نزدیک (نہ بیمار کے نہ غیر کے) یہ لازم نہیں۔ کہ تیماردار خود بھی دوا پیئے

اور پرہیز کرے۔ بلکہ سب کے نزدیک تیمارداران احکام سے خارج ہے۔ ا[illegible] ہی جناب سرور کائنات علیہ السلام جو ہم بیماروں کے لئے بمنزلہ تیماردار کے ہیں بحکم حکیم مطلق یہ احکام مندرجۂ ذیل یَا اَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمُ الی آخر السورۃ سب امتیوں کو سناتے ہیں۔ تو لاجرم آپ ان احکام سے خارج ہیں۔

اور اگر کسی حکم میں شریک بھی ہیں تو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے اُس تیماردار کو بھی حفظ صحت کے یا کسی اور مصلحت کی رعایت کے لئے وہ حکیم کو[illegible] دوا یا کوئی پرہیز ہی بتلا دے جو اُس بیمار کے نسخہ اور پرہیز میں داخل ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ یہ تمام سورۃ خاص کر شروع سے لیکر آخر رکوع یوصیکم اللہ تک جتنے احکام مذکور ہیں وہ سب بہ نسبت امتیوں کے صادر ہوئے ہیں۔ اس میں سے اگر کسی حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک امت ہیں بھی؟ تو کسی اور اشارہ کنایہ وحی وغیرہ کے سبب ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ تمام سورۃ نہیں تو آخر رکوع مذکور تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے عبارت بنائی گئی ہے۔ بالجملہ جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات واکمل التحیات اکثر احکام سے مستثنیٰ ہیں۔

اور مردمان فہمیدہ سوا ر امثلہ مذکورہ کے دنیا کے کاروبار میں سے اور اس کی بہت سی مثالیں نکال سکتے ہیں۔ مثلاً افسر بہ نسبت عوام ملازموں کے بہت سے احکام میں مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اور بہت سے احکام اُسی کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔

پہرہ سپاہی دینے میں افسروں سے معاف ہوتا ہے پہرہ بدلانا اور حکم بولنا اور انتظام کرنا اور موجودات لینی اور امور ضروری کی حکام بالا دست کو اطلاع کرنی افسروں کے ذمہ ہوتی ہے۔ الحاصل حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثل حکم تعداد منکوحات اس حکم سے بھی خارج ہیں۔ اور جب خارج ہوئے تو یہ آیت اور وہ حدیث باہم مخالف نہ ہوئی موافق اور متطابق ہی نکلی ہاں مخالفت اسے کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اماموں سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے والد کے بعض وارثوں کو بعضے ترکہ کا حصہ نہیں دیا

بلکہ خود اپنے آپ سب لے لیا ہے جیسے شمشیر اور مصحف اور انگشتری اور پوشاک بدنی۔ سو جن روایتوں کی سند سے اماموں نے اوروں کو حصہ نہیں دیا اول تو وہ فقط انہیں کی روایت ہے۔ اور کوئی اس کا راوی نہیں۔ دوسرے یہ بات آیت یوصیکم اللہ کے ہر طور مخالف ہے تطبیق کی کوئی صورت نہیں۔

اب اگر بالفرض یہ حدیث غلط بھی ہو اور ابو بکر صدیق ہی نے بنا لی ہو تب مضمون صحیح ہی نکلا۔ حکم بہر حال یہی ہے کہ فدک وغیرہ متروکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میراث جاری ہونے کا حکم نہیں۔ اور اس لئے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ اس حدیث کی صحت کے دلائل جمع کر کے پیش کریں۔ یا کوئی اور وجہ دربارہ تطبیق حدیث مذکور اور آیت یوصیکم اللہ بیان کریں۔ یا اس حدیث میں اور روایات باقیہ میں موافقت ثابت کر کے شبہ تخالف کو دور کریں۔ کیونکہ کلام فدک میں میراث جاری ہونے میں تھی۔ سو اس کی طرف سے اطمینان ہی ہو گیا لیکن تاہم بایں نظر کہ اولیائے کرام اور مقربان درگاہ خداوندی کی طرفداری اور ان کے بدگویوں کی دندان شکنی میں امید نظر عنایت خداوند تعالےٰ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور توقع دعا و شفاعت اولیا، و مقربان خدا ہے۔ جس میں سے خاص ابو بکر صدیق کہ سرافسر مقربان اور سرلشکر اولیا ہیں۔ اس لئے اس آیت سے مطابقت کی بھی ایک اور وجہ مرقوم ہے۔ اور تطبیق آیات باقیہ بھی معروض خدمت اہل انصاف ہے۔ ازاں بعد بطور شیعہ وسنی کچھ بیان صحت و علامات صحت حدیث مذکور بھی انشاء اللہ کیا جائے گا۔

حدیث معاشر الانبیاء مخصص آیۂ توریث ہے۔ ذکر معارض

سو اول آیت یوصیکم اللہ کے ساتھ مطابقت کی ایک اور وجہ لیجئے۔ اگر بطور مذکور جس سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستثنیٰ ہونا اس حکم سے معلوم ہو جائے یہ حکم بیان نہ ہوتا۔ بلکہ ایسے الفاظ ہوتے کہ جن سے باعتبار الفاظ عموم خطاب ہی سمجھا جاتا۔ یا کوئی عقل کا اندھا انہیں الفاظ کو یوں کہنے لگے کہ عموم پر دلالت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں بہر نہج شامل ہی ہیں۔ تب برتقدیر صحت حدیث مذکور کوئی دشواری ہی نہیں

بہت سے بہت ہو گا تو آیت مذکور کی تخصیص لازم آئے گی مخالفت پھر بھی نہیں۔ مخالفت تو تعارض اور تناقض کو کہتے ہیں تخصیص کی صورت میں استثناء کی صورت ہو جائے گی۔ مثلاً کوئی یوں کہے کہ میرے پاس سب آئے مگر زید نہیں آیا تو اس کلام کے اول اور آخر میں کوئی نادان بھی تعارض نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یوں کہنا کہ سب آئے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زید بھی آیا۔ یہ کہنا کہ زید نہیں آیا اس کے مخالف ہے سو اس کی لم یہی ہے کہ آخر کا کلام اول کا مخصص ہو گیا۔

باقی کوئی یوں کہے کہ اس مثال پر تو جب قیاس کیا جائے کہ جیسے اس کلام میں جملہ مخصصہ ساتھ لگا ہوا ہے ایسے ہی مضمون حدیث کا کوئی لفظ اس آیت کے متصل آگے پیچھے لگا ہوتا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ مخصص کا لفظوں میں اور متصل ہی ہونا کچھ ضرور نہیں۔ اسی کلام میں کہ سب آئے مگر زید نہیں آیا ایک زید کی تخصیص تو لفظی ہے۔ باقی اور جو لاکھوں تخصیصیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ لفظوں میں کہاں ہیں؟ توضیح اس کی یہ ہے کہ اس قسم کے کلام کا سبھی کو اتفاق پڑتا ہے اور بایں ہمہ تمام مخلوقات بلکہ سب بنی آدم اور سارے روئے زمین کے رہنے والوں کا آنا بھی مثلاً مقصود نہیں ہوتا۔ ایک بستی کے یا ایک گروہ کے یا ایک ذیل خاص کے آدمی مراد ہوتے ہیں۔ سو یہ تخصیص کونسے لفظ سے نکل آئی اور اس پر تسکین نہ ہو تو اب کے ایسی مثال لیجئے کہ پھر کسی کو مجال دم زدن نہ رہے۔

جیسے آنحضرت فَانْكِحُوْا مَا طَابَ سے مستثنیٰ ہیں ایسے ہی یوصیکم اللہ سے ہیں

اول میں اسی سورت کے یہ حکم ہے فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ یعنی نکاح کرو عورتوں سے جس قدر تمہاری مرضی ہو دو دو۔ تین تین۔ چار چار فقط۔ اب عرض یہ ہے کہ باتفاق سنی و شیعہ خصوصاً امامی و اثنا عشری اس کے معنی یہی ہیں کہ چار نہایت درجہ ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ سو اگر یوصیکم اللہ عام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر کو سب کو شامل ہے تو فانکحوا ما طاب لکم بھی عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ کوئی لفظ ایسا جس سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا اس سے مستثنیٰ ہونا ثابت ہوا اس کے لیں وپیش میں نہیں۔ پھر جیسے کسی کلام مفصل سے اس آیت کو تخصیص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کر لیا ہے ایسے ہی حدیث مذکور سے آیت یوصیکم اللہ کو مخصوص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کر لیا۔

اور اگر یوں کہئے کہ آیت فانکحوا کی تخصیص تو دوسری آیت ہی سے کی گئی سورۂ احزاب کی یہ آیت یَا اَیُّھَا النَّبِیُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ تک اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔

کہ اے نبی ہم نے حلال رکھیں تیرے لئے تیری عورتیں جن کے تو مہر دے چکا اور جو باندیاں تیری ملک میں آگئی ہیں اس لوٹ میں سے جو اللہ نے دلوادی ہے اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنھوں نے وطن چھوڑ دیا تیرے ساتھ میں۔ اور جو کوئی عورت ہو مسلمان اگر بخشے اپنی جان نبی کو اور نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے آئے نری تجھی کو سوا اور مسلمانوں کے فقط۔"

سو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی تو اتنی کیوں گنا دیتے۔ سو جیسے آیۃ فانکحوا کی تخصیص اس آیت سے ہوگئی ایسے ہی کوئی آیت بتلاؤ جو آیت یوصیکم اللہ کی تخصیص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستثنیٰ ہونے پر دلالت کرے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم بیجا کس سے روا ہوگیا۔؟ کہ کلام مخصص بھی ہو تو آیت ہی ہو؟ عقل سلیم کو آیت اور غیر آیت اس بات میں دونوں یکساں نظر آتے ہیں اور عقل کے سلیم نہونے کے عذر سے یہ جواب مسلم نہیں۔ تو ہم کہتے کہ اول تو آیت فانکحوا کا مخصوص ہونا آیت انا احللنا سے مسلم نہیں ہے۔ کیونکہ مقام دعوی میں لازم ہے کہ ایسی دلیل پیش کی جائے جس میں خلاف دعوے کا احتمال نہ ہو۔ اور

اس آیت میں احتمال ہے کہ بمنزلہ وَاُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ اس امر کے بیا واسطے نازل ہوئی ہو کہ تمھارے لئے اس قسم کی عورتیں حلال ہیں۔ نہ یہ کہ جتنی چ نکاح کرلو۔ جیسے واحل لکم ما وراء ذلکم کے یہ معنی ہیں کہ تمھارے لئے سوا مذکورہ کے سب قسم کی عورتیں حلال ہیں۔ بشرطیکہ مہروں سے ان کے نکاح کرلو۔ سو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ سوا محرمات مذکورہ جس قدر چاہو ان سے کرلو۔ اور مؤید اس احتمال کی یہ بات ہے کہ سورۂ احزاب سورۂ نساء سے نازل ہوئی ہے۔

چنانچہ تفسیر اتقان میں نوع اول میں ترتیب نزول سور نہایت قرآنی میں ای حدیث متصل نقل کی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے۔ سو اب تک آیت فان نازل ہوئی ہی نہ تھی جو آیت انا احللنا نازل ہولی۔ اور جب تک آیت فان نازل نہیں ہوئی تھی تب تک نکاح کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص؟ کسی کو بھی کوئی قید عدد نہ تھی۔ پھر کیا ضرورت تھی جو اس آیت کو نا کر کے یہ اطلاع کی گئی کہ تمھارے لئے جتنے نکاح کرو درست ہیں؟ اس صور میں لاجرم یوں ہی کہا جائے گا کہ آیت فانکحوا کی تخصیص کسی اور ہی وجہ سے ہ اور اگر یوں کہئے کہ ترتیب مذکور باعتبار فواتح سور ہو۔ یہ کیا لازم ہے کہ سورۂ ا کی تمام آیتیں سورۂ نساء کی تمام آیتوں سے پہلے ہی نازل ہولیں؟ چنانچہ حد مشار الیہ سے کچھ ایسا ہی واضح ہوتا ہے۔ سو ہر چند یہ احتمال ہمیں ساکت نہیں ک اسی لئے کہ مدافعۂ ان احتمالات کی ہمارے ذمہ نہیں۔ ہم کس بات کے مدعی ہیں احتمالات مخالفت کو رفع کریں؟ ہاں اس احتمال کا دفعیہ کہ شاید ساری ہی یا فقط آیت اِنَّا احللنا۔ ساری سورۂ نساء یا فقط آیت فانکحوا اس سے پ نازل ہوئی ہو۔ ان کو ضروری ہے تاکہ ان کا دعویٰ تخصیص ثابت ہو۔

یوصیکم اللہ کی مخصص دوسری آیت بھی ہے۔

معہذا ہماری چشم پوشی دیکھئے کہ ہم اس سے بھی د آیۃ یوصیکم اللہ کی مخصص بھی آیت ہی بتلاتے ہیں

حشر جو باشارہ حدیث مشار الیہ سورہ نساء سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ آیت موجود ہے مَآ اَفَآءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مِنْ اَھْلِ الْقُرٰی فَلِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ کَیْلَا یَکُوْنَ دُوْلَۃً بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِ مِنْکُمْ مطلب یہ ہے کہ "جو مال بطور فئی کے، خداوند کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا دیا۔ بستیوں والوں سے۔ (یعنی بے لڑے بصلح فتح ہوگئی) تو وہ اللہ کے واسطے اور رسول کے اور ناتے والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے لئے ہے۔ تاکہ نہ آوے لینے دینے میں دولتمندوں کے تم میں سو فقط"

اب علماء اہل سنت اور منصفان علماء شیعہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مال فئی کی تقسیم جناب باری تعالیٰ نے چھ حصوں پر کی۔ سو بعض علماء کا تو یہی قول ہے کہ چھ حصوں پر تقسیم کر کے خدا کا حصہ بیت اللہ اور مساجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ پر اکثر امت کا مذہب یہ ہے کہ مال فئی کے پانچ ہی حصے ہیں لیکن چونکہ عبارت فَلِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ الخ جو یہاں ہو بہو وہی عبارت ہے جو پارہ دہم کے شروع میں مصرف خمس کے بیان کے لئے وارد ہوئی ہے۔ اور شیعوں کا اس جگہ پانچ حصوں پر تقسیم کرنا بالیقین معلوم ہے۔ تو بالیقین معلوم ہوا کہ یہاں بھی شیعوں کے نزدیک وہی تقسیم ہو گی۔ سو اس مذہب کے موافق ذکر خدا کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ جو چیز خداوند کریم کے ارشاد کے باعث اس کی رضا کے موافق خرچ کی جاتی ہے تو اس کو خدا کے ساتھ اور نیز ان کے ساتھ جو موافق ارشاد خداوندی اس کے مصرف مقرر ہوئے ہیں ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔

خدا کے ساتھ تو یہ نسبت، کہ اس کی راہ میں خرچ ہوئی۔ اور اہل مصرف کے ساتھ یہ نسبت کہ ان کے لئے مقرر ہوئی۔ تو اس کو خدا کے واسطے بھی کہہ سکتے ہیں چنانچہ عرف ہی یہ ہو گیا ہے کہ جو چیز بہ نیت ثواب دیا کرتے ہیں اس کو خدا کے واسطے کہا کرتے ہیں۔ اور اہل مصرف کے واسطے بھی۔ چنانچہ عرف میں ان کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں اور بولا کرتے ہیں کہ فلانی چیز فقیروں کے یا مسکینوں کے

واسطے ہے مثلاً۔ تو اس صورت میں حاصل یہ ہوا کہ مال فئی خدا کے واسطے ہے اور فلانی فلانی قسم کے آدمیوں کے واسطے یعنی خدا کی رضا مندی کے لئے اُن کو دیا جائے۔ اور ضرورت اس کہنے کی یہ ہوئی کہ مال فئی تو اسے کہتے ہیں کہ جو کفار کے پنجوں میں سے بے لڑے بھڑے بسبب رعب لشکر اسلام کے یا بطور صلح اہل اسلام کے قبضہ میں آ جائے سو یہ مال حقیقت میں تو جناب باری تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض و تصرف میں داخل کر دیا۔

لیکن چونکہ بظاہر اس کا باعث رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے۔ اور رعب میں فی الجملہ جمعیت لشکر کو مداخلت ہے۔ تو لشکریوں کو اس میں طمع ہو سکتی تھی اس لئے یوں ارشاد ہوا کہ جو مال بے لڑے بھڑے ہم نے اپنے رسول کو دلوا دیا ہے اس میں تمہیں جانفشانی کی نوبت نہیں آئی کہ کسی قسم کی مشقت تم پر نہیں پڑی۔ سو مناسب یوں ہے کہ اس کو خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ تاکہ مصارف مذکورہ میں صرف ہووے لیکن پہلی آیت میں جو یہ جملہ ہے فَمَآ اَوْجَفْتُمْ سے لے کر قَدِیْرٌ تک اس جملہ کے مناسب یوں ہے کہ یوں کہیے۔ کہ جب خداوند کریم نے تمہاری بے سعی و کوشش کے یہ مال اپنے رسول کو دلوا دیا تو اس میں تمہارا کچھ حق نہیں۔ جیسا مال غنیمت بسبب اس کے کہ بظاہر تمہاری جانفشانیوں کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا تھا تم پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو مال فقط خدا کی عنایت سے ہاتھ آئے وہ خدا کا ہونا چاہئے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہیں اور خدا کے نام پر بیٹھے ہیں یہ خدا کے نام کا مال اُن کو ملنا چاہئے۔

آنحضرت فدک کے مالک نہ تھے متولی تھے

بہر حال لفظ علیٰ رسولہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبض و تصرف ثابت ہوا لیکن جیسا لفظ علیٰ رسولہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبض و تصرف ثابت ہوا ویسا ہی لفظ فللّٰہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ قبض و تصرف مالکانہ نہیں بلکہ متولیانہ ہے یعنی آپ خازن اور امین ہیں مالک نہیں۔ ورنہ اس مصرف کے مقرر کرنے کے کیا معنی؟ مالک کو اپنی چیز کا اختیار

ہوتا ہے؟ اور اگر بالفرض والتقدیر مال فئ مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوا اور ایک قدر معین کے لئے ذوی القربیٰ اور یتامیٰ اور مساکین اور ابن سبیل کو مقرر کر دینا ایسا ہی ہو جیسا زکوٰۃ کے لئے (جو ایک حصہ معین ہے) فقرا اور مساکین وغیرہما کو مقرر کر دیا ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ یہ بات بشہادت عبارت آیۃ ظاہر البطلان ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نعوذ باللہ سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیمات جو باتفاق سراسر معصوم ہیں۔ اس جہان سے بار حقوق مندرجہ آیت اپنے سر پر لے گئے سو اس کے قایل ہونے کی جرات شیعوں ہی میں نظر آتی ہے اہل سنت کو ایسی بات کہہ کے اپنا ٹھکانا نظر نہیں آتا۔

باقی رہا فئ کے اندر فئ کا مصارف مذکورہ میں خرچ کرنا۔ سو اس صورت میں اس سے کام نہیں چلتا کیونکہ لفظ افاء اللہ اس صورت میں صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ذوی القربیٰ اور یتامیٰ وغیرہ کو اصل زمین بانٹ کر دینی چاہئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مملوک ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر نہ معلوم کس وجہ سے روایت ہبہ فدک کو علمائے شیعہ صحیح سمجھتے ہیں یا فدک کو تمام حق وارثان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ فقط حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق خاص قرار دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکہ تمام اکابر صحابہ خصوصاً خلفائے ثلثہ پر زبان طعن دراز کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے عذر جہل تھا تو البتہ یہ عذر معقول ہے۔ لیکن بعد استماع ان کلمات طیبات اور مضمون آیہ سراپا ہدایت کے توبہ و استغفار میں کیا توقف ہے؟

ہاں اگر قریۂ فدک بطور فئ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قبض و تصرف میں نہ آیا ہوتا یا بعد ادائے قدر واجب منجملہ اراضی وسیعہ اور قریات کثیرہ قریہ فدک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ جاتا تو البتہ درصورت احتمال مفروض فی الجملہ جائے گرفت تھی لیکن شیعی ہی فرمائیں کہ فدک کا فئ ہونا اور پھر غیر مقسوم ہونا کس کے نزدیک مسلم نہیں؟ بلکہ انصاف سے دیکھئے تو اس قسم کی تقسیم بھی مفید مطلب شیعہ نہیں

کیونکہ اگر بالفرض قریات تقسیم ہوئی تھیں تو ہر ہر قریہ والوں سے جدا جدا صلح واقع ہوئی تھی کسی ایک کی سلطنت ہی نہ تھی جو فقط اسی سے صلح کرنی کافی اور مکتفی ہو جاتی سو اس صورت میں لازم تھا کہ ہر قریہ میں سے تقسیم کر کے حقوق واجبہ کو ادا کرتے۔ کیونکہ لفظ ما جو افاء اللہ میں ہے عموم اور شمول افرادی پر دلالت کرتا ہے بمثل غنیمت ہر فئ کو جداگانہ تقسیم کرنا چاہئے تھا۔

اور اگر کوئی عقل کا اندھا اور تعصب کا پورا سنیوں سے دامن چھڑانے کے لئے فدک کو کسی غنیمت کا حصہ خمس کہہ کے سنیوں کے سامنے آنکھیں کرنے کا ارادہ کرے تب بھی موافق مثل مشہور ع بہر کجا کہ رسیدیم آسمان پیداست :: وہی خرابی کی خرابی برسر رہے گی۔ کیونکہ جن الفاظ اور جس عبارت سے مال فئ میں سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصناف اربعہ ذی القربیٰ وغیرہ کے حقوق کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ وہی الفاظ بعینہا خمس کے مصرف کے بیان کے لئے جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر علمار شیعہ کو بوجہ یاد نہ ہونے کلام اللہ کے بحکم المرء یقیس علی نفسہ اس گفتار میں میری طرف دروغ کا احتمال ہو تو کلام اللہ تو ہر جا موجود ہے۔ سیپارہ دہم کی پہلی آیت کو مطالعہ کر دیکھیں۔

معہذا خمس تو مال غنیمت میں سے ملتا ہے۔ سو اگر بالفرض فدک جنگ و جدال سے فتح ہوا ہوتا تو چار خمس تو پھر بھی غانمین کے ہوتے۔ علیٰ ہذا القیاس سوائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اگر کہئے تو جو حال اور مجاہدین کا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سو کسی طرح سارے فدک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مملوک ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی احتمال نہیں کہ فدک کسی قریہ کے اس حصہ معین کا نام ہے جو بعد ادائے حقوق واجبہ رہ گیا تھا۔ کیونکہ بالاتفاق اہل لغت صاحب قاموس وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ فدک ایک قریہ کا نام ہے علمار شیعہ کو بھی اس میں کلام نہیں۔ اور جاہلوں سے اپنی کلام نہیں۔ بہر حال قبل اس بات کے کہ بعد تقسیم اراضی کثیرہ فدک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہ گیا تھا۔

یہ خیال باطل ہے کہ اراضی فئ بلکہ اراضی خمس بھی مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں (مثل خیال محال مجانین پریشان ہی رہے گا۔

آیت کے ہر لفظ سے فدک کا مملوک نہ ہونا ظاہر ہے

مگر شائد کسی عقل کے دشمن کو اس احتمال کے بطلان کی حقیقت میں خلجان رہے۔ اس لئے ہم کو بھی لازم ہے کہ اس احتمال کے بطلان کے وجوہ جن سے مال فئ بھی ثابت ہو جائے۔ بیان کر کے ابو بکر صدیق کی برارۃ بلکہ حقانیت اور علماء شیعہ کی خوش فہمی کو آشکارا کر دکھلائیں۔ سو اول تو اس احتمال کے بطلان کے لئے کہ فدک جو منجملہ اراضی فئ ہے مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا (اور ان مصارف معلومہ کا مقرر کر دینا بعینہ ایسا ہے جیسا اموال مملوکہ میں قدر زکوٰۃ کے لئے فقراء اور مساکین وغیرہم کو مقرر فرما دیا ہے) قطع نظر اس کے کہ ادنیٰ سے عربی داں کو بھی یہ وہم نہیں گذر سکتا۔ چنانچہ ظاہر ہے یہی ایک لفظ فللہ کافی ہے کیونکہ مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا اموال فئ کا اس لفظ سے ظاہر و باہر ہے۔ چنانچہ مطالعہ کنان تقریر مسطور بالا پر انشاء اللہ مخفی نہ رہے گا۔

دوسرے اگر لفظ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ تملیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا تو پھر فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ۔ کہنے کی کیا حاجت تھی؟ بلکہ مثل وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ الخ یہاں بھی جس قدر خداوند کریم کو مدنظر ہوتا کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کی تعیین فرما کر فللہ کے بعد وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی الخ فرما دیتے فَلِلرَّسُوْلِ نہ فرماتے۔ اور اگر یوں کہئے کہ لفظ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ سے تو تملیک نہیں ثابت ہوتی پر فَلِلرَّسُوْلِ تملیک پر دلالت کرتا ہے تو البتہ یہ بات نادانوں کے نزدیک دانائوں کی سی بات ہے لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اگر فَلِلرَّسُوْلِ میں لام تملیک کے لئے ہو تو لازم فللہ وَلِذِی الْقُرْبٰی کا لام بھی تملیک ہی کے لئے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس جگہ تملیک بے اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس جس کی ملک کیا گیا ہے پہلے سے اس کی ملک میں نہ ہو۔ بلکہ بعد افاءۃ یعنی مسلط کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصناف مندرجہ آیت مال فئ کے

مالک ہونے ہوں۔

کیونکہ اول تو بات ظاہر ہے قبل افاءۃ اموال فئ میں کفار کے سب تصرفات مثل بیع شراء ہبہ وغیرہ کے سب کے نزدیک صحیح ہیں۔ معہذا اگر وہ قبل افاءۃ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ قبول کر لیں تو بہ نسبت اموال کوئی ان کا مزاحم حال نہ ہو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ قبل افاءۃ کفار ہی مالک تھے۔

لام تملیک کے لئے ہو۔ تو اموال فئ غیر مملوکہ خدا ہوں گے

دوسرے فار تعقیب خود اس بات پر شاہد ہے کہ اگر لام لِلرَّسُوْلِ وغیرہ سے ملکیت ثابت ہوتی تب اس کا خداوند مالک الملک خالق ارض و سما کا پہلے سے مالک نہ ہونا شیعوں ہی کے نزدیک ہو سکے تو ہو سکے؟ کیونکہ پہلے سے مالک نہ ہونے کی وجہ اگر ہو تو یہ ہو کہ اموال فئ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قابض ہوں۔ کفار کے مملوک تھے۔ اور ایک شے کے بتمامہا ایک وقت میں دو مالک نہیں ہو سکتے۔ پھر خداوند کریم کو بھی کس طرح مالک کہہ دیجئے لیکن یہ استبعاد جب ہی ہو سکے ہے کہ ملک خداوند کریم ہم پلہ ملک کفار ہو سو شیعہ برنگ معتزلہ جیسے بندہ مخلوق کو کہ افعال اختیاریہ کا خالق قرار دیکر خالق حقیقی کے برابر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ملک میں بھی خالق اور مخلوق کو برابر سمجھنے لگیں تو کون روکتا ہے، عقیدۂ غلط سے بجز عقل کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ سو وہ پہلے ہی نصیب دشمناں ہوئی۔ اور اہل سنت جو بندوں کے ملک کو مالک الملک کے ملک کے سامنے بمنزلہ قبضۂ خرانچی بلکہ مستعیر مالک اصلی کے ملک کے سامنے سمجھتے ہیں تو اُن کو مالک الملک کے ملک اور بندوں کے (خصوصاً کفار کے) ملک کے اجتماع میں کوئی محال نظر نہیں آتا۔

آیت کا مقصد بیان تملیک نہیں ہے

اور سلمنا کہ تملیک بمعنی مذکور نہ ہو بلکہ مقصود فقط بیان ملک ہو اور موافق عقیدۂ اہل سنت فللہ وللرسول کے یہ معنی ہوں کہ مالک حقیقی خداوند مالک الملک ہے اور مالک مجازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لذی القربیٰ الخ کے لام سے جو ذی القربیٰ و یتامیٰ وغیرہ کی ملکیت ثابت ہوتی ہے

اُن کا کیا جواب؟

معہذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربیٰ وغیرہ ہر ایک ہر ایک کو مثل خداوند مالک الملک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تمام اموال فیٔ کا مالک کہئے۔ چنانچہ بظاہر للرسول اور لذی القربیٰ کا عطف اللہ ہی پر ہے اور وہ اسی بات کو مقتضی ہے۔ تب تو اس کے محال ہونے میں کلام ہی نہیں۔ اور اگر یوں کہئے کہ الذی القربیٰ کا عطف للرسول پر ہے۔ اور یہ دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر اللہ پر معطوف ہیں۔ تب اس سے بھی کیا کم کہئے کہ اموال فیٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصناف باقیہ میں اور خدا میں مشترک ہوں۔ سو یہ بات اول تو یوں کسی مسلمان کے دھیان میں نہیں آسکتی۔ کیونکہ اس صورت میں لازم تھا کہ جیسے غنیمت غانمین پر تقسیم کیجاتی تھی اموال فیٔ اصناف معلومہ پر تقسیم کئے جاتے تاکہ ہر کوئی اپنے حسب دلخواہ اس میں تصرف کرتا۔ ضرورت ہوتی تو کسی کے ہاتھ بیچ دیتا نہیں تو آپ رکھتا یا کسی کو دے دیتا۔ سو یہ وبال کس کی گردن پر رہا کہ مالکان اشیاء کو دخل نہ ملا؟

سو اہل سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو درکنار اُن کے خدام کی طرف بھی یہ وہم نہیں آسکتا۔ کہ ایسے ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے ہوں۔ ہاں شیعی کہیں تو اُن سے کچھ دور بھی نہیں۔ اُن کی اور خرافات کو اگر ٹٹولئے تو اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ دوسرے اگر تقسیم بھی وقوع میں آتی تب یہ بات تصور میں نہیں آسکتی کہ شرکاء غیر معین میں ایک چیز مشترک ہو۔ غانمین کی تو ایک تعداد معین ہوتی ہے ان کو غنیمت میں شریک کہئے تو زیبا ہے۔ ذی القربیٰ اور یتامیٰ وغیرہ کا کوئی عدد معین کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا اور معلوم بھی ہو تو سب کو اُن کا حق پہنچانا بندوں سے محال ہے۔ معہذا اصل زمین کا دینا تو ایک طرف اراضی فیٔ کی آمدنی بھی تمام ذی القربیٰ اور تمام جہان کے یتامیٰ اور مساکین اور ابن سبیل کو نہیں پہنچی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور اگر ان اصناف اربعہ کو اہل اسلام ہی میں منحصر رکھ کے کلام کیجئے تب بھی شیعوں کا قافیہ تنگ ہی رہے گا۔

اور اگر بالفرض بفرض محال مقصود جناب باری تعالیٰ فللہ سے تو یہ ہو کہ مالک حقیقی جناب باری تعالیٰ ہے اور فللرسول سے یہ مطلب ہو کہ مالک مجازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور لذی القربیٰ الخ بیان مصرف کے لئے ہو تو اہل سنت کو سوائے اس کے کہ اس صورت میں خدا کی طرف حرف عائد ہوگا چنانچہ معلوم ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تسلیم میں کچھ دشواری نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک جو اس صورت میں فقط برائے نام ہی ہوگی اگر بالفرض بطور وراثت وارثوں کی طرف منتقل بھی ہو جائے گی۔ تو استحقاق اصناف باقیہ تو کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی طرف منتقل ہو ہی نہیں سکتا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصل کا یا آمدنی کا خرچ کرنا ضروری تھا، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بدستور رہے گا۔

اور اگر بفرض محال منتقل بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اصناف اربعہ کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے کچھ تعلق نہیں۔ سو ابو بکر صدیق نے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا تو لم اُس کی یہی ہے کہ ان کی طلب گاری سے یہی بات ٹپکتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فدک کو جو بطور فیٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض و تصرف میں آیا تھا مثل اور املاک ہر قسم کے تصرف کے قابل سمجھ کر فقط اپنی گذران کیلئے طلب کرتی تھیں بطور تولیت نہیں مانگتی تھیں۔ ورنہ دعوئ ہبہ اور دعوئے میراث کے کیا معنی؟ معہذا روایت معراج السالکین جس کا ترجمہ تو مذکور ہو چکا اور عبارت بھی انشاء اللہ قریب ہی مذکور ہوگی اس دعوے کے لئے دلیل کامل ہے۔ اہل فہم اس روایت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ابو بکر صدیق کا نہ دینا فقط اسی وجہ سے تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فدک کو اپنے صرف کے لئے طلب فرماتی تھیں۔ ورنہ اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اس لئے طلب فرماتیں کہ مصرف مذکورہ میں صرف کریں تو ابو بکر صدیق یوں کیوں عذر کرتے کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مصرف میں صرف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

مگر چونکہ اہل حق بعد ظہور حق کے مان لیا کرتے ہیں جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی فہم مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق کی بات آگئی اور صدیق اکبر کو اسم بامسمیٰ صدیق صادق پایا، یہ گمان خود پہلے سے نہ تھا کہ ابوبکر صدیق آپ خورد برد کرلیں گے اس کام کے اپنے سر رکھنے میں خلجان دیکھا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ابوبکر صدیق کا عذر قبول فرمایا اور ان کا قول مسلم رکھا۔ اور فدک کی آمدنی کے صرف کا انتظام اور اہتمام ابوبکر صدیق ہی کے سپرد الا اور راضی ہوگئیں۔ چنانچہ ناظران روایت مذکور پر مخفی نہ رہے گا۔ اس پر بھی شیعہ نہ مانیں تو اور کیا کہا جائے کہ ان نااہلوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے اتباع سے غرض نہیں۔ صحابہ کی عداوت کے لئے اہل بیت کے نام کو آڑ کر رکھا ہے۔

آیت میں لام کے مختلف معنی مراد لینے پر مفاسد

الحاصل اگر بفرض محال فللہ سے تو یہ مراد ہو کہ مالک حقیقی خداوند کریم ہے اور فللرسول کا یہ مطلب کہ مالک مجازی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور لذی القربیٰ الخ کے یہ معنی ہوں کہ ان مصارف میں صرف کیا جائے تو اہل سنت کو تو اس کی تسلیم میں کچھ دشواری نہیں مالک فدک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور وراثت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی سہی لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی طرف سے خرچ کرنے کے داروغہ تھے۔ برضائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فدک کی آمدنی کو مصارف معلومہ میں صرف کرتے تھے۔ پر سنیوں کی اس طفل تسلی سے شیعوں کے کیا ہاتھ آئے گا۔ اُلٹا بیس طرح کی خرابیاں اور جوابدہی سر دھرنی پڑیگی۔

اول تو نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ خداوند کریم نے باایں ہمہ عنایت اس تملیک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرب اور محبوب کے ساتھ وہ معاملہ کیا جیسے کہا کرتے ہیں "گھر باہر سب تیرا ہے پر کوٹھی کٹھلے کو ہاتھ نہ لگانا" سبحان اللہ جو بات مخلوق کے حق میں بھی معیوب ہو وہ شیعوں کو اس صورت

میں جناب باری تعالیٰ کی نسبت تجویز کرنی پڑے گی۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف کے اعجاز کا شہرہ اور بوجہ فصاحت و بلاغت اور خوبی عبارت و مضامین جناب باری تعالیٰ کا یوں دعوے کرنا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ یعنی ایسی کوئی ایک سورت ہی لے آؤ زیادہ نہیں تو اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ہی کے برابر ہی۔ اس صورت میں محض بے جا اور بے موقع ہو جائے گا مضمون ایسا کچھ کہ مالک تو کر دیا پر اختیار ذرہ برابر نہ دیا۔ اور عبارت ایسی کچھ کہ معنی مقصود سے کچھ لگاؤ نہیں۔ اگر اس وجہ سے اس موقع میں یوں کہا جائے کہ "المعنی فی بطن الشاعر" تو بے موقع نہ ہو۔

بلکہ انصاف سے دیکھئے تو خلاف مقصود پر البتہ دلالۃ موجود ہے قرینہ عطف سے للرسول ولذی القربی سے ایک طرح کا استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور قرینہ اس سے اقوی اس کے معارض ہو جاتا جیسے للہ میں موجود ہے تو کچھ مضائقہ بھی نہ تھا۔ اس لئے سوا اس کے کہ بطور احوال میری زبان پر آگیا آج تک کسی نے اس کا یہ مطلب ہی نہ سمجھا۔ اور باایں ہمہ قرآن قرآن مبین بھی رہا۔ تیسرے للہ کے لام کو اگر تملیک کے لئے اس لئے نہیں کہہ سکتے۔ کہ تملیک وہاں ہوا کرتی ہے جہاں پہلے سے ملک نہ ہو تو یہ مسلم لیکن لذی القربیٰ الخ کے لام کے یہ معنی کیوں نہیں؟ ذی القربیٰ وغیرہ تو کچھ ہم پایہ خدا اور شریک موجودات نہیں جو مالک حقیقی اور مالک قدیمی ان کو کہا جائے؟ اور تملیک بمعنی مذکور کے گنجائش نہ ہو۔

چوتھے یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک مثل ملک جملہ بنی آدم ہے اور آپ اس قسم کی ملک کے قابل ہیں۔ تو قرینہ عطف یوں تقاضا کرتا ہے کہ جو بات للرسول کے لام سے ثابت ہو وہی لذی القربیٰ کے لام سے ثابت ہو ورنہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ اور اگر مثل ملک خداوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک بھی عوام کی ملک سے ممتاز ہے اور ایک نوع جداگانہ ہے۔ تو ہم

یوں کہتے ہیں کہ جیسے باری تعالیٰ کی ملک میں وراثت جاری نہیں ہوسکتی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ملک میں بھی وراثت جاری نہیں ہوسکتی۔

آپ کی ملک میں وراثت جاری نہیں ہوسکتی کیونکہ آپ زندہ ہیں

اور یہ بات دو وجہ سے قرین قیاس بھی ہے۔ اول تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء بالیقین قبر میں زندہ ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کی ملک زایل ہونے ہی نہیں پائی جو وارثوں کی ملک اس کے قائم مقام ہو۔ بلکہ جیسے ہم تم کہیں چلے جائیں یا چندے کسی گوشہ میں بیٹھ رہیں۔ اور ہمارے لواحق وغیرہ ہماری اشیاء کو برتیں تو اس سے ہماری ملک زائل نہیں ہوتی۔ اور برتنے والے وارث مالک نہیں ہوجاتے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشۂ قبر میں پنہاں ہوگئے ہیں۔ اور آپ بدستور اپنی اشیاء اموال کے مالک ہیں کوئی اور مالک نہیں ہوگیا۔ اور حدیث لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کی رُو سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اب تک بقید حیات ہیں۔ پر شیعہ نہ سمجھیں تو کیا کیجئے؟

خدا کی مالکانہ شان آپ کو اتنی مشاہد تھی کہ اپنی ہر چیز کو عاریت یقین کرتے تھے

اور اگر شیعی یا کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کو نہ مانے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء خاصکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبب کمال درجہ کی حقیقت شناسی کے ہر دم و ہر لحظہ خداوند کریم مالک الملک کی ملکیت کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کا مالک ہونا ہر وقت ان کے پیش نظر ہے۔ اس لئے اپنی ملک کو ملک ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ جیسے کوئی کسی کے گھر دعوت کھانے جاتا ہے اور اس کے کھانے کو بمنزلہ اور اثاث البیت کھانا کھلانے والے ہی کی ملک سمجھتا ہے۔ پر خاص اس کھانے کی نسبت جو اُس کے سامنے رکھا جاتا ہے فقط کھا لینے کی اجازت سمجھتا ہے۔ نہ یہ کہ اپنا سمجھ کر کسی کو دیدے یا بیچ ڈالے یا اپنے لواحق کے لئے لیجائے۔ بلکہ اپنے لئے لیجانا بھی ممنوع جانتا ہے۔ نہیں تو عرف و شرع میں اس بات کو کوئی معیوب

نہ سمجھتا۔

ایسا ہی انبیاء بھی ان اشیاء کو جو ان کے قبضہ میں بطور ملک ظاہر کے آجاتی ہیں اپنی ملک نہیں سمجھتے۔ بلکہ ملک مالک الملک سمجھ کر بمنزلہ مہمان یا دعوتی کہ جو کچھ اُس سے کھایا گیا کھایا گیا باقی مالک خانہ کا ہے۔ جو کچھ اپنے کام آیا اپنے کام میں لائے باقی کو خدا کی ملک سمجھ کر اس دار دنیا سے اوٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کے نزدیک اُن کا ترکہ ان کی چیز ہی نہ ہوئی تو یہ قبض حین حیات اور استعمال بمنزلہ قبض طعام دعوت اور استعمال مال مستعار ہوگا۔ اور ان کے عندیہ میں وارثوں کو اُس میں سے کچھ حق نہ پہونچے گا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو۔ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔

ایک شبہ کا ازالہ

اور یہ بات کہ اگر انبیاء کا مقبوضہ ان کی ملک ہی نہیں تو اُن کی بیع و شرا بھی چاہیئے کہ نافذ نہ ہوا کرے۔ کسی نادان ہی کے دل میں کھٹکے تو کھٹکے کیونکہ جنسے محبت ہوتی ہے بسا اوقات اہل دنیا بھی اُن کو اس بات کی اجازت دیدیا کرتے ہیں۔ کہ وقت ضرورت ہماری چیز کو بیچ لینا خداوند کریم تو درکنار بلکہ یاران بے تکلف تو اجازت کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ دوستوں کی چیز میں اجازت ہی سمجھتے ہیں لیکن اس اجازت کو موجب ملک کوئی نہیں سمجھتا۔ یہاں تک کہ اُس کے وارث بھی اُس کے مستحق ہوجائیں۔ الحاصل انبیاء کی حقیقت شناسی اسی بات کو مقتضی ہے کہ اپنے مقبوضہ کی نسبت اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں۔ ہاں اُس کو من جانب اللہ وقف سمجھ کر اور ملک خداوند کریم جانکر حسب ضرورت اپنے کام میں لاتے رہیں۔

باقی رہے عوام اور سوائے انبیاء کے اور لوگ ہر چند کتنے ہی باکمال کیوں نہ ہوں بمنزلہ عوام ہی کے ہیں سو ان کو انبیاء کے مقابلہ میں بمنزلہ اطفال اور مجانین کے بڑوں بوڑھوں عقلمندوں کے مقابلہ میں سمجھنا چاہیئے یعنی جیسے اطفال بے تمیز اور مجنونان اطفال سیرت دعوت یا غیر کی کسی قسم کی چیز کو اگر اُن کے پتے پڑ جائے۔ اپنی سمجھ کر اگر مالک بھی اُن سے لینے لگے تو غل مچا دیتے ہیں۔ اور رو لے دھونے لگتے ہیں۔ اور مالکان سبر چشم

چشم پوشی کر کے چپ ہو رہتے ہیں اور اُس کھانے کو انھیں کو لیجا لے دیتے ہیں۔ اور اُن اشیاء کو انھیں کے پاس چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی عوام بھی اس متاع دنیا کو جو حقیقت میں ملک مالک الملک۔ مالک حقیقی کی ہے اُن کے پاس مستعار ہے۔ گو زبان سے خدا کی کہے جائیں پر دل سے اپنی ہی سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک آدمی نے اُس کو دل سے بھی خدا ہی کی سمجھا۔ تو اول تو پورا پورا سمجھنا کہاں؟ دوسرے کسی کو کیا معلوم؟ دل کی بات سوا خدا کے کون جانتا ہے؟ جو اُن کے مال میں وراثت جاری نہ کی جاوے۔ مثل نبوت اگر ان کے اندر بھی اس کی کوئی علامت ہوتی تو یوں بھی ہوتا۔ اس لئے خداوند اکرم الاکرمین نے براہ چشم پوشی اُن کے متروکہ کو انھیں کی ملک قرار دے کر بقدر مناسب اُن کے پس ماندوں کو تقسیم کر دیا۔

القصہ ان وجوہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملک انبیاء برنگ ملک خدا قابل وراثت نہیں۔ اور اگر براہ تعصب ان وجوہ کو کوئی تعصب سمجھے۔ تو یہ احتمال تو کہیں نہیں جانے گا۔ کہ ملک انبیاء شاید قابل وراثت نہ ہو۔ یہ وجوہ غلط ہیں تو ہوا کریں شاید کوئی اور ہی وجہ ہو۔ مدعیان وراثت کو جب بھی مشکل ہی رہے گی۔ القصہ لِلرَّسُوْل سے ایسی ملک کو ثابت کرنا جو برائے نام ہو اہل سنت کو تو کچھ مضر نہیں۔ پر شیعی اتنا تو سمجھ لیں کہ کوئی اجنبی ایسی نامعقول باتوں پر کیا کہے گا؟ القصہ اہل دانش وفہم کے نزدیک لام للرسول ولذی القربیٰ سے ملکیت اور استحقاق اصناف مندرجۂ آیت مثل لام للذکر مثل حظ الانثیین یا لام لکم رؤس اموالکم جو پہلا ملکیت اور دوسرا استحقاق پر دلالت کرتا ہے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔

آیت میں لام بیان مصارف کے لئے ہے

ہاں اگر مثل لام انما الصدقات للفقراء والمساکین الخ بیان مصرف کے لئے کہا جائے تو البتہ قرین عقل اور شیعوں کے نزدیک بھی واجب التسلیم معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اول تو اس میں کچھ خرابی نہیں۔ بے عقل و غش عقل اسے مسلم رکھتی ہے۔ اور بوجہ بے عقلی اگر عقل کی بات کے تسلیم کرنے میں شیعوں کو

کچھ عذر ہو تو آیۃ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ میں جو یعنیہا آیۃ ما افاء اللہ کے مطابق ہے۔ اتفاقات سے شیعوں کے نزدیک بھی لام بیان مصرف ہی کے لئے ہے۔ چنانچہ ابوالقاسم صاحب شرائع الاحکام نے جو ملقب بمحقق ہے اور سوا اُس کے اور علماء امامیہ نے اس بات کو بتصریح کہا ہے۔ بلکہ اس مذہب کے اماموں سے بھی بہ سند بیان کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی چیز کا مصرف ہوتا ہے اگر مالک مال اُس کو نہ دے تو اہل مصرف اس کے دادخواہ نہیں ہو سکتے۔

بالجملہ اہل مصرف قبل عطا مالک نہیں ہوتے۔ اس لئے فقراء وغیرہ کو زکوٰۃ اور صدقات کا قبل از عطا کوئی مالک نہیں سمجھتا تو اس صورت میں اس آیت میں بھی لام ملکیت اور استحقاق پر دلالت نہ کرے گا۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک وغیرہ آراضی فَے کا تقسیم کرنا ضروری نہ سمجھا۔ بلکہ آمدنی کو ہمیشہ تقسیم فرماتے رہے۔ اگر لام للرسول وغیرہ ملکیت اور استحقاق پر دلالت کرتے تو قرینہ لفظ افاء اللہ کا اس بات کو مقتضی تھا کہ اصل زمین کو بانٹ کر مستحقوں کو حوالہ فرماتے۔ کیونکہ اصل زمین مصداق ما افاء اللہ ہو سکتی ہے نہ کہ آمدنی چنانچہ ظاہر ہے۔

اہل شیعہ کا اعتراض کہ ما افاء اللہ کا مقتضیٰ زمین کی تقسیم تھا اور آپ آمدنی تقسیم فرماتے رہے؟

یہاں اگر شاید کسی عقل کے دشمن کو یہ شبہ حیران کرے کہ ہم نے مانا یہاں مصرف سے ملکیت اور استحقاق ثابت نہیں ہوتا تاوقتیکہ اہل مصرف کو کچھ عطا نہ کیا جائے۔ ان کی ملک میں نہیں آتا۔ لیکن لفظ ما افاء اللہ اس بات کو تقاضا کرتا ہے کہ اصناف مندرجۂ آیت مصرف اہل زمین ہوں۔ تو اس صورت میں لازم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل زمین کو تقسیم فرماتے۔ آمدنی کا تقسیم کرنا بظاہر خلاف آیت ہے۔ سو اس کا پائے علماء کی گذارش یہ ہے کہ اس قسم کے شبہ کا جواب اہلسنت تو انشاء اللہ بطور معقول دے نکلیں گے لیکن شیعی اتنا تو سمجھیں کہ یہ اعتراض اہل سنت پر نہیں بلکہ صاحب سنت سرور کائنات خلاصۂ موجودات علیہ وعلی آلہ افضل

الصلوات والتسلیمات پیر ہے۔ سو اس صورت میں اپنے مذہب کی بھی خبر نہیں ایسے شبہ کا جواب ہماری طرف سے تو وہی شعر مشہور بہت ہے۔

شادم کہ از رقیبان دامن کشاں گذشتی ؛ گو مشت خاک ماہم برباد رفتہ خند

بااین ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدک کو تقسیم کرکے نہ دینا ہمیں تو ایمان کے لئے کچھ اور افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم نہیں۔ ہم تو بے دلیل اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن درصورتیکہ ابوبکر صدیق وغیر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرفداری میں ہم کو اتنا بکھیڑا کرنا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری اور حمایت کیونکر نہ کریں گے اگر شیعوں کو خلفاء کے بغض اور حسد کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس بات کا طعن ہے۔ کہ آیت سے تو آمدنی کا مصارف مندرجۂ آیت میں صرف کرنا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اہل مصرف کا دینا اس آیت سے نکلتا بھی ہے تو اصل زمین کا نکلتا ہے۔ پھر آپ نے اصل زمین ہی کیوں نہ تقسیم فرمائی؟ تاکہ سب نہیں تو کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ پر آتا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا بہ نسبت فدک دعویٰ وراثت صحیح ہو جاتا۔ اور یہ طعن جو ابوبکر صدیق پر (بوجہ نہ دینے میراث کے) ہم کرتے تھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر حسب مزعوم شیعہ پلٹ کر نہ آتا کیونکہ وہ معصوم تھیں۔ اور معصوم سے یہ بات کہ جو اپنے مورث کی چیز ہی نہ ہو اس میں دعویٰ وراثت کا کرے (اس اہتمام سے کہ شیعوں سے سب ہی نے سنا ہوگا) ہرگز تصور میں نہیں آسکتا۔

اور ایک شے اگر مالک اہلِ مصرف میں سے کسی ایک کو اس غرض سے عطاء کرے کہ اس قدر اوروں کو دے کر باقی جو بچے اس کو اپنے آپ رکھ لے۔ تو اول دینا لینا تاوقتیکہ جس کو وسیلِ تقسیم بنایا ہے تقسیم نہ کرے، اُس قدر میں کہ جس قدر بعد تقسیم اس کے پاس باقی رہ جائے گا اس کے لئے موجبِ ملک نہیں ہو سکتا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے۔ کیونکہ ہبہ اشیائے مشترکہ میں باتفاق فریقین بے قبض موجب مِلک نہیں ہو سکتا۔ اور قبض بے تقسیم متصور نہیں۔ تو اس صورت میں یوں

بھی نہیں کہہ سکتے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض تو تھے ہی! اگر اور کوئی اصناف مندرجۂ آیت میں سے بایں وجہ مالک نہیں ہو سکتا کہ اہل مصرف قبل عطاء، اور قبل قبض مالک نہیں ہوا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ہی پر قابض تھے اپنا حصہ بھی اس میں آگیا۔

بہر حال کوئی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہونے کی نہیں نکلتی جو دعوئے وراثت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صحیح ہو۔ بالجملہ ان مقامات میں تصدق اور انفاق ہے اور موصوف بتصدق اور انفاق (یعنی اموال) کا لحاظ شیعوں کے اطوار سے یوں ٹپکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقسیم نہ کرنے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو وجہ سے حرف ہو۔ ایک تو یہ کہ بظاہر خلاف آیت کیا۔ دوسرے اس تقسیم نہ کرنے کی بدولت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی معصومیت بالکل ہی تھامنی مشکل پڑگئی۔ اس لئے ہمیں بھی اپنا مافی الضمیر ضرور عرض کرنا پڑتا تاکہ بسبب طرف داریٔ جناب رسالت مآب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم دامانِ رحمتِ خداوندی میں ہمیں بھی جگہ ملے۔ اور شیعی جوابِ دندان شکن سنکر اپنے کردار کو پہنچیں۔

اعتراض کا جواب کہ اموالِ فَے وقف ہیں نہ کہ ملکیت

جناب من شیعوں کا ایسے مقامات میں لڑنا (قطع نظر اس کے کہ اہل سنت پر کیا اعتراض کرتے ہیں اپنے مذہب پر کرتے ہیں) اس مثل مشہور کا مصداق ہو جاتا ہے ع سخن شناس نۂ دلبرا خطا اینجاست کیونکہ ما افاء اللہ الخ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کلام بلغاء اور فصحاء میں موجب دوام وثبوت ہوتا ہے۔ اور کوئی بشر بمقتضائے بشریت اس قاعدہ کی رعایت میں چوک جائے تو چوک جائے۔ خداوند علیم چوک نہیں سکتا۔ مگر اس صورت میں لازم ہے کہ اللہ اور للرسول اور لذی القربیٰ ہونے کی صفت ما افاء اللہ سے زائل اور منفک نہ ہو۔ اور بایں صفت موصوف ہونے سے اس کی ذات میں کچھ انکار نہ ہو سو یہ بات جبھی بن پڑتی ہے کہ اموال فَے کو چنانچہ مرقوم ہو چکا وقف کہا جائے۔

کیونکہ وقف کو دائماً للہ بھی کہہ سکتے ہیں اور داہلِ مصرف کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں

نئی اور صدقات کا ایک لطیف فرق

باقی رہا جملہ انما الصدقات للفقراء الخ ہر چند وہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے لیکن اہلِ دانش و فہم پر مخفی نہ ہوگا کہ صدقہ ہونا کسی چیز کا خود ایک آنی بات ہے یعنی کبھی آنِ واحد کے لئے اس صفت کو اپنے موصوف سے ارتباط پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر مثل حرکات کہ سریع الزوال ہوتی ہیں اپنے موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس صفت کے وجود کے یہی معنی ہیں کہ قدر مقرر اس کی کسی کو دیدیجئے۔ ورنہ قبل دینے کے صدقہ نہیں۔ والا تمام احکام صدقات مثل ادار فرض اور حصول ثواب اور اطفار غضب رب وغیرہ بے دیئے اس پر مرتب ہوا کریں۔ اور جب دے چکے جب ہی وہ صفت صدقہ ہونے کی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگر کوئی محتاج فقیر مسکین مال زکوٰۃ کسی اہل نصاب سے لیکر اپنی طرف سے کسی غنی یا ہاشمی وغیرہ کو دینے لگے تو کچھ ممنوع نہیں۔ بالجملہ صدقہ ہونے کی صفت کا وقت فقط عطا اور قبض ہی ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ ایک آن کی بات ہے سو اس آن تک اس کا للفقراء ہونا کہیں نہیں گیا۔ بعد میں اگر فقرار وغیرہ اُس کو کسی کو ہبہ کر دیں یا بیچ ڈالیں تو وہ صدقہ ہی نہیں۔ جو پھر بھی فقرار کا استحقاق باقی رہے۔

القصہ یہ قضیہ بھی دوام ہی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اُس کے دائمہ ہونے سے ہمیں کیا انکار ہے۔ پر اتنا یاد رکھنا ضرور ہے کہ دوام کے یہ معنی ہیں کہ محمول وقت وجود موضوع حقیقی تک اس کے ساتھ مربوط رہے۔ مگر موضوع حقیقی کا پہچاننا ہر کسی کا کام نہیں۔ ان باتوں کے لئے حقائق شناس معانی سنج چاہئے جس کو خداوندِ علیم اس قدر بصیرت عنایت فرمائے کہ مناطِ حکم اور مدارِ ارتباطِ موضوع و محمول اور سیاق کلام کو دریافت کر سکے۔ اُس کا یہ کام ہے۔ سو جملہ ما افاء اللہ میں موضوع حقیقی مصداق مَا ہے اور اس سے، مراد خود اراضی فئے ہیں۔ اور صفت افارۃ فقط تعیین اور تفہیم اور رفع ابہام کے لئے ہے۔ اس لئے للہ وغیرہ ہونا جو مضمون خبر ہے اُس کی ذات

کے ساتھ دائم رہے گا۔ اور موافق اصطلاح اہلِ منطق یہ قضیہ دائمہ ہوگا۔

اور جملہ انما الصدقات وغیرہ میں موضوع حقیقی صفتِ تصدق ہے ذات اموال نہیں۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کیونکہ یہ جملے اگرچہ خبریہ ہیں اہلِ فہم کے نزدیک انشائیہ ہیں مطمح نظر ان مقامات میں تصدق اور انفاق ہے۔ اور موصوف بتصدق اور انفاق (یعنی اموال کا لحاظ) فقط اس لئے ہے کہ یہ صفت بغیر اس موصوف کے متحقق نہیں ہو سکتی۔ سو اس جملہ میں دوام محمول تا دوام وصفِ تصدق چاہئے اور موافق اصطلاح اہل منطق اس کو عرفیہ عامہ سمجھئے اور قضیہ ما افاء اللہ اگرچہ انشائیہ ہے پر اس قضیہ میں صفت افارۃ مطمح نظر نہیں۔ ورنہ جیسے جملہ انما الصدقات یا جملہ ما انفقتم کا ماحصل تصدقوا اور انفقوا ہے اس جملہ کا خلاصہ افیئوا ہوتا۔ اس تقریر کو سنکر اہل فہم کو تامل نہ رہے گا کہ فعل جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و اکمل التحیات میں مطابق آیت ہے۔

معصوم سے خطار سرزد ہونا محال نہیں

باقی رہا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا معصوم ہو کر ایسی غلطی کرنا سو اول تو اہل سنت کے نزدیک سوائے انبیار کسی کی معصومیت مسلم ہی نہیں۔ دوسرے کسی مقدمۂ خاص میں معصوم سے غلطی فہم ہونا اور غیر معصوم سے نہ ہونا کچھ محال نہیں چنانچہ مضامین متعلقہ آیت محمد رسول اللہ کی تفسیر میں اس کی تحقیق گذر چکی ہے۔ اور بیسیوں نظیریں اس کی کلام اللہ اور احادیث میں موجود ہیں منجملہ اس کے کھیتی کے قضیہ میں حضرت داؤد کا غلطی کھانا حالانکہ نبی ہو چکے تھے۔ اور حضرت سلیمان کا حق بات کا سمجھ جانا حالانکہ جب تک نہ نبی ہوئے تھے۔ نہ موافق اصطلاح شیعہ امام تھے اس دعوے کے لئے دلیل کافی ہے۔ مگر شیعوں کو کلام اللہ یاد نہ ہو یا معنی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ کا فہم نہ ہو تو اہل سنت کا کیا قصور؟ اس جگہ سے ہر کوئی سمجھ گیا ہوگا کہ شیعوں کا اہل سنت پر یہ طعن کرنا کہ وہ ایسے اماموں کی تقلید اور اتباع کرتے ہیں۔ جو انھیں کے اقرار موافق غلطی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسا اندھا آفتاب کو بے نور بتلائے۔

اور جیسے اندھا آفتاب کو بے نور نہیں کہتا اپنی آنکھوں کو بے نور کہتا ہے شیعی بھی اہل سنت کا قصور نہیں بتلاتے اپنی عقل کے قصور کی گواہی دیتے ہیں۔

اموال فئے آپ کی ملک نہ تھے اس کی تیسری دلیل

اب تیسری دلیل بھی اس احتمال کے بطلان کی کہ اموال فئے مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے۔ اور یہ مصارف معلومہ کا مقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسا زکوٰۃ کے لئے فقراء و مساکین وغیرہ کا مصرف بنا دینا۔ پھر دلیل بھی ایسی کچھ۔ کہ احتمال مذکور تو باطل ہو ہی جائے یہ شبہ بھی مرتفع ہو جائے کہ ما افاء اللہ تو تقسیم اصل زمین کو مقتضی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کی جائے آمدنی کو کیوں تقسیم کیا۔ ؟ صورت اس کی یہ ہے کہ زمین باغ کی آمدنی بھی اثمار اور کھیتی کی پیداوار ہے۔ لیکن بسبب اس کے کہ پھل اور کھیتی اشجار اور زمین کے توابع اور لوازم میں سے ہیں۔ تو پھل کے توڑنے سے پہلے مجموعۂ درخت اور پھل کو درخت۔ اور کھیتی کاٹنے سے اول کھیتی سمیت زمین کو زمین کہا کرتے ہیں اس وجہ سے آمدنی بھی ما افاء اللہ ہی میں داخل ہے لیکن جیسے کھیتی میں جو مجموعۂ اناج اور بھس کا ہوتا ہے آدمی اور گائے بیل حسب لیاقت شریک ہیں۔ اناج آدمیوں کے لئے اور بھس گائے بیل کے لئے تو ایسے ہی اس شرکتِ خدا اور بندگانِ خدا میں بھی جو فللہ وللرسول ولذی القربی الخ میں مذکور ہے خدائے تعالیٰ اور بندگانِ خدائے تعالیٰ کو حسب لیاقت و قابلیت شریک سمجھنا چاہئے۔

مصارف مندرجہ آیت کی تعیین و استحقاق کی باریک حکمت

لیکن خداوند کریم خورد و نوش سے غنی ہے اور بندے خورد و نوش اور نان و نفقہ کے محتاج۔ یہاں تک کہ ان کے شریک کرنے کی وجہ یہی اُن کی احتیاج ہوئی ہے۔ چنانچہ لفظ فقراء اور مساکین میں اہلِ فہم کے لئے اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی لئے کہ فقیر اور مسکین تو وہی ہوتا ہے جس کے یہاں قُوت یعنی رزق نان نفقہ کی کوتاہی اور کمی ہو چنانچہ زبان دانانِ عربی اور واقفانِ اقوالِ علماء فقہ پر مخفی نہ ہوگا۔ بلکہ لفظ رسول بھی اگر غور سے دیکھئے تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج اور فقر پر دلالت کرتا ہے

اس لئے اس لفظ سے بے تامل ہر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مایحتاج کے بہم پہنچانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ کیونکہ جب آپ پیغام رسانِ خداوندی اور قاصد جناب باری ٹھہرے۔ تو تا وقتیکہ آپ اس مشغلہ میں مشغول رہیں اور کار کی فرصت کہاں۔ بلکہ مثل قاصدانِ پیغام رسانان دنیاوی کہ تا وقتیکہ پیغام پہنچا کر اپنے گھر پر نہیں پہنچ لیتے۔ اپنے کاروبار نہیں سنبھال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تا وقتیکہ پیغامِ خداوندی سے فارغ نہ ہولیں۔ اپنے کاروبار کی طرف متوجہ نہ ہوسکتے تھے۔ مگر جب فارغ ہولئے تو وطنِ اصلی کو تشریف لے گئے۔ اس وطن کے کاروبار ہی نہ رہے جو بطور خود کچھ کھانے پینے کا فکر کرتے۔

مصارف فئے کی ترتیب لفظی کی حکیمانہ تشریح

غرض بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سروسامانی خود اس لفظ رسول ہی سے ظاہر ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اور اصناف مندرجہ آیت کی بے سروسامانی کسی وجہ دنیاوی کے باعث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سروسامانی بسبب مشغولی کار خداوندی ہو۔ اسی لئے آپ کو مقدم رکھا۔ غرض ان الفاظ سے خود اہل فہم پر واضح ہے کہ خداوند کریم نے جو ان اصناف کو اموال فئے میں شریک کیا ہے۔ تو بوجہ احتیاج اصناف مذکورہ شریک کیا ہے تو اس صورت میں شرکت اور تقسیم حسبِ لیاقت یوں ہو سکتی ہے کہ مجموعۂ اشجار و اثمار اور مجموعۂ زمین اور پیداوار میں جو بہیئت مجموعی عرف میں اور دیکھنے میں ایک شئے واحد گنی جاتی ہے اور ایک نظر آتی ہے۔ اور مجموعہ کو ما افاء اللہ کہہ سکتے ہیں ملکیت جو ملزوم غنیٰ ہے خدا کے لئے رہے۔ اور پیداوار جو رفع احتیاج کے لئے ہے بندوں کے واسطے تجویز کی جائے۔

اب دیکھئے کہ اس تقریر سے وہ احتمال بھی باطل ہوگیا کہ مال فئے مملوک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہوا ور مصرف بطور مصرف زکوٰۃ ہو۔ اور وہ شبہ بھی مرتفع ہوگیا کہ چاہئے تھا اصل زمین کا تقسیم کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو تقسیم نہ کیا اور آمدنی کو تقسیم فرمایا۔

اموال فئے کے آنحضرت کی ملک نہ ہونے کی چوتھی دلیل

اب چوتھی دلیل اُن کے سننے کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے۔ تاکہ کثرت دلائل کے زور سے احتمال مذکور دل سے بالکل محو ہو جائے۔ جناب من خبر پر فاء کے داخل ہونے کے قرینہ سے اور نیز بشہادتِ وجدان صاف ظاہر ہے کہ مبتدا یعنی ما افاء اللہ متضمن معنی شرط ہے تو اس صورت میں للہ وغیرہ ہونے کا ترتب اور توقف افادۃ اور تسلیط پر ضروری ہے اور درصورتیکہ اراضئ فئے کو مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہئے تو یہ ترتب اور توقف تو درکنار وجود خبر بھی اپنی ذات سے ضروری نہ ہوگا۔ گو بوجہ معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں جن کے آپ مامور تھے تصور ممکن نہ ہو۔ ہاں اگر مصرف کہئے تو پھر یہ ترتب اور توقف اظہر من الشمس ہے۔ چنانچہ توجیہات ذکر للہ سے جو مذکور ہو چکی ہیں آپ عیاں ہے۔

معہذا اگر مقصود شارع یہی ہوتا کہ اراضی فئے مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور للہ اور لذی القربی بایں غرض فرمایا ہے کہ خدا کے واسطے ذی القربیٰ وغیرہ کو دینا چاہیے تو لاجرم فللرسول وللہ ولذی القربیٰ الخ فرماتے اس صورت میں گو یہ آیت مصداق ”المعنی فی بطن الشاعر“ تو رہتی لیکن بلا سے یہ ترتب اور توقف تو جو مدلول فاء ہے درست ہو جاتا۔ اور معنی گو کسی کی سمجھ میں نہ آتے فی حد ذاتہ تو صحیح ہو جاتے۔ فصاحت وبلاغت بلکہ باعتبار قواعد زبان دانی صحتِ عبارت بھی نہ سہی لیکن اتنی غلطی تو نہ ہوتی کہ عبارت برعکس معنی مقصود دلالت کرے۔

اموال فئے کے غیر مملوکہ ہونے کی پانچویں دلیل

پانچویں وجہ احتمال مذکور کے بطلان کی یہ ہے کہ ضمیر کیلا یکون دولۃ بجانب ما افاء اللہ راجع ہے اور کیلا یکون علۃ تعین مصرف مذکور ہے سو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ مصرف اس اندیشہ کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ مبادا اراضی فئے تحت تصرف اغنیاء آ جائیں۔ مگر اس اندیشہ سے جب ہی تک بچاؤ ہو سکتا ہے کہ اراضی فئے کو مد خرچ اصناف معلومہ کہا جائے ورنہ اگر مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مملوک کس دیگر ہوں تو ایک نہ ایک روز

یہ خرابی بالضرور پیش آئے گی۔ اصناف مندرجہ آیت اگر خود اغنیا نہیں تو خداوند بے نیاز کی بھی عادت یہ ہے کہ دولت و فقر کو فقط ایک ہی خاندان میں دائم و قائم نہیں رہنے دیتا۔ بسا اوقات اولاد اغنیا فقیر اور پس ماندگان فقرا امیر ہو جاتے ہیں سو بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پس از انتقال ذوی القربیٰ وغیرہم اگر حسب مزعوم شیعہ اراضی فئے میں وراثت جاری ہوگی۔ تو بیشک اس سلسلہ میراث میں بہت سے اغنیا بھی نکلیں گے اور وہ خرابی جس کے بچاؤ کے لئے یہ مصرف مقرر کیا تھا بحالِ خود رہے گی۔

اور یوں کہنا کہ اغنیا سے مراد فقط حکام یا اغنیائے لشکر ہی ہیں محض تعصب ہے۔ لفظ عام سے بے قرینہ معنی خاص مراد لے لینا عوام کا بھی کام نہیں چہ جائیکہ علما جو خواص امت ہیں۔ ہاں اگر قطع طمع اغنیا لشکر افسران فوج کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ یا حکام جاہلیت اس قسم کی اراضی کو خاص اپنے لئے رکھتے ہوں اور اس قانونِ نامعقول کے موقوف کرنے کے لئے یہ مصرف مقرر فرمایا ہو۔ تو در صورت فرض و قوع امور مذکورہ بیش بریں نیست کہ حکم عام کے لئے شان نزول خاص ہو۔ سو یہ بات کچھ اسی جگہ خاص نہیں بیسیوں آیات اور سینکڑوں احادیث کی شان نزول خاص اور حکم عام ہے۔ اور اس کا عموم بالعموم مسلم ہے۔ خاص کر کتب علم اصول میں بتصریح صحت و امکان خصوص شان اور عموم احکام مذکور ہے۔

اموال فئے کے غیر مملوکہ ہونے کی چھٹی دلیل

چھٹی وجہ احتمال مذکور کے بطلان کی یہ ہے کہ اراضی فئے کے لئے جن اشخاص اور اصناف کو مقرر فرمایا ہے تو اُن کو اُنکے اوصاف سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصفت رسول اس جگہ ذکر فرمایا اور یتامیٰ اور مساکین اور ابن سبیل کو بوصف یتم اور مسکنت اور مسافرت یاد فرمایا۔ اور ان کے حسب و نسب وغیرہ تشخصات اور تعینات کو ذکر نہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد للفقراء المہاجرین الخ اور والذین تبوؤ الدار الخ اور والذین جاءو من بعدھم الخ کو جو لذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن

السبیل سے بدل ہے ماقبل کا ضمیمہ کیا۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان اوصاف کو اراضی فئے کے مصرف ہونے میں دخل اور اُن اراضی کا مصرف ہونا ان اوصاف پر موقوف ہے۔ اور چونکہ زمین باغ ملک بمثل منافع اکل وشرب مثل روٹی پانی وغیرہ جن سے انتفاع ان کے ہلاک ہونے پر موقوف ہے۔ نہیں ہیں۔ بلکہ وقت انتفاع بدستور بحال قدیم قائم رہتے ہیں۔ تو دائماً الی یوم القیٰمہ اراضی فئے سے انتفاع انھیں اشخاص کو جائز ہوگا جو موصوف باوصاف مذکورہ ہوں۔ ورنہ دوام وثبوت جو مدلول جملہ اسمیہ ہے باطل ہو جائے گا۔

مگر یہ بات جب ہی بن پڑتی ہے کہ اراضی کو بمعنی وقف کہا جائے اور مصارف مذکورہ میں اصل زمین کو تقسیم نہ کریں اور اصناف مندرجہ کو اس کا مالک نہ کر دیں ورنہ بالفعل نہیں تو بعد انتقال مالکان اول یا بعد بیع وشراء کے غیر مصرف میں اس کا صرف ہونا لازم آئیگا۔ اور لحاظ اوصاف ہی کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محققین کے نزدیک اس زمانہ کے خمس اور فئے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے خمس اور فئے میں سے بھی سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقط ہوگیا۔ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف رسالت مثل اوصاف مسکنت اور مسافرت وغیرہ کسی میں باقی نہیں رہا۔ باقی رہی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اُن کے مصرف ہونے کے لئے بھی تحقیق اوصاف فقر ومسکنت وغیرہا جس کی طرف آیۃ انما الصدقات مشیر ہے ضروری ہے مگر چونکہ وصف تصدق کو بجز آنِ واحد قیام نہیں چنانچہ ابھی مرقوم ہوا ہے۔ تو وقتِ تصدق تحقق اور وجود اوصاف معلومہ ضروری ہوا کیونکہ فقراء وغیرہم کو آیت انما الصدقات میں فقط اُن اموال کا مصرف مقرر کیا ہے۔ جو موصوف بصدقہ ہوں۔ اس لئے بلفظ صدقات تعبیر فرمایا۔ اور اگر قطع نظر اس وصف کے فقراء وغیرہم کو نفس مال کا مصرف مقرر فرماتے تو مثل انما المخرج من الاموال بنیۃ الصدقۃ یا سوا اس کے اور کوئی ایسی عبارت جس سے مطلق مال کے لئے فقراء وغیرہم کا مصرف ہونا ثابت

ہونا بیان فرماتے۔ الحاصل آیۃ انما الصدقات میں اسناد کو دونوں طرف میں اوصاف ہی سے ارتباط ہے۔ اور آیۃ ما افاء اللہ میں ایک طرف ذات اور دوسری طرف اوصاف ہیں۔ اس لئے زکوٰۃ میں دونوں اوصاف کو اور فئے میں فقط ایک جانب میں اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

اموال فئے کے غیر مملوک ہونے کی ساتویں دلیل

ساتویں وجہ احتمال مذکور کے بطلان کی یہ ہے کہ مالک حقیقی تمام مخلوقات اور موجودات کا بالاتفاق اور بالبداہت مالک الملک خداوند کریم ہے۔ اور باوجود اس کے پھر ہمارا تمھارا مالک ہونا ایک معنی مجازی ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے چند مکان چند آدمیوں کو مستعار یا کرایہ پر رہنے کو دے۔ اور وہ چند اشخاص اپنے اپنے رہنے کے مکان کو محاورۃً اپنا گھر کہدیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں بھی مالک حقیقی نے ہماری اشیاء مقبوضہ کو انتفاع کے لئے دے رکھی ہیں۔ اور ہم اُن کو اپنے محاورات میں اپنا کہنے لگے ہیں لیکن جیسے مکانات کا مستعیر یا کرایہ دار ہونا عاریۃً لینے اور کرایہ لینے پر منحصر اور موقوف ہے۔ فقط مالک مکان کی ملکیت کفایت نہیں کرتی۔ بلکہ اگر عقد کرایہ اور عاریت ظہور میں نہ آئے تو پھر مالک اصلی ہی کی طرف آرہے گی۔ ایسے ہی ہمارے مالک ہونے کے لئے بھی اسباب تملیک ظاہری مثل بیع وشراء ہبہ وصیت وغیرہا ضروری ہوئے۔ ورنہ تمام موجودات پھر خدا ہی کی طرف مملوک ہونے میں منسوب رہیں گے۔

مگر چونکہ اموال فئے مشار الیہا بلفظ ما افاء اللہ میں ان اسباب میں سے فقط غنیمت ہونے کا توہم ہوسکتا تھا اور اس کو جناب باری نے فما اوجفتم سے دفع کر دیا تو یہ اموال سوائے خداوند کریم مالک الملک کے اور کسی کی طرف بطور ملکیت منسوب نہیں ہوسکتے۔ پھر اس صورت میں للرسول ولذی القربیٰ کے معنے بجز بیانِ مصرف اور کچھ نہیں ہوسکتے۔ سو یہی ہمارا مطلب تھا بالجملہ ان سات وجوہ سے اراضی فئے کا مدِ خرچ پنج اقسام معلومہ ہونا مثل مدلولاتِ حواس ہر کس و

تاکس پر واضح اور لائح ہوگیا۔ اور باوجود مد وخرچ ہونے کے وجہ طلب کرنے حضرت خیر النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کی اول تو یہ ہے کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا معصوم نہیں۔ اور معصوم بھی ہوں تو معصوم سے غلط فہمی محال نہیں۔ چنانچہ معلوم ہو چکا اور وجہ غلط فہمی کی یہاں ظاہر بھی ہے۔ کیونکہ جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ اراضی فئے پر قبض و تصرف حضرت خلاصۂ موجودات سرور کائنات علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات والتسلیمات کا دیکھا تھا۔ اور اس بات کی تحقیق کہ یہ از قسم غنیمت ہے یا از جنس فئے ہے۔ زنان خانہ نشین اور وہ بھی ایسی زاہدہ کہ سامان دنیا وما فیہا سے کچھ غرض نہ ہو بہت دشوار ہے۔ خاص کر خیبر اور قریٰ خیبر کی نسبت کہ فدک بھی انھیں میں سے ہے۔

کیونکہ بعض قریٰ خیبر عنوۃً یعنی بعد جنگ و جدال اور بعضے قریٰ جیسے فدک صلحاً مفتوح ہوئے ہیں۔ اس لئے بہ نسبت خاص خیبر کے مابین علما اختلاف بھی ہے۔ کہ آیا خیبر عنوۃً فتح ہوا ہے یا صلحاً الحاصل اراضی فئے کا مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا اہل انصاف پر روشن ہوگیا۔ اگرچہ اہل فہم کو پہلے بھی اس میں تامل نہ تھا کیونکہ باوجود یقین مصارفِ معلومہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مملوک ہونے کی کوئی صورت بھی تھی تو یہی تھی۔ کہ اُن اوصاف کا مقرر فرمانا ایسا ہو جیسا کہ زکوٰۃ اموال مملوکہ اغنیاء کے لئے فقراء وغیرہم کا مقرر کرنا۔ سو یہ بات گو فی حد ذاتہ ممکن تھی لیکن قرینۂ عطف للرسول اور لذی القربیٰ اس بات کو مقتضی تھا کہ جیسے ذوی القربیٰ وغیرہم بالاتفاق مالک اراضی فئے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک نہیں۔

ذوی القربیٰ کو اگر فئے کا مالک مانیں تو دو خرابیاں موجود ہیں

اور اگر قطع نظر اتفاقِ امت کے ذوی القربیٰ وغیرہم کو مالک کہا جائے تو بہت سے بہت ہوگا تو اراضی فئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصناف باقیہ میں مشترک ہوں لیکن دو خرابیاں اور موجود ہیں۔ ایک تو شرکاء غیر محدود کا شریک ہونا۔ کیونکہ ذوی القربیٰ وغیرہم کا

کوئی حد و پایاں نہیں۔ ہر روز کمی و بیشی رہتی ہے۔ خاص کر والذین جاؤا من بعدھم نے تو دائرہ اہل مصرف کو اتنا فراخ کر دیا ہے کہ قیامت تک کے مومنین کو گھیر لیا ہے۔ دوسرے قبل عطا مال غنیمت۔ بلکہ دین بھی ملک میں نہیں آسکتا۔ اراضی فئے جو کسی طرح اس کے حصول میں اہل مصرف کی سعی و کوشش یا کسی کے فعل کو دخل نہیں۔ محض فضل خداوندی سے ہاتھ لگ گیا ہے۔ کیونکر قبل عطا اور قبل قبض کسی کا مملوک ہو سکے۔

الحاصل اہل عقل پر بادی النظر میں اس عبارت سے اراضی فئے کا غیر مملوک ہونا عیاں تھا اور اب سب پر واضح ہوگیا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہوگیا کہ جیسے اس آیت سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امکان ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ اُلٹا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی لئے مجکو بھی اتنی تطویل کی ضرورت پڑی۔ ورنہ عدم ثبوت ملکیت خود ظاہر تھا۔ البتہ بایں نظر کہ کم فہموں سے مقابلہ ہے۔ عدمِ ثبوت ملکیت میں گفتگو کرنی ضروری تھی۔

مَامَلَکَتْ یَمِیْنُکَ سے دعوئے وقف پر اشکال

مگر اتنی بات باقی رہی کہ لفظ ما فاء اللہ عام ہے اشیاء منقولہ و غیر منقولہ کو برابر شامل ہے پس اگر ما فاء اللہ بوجوہ مذکورہ وقف ہے تو لاجرم اسباب منقولہ بھی وقف ہوں گے۔ سو اس صورت میں دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ اول تو یہ کہ حنفیوں کے نزدیک اشیاء منقولہ کا وقف ہونا ہی صحیح نہیں۔ دوسرے یہ کہ اموال فئے میں سے بہ نسبت اموال منقولہ کے وقف ہونا کسی سے منقول اور مروی نہیں۔ بلکہ اگر تعامل سلف و خلف پر نظر کیجئے تو عیاں ہے کہ منجملہ اموال فئے اسباب منقولہ میں تصرفات مالکانہ کرتے تھے۔ بیع و شرا وغیرہ آثار ملکیت جو وقف نہ ہونے پر دلیل کامل ہیں برابر بے تکرار اور انکار مروج رہے ہیں۔ چنانچہ بنی النضیر کے ہتھیار وغیرہ اموال منقولہ جو ہاتھ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقسیم فرما دیئے تھے۔ اور صراحۃً نہ کنایۃً یوں نہ فرمایا کہ یہ اشیاء وقف ہیں۔ ان میں تصرفات مالکانہ مت کیجو۔

اور یہ بھی نہ سہی کلام اللہ سے زیادہ تو کوئی حجت نہیں کلام اللہ میں خود موجود ہے ما ملکت یمینك مما افأ اللہ علیك مطلب یہ ہے کہ اے نبی ہم نے حلال ہیں تیرے لئے وہ باندیاں جن کا تو مالک ہوا ہے اموال فئے میں سے" اس آیت سے صریح ثابت ہے کہ فئے کے غلام باندی مملوک ہو سکتے ہیں وقف نہ تھے۔ جب ایک چیز کا بھی اموال فئے میں سے مملوک ہونا ثابت ہوا تو فللہ وغیرہ الفاظِ آیۃ ما افاء اللہ اور الفاظ سیاق وسباق آیۃ مذکورہ کے اور جن کے وسیلہ سے وقف ہونا اراضیٔ فئے کا ثابت کیا گیا ہے۔ وہ معنی نہ ہوں گے جو وقف ہونے پر دلالت کریں۔ اور نہ کلیۃً قضیہ مَا افَاءَ اللہُ اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام افراد ما افاء اللہ کا ایک حکم ہو۔ خواہ اسباب منقولہ ہوں خواہ غیر منقولہ وقف ہوں تو دونوں ہوں۔ وقف نہ ہوں تب دونوں ہوں

اشکال مذکور کا جواب

اس لئے ہمیں بھی اس خلجان کو رفع کرنا ضرور پڑا۔ سو اہل انصاف کی خدمت میں یہ گذارش ہے کہ واقعی امام ابوحنیفہ کے نزدیک اشیاء منقولہ وقف نہیں ہو سکتی لیکن خداوند کریم وعلیم وحکیم کچھ امام ابوحنیفہ کا مقلد نہیں جو اس کے ذمہ اتباع رائے ابوحنیفہ ضروری ہو۔ اور اگر اتفاقات سے کوئی بات بظاہر خلافِ مذہب حنفی صادر ہو جائے تو اس کی جوابدہی اُس کے ذمہ پر لازم ہو۔ بیش بریں نیست کہ امام ابوحنیفہ سے خطا ہوئی ہو۔ لیکن شیعی ہی یہ فرمائیں کہ اہل سنت امام ابوحنیفہ کو معصوم ہی کب سمجھتے ہیں جو یہ خرابی اُن کے سر پڑے بلکہ اہل سنت کا یہ مقولہ ضرب المثل ہو گیا ہے المجتہد یخطی ویصیب یعنی مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صحیح بھی کہتا ہے" ہاں اتنی بات مسلم کہ مرتبہ اجتہاد کو یہ لازم ہے کہ اکثر صحیح کہا کرے۔ سو اس بات میں ان سے غلطی ہو گئی ہو تو کیا حرج ہے؟ ان کے صاحبین وغیرہ کی رائے تو آخر یہی ہے کہ اشیاء منقولہ بھی وقف ہو سکتی ہیں۔ وہ بھی اہلسنت ہی کے پیشوا ہیں شیعوں کے نہیں اور اگر شیعی ان کو اپنا پیشوا بنالیں اور طوسی ورضی وشریف مرتضی والوالقاسم محقق وغیرہم کا اتباع چھوڑ دیں

تو زہے نصیب اُن کے۔ پھر کچھ تکرار نہیں بمعہذا یہ آیۃ کچھ معارض اور مناقض رائے ابوحنیفہ نہیں بلکہ موافق ہی ہو تو کچھ عجیب نہیں۔ اگر اس معما کی شرح مطلوب ہے تو کان دھر کر سنئے لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف مدّنظر ہو اور میری ہیچمدانی پر نظر نہ ہو ماسبق اس آیت کا ھو الذی اخرج الذین کفروا من دیارھم سے لیکر لیجزی الفاسقین تک اس بات پر دلالۃ کرتا ہے۔ کہ ما افأ اللہ سے مراد فقط مکانات سکنیٰ اور اراضیٔ صحرائی ہیں تو اب اس صورت میں بجز اموال غیر منقولہ اراضیٔ وباغات ما افاء اللہ سے مراد نہ ہوں گے۔ اور باعتبار خصوص ماسبق کے لفظ ما کا باوجود عموم ذاتی کے مخصوص ہو جانا ایسا شائع وذائع ہے۔ کہ ہر ادنیٰ واعلیٰ جانتے ہیں اطفال کافیہ خوان بھی سمجھتے ہیں کہ الاسم ما دل علی معنی میں ما سے مراد کلمہ ہے۔ اس لئے مولانا جامی شرح ملا میں کلمۂ ما کی شرح میں کلمہ ہی لکھتے ہیں۔ القصہ ما افأ اللہ سے علی العموم اموال منقولہ غیر منقولہ سب مراد نہیں فقط اموال غیر منقولہ مراد ہیں۔ چنانچہ جملہ کَیْ لَا یَکُوْنَ دُوْلَۃً بھی اسی طرف فی الجملہ کھینچتا ہے۔ اس لئے کہ تداول در دولت کے تو یہ معنی ہیں کہ ایک شئ بحال خود باقی رہے۔ اور با ایں ہمہ کسی کسی کے پاس منتقل ہوتی رہے۔ سو یہ بات بجز اموال غیر منقولہ اور کسی میں بطور کمال متصور نہیں۔ اقسام غذا اور اقسام لباس اور اقسام مرکب سب کے سب بسبب استعمال فنا ہو جاتے ہیں یا فنا ہونے لگتے ہیں۔ اگر چندے کوئی چیز قائم رہی تو کیا قائم رہی؟ یوں تو کچھ نہ کچھ سب اشیاء کو قیام ہے روٹی سالن بھی تھوڑی دیر تو ٹھیرے ہی رہتے ہیں مگر اس جگہ اتنے قیام سے کیا کام چلتا ہے یہاں تو بشہادت والذین جاؤا من بعدھم قیامت تک کا حساب کتاب ہے۔ بہر حال ما افا اللہ میں اموال غیر منقولہ داخل ہی نہیں جو اعتراض معترض واقع ہو۔ اور ہمیں فکر جوابدہی ہو۔

وقف کا معنی کیا ہے اور وقف کے قابل کونسی چیزیں ہیں؟

ہاں اتنی بات البتہ قابلِ لحاظ ہے کہ ہم نے مانا اموال منقولہ ما افأ اللہ میں داخل ہی نہیں لیکن اموال منقولہ کا جو بطور فئے حاصل ہوتے ہیں کیا حکم ہے؟ مثل اموال غیر منقولہ وقف

بمعنی مذکور سمجھنا چاہیئے یا مثل غنیمت مملوک ہوسکتے ہیں ؟ سو اپنے فہم نارسا میں یوں آتا ہے کہ وہ قابل ملک وعطا ہیں۔ اگر اہل فہم بھی اسی جانب ہوں تو فبہا ورنہ ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم اس کے وقف ہونے کو اگر ثابت ہوجائے تو اپنی کہی ہوئی بات یعنی وقف نہ ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوکر تسلیم کریں۔ اگر وہ بھی وقف ہوجائے تو کچھ اعتراض ہی باقی نہ رہے۔ خیر اب اپنے خیالات کو عرض کرتا ہوں بگوش ہوش وچشم انصاف غور سے سنئے اور ملاحظہ فرمایئے وقف ایسی چیز ہونی چاہیئے کہ بحال خود باقی رہے۔ اور پھر کام آسکے۔ چنانچہ وقف کے معنی بھی یہی ہیں کہ اصل محبوس اور موقوف رہے۔ اور منافع مصارف وقف میں صرف کئے جائیں۔

اشیائے منقول میں سے پھل اور غذا وقف کے قابل نہیں

معہذا فئے کے وقف یعنے مذکور ہونے میں اس تغایر ذات اور منافع کی خوامخواہ ضرورت ہے۔ کیونکہ للہ اور للرسول ولذی القربیٰ وغیرہم ہونا جب ہی صحیح ہوسکتا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کے لئے رہے اور منافع اوروں کے لئے چنانچہ مذکور ہوچکا۔ سو یہ بات وہاں ہوسکتی ہے جہاں وہ چیز اور ہو اس کے منافع اور۔ ورنہ خود منافع میں یہ قابلیت نہیں۔ سو اموال منقول میں سے اقسام غذا کا تو منجملہ منافع ہونا ظاہر ہی ہے۔ کیونکہ منافع کے معنی اس جگہ فقط اتنے ہی ہیں کہ استعمال کامل کے بعد پھر قابل استعمال باقی نہ رہے۔ بلکہ استعمال ہی میں فنا ہوجائے۔ سو اقسام غذا کا منافع ہونا تو ظاہر ہے ماسوا اس کے اور اسباب منقولہ مثل اقسام لباس وسواری وغیرہا اور ضروریات انسانی۔ کہ اگرچہ ایک وجہ سے مثل اشیاء غیر منقولہ خود اور ہیں اور ان کے منافع اور۔ کیونکہ گھوڑا اور چیز ہے۔ اور اس کی منفعت اور فائدہ یعنی سواری اور تخفیف مشقت سفر اور شے۔ علیٰ ہذا القیاس کپڑا اور شے ہے۔ اور اس کا فائدہ یعنی پہننا اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچنا۔ اور زیب وزینت اور شئے۔

لیکن غور کیجئے تو اس قدر فرق سے کوئی چیز اشیاء ضروریہ انسانی میں سے خالی

نہیں۔ اقسام غذا میں بھی یہ بات موجود ہے کہ روٹی مثلاً اور شئے ہے اور اس کے منافع یعنی کھانا اور مزہ آنا اور قوت کا پیدا ہونا اور شے۔ لیکن اس قدر فرق سے قابلیت وقفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ورنہ جیسے زمین کا وقف ہونا مسلم الثبوت ہے اناج غلہ بھی وقف ہوا کرتے۔ حالانکہ اس کے وقف ہونے کے عقل کے نزدیک کوئی معنی نہیں۔ وقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اصل محبوس اور موقوف رہے۔ اور منافع مصرف میں صرف ہوں۔ اور یہاں اصل۔ منافع کے ساتھ ہی فنا ہوتی ہے۔ نقل مشہور ہے "جیسی اصل ویسی نقل" بااین ہمہ اگر غلہ بھی وقف ہونے کے قابل ہے تو اراضی وقف کا غلہ بلاشبہ وقف ہو۔ پھر نہ اہل مصرف کو اس کی بیع درست ہو نہ ہبہ۔ نہ اس میں میراث جاری نہ وصیت۔ حالانکہ جہان میں اس کا کوئی منکر ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غلہ کو من جمیع الوجوہ منافع ہی مقرر رکھا ہے۔ سو منافع وقف اہل مصرف کے حق میں صدقہ ہوتے ہیں۔ اور صدقہ جس کو کردیا جائے اس کا مملوک ہوجاتا ہے۔ تو اب اس کی بیع وشرا وغیرہ میں کچھ دشواری نہ ہوگی۔ اور کسی کے نزدیک غلہ وقف بھی ہوسکے تو ہوا کرے۔ یہاں تو کلام اراضی فئے کے غلہ میں ہے جن کو ہم نے وقف خداوند کریم کہا ہے۔ سو اراضی فئے کا غلہ باتفاق وقف نہیں ہوتا اسی واسطے مملوک اہل مصرف ہوجاتا ہے۔

سواریاں اور کپڑے بھی وقف کے قابل نہیں۔

بالجملہ پیداوار زمین اور علیٰ ہذا القیاس اثمار واشجار کے وقف نہ ہونا تو ظاہر ہوگیا۔ باقی رہے انواع مراکب اور اقسام لباس وغیرہ ان میں بہ نسبت غذا کے کوئی فرق نکالے تو یہ نکالے۔ کہ غذا استعمال کے ساتھ ہی فنا ہوتی ہے اسی لئے وقف نہیں ہوسکتی۔ بخلاف سواری۔ لباس کے یہ چڑھنے پہننے وغیرہ سے فنا نہیں ہوتی۔ لیکن بعد غور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق بعینہ ایسا ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر کھالیجئے اور باقی کو چھوڑ دیجئے۔ سو ماحصل اس کا یہ ہوا کہ بقدر استعمال فنا ہوگئی۔ سو کپڑے سواری وغیرہ میں بھی یہ بات موجود ہے کیونکہ گھوڑا وغیرہ جو جانور سواری میں رہتے ہیں۔ بہ نسبت ان جانوروں کے جو ان کے

برابر کھائیں پر سواری میں نہ رہیں دُبلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔

اور اگر چند سے بسبب امداد بدل ما یتحلل باقی بھی معلوم ہوں۔ تو اول تو بدل ما یتحلل ہی یوں کہے ہے کہ اصل باقی نہیں۔ اور اگر ایسے مواقع میں اسی کو بقائے اصل کہئے تو وہ بقا۔ کہاں؟ جو بے کسی استعمال کے ہو۔ اور یہی دو چیزیں جانور کی (زور اور بدن) استعمال میں آتی ہیں جان استعمال میں نہیں آتی۔ چنانچہ ضعیفی میں جو قابل استعمال نہیں رہتا تو یہی دو باتیں گھٹ جاتی ہیں۔ علی ہذا القیاس کپڑا بھی استعمال سے پتلا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ بیدار مغزوں پر مخفی نہ ہوگا اور اس کے تار کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور انھیں دو چیزوں پر مدار کار استعمال کا تھا۔ اسی واسطے رفتہ رفتہ بہت استعمال کے باعث قابل استعمال نہیں رہتا۔ سو یہاں بھی وہی حاصل نکلا کہ منافع بقدر استعمال فنا ہو گئے۔ غائت مافی الباب کہیں نقصان ایک طرف سے ہوا کہیں چاروں طرف سے کہیں شکل بنی رہی کہیں بگڑ گئی لیکن استعمال ہونے کا مضمون دونوں جا برابر ہے۔ باقی مشکل صورت کو لے کر کیا چاٹے۔ اس کو استعمال میں کچھ دخل ہی نہیں عکس آئینہ میں شکل و صورت موجود ہے مگر چونکہ جسمیت اور زور و طاقت نہیں کوئی صورت استعمال کی نظر نہیں آتی۔

امام ابوحنیفہ کا اشیائے منقولہ کو ناقابل وقف کہنے کی وجہ

بالجملہ جن چیزوں سے منافع کا تعلق ہے وہ چیزیں بقدر استعمال فنا ہو جاتی ہیں۔ اور جو چیزیں بحال خود باقی ہیں اُن سے منافع کو کچھ تعلق نہیں۔ یہ بات اگر ہے تو زمین یا سوائے اس کے اور اشیائے غیر منقولہ ہی میں ہے۔ کہ استعمال میں منافع ہی فنا ہوں اور اصل باقی رہے استعمال کی وجہ سے اصل میں کچھ نقصان نہ آئے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اشیاء منقولہ کو قابل وقف ہی نہ سمجھا۔ اور صاحبین یا کسی اور نے اگر لحاظ بقائے صورت بعض اشیاء منقولہ اُن کو قابل وقف سمجھا تو ان کی صورت کو اصل منافع اور بقائے صورت کو بمنزلہ بقائے اصل منافع سمجھ کر اس کے وقف ہونے کے قائل ہو گئے ہیں لیکن بعد اس تحقیق کے اہل حق سے توقع یوں ہے کہ رائے امام ابوحنیفہ

ہی کو ترجیح دیں۔

صاحبین کا اشیائے منقولہ کو قابل وقف کہنے کی وجہ

ہاں اس سے قطع نظر کیجئے تو مذہب صاحبین بظاہر حق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بایں خیال کہ اول تو منافع مرکب و لباس وغیرہ اشیاء ضروریہ دنیاوی عرف میں مرکب اور لباس ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور وہ تا وقتیکہ صورت اور جان باقی ہے قوت اور بدن کی طرف منسوب نہیں ہوتے جو یوں کہئے کہ استعمال میں فنا ہوتے جاتے ہیں۔

دوسرے منافع مرکب و لباس وغیرہ منافع کلیہ ہیں۔ کہ اوقات مختلفہ میں اُن کے افراد ظہور میں آتے ہیں۔ اور جیسے ہر ہر فرد بشر انسان کامل ہے جزء انسان نہیں ایسے ہی منافع اشیاء مذکور بھی جو اوقات مختلفہ میں حاصل ہوتے ہیں منافع تامہ ہیں۔ اجزائے منافع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بعض افراد کے فنا ہو جانے سے نوع فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ جب تک ایک فرد بھی باقی ہے تو تمام نوع باقی ہے۔ تو اس صورت میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کے انتفاع سے اصل منافع فنا نہیں ہوتے پھر وقف کیوں نہ ہو سکے گا؟ کیونکہ بقائے منافع دلیل بقائے اصل ہے۔ بخلاف منافع اقسام غذا کے کہ وہ منافع جزئیہ ہیں۔ جو نفع کہ ایک روٹی سے حاصل ہوتا ہے۔ آدھی سے اس کا آدھا حاصل ہوتا ہے۔ پورا باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ظاہر ہے۔ ہاں اگر اصل باقی رہتی تو منافع بھی بوجہ کمال باقی رہتے۔ خیر اگر مذہب ابوحنیفہ حق ہے تو اموال منقولہ کا منجملہ اموال فئے وقف نہ ہونا تو درکنار قابل وقف نہ ہونا ظاہر ہو گیا۔

صاحبین کی رائے بھی مقصود کے موافق ہے

اور اگر رائے صاحبین صحیح ہے تب بھی مطلب ہاتھ سے نہیں گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام ضروریات بشری میں سے احتیاج غذا منجملہ ضرورات اصلیہ ہے۔ اور باقی اموال منقولہ تمامہا ضرورات فرعیہ میں داخل ہیں اگر غذا کی ضرورت نہ ہوتی تو نوکریوں کی تلاش کے لئے سواری کی ضرورت مثلاً نہ ہوتی تو معلوم ہوا کہ سواری کی ضرورت غذا کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر سواری کی ضرورت سے مثلاً گھانس دانہ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

جہاں تک یہ سلسلہ ضرورتوں کا چلے گا۔ تو مابعد قبل کی فرع ہوگا اور حقیقت میں ضرورت اصلی ایک ضرورت غذا ہی نکلے گی۔ اور باقی اشیاء کی احتیاج گو کہنے کو ان اشیاء کی احتیاج ہے لیکن حقیقت میں غذا کی احتیاج ہے۔ تو اس صورت میں بایں خیال کہ وقف رفع ضرورت کے لئے ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں ضرورت اگر ہے تو ضرورت غذا ہی ہے۔ تو مصرف وقف میں اس ضرورت کا ہونا ضروری ہوا۔ اور کسی اور وقف میں نہیں۔ تو وقف فئے میں تو رفع احتیاج غذا ہی مقصود ہے چنانچہ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ نے بھی لفظ رسول اور مساکین اور فقراء اور ابن السبیل میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس لئے کہ فقیر اور مسکین کے معنوں میں رزق کی کمی اور کوتاہی معتبر ہے۔ بلکہ لفظ رسول یتامیٰ اور ابن السبیل بھی اسی طرف مشیر ہیں۔ چونکہ لفظ رسول تو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایں وجہ کہ رسول ہیں۔ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے ہیں خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی فرصت ہی نہیں کہ حسب دلخواہ کمائیں۔ اور فراغت سے بیٹھ کر کھائیں۔ اور جب کمانے کی فرصت نہ ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو لاجرم بمقتضائے قدرشناسیٔ خداوندی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا نان و نفقہ بھی خدا ہی کے ذمہ ہونا چاہیے۔ اس کی بہتر صورت اس سے کیا ہوگی کہ جو مال خاص خدا کا ہو اور بے منت غیر حاصل ہوا ہو۔ اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تجویز کیا جائے۔ یتیم اور ابن السبیل کا مورد رحم ہونا بھی تو باعتبار اکثر کے بسبب انقطاع اسباب رزق ہو جاتا ہے۔ اور نہ یہی لفظ فقراء میں تو بیشک قوت کے نہ ہونے پر دلالت ہے۔ سو وہ بوجہ ارتباط بدلیت سب کو شامل ہے۔ اور اسی لئے سب ہی میں فقر کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوا۔ خواہ ذوی القربیٰ ہوں خواہ اقسام باقیہ۔ بالجملہ مصرف وقف میں احتیاج غذا کا ہونا ضروری ہوا۔

اشیائے منقولہ کا وقف فقراء و مساکین کو مفید ہی نہیں

سو اگر ان کو اموال منقولہ دیئے جائیں

تو دو طرح سے رفع احتیاج مذکور میں کام آسکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور مذکور ان کو سلسلۂ اسباب تحصیل غذا میں داخل کیا جائے۔ مثلاً سواری پر چڑھ کر نوکری وغیرہ کے لئے سفر کیا جائے تاکہ کچھ کما کر غذا بہم پہنچائے۔ یا مثلاً ہنڈیا رکابی چمچہ کھانے پکانے کے لئے رکھا جاوے۔ تاکہ بایں وسیلہ کھائے پکائے۔ دوسرے یہ کہ اشیائے مذکورہ کو بیچکر کھا جائے لیکن اگر اتفاق سے پیٹ کو ایسی لگی ہو کہ جان پر بنی ہوئی ہو۔ تو اس صورت میں بیع کی اجازت نہ دینی جیسا وقف میں ہوتا ہے رفع احتیاج کے بدلے اور احتیاج کا پابند کر دینا۔ اور آسائش کے بدلے جو رفع احتیاج اس کے لئے ہوتی ہے (دونا تکلیف میں ڈالدینا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا تکلیف ہوگی کہ چیز پاس ہو اور پھر اس منتفع نہ ہو سکے۔ شعر

خرابی دل پروانہ زیں بترچہ بود ؎ کہ شمع را بنما یند و سوختن ندہند

اور اس قسم کی احتیاج کا ہونا فقراء و مساکین کے تو مفہوم میں داخل ہے۔ یتامیٰ اور ابنا سبیل میں بھی کثیر الوقوع ہے۔ اور چونکہ سبب اس قسم کی احتیاج کا فقراء اور مساکین اور یتامیٰ اور ابنا سبیل کے حق میں بے سروسامانی معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کا ارتفاع بجز اس کے متصور نہیں کہ اور کچھ عطا کیا جائے۔ تاکہ اگر غذا ہو تو خود اس سے درنہ اُسے بیچ کر اپنا پیٹ پالیں۔ سو در صورتیکہ عطا میں اُن کو یہ اختیار ہی نہ ہو تو ان کی طرف سے بھاڑ میں پڑے۔ ہاں اگر اُن کے منافع مثل پیداوار زمین و اثمار و اشجار اقسام غذا میں سے ہوتے تو پھر اُس کا بیچنا تو درکنار متولیٔ وقف کو ان کا دینا ہی کیا ضروری ہوتا۔ بہرحال اموال منقولہ کا وقف ہونا فقراء اور مساکین وغیرہم کو مفید نہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے جس سے تدبر امام ابوحنیفہ موجّہ معلوم ہوتا ہے۔

بعض اشیائے غیر منقولہ جو حاجت برآری نہیں کرتیں۔ مگر ان میں قابلیت ہے

باقی رہے چاہ یا مکانات سو ان کا وقف ہونا بھی بظاہر رافع احتیاج فقراء اور مساکین وغیرہم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان میں اور اموال منقولہ میں دو فرق ہیں۔ جن کے سبب ان کو اموال

منقولہ پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اموال منقولہ معدنِ رزق ہی نہیں جو مخرج قوت ہوسکیں۔ بخلاف مکانات کے کہ ان کی زمین بہرحال قابل پیداوار ہے۔ اور چونکہ مدار وقفیت کا اسی قابلیت پر ہے پیداوار کا ہونا کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ زمین وقف اگر مزروعہ ہو اور ایک سال یا چند سال کسی سبب سے افتادہ رہے تو اس کی وقفیت باطل ہو جایا کرے اس لئے مکانات وقف کی زمین بھی قابل وقف ہی رہے گی۔ حاصل یہ ہے کہ اگر غرض اصلی کسی شے کی کسی وجہ خارجی کے باعث مسدود و مفقود ہو جائے تو جو حکم اس غرض کی وجہ سے اُس پر متفرع اور مترتب ہوا تھا وہ حکم موقوف نہ ہو جائے گا ویرانوں کی مسجدوں میں گو بالفعل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پر چونکہ قابلیت نماز بدستور باقی ہے تو حکم وقفیت بھی باقی ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ گو ضرورت غذا ضرورت اصلی ہے لیکن ضرورت مکان اور ضرورت آب بھی ضرورت اصلی ہے۔ کسی اور ضرورت کی ضرورت سے ان کی ضرورت نہیں چنانچہ ظاہر ہے۔ اور پھر یہ دونوں بھی مثل غذا زمین سے حاصل ہوتے ہیں تو زمین کے وقف کرنے میں ان تینوں ہی کا لحاظ چاہیے۔ ان تینوں میں سے کوئی شے سہی کچھ غذا ہی کی خصوصیت نہیں پر۔ چونکہ پانی اول تو اکثر بے دام و درم کے میسر آتا ہے۔ دوسرے بیشتر پیاس غذا کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گویا پانی کی ضرورت غذا ہی کی ضرورت پر موقوف ہوئی۔ غایت ما فی الباب اور ضرورتیں منجملہ سلسلۂ اسبابِ غذا ہوں اور یہ داخل مسبباتِ غذا تیسرے اکثر غذاؤں کا قیام اور قوام بھی پانی ہی سے ہے تو اس وجہ سے پانی بھی منجملہ اسباب غذا اور مثل اور ضرورات فرعیہ کے فرع غذا ٹھیرا۔

تو پانی کی ضرورت کے ارتفاع کی طرف تو ضرورت نہ ہوئی اس لئے نہ آیت ما افاء اللہ میں نہ اُس کے صلہ میں اس کی طرف کچھ اشارہ فرمایا۔ مگر ضرورت مکانات من کل الوجوہ ضرورت اصلی ہے۔ اور پھر بجز مالِ کثیر کے اس کے ارتفاع اور اندفاع کی کچھ صورت نہ تھی۔ اس لئے اس کے رفع دفع کی ضرورت پڑی۔

سنو میں جانتا ہوں لفظ اخرجوا من دیارھم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن اموال منقولہ میں سے کسی میں یہ قابلیت نہیں کہ بالذات ان ضرورتوں کو رفع کر سکے۔ البتہ ان ضروریات ثلثہ کی تحصیل کے سامان ہیں خواہ بطور سببیت کے جیسے ہنڈیا رکابی وغیرہ سے پکانا کھانا۔ اور گھوڑے پر چڑھ کر نوکری کے لئے جانا یا بطور بدلیت کے یعنی اموال منقولہ کو بیچ کر روٹی مکان پانی بہم پہنچانا لیکن چونکہ ایسی ضرورت جس میں گھوڑے لباس وغیرہما کے بیچنے کی نوبت پہنچے۔ بہ نسبت اُس ضرورت کے کہ پاس کے حق میں منجملہ اسباب ہوں شدید ہے۔ اور پھر با ایں ہمہ اہل مصرف میں موجود۔ ورنہ مصرف ہی کیوں ہوتے تو اموال منقولہ میں اس کی رعایت کرنی ضرور پڑی یعنی مثل پیداوار زمین اموال منقولہ میں بھی بعد عطا کے اہل مصرف کو اختیار رہے۔ تاکہ بیچ کھوچ کر رفع ضرورت کریں۔ بالجملہ اموال منقولہ مثل پیداوار کہ وہ بھی منقولات میں سے ہے۔ ملک میں اہل مصرف کے کر دینے چاہئیں۔

مَا مَلَکَتْ یَمِیْنُکَ کے لفظی فوائد

اب سب کو معلوم ہو گیا کہ آیت ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک کچھ ہمارے مضر نہیں۔ بلکہ الٹی موید ہے کیونکہ بظاہر مِن جو مِمَّا میں ہے تبعیضیہ ہے۔ سو اس سورت میں ما ملکت یمینک سے دو باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اموال فئے کے مالک نہ تھے۔ دوسرے جس قدر کے مالک ہوئے وہ بمجرد مسلط ہو جانے کے مالک نہیں ہوئے تھے۔ ورنہ سبھی کے مالک ہوتے کیونکہ سبب ملکیت اس صورت میں تسلط ہی ہوگا سو وہ سبھی میں پایا جاتا ہے۔ تو اب لاجرم کسی اور سبب سے مالک ہوئے ہوں گے۔ اور بظاہر بجز اس کے کہ بعد تقسیم آپ کے قبضہ میں آگیا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ لفظ یَمِیْنُکَ خود قبضہ پر دلالت کرتا ہے ورنہ اگر قبض کی ضرورت نہ ہوتی فقط مَلَکْتَ بصیغہ خطاب فرماتے لفظ یمینک کی کچھ حاجت نہ تھی۔

اموالِ فئے میں آنحضرت کے حصہ کی نوعیت

باقی کلام رہی اس میں کہ قبل قبض مالک تو نہ تھے۔ پر جیسے قرض خواہ مالِ مدیون میں اور غانمین مال غنیمت میں مستحق

ہوتے ہیں۔ اور بوجہ اس استحقاق کے مدعی بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال فئے میں مستحق تھے، یا مثل فقراء و مساکین کہ ان کو مالِ اغنیاء مالکانِ زکوٰۃ میں اس قسم کا استحقاق نہیں ہوتا کہ مدعی ہوسکیں۔ بلکہ قابلِ اعطاء اور مصرف عطا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقط منجملہ مصارف تھے۔ اس لئے اس کی تحقیق بقدر فہم نارسا گذارش ہے۔ جناب من استحقاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک استحقاق قوی۔ اور اس کو ہم استحقاق فعلی اور استحقاق شخصی اور استحقاق حقیقی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا استحقاق ضعیف اور اس کو ہم استحقاق انفعالی اور استحقاق نوعی اور استحقاق مجازی بھی کہتے ہیں، اور وجہ تسمیہ بیان معنی سے انشاء اللہ ظاہر ہو جاوے گی۔ استحقاق قوی میں مستحق کی جانب کوئی امر وجودی ہونا چاہئے جو منشاء استحقاق اور مبداء دعویٰ بن سکے۔ ورنہ مستحق حقیقت میں مستحق نہ ہوگا غیر مزاحم ہوگا۔

سو یہ بات دَین کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے۔ غنیمت میں بھی مخفی نہیں کیونکہ جہاد امر وجودی ہے اور یہی لِمّ معلوم ہوتی ہے کہ مال غنیمت کی تحصیل کو بندوں کی طرف منسوب فرمایا، اور یوں فرمایا وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ ورنہ حقیقت میں سب چیزیں خدا ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اور استحقاق ضعیف میں فقط مفلسی اور ناداری جو امر عدمی ہے کفایت کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ عدم مثبت وجود نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حق جو امر وجودی ہے۔ ناداری سے جو امر عدمی ہے ثابت نہ ہوگا۔ اسی واسطے اگر کوئی کسی مفلس کو کچھ نہ دے تو بہ نسبت اُس مفلس کے ظالم نہ گنا جائے گا۔ اور نہ مفلس اس کی نالش و فریاد کرسکے گا۔ ہاں اگر حقوق واجبہ کسی مفلس کو بھی نہ دے تو عند اللہ گنہگار رہوگا۔ کیونکہ مفلس کا حق نہیں تو خدا کا تو ہے۔ بالجملہ ناداری اور مفلسی مثبت حق نہیں فقط موجب قابلیت ہے۔ اور یہ قابلیت تمام نوع مفلسین میں برابر ہے۔ تو جس کسی کو دے گا کام چل جائے گا اسی واسطے محققین کے نزدیک جملہ مصارف مندرجہ آیت انما الصدقات کا احاطہ اور استیعاب ضروری نہیں یعنی یہ لازم

نہیں کہ سب ہی اصناف کو دئے۔ کیونکہ یہاں مدار کار امر عدمی پر ہے جو ناداری ہے اور وہ سب میں برابر ہے اور یہ مابعد آیت مسلم ہے کہ سب اشخاص اصناف مذکورہ کا دینا لازم نہیں۔

مصارف کے مقرر کرنے کی وجہ اہل مصارف کی ناداری ہے

سو اگر بالفرض بوجہ مفلسی دینا ضروری ہوتا تو سب کو دینا ضروری ہوتا اور جب سب اشخاص کا دینا ضروری نہیں تو سب اصناف کا دینا بھی ضروری نہیں۔ اور اس ناداری کی وجہ سے ان مصارف کا مقرر کرنا اکثر اصناف میں تو ظاہر ہی ہے۔ پر عاملین اور مؤلفۃ القلوب میں ناداری کا ہونا ہی سرے سے ضروری نہیں۔ مدار استحقاق ہونا تو درکنار؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ عاملین کا دینا تو وہ فقراء مساکین وغیرہم ہی کا دینا ہے۔ کیونکہ یہ نہ ہوں تو صدقات کیونکر وصول ہوں؟ تو گویا یہ ان کے نوکر اور اجیر ہیں ان کا دینا فقراء مساکین ہی کے کام میں خرچ کرنا ہے۔ گویا انھیں کیا دیا فقراء مساکین وغیرہم ہی کو دیا، باقی رہے مؤلفۃ القلوب سو ان کا دینا بھی موجب تکثیر صدقات تھا کیونکہ زکوٰۃ خوشی خاطر سے تو کوئی کوئی دیتا ہے۔ البتہ عامل کو اگر سلطان وقت کی پشتی ہو تو وصول ہوسکتی ہے سو فتح مکہ سے پہلے پہلے بسبب قلت اہل اسلام کے مددگاروں کی حاجت تھی۔ اور وقت فتح مکہ گو بظاہر ایک وجہ سے جماعت کثیر ہوگئی تھی لیکن حقیقت کو دیکھئے تو قصہ بدستور تھا۔ کیونکہ مؤلفۃ القلوب بظاہر مسلمان تھے جب تک ایمان دل میں خوب نہ جما تھا۔ مگر چونکہ داد و دہش میں اثر ہے کہ دینے والے کی محبت لینے والے کے جی میں پیدا کردیتی ہے۔ تو اس تدبیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو بیخ ایمان ہے اُن کے دل میں جمائی گئی۔

اور چونکہ بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مسلمان بکثرت ہوگئے۔ اس واسطے اب مؤلفۃ القلوب کا سہم ہی ساقط ہوگیا۔ الحاصل مؤلفۃ القلوب کا دینا بھی ایک وجہ سے فقراء مساکین وغیرہم ہی کا دینا تھا۔ کیونکہ ان کا دینا اُن کے حق میں بمنزلہ تجارت تھا۔ اس واسطے جب اس تجارت میں کچھ نفع نہ رہا اس کو موقوف کردیا

معہذا اس زمانہ کے فقراء اور مساکین اسلام کے فقر و مسکنت کی وجہ بھی کفار کی مخالفت ہوئی تھی سو ان کو کچھ دے کر اپنا موافق دل کر لینا گویا فقراء اور مساکین ہی کو دینا ہے۔ کیونکہ داد و دہش سے فقراء کا فقر رفع ہو جاتا ہے۔ سو وہی بات یہاں بھی نکلی۔ ان وجوہ سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ المؤلفۃ کا لام عہد کے لئے ہو الغرض استحقاق ضعیف میں مصرف کی جانب فقط امر عدمی ہوتا ہے۔ اسی لئے ان کی طرف سے دعویٰ اور طلب گاری نہیں ہو سکتی۔ ہاں خدا کی طرف سے حکم جو امر وجودی ہے منشاء استحقاق ہوتا ہے۔ اس لئے خدا کی طرف سے مطالبہ اور مواخذہ رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو حق خداوندی کہتے ہیں گو فقراء مساکین کی طرف بھی مجازاً منسوب کر دیں۔

جب یہ بات متحقق ہو چکی تو اب سنئے کہ اموال فئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی ایسے امر وجودی کا ہونا تو جو منشاء استحقاق ہو سکے ظاہر البطلان ہے۔ قرض آپ کا کفار کی جانب نہ آتا تھا۔ وصیت کی کوئی صورت نہیں۔ ایک غنیمت ہونے کا احتمال تھا سو اس کو بھی جناب باری تعالیٰ نے مما اوجفتم فرما کر رفع کر دیا تو اب بجز اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق از قسم استحقاق ضعیف ہو کوئی صورت بن نہیں پڑتی۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خداوند کریم نے مال فئے کی تحصیل کو بندوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ لفظ افاء اللہ میں اپنی ہی طرف نسبت کیا۔ اور اسی لئے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سہم ساقط ہو جائے۔ چنانچہ مذہب اکثر اہل حق یہی ہے اور شیعہ جو سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے لئے تجویز کرتے ہیں تحکم محض ہے۔ آیت میں کوئی دلیل نہیں۔ سو جس صورت میں فقط افاء اللہ سے یعنی خداوند کریم کے اس مال کو کفار کے قبضہ سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینے سے ملکیت ثابت نہ ہوئی چنانچہ بدلالۃ ما ملکت یمینک مذکور ہو چکا اور پھر اور کوئی صورت استحقاق کی بھی نہیں۔ تو بجز اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجملہ

مصارف مال فئے ہوں کیا کہئے۔

مِمَّا اَفَاءَ اللہُ کے لغوی فوائد بہرحال آیت ما ملکت یمینک مما افاء اللہ میں اگر افاءۃ فئے بمعنی اصطلاحی سے مشتق ہو تو در صورتیکہ مِنْ مِمَّا میں تبعیضیہ ہو ہمارے مخالف نہیں۔ بلکہ اور موید ہے اور اگر بخلاف ظاہر مِنْ کو بیانیہ کہئے تو پھر ما مما میں موصولہ نہ ہوگا جو عموم پر دلالۃ کرے۔ اور تمام فئے مملوک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہو۔ بلکہ موصوفہ ہوگا۔ ورنہ لازم آئے کہ مال فئے ما ملکت میں منحصر ہو۔ اور سوا ما ملکت اور کچھ نہ ہو الغرض اگر مِنْ بیانیہ ہو تب بھی ہمارے مخالف نہیں۔ غایت ما فی الباب ہمارے لئے دلیل بھی نہ ہو۔ یہ سارا جھگڑا تو اس صورت میں ہے کہ افاءۃ فئی بمعنی اصطلاحی سے مشتق ہو۔ اور در صورتیکہ افارۃ بمعنی اعادت اور رد کے ہو اور حاصل یہ ہو کہ خداوند کریم نے اپنے مال کو کفار سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ڈال دیا۔ تو پھر مستدل ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آیت میں کوئی دستاویز نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ معنی غنیمت اور فئے میں دونوں میں بن پڑتے ہیں۔

فئے کے معنی کی تعیین اور حق دیکھئے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ منشاء اور مبدا اس اصطلاح کا اگر ہے تو آیۃ سورۂ حشر اعنی ما افاء اللہ علی رسولہ ہے مگر سورۂ احزاب جس میں آیۃ ما ملکت یمینک مما افاء اللہ ہے۔ سورۂ حشر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اتقان میں ابن خریس کی روایت جو در باب ترتیب نزول سور تہائے قرآنی نقل کی ہے۔ اس میں یہ ترتیب مصرح مذکور ہے۔ معہذا سورۂ حشر میں بھی خود افارت بمعنی اصطلاحی نہیں بلکہ معنی لغوی مراد ہیں۔ کیونکہ شرط فئے بمعنی اصطلاحی کی یہ ہے کہ جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے۔ سو یہ بات کہ بے قتل و قتال اور بے جنگ و جدال مال ہاتھ آ جائے۔ یہ تو فما اوجفتم سے ماخوذ ہے۔ اگر افارت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہوتی تو فما اوجفتم کی کیا حاجت تھی۔ پر جب یہ لفظ کثیر الاستعمال ہوا ہو تو اختصار کے لئے سارے

جملہ ما افاء اللہ علی رسولہ منھم فما اوجفتم الخ کے معنی ایک لفظ فے میں بھر لے جیسے جہاد میں تمام جاھدوا باموالھم وانفسھم فی سبیل اللہ کے معنی داخل کر لئے ہیں۔ الغرض جب آیۃ سورۂ حشر میں جو ماخذ اصطلاح مذکور ہے خود افاء بمعنی لغوی ہو۔ تو جو آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی اُس میں افاء بمعنی اصطلاحی کیونکر ہوگا۔

اب بفضلہ تعالےٰ جملہ مراتب متعلقہ آیت ما افاء اللہ سے فراغت پائی، اور ہر فہمیدہ غیر فہمیدہ کے نزدیک یہ بات متحقق ہو گئی۔ کہ فدک مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا۔ نہ اس میں ہبہ کی قابلیت اور نہ اس میں میراث جاری ہو سکے۔ اور یہ بھی متیقن ہو گیا کہ روایت ہبہ فدک جو شیعوں کے نزدیک درباب غصب فدک دلیل کامل ہے محض افترا اور بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور میں نہیں آسکتا کہ مال غیر مملوک کو دیدۂ و دانستہ کسی کو بطور ہبہ حوالہ کر دیں۔

آنحضرت سے فہم قرآن میں خطاء ہو سکتی تھی کیونکہ اصلاح کے لئے وحی جاری تھی

ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ سمجھنے کا احتمال ہوتا تو یوں ممکن تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلام اللہ اور کلام اللہ کے دقائق کو نہ سمجھیں تو پھر کون سمجھے؟ ہم جیسے ہیچمدان تو کلام اللہ کے اشارات سمجھ جائیں۔ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نہ سمجھیں؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر شیعوں کے نزدیک یہ بات ہو تو ہو۔؟ یا یوں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ ہوتے کوئی امتی ہوتے تو یوں بھی کہہ سکتے۔ کہ اجتہاد تھا کچھ وحی تو تھی ہی نہیں جو غلطی نہ ہو سکے۔ یہاں تو یہ صورت کہ اگر اجتہاد بھی ہو تب بھی یہ امر ممکن نہیں کہ آپ غلطی کریں۔ اور پھر متنبہ نہ ہوئے ہوں۔

اس صورت میں اگر بالفرض والتقدیر بفرض محال نقل کفر کفر نباشد آپ کلام اللہ سے اس اشارہ کو کہ فدک جو منجملہ فئے ہے مملوک نہیں نہ سمجھے ہوتے؟ اور اس وجہ سے برادِ غلطی ہبہ بھی کر دیتے تب لازم تھا کہ وحی ربانی سے اصلاح اور تصحیح ہو جاتی

اور فدک کو مسترد فرماتے۔ سو اگر شیعہ اتنی گنجائش پا کر سنیوں کے نزدیک ممکن ہے کہ نبی سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے باوجود نبوت حکم میں غلطی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا باوجود نبی ہونے کے صحیح سمجھ جانا چنانچہ سورۂ انبیاء میں آیت داؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث الخ میں مذکور ہے اس بات پر شاہد بھی ہے۔ اپنے مذہب سے دست بردار ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کی ضد میں یوں کہنے لگیں۔ کہ فدک کا مملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا بشہادت کلام اللہ مسلم۔ لیکن ہمیں اس میں بھی شک نہیں کہ فدک کو ہبہ بھی ضرور ہی کیا۔ بہت ہو تو یہ ہو کہ بوجہ غلطی اجتہاد کلام اللہ کا یہ اشارہ نہ سمجھا ہو۔

آیۂ ما افاء اللہ، یوصیکم کی مخصص ہے

سو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ اتنی دور جانے اور اس قدر تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے سہل تر کیب میں بتائے دیتا ہوں جس میں مذہب کو بھی آنچ نہ آئے اور بات کی بات بنی رہے یعنی مناسب یوں ہے کہ یہ بات نعوذ باللہ خدا ہی کے ذمہ لگائیے اور اس بات میں بھی بدستور دیگر اغلاط خداوندی نعوذ باللہ منہا بدا کے قائل ہو جائیے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو اس لوث سے بچا لیجئے کیونکہ یہ بزرگی تو اسلاف شیعہ نے خدا ہی کے لئے تجویز کر رکھی ہے۔ اور بایں ہمہ کچھ حاصل بھی نہیں۔ سنیوں کے نزدیک اگر نبی کی نسبت غلط فہمی کا امکان ہے اور ان کے نزدیک کیا وہ بھی خدا ہی کی کہی کہیں ہیں تو وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وحی سے اُس کی اصلاح ضروری ہے۔

بہرحال فدک کے ہبہ ہونے کی کوئی صورت نہیں جو روایت ہبہ کو مانئے۔ اور اس وجہ سے حضرت فاطمہ زہراؓ کو مالک جانئے۔ غرض ہبہ کا باطل ہونا روشن ہو گیا اور کیونکر روشن نہ ہو ہبہ کے لئے ملکِ واہب مقدم ہے۔ سو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ نسبت اراضی فئے جس میں سے فدک بھی ہے مالک نہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اور علےٰ ہذہ القیاس فدک میں میراث کا جاری ہو سکنا نہ ہو سکنا

بھی بخوبی واضح ہوگیا۔ اور معلوم ہوگیا کہ اگر آیت یوصیکم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر شامل ہے۔ اور خطاب عام ہے خاص امت ہی کو نہیں۔ تب بھی بہ نسبت ابو بکر صدیق کوئی حرف عائد نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت ما افاء اللہ منجملہ متروکہ نبوی بہ نسبت فدک وغیرہ اموال فئے کے مخصص ہے۔ چنانچہ واضح ہوگیا۔

یوصیکم اللہ فدک کو شامل ہی نہیں

بلکہ غور سے دیکھئے تو تخصیص کے کہنے کی بھی کچھ حاجت نہیں تخصیص ہو تو یہ معنی ہوں کہ آیت یوصیکم اللہ سے بہ نسبت فدک بھی یہی حکم نکلتا تھا لیکن مثل استثنا، آیت مذکور یا کسی مخصص نے فدک وغیرہ کا استثنا کردیا ہے سو یہ بات یہاں کوسوں پاس کو نہیں پھٹکتی۔ کیونکہ آیت یوصیکم اللہ اگر متروکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل بھی ہوگی۔ تو اس متروکہ کو شامل ہوگی جو مملوک نبوی بھی ہو۔ کیونکہ میراث تو اشیائے مملوک مورث میں جاری ہوتی ہے۔ فدک جب وقف ہوا تو مملوک ہی نہیں۔ تو عموم آیۃ یوصیکم اللہ میں داخل کیونکر ہو۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو البتہ درصورت تسلیم عموم خطاب اس کی ضرورت پڑتی۔ کہ حدیث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ کو مخصص کہئے لیکن بحمد اللہ اس کی ضرورت ہی نہ ہوئی۔

یُوصِیکُمُ اللہ کی جیسے بہت سی احادیث مخصص ہیں۔ ایسے ہی ما ترکناہ ہے

لیکن تاہم تکثیر سواد وجوہ رفع مخالفت آیت مذکورہ وحدیث مسطور کے لئے ماسوا اس تقریر کے جو در بارہ تخصیص گذر چکی ہے۔ اس قدر اور مرقوم ہے کہ آیت یُوصِیکُمُ اللہ میں کچھ بھی تخصیص نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ باتفاق فریقین اور بہت سی تخصیص ہوئی ہیں چنانچہ کافر وارث نہیں ہوتا غلام وارث نہیں ہوتا۔ قاتل مورث وارث نہیں۔ باایں ہمہ ان تخصیصات پر کلام اللہ کا کوئی لفظ آیت مذکورہ سے متصل ہو یا منفصل دلالت نہیں کرتا۔ بجز اس کے نہیں کہہ سکتے کہ احادیث مخصص مذکور ہوں پھر اسی حدیث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ نے کیا قصور کیا ہے کہ مخصص نہ ہو سکی۔ اگر یہ حدیث آیت مذکورہ کے بایں معنی مخالف کہتے ہو کہ مخصص ہے۔ تو جو حدیثیں اور تخصیصوں کی

دلالت کرتی ہیں بدرجۂ اولی مخالف ہوں گی۔ کیونکہ نہ کوئی لفظ اس آیت میں اُن کے موید ہے جیسا کہ قرینہ غیبت یوصی جو خصوص خطاب کم پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ مذکور ہوا مضمون حدیث مَا تَرَكْنَاهُ کے موید ہے۔ اور نہ کوئی اور ہی آیت اُن احادیث کے مساعد ملتی ہے۔ جیسا کہ آیت مَا اَفَاءَ اللہُ حدیث مذکور کے مساعد ہے۔

الحاصل اگر آیۃ ما افاء اللہ سے بھی قطع نظر کیجئے اور حدیث مذکور کو مبین خطاب اور مفسر مراد حدیث رکھئے تب بھی بیش برین نیست کہ حدیث مذکور آیت مسطور کے مخصص ہوگی۔ مخالفت کجا؟ اور اگر تخصیص بھی مخالفت کہلاتی ہے تو ایسی مخالفت شیعہ سُنی سب کے نزدیک درست ہے۔ تکرار کی کیا بات ہے۔

بعض آیات اور روایات شیعہ میں کلی تضاد

ہاں مخالفت اسے کہتے ہیں کہ میت کے ماں باپ کے ہوتے اس کی اولاد کی اولاد کو میراث نہ دی جائے جیسے کہ شیعہ کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ حالانکہ اولاد کی اولاد بلاشبہ اولاد ہی میں داخل ہے۔ اور خود جناب باری تعالیٰ ہی فرماتے ہیں یُوصِیکُمُ اللہُ فِی اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ یعنی اولاد کو میراث دلانے کے باب میں خود جناب باری تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں۔ پھر جب اولاد کی اولاد بھی اولاد ہی ہوئی تو ان کی وراثت آپ ثابت ہوگئی۔ اور اگر اولاد الاولاد کی اولاد ہونے میں بھی حضرات شیعہ کو سند ہی کی ضرورت ہے۔ اور بے سند اور بے دلیل ایسے مضامین نہیں سمجھ سکتے۔ تو لیجئے سند بھی موجود ہے کلام اللہ میں اولاد کی اولاد ہی کو آیت مباہلہ یعنی نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَکُمْ میں ابنا فرمایا اس لئے کہ باتفاق فریقین ابنانا سے حضرات حسنین وغیرہما مراد ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تھے۔ بیٹی کے بیٹے تھے۔

دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو حضرت یعقوب کی اولاد کی اولاد تھی ان کو خداوند کریم بار بار بنی اسرائیل کہتا ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے معنی بعینہ اولاد یعقوب ہے۔ اس لئے کہ بنی اولاد اور اسرائیل سے مراد حضرت

یعقوب ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ اُس زمانہ کے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے تو تھے ہی نہیں اولاد کی اولاد تھے وہ بھی کئی پشتوں بعد۔ علیٰ ہذا القیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے آدمیوں کو خداوند کریم اس آیت میں یَابَنِیْ اٰدَمَ لَایَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ اور نیز اور آیات میں بنی آدم فرماتا ہے حالانکہ حضرت کا ان میں سے کوئی بھی بیٹا نہ تھا۔ اگر تھے بھی تو کہیں اڑسنگ کے پڑسنگ جا کر اولاد کی اولاد ہوتے تھے۔

دوسرے مخالفت اسے کہتے ہیں کہ بیوی کو زمین اور زمین کی قیمت سے میراث نہیں دیتے اور علیٰ ہذا القیاس برادران اور ہمشیرگان مادری کو مقتول کی دیت میں سے میراث نہیں دیتے۔ اور دیں تو قاتل کو مقتول کے ترکہ اور دیت میں سے میراث دیں۔ بشرطیکہ خطاء سے یا شبہ خطا سے قتل کیا ہو۔ حالانکہ نصوص قرآنی زوجہ اور بہنوں اور بھائیوں کی سب کی توریث میں عام ہے۔ زمین کی اور اس کی قیمت اور دیت کی کچھ تخصیص نہیں۔ اور اسی طرح جملہ القاتل لایرث بھی جس سے قاتل کا محروم ہونا ثابت ہوتا ہے عام ہے۔ عمد اور خطا کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

باایں ہمہ اور بھی سب میت کے بڑے فرزند کو شمشیر اور مصحف اور انگوٹھی اور پوشاک (میت کی) بدون عوض دلاتے ہیں۔ اور اس باب میں شیعہ بعض اپنے ائمہ سے بھی روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے باپ کے ترکہ میں ان اشیاء میں سے اور وارثوں کو حصہ نہیں دیا۔ بلا عوض سب کا سب آپ ہی رکھا۔ اور پھر اس روایت کا راوی سوائے شیعہ اور کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ روایت سراسر مخالف قرآن ہے اگر عذر عصمت ائمہ ہے اور یوں کہیے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم سے ظلم وستم اور خطا نہیں ہوتی۔ جو کچھ انھوں نے کیا صحیح ہی کیا ہوگا۔ ہم نہ سمجھیں تو کیا ہوا؟ تو اول تو اہل سنت کسی کو سوا رانبیاء معصوم ہی نہیں سمجھتے جو اُن کے سامنے یہ عذر چل سکے۔

قول قابل اتباع ہے اور فعل میں خصوصیت کے احتمال ہیں

اور سلمنا کہ فعل معصوم میں خطا نہیں ہوسکتی لیکن بالاتفاق قول معصوم اتباع اور اقتدا میں فعل معصوم سے مقدم ہے کیونکہ افعال میں تو یہ

بھی احتمال ہے کہ خاص اس کے لئے ہو آخر بیسیوں احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھے۔ منجملہ ان کے دربارہ نکاح رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں چار کی قید نہ ہونی معلوم ہی ہو چکی صوم وصال کا آپ کے لئے جائز ہونا اوروں کے لئے نہ ہونا سب کو معلوم۔ علیٰ ہذا القیاس اور بہت سے امور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص تھے اور کچھ کچھ ان کا مذکور بھی ہو چکا اور قول میں یہ احتمال نہیں ہوتا اگر اس میں کسی وجہ سے کوئی تخصیص بھی ہوتی ہے تو کسی ایک آدھ ہی کی ہوتی ہے۔

بہرحال جب قول بعض ائمہ کہ وہ اگر بالفرض معصوم بھی ہیں تو کہیں اتنے ہیں؟ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اقتدار و اتباع ہیں۔ چنانچہ شیعوں کے نزدیک علی العموم یہ حکم جاری ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ مقام حاصل ہے کہ مصحف و انگشتری وغیرہ ترکہ پدری میں سے بدون عوض لے لے۔ تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لَانُوْرِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ بدرجہ اولیٰ لائق اتباع ہوا۔ اور جب ان امور کو بھی لحاظ کیجئے کہ ائمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سُنی اور آجکل کے شیعہ جو روایت مذکور پر عمل کرتے ہیں انھیں سننا تو کہاں نصیب اُن کی زیارت بھی میسر نہیں آئی۔

حدیث لانورث مفسر ومبین آیت ہے اور روایت شیعہ مخالف

معہذا حدیث لَانُوْرِثُ مَاتَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ ایک وجہ سے مبین خطاب بھی ہوسکتی ہے اس کا مخصص ہونا ایسا ظاہر نہیں کہ اس کے سوا احتمال ہی نہ ہو۔ بلکہ قرین عقل بعد غور کے مفسر و مبین ہونا ہی ہے بخلاف روایت شیعہ کے کہ وہ مخصص کیا مخالف ہے کیونکہ تخصیص کے لئے کوئی وجہ تو چاہئے یہاں بجز دھینگا دھینگی کے اور کچھ نہیں۔ غرض ان امور کے لحاظ سے روایت شیعہ روایت ابو بکر صدیق کے پاسنگ بھی نہیں ہوسکتی۔ معہذا ہم پوچھتے ہیں کہ سند ائمہ دربارہ تخصیص کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل و قول ہے تو ابو بکر صدیق نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول سے تخصیص کی تھی کہ فدک دیا تو کچھ چنگیر خاں اور قانون انگریزی کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ ہاں ابو بکر صدیق کی جانب البتہ

اتنا قصور ہے کہ انھوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کوئی راوی بیچ میں نہ تھا۔

> ائمہ نے روایت فدک اگر بلا علاقہ آنحضرت بیان کی ہے تو دو خرابیاں لازم آئیں

اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ علاقہ نہیں تو دو خرابیاں لازم آئیں گی اول تو معصوم ہو کر کلام اللہ کے مخالف کیا معصوم کے تو معنی تو یہی ہیں کہ احکام خداوندی کے خلاف اس سے نہ ہو سکے دوسرے اس پر بھی اکتفا نہ کیا امت کے لئے بھی یہی حکم مخالف رہا اور یہ دونوں خرابیاں پہلی شق پر بھی برابر وارد ہیں۔ کیونکہ کلام اس صورت پر ہے کہ تخصیص کو مخالف کہیئے۔ سو اس صورت میں مخالفت کہیں نہیں گئی۔ اس میں کوئی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور کلام اللہ کے مخالف تو کسی کی بات کیوں نہ ہو قابل شنوائی نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اور تخصیصات مسطورہ کو جو بحوالہ مذہب شیعہ مرقوم ہوئی ہیں اور واقع میں تخصیصات نہیں مخالفات ہیں چنانچہ ظاہر ہے۔ ایک طرف دھریئے اور حدیث ابو بکر کو ایک طرف رکھئے اور بوجہ عقل اور نقل آیت یُوْصِیْکُمُ اللّٰہ سے اس کی چسپیدگی اور مخالفات شیعہ کی منافرۃ کو ملحوظ کر کے دونوں کو تولئے۔ اور پھر تولئے کہ کس طرف پلہ جھکتا ہے؟

الحاصل ہر ہر سخن سے شیعوں کی سخن فہمی اور ہر ہر قدم پر اُن بزرگواروں کی عقل و نقل سے مناسبت معلوم ہوتی جاتی ہے۔ پر ہر بات پر گرفت کرنے میں بھی تھکا جاتا ہوں۔ اور نیز شرم آتی ہے کہ ان بیحیاؤں کو الزام دے کر کہاں تک شرمایئے۔ اس لئے باقی امور کا جواب لکھنے سے جی رکتا ہے۔ اور یوں خیال آتا ہے کہ جب اس فرقہ کی خوش فہمی ہر ہر سطر پر معلوم ہوگئی تو اہلِ انصاف اسی سے سمجھ جائیں گے کہ اور بھی ایسے ہی گل کھلائے ہوں گے لیکن یقین سے اطمینان کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ گو اتنی تقریروں سے جو مرقوم ہو چکیں۔ مولوی عمار علی صاحب کے خط معلوم کے امور باقیہ کا غلط ہونا بھی متیقن اور متحقق ہوگیا لیکن شائقین کو یہ تردد ہوگا کہ دیکھئے اُن کے غلط ہونے کے کیا کیا وجوہ ہوں؟ اِس لئے باوجود قلتِ فرصت اور کثرتِ ضروریات اور بھی

حرکت کرنی پڑی۔ اس لئے بقدر مناسب دربارہ مخالفت حدیث لَا نُوْرِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ اور آیت وَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ اور آیت وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوٗدَ کے اپنے مافی الضمیر کو قلم کے نیچے کھینچتا ہوں۔

اول قابل لحاظ یہ بات ہے کہ جب آیت یُوْصِیْکُمُ اللّٰہ میں خطاب مخصوص امت کے لئے ہوا تو اس حدیث ہی کی اہل سنت کو کچھ ضرورت نہ رہی۔ اور کسی کے مال میں میراث جاری ہو کہ نہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں تو وراثت جاری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ بایں ہمہ جب آیت ما افاء اللہ سے فدک کا غیر مملوک ہونا ثابت ہوگیا۔ تو جھگڑا ہی تمام ہوگیا۔ اب اگر کوئی کہیں سے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ترکہ میں میراث کا جاری ہونا ثابت بھی کر دے تب بھی فدک میں تو میراث جاری ہو ہی نہیں سکتی۔

> حدیث معاشر الانبیا، اگر غلط بھی ہو تو بھی فدک ہاتھ نہیں آتا

القصہ اگر بوجہ مخالفت ظاہری جو حدیث مذکور اور آیات باقیہ میں ظاہر بینوں کو معلوم ہوتی ہے۔ حدیث مذکور اگر غلط بھی ہو جائے تب بھی کچھ حرج نہیں۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشارہ آیۃ یوصیکم اللہ ہی اس آیت سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر اگر اور انبیاء کے ترکہ میں میراث جاری ہوتی بھی تو ہوا کرے۔ کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں ہے غایت مافی الباب حدیث مذکور غلط ہو لیکن اِس کے غلط ہونے سے فدک نہیں مِل سکتا ہاں آیت یوصیکم اللہ اگر غلط ہو جائے تو البتہ شیعوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔

دوسرے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں بھی میراث جاری ہو؟ تب جس چیز میں تنازع ہے یعنی فدک میں بشہادت آیت ما افاء اللہ میراث جاری نہیں ہو سکتی۔ اب اگر مخالفت مابین حدیث و آیات کے ثابت بھی ہوگئی تو حدیث ہی غلط ہو جاوے۔ پر شیعوں کا مطلب تو ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آیت ما افاء اللہ پر شیعہ خط لا کھینچ کر ایمان پر خط کھینچ جائیں تو کیوں نہیں؟ بہرحال بغرض اثبات برارت

حضرت صدیق اکبر یعنی بایں غرض کہ فدک کا نہ دینا موافق حکم نبوی تھا۔ ہمیں اس میں اس کی ضرورت نہیں کہ حدیث مذکور اور آیات مذکورہ میں موافقت ثابت کریں۔ اور مخالفت جو بظاہر نظر آتی ہے اس کو باطل کر کے حدیث مذکور ثابت کریں۔ اس باب میں اشارہ یوصیکم اللہ اور دلالۃ ما افاء اللہ کافی ہے۔

فصل

وراثت انبیاء پر بحث۔ کہ وہ مالی ہے یا علمی؟ اور مالی مراد لینے پر خرابیاں

پر بفرض اثبات صدق صدیق اکبر اس باب میں بھی گفتگو کرنی ضروری ہوئی اس لئے نظر بر تقدم وتاخر آیات اول درباب مخالفت حدیث اور آیت وَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ الخ میں گفتگو چھیڑتا ہوں۔ پر شرط یہ ہے کہ بفور سلئے اگر وراثت سے اس آیت میں وراثت مالی مراد ہے۔ اور اس وجہ سے حدیث کو اس آیت کے مخالف کہتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں۔ آل یعقوب سے یا تو خود ذات بابرکات حضرت یعقوب علیہ السلام مجازاً مراد ہو چنانچہ محاورات عرب میں اکثر پایا جاتا ہے کہ آل فلاں بولتے ہیں اور اس سے خود وہی شخص مراد ہوتا ہے۔ یا حقیقی معنی مقصود ہوں۔ یعنی آل یعقوب سے اولاد یعقوب مراد ہو۔ سو اول صورت میں تو لازم آئے گا کہ تادم دعا مذکور مال حضرت یعقوب جن کے انتقال کو دو ہزار برس سے زیادہ ہو چکے تھے بجنسہ غیر منقسم رکھا ہوا ہو۔ اور آگے حضرت زکریا کو یقین ہوا کہ میری وفات سے پہلے بھی تقسیم ہو لیا تھا۔

یا بعد اس دعا کے قبل وفات حضرت زکریا کے تقسیم ہو جاتا تو پھر جملہ یَرِثُ مِنْ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْب کے زیادہ کرانے کی کیا حاجت تھی؟ لفظ یَرِثُنِیْ بھی کافی تھا کیونکہ اس صورت میں وہ مال حضرت زکریا کا ہو چکا۔ اب حضرت یعقوب کا نہ عرفاً نہ شرعاً۔ حضرت یحییٰ وارث ہوں تو ہر طرح سے حضرت زکریا ہی کے وارث کہلائیں حضرت یعقوب کے وارث نہ کہلائیں گے۔ اس صورت میں لاجرم جملہ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْب غلط ہو جائے گا۔ اور پھر لغو جدا رہے گا کیونکہ حضرت زکریا کی نسبت تو وراثت پر دلالت یَرِثُنِیْ میں موجود تھی یرث من آل یعقوب کی کیا ضرورت تھی؟

بہر حال اس صورت میں اس وجہ سے یوں کہنا پڑے گا کہ دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گذرا اور بایں ہمہ حضرت یعقوب کا مال غیر منقسم ہی رہا۔ سو ایسی بات دیوانوں کے سننے کی ہے۔ عاقلوں کے کانوں میں تو ایسی نامعقول باتوں کی سمائی نہیں۔ کون کہہ دے گا کہ دو ہزار سال سے زیادہ ایک شخص خاص کا مال باوجود اس کثرت اولاد کے کہ شاید کسی کی نہ ہوئی ہو غیر منقسم رکھا رہا ہو۔ اور اگر آل یعقوب سے معنی حقیقی مقصود ہوں اور اولاد یعقوب مراد ہو۔ تو یہ معنی ہوں کہ حضرت یحییٰ تمام بنی اسرائیل کے وارث ہوں۔ جو تعداد میں لکھوکھا سے متجاوز ہوں گے۔ اور پھر بایں ہمہ حضرت یحییٰ تمام احیاء واموات سے ایسا رشتہ وقرابت رکھتے ہوں جو موجب وراثت ہو سکے۔

معہذا یہ بھی ضرور ہو کہ اس زمانہ کے بنی اسرائیل میں جو جو زندہ ہوں وہ لاجرم حضرت یحییٰ کے سامنے مر بھی جائیں۔ تاکہ وارث جو حضرت زکریا ہیں اور یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْب اس پر دلالت کرتا ہے ظہور میں آئے۔ سو یہ بات پہلی بات سے بھی کچھ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ بجز اس کے کہ ان عبارات کے ایسے معنی لے نے کو زبردستی اور بے ہودہ کہئے اور کیا کہئے؟ عالم وعاقل کے تو تصور میں یہ بات نہیں آسکتی کہ ایسے امور وجود میں آئیں۔ اور پھر کوئی نادان ہی ایسی نامعقول تمنائیں کرے۔ چہ جائیکہ حضرت زکریا انبیاء کی تیز ذہن اور سلامت عقل سب جانتے ہیں اور پھر بایں ہمہ کیا زیبا تھا کہ جناب باری تعالیٰ ایسی چرپوز باتوں کو اپنے ایسے کلام پاک میں نقل فرماتا کہ جس کی بلاغت ومتانت کا شہرہ آسمان سے زمین تک پہنچا۔

غایت مافی الباب کوئی بات کو بنائے تو یوں بنائے کہ من کل واحد من آل یعقوب اگر فرماتے تو یہ اعتراض ہو سکتا۔ اور فقط من آل یعقوب سے تو سب بنی اسرائیل کے مال کی وراثت لازم نہیں آتی۔ مگر اہل انصاف سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معنی ہوں کہ بنی اسرائیل میں سے ہر فرد بشر کی وراثت مراد لینا ضروری نہیں۔ ایک دو کی وراثت بھی کافی ہے۔ تو اتنی بات تو یرثنی میں موجود تھی۔ اس قدر عبارت بڑھانے سے کیا حاصل ہوا؟ معہذا ایسے مواقع میں بحکم محاورۃ تمام افراد ہی

مراد ہوتے ہیں۔

القصہ شیعوں کا اس آیت کو وراثت پانے پر محمول کر کے بوجہ مخالفت حدیث ماترکناہ صدقۃ حضرت ابوبکر صدیق اور پیروانِ حضرت صدیق پر طعن کرنا بعینہ ایسا قصہ ہے۔ جیسا نکٹے ناک والوں پر ہنسیں جس فرقہ کے علمار کی فہم و فراست اور خوش فہمی اس درجہ کو ہو تو جاہلوں کو تو کچھ نہ پوچھیے۔ ان کی عقل سے تو بیشک بھینس ہی بڑی ہوگی۔ معہذا حضرت زکریا نے مقام دعا میں دو لفظ فرمائے ہیں ایک تو وَلِیًّا دوسرے یَرِثُنِیْ اگر ولی سے فرزند مطلوب ہے تب یرثنی بیکار اور لغو گفتار ہے بیٹا آپ وارث ہوا کرتا ہے۔ ایسا کونسا فرزند ہوتا ہے جو قابلیت وراثت نہ رکھتا ہو۔ اور اگر یَرِثُ کی قید سے یہ غرض ہو کہ ایسے اوصاف اس میں پیدا نہ ہوں جو مانع وراثت ہوں، مثلاً کافر نہ ہو۔ یا مرا قاتل نہ ہو۔ کیونکہ کافر اور قاتل میت کے وارث نہیں ہوتے تب بھی اس کی کچھ حاجت نہ تھی اس لئے کہ وَاجْعَلْہُ رَبِّ رَضِیًّا آگے موجود ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ ولی بھی دے تو ایسا دے جو تیری مرضی کے موافق ہو۔

باقی رہا یہ احتمال کہ یَرِثُنِیْ کی قید اس لئے بڑھائی کہ مبادا فرزند تو عطا ہو لیکن سامنے ہی مر جائے۔ تو یہ احتمال اسی کو روا ہے جو نعوذ باللہ خداوند علیم کو فہیم نہ سمجھے۔ اسی دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَائِیْ جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے اپنے بعد کا اندیشہ ہے اُس اندیشہ کے سبب ولی طلب کرتا ہوں۔ سو اب اس دعا میں یہ بات صاف موجود ہے کہ ولی ملے تو ایسا ملے جو بعد تک زندہ رہے۔ معہذا لفظ ولی تو اُسے ہی کہیں گے جو ولی عہد اور خلیفہ ہو۔ اس مضمون کو حضرت زکریا کے بعد تک زندہ رہنا آپ لازم ہے۔

اور ان سب خرابیوں سے قطع نظر کیجئے۔ وراثت مالی کے نہ ہونے کی ایک یہی وجہ بہت ہے۔ کہ اس صورت میں حضرت زکریا کے منصب نبوّت کو بٹّا لگتا ہے۔ مال کا اتنا خیال کہ جیتے جی تو تھا ہی۔ مرنے کے بعد کا بھی ابھی سے بندوبست ہے۔ اور وہ بھی اس قدر کہ خدا سے بھی کچھ شرم نہیں۔ یہاں تک کہ خود جناب باری ہی سے یہ التجا ہے۔

کہ اس کے برتنے کے لئے فرزند عنایت کر۔ پرلے درجے کے دنیا داروں اور محبانِ دنیا کا کام ہے نہ کہ انبیاء کا۔ اور ان میں سے بھی حضرت زکریا کا جو آزادگی اور وارستگی میں مشہور تھے۔ استغفر اللہ شیعہ بھی کس قدر بیہودہ ہیں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کی یہ لوگ کیا قدر جانیں؟ ان کی ہمّت بلند کے سامنے تو تمام متاع دنیا مینگنی کے برابر ہے۔ پھر ان میں سے حضرت زکریا جیسے بے تعلق۔ وہ ایک قدر قلیل متاع دنیا کے لئے کیا اس قدر بندوبست کرتے؟ اور وہ بھی اتنا کچھ کہ خدا تک نوبت پہنچی۔ اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ اول تمام مراتب اپنے استحقاق کے جس سے خوامخواہ دعا قبول ہی کرنی پڑے۔ بیان کئے جائیں۔

کیونکہ بعد تمہید مطلب کے، تو یہ ہے انی خفت الموالی جس سے اپنی کمال بیقراری اور بے تابی اور ضرورت فرزند ثابت ہو جائے۔ تاکہ کچھ توقف نہ ہو۔ سبحان اللہ نبی نہ ہوئے دنیا دار ہوئے۔ اتنی دور کی تو انھیں بھی نہیں سوجھتی جن کی رگ و پے میں محبت دنیا رچی ہوئی ہے۔ اور شب و روز اسی دھیان گیان میں رہتے ہیں۔ علاوہ بریں اگر حضرت زکریا کو یہ اندیشہ تھا۔ کہ ان کے بنی اعمام ان کے مال کو اُن کے بعد بیجا اور بے موقع صرف نہ کریں۔ تو اول تو یہ اندیشہ ہی بیجا کیونکہ نقل مشہور ہے آپ ہوئے جگ پرلوں مرے کے بعد کوئی سیاہ کرے یا سفید مردہ کو کیا اندیشہ؟ بعد مردن کوئی مواخذہ کی صورت ہی نہیں۔ اور اس پر خدا سے عرض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس اندیشہ کی تدبیر اور تدبیر بھی وہ عمدہ کہ درصورت قبولیت دعا وہ بات ہرگز نہیں۔ خود ان کے ہاتھ میں موجود تھی یعنی اپنے ہاتھ سے تمام اموال خدا کی راہ میں لٹا جاتے۔ جو اس خوف سے بھی نجات ہو جاتی اور ذریعہ مزید ترقی درجات آخرت بھی میسر آتا۔ فرزند اگر نیک بھی ہوا اور اس نے مال کو خدا کی راہ میں صرف بھی کیا تو مردہ کو کیا؟ وہ مال اب فرزند کا ہو گیا ثواب دینے دلانے کا اس کو اختیار ہوگا

باقی رہی یہ بات کہ ایک دفعہ مال کے لٹا دینے میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر بعد اتفاق حیات طویل باقی نکلی تو پھر اپنا گذارا مشکل ہے۔ سو اس کی یہ صورت ہے کہ اگر ایسی

ہی بے صبری اور اس بات کی پابندی تھی۔ اور باوجود نبوت توکل دشوار تھا تو انبیاء کو ان کی موت کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ وقت اطلاع موت سب دے دلاجاتے اور وارثان بدوضع کے لئے کوڑی نہ چھوڑتے۔ القصہ نظر بروجوہ مذکورہ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سے وراثت مالی مراد نہیں ہوسکتی۔

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ میں وراثت مالی مراد نہیں

علیٰ ہذا القیاس آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ میں بھی بحکم قرآن عقلیہ ارادۂ وراثتِ مالی ممنوع ہے۔ مگر شاید شیعوں کو یہ یہ عذر ہو کہ یہاں عقل ہی ندارد ہے۔ تو البتہ یہ عذر معقول۔ خیر اگر شیعہ انصاف کریں تو اس قدر اور معروض ہے کہ باتفاق مؤرخین اور اجماع اہل تواریخ حضرت داؤد کے انیس بیٹے تھے۔ ایک حضرت سلیمان اور اٹھارہ دوسرے۔ پس اگر وارث ہوتے تو سب ہی ہوتے۔ حالانکہ بطور خصوصیت جناب باری تعالیٰ کا یوں فرمانا کہ حضرت داؤد کے حضرت سلیمان وارث ہوئے اس بات کو مقتضی ہے۔ کہ حضرت داؤد کے وارث فقط حضرت سلیمان ہی تھے۔ اور بھائیوں کی شرکت نہ تھی۔ اور نیز یہ بھی کھلی ہوئی بات ہے کہ سب بیٹے باپ کے مال کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس بات کے بیان کرنے سے کیا حاصل نکلا۔ جو جناب باری تعالیٰ نے اس قصہ کو یاد فرمایا۔ ایسی لغو بیہودہ باتیں خداوند متین کے کلام میں نہیں ہوسکتیں۔

علاوہ بریں ایسی بات کے بیان کرنے میں جس میں تمام عالم نیک و بد شریک ہوں کیا بزرگی نکلی جو خداوند کریم نے حضرت سلیمان کے فضائل و مناقب میں اس کو درج فرمایا۔ اور مقام تعریف میں چنانچہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے ذکر کیا۔ القصہ بوجوہ مذکورہ یہاں بھی وراثت مالی مراد نہیں ہوسکتی۔ جب بدلائل واضحہ اس سے اطمینان ہوا کہ ہر چہ بادا باد وراثت مالی تو مراد نہیں۔ تو یہ تردد ہوا کہ پھر اور کون سی وراثت مراد ہوگی؟ اس بات کے اطمینان کے لئے اول تو حضرات ائمہ کی طرف رجوع کیا ادھر سے یہ جواب ملا اِنَّ سُلَيْمَانُ وَرِثَ دَاؤُدَ وَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِثَ سُلَيْمَانَ۔ یعنی بیشک حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ اور حضرت

محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہوئے۔

وراثت سے مراد علم دین (بروایت ائمہ شیعہ)

چنانچہ یہ روایت حضرت امام جعفر صادقؑ کے حوالہ سے امام المحدثین شیعہ حضرت کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ سنیوں کی کتابوں میں ایسی ویسی باتیں ہوتیں تو شیعوں کے لئے گنجائش انکار بھی تھی۔ بہر حال اس روایت سے عیاں ہے کہ آیت وورث سلیمان میں تو وراثت علمی و وراثت منصب نبوت مراد ہے۔ وراثت مالی مراد نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان سے کیا قرابت تھی؟ کہ ان کے وسیلہ سے جو مال حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کے ترکہ میں سے ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں ملتا۔ بعہذا مال ملا تو کب ملا؟ بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایسی میراث جو حضرت داؤد سے حضرت سلیمان کو پہنچی۔ اور حضرت سلیمان سے رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی بجز میراث نبوت اور میراث علم کے اور کچھ نہیں۔

سیاق و سباق آیت سے بھی وراثت علمی ظاہر ہے

علاوہ ازیں خود کلام ربانی میں کلام سابق اور کلام لاحق دونوں بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ کہ جملہ ورث سے میراث علمی مراد ہے میراث مالی مراد نہیں۔ چنانچہ حافظان عربی داں پر پوشیدہ نہیں۔ بایں ہمہ بندہ بھی ماقبل مابعد دونوں کو لکھ کر اطمینان کئے دیتا ہے۔ کلام سابق تو یہ ہے ولقد اٰتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ جس کے جملہ ورث سلیمان سے مل کر یہ معنی ہوئے۔ کہ بیشک دیا ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔ اور کہا ان دونوں نے شکر اس اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم کو اپنے بہت بندوں ایمان والوں پر۔ اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے" اور کلام لاحق یہ ہے وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ الخ اور مجموعہ کے مل کر یہ معنے ہوئے "کہ وارث ہوئے سلیمان داؤد کے۔ اور بولے وہ۔ لوگو ہم کو سکھائی ہے یعنی خدا نے گفتگو پرندوں کی فقط"۔

اب دیکھئے کہ جب جملہ ورث جملہ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا پر معطوف ہوا اور جملہ وَقَالَ وَرِثَ پر معطوف ہوا اور پھر ان دونوں تینوں معطوف اور معطوف علیہ کے ایک دوسرے

پر معطوف ہونے کو لحاظ کریں تو در صورتیکہ جملہ وقال جملہ ورث پر معطوف ہو تو اس ارتباط سے اب یہ بات نکلتی ہے کہ وَرِثَ میں وراثت علمی مراد ہے۔ ورنہ بے علاقہ دو جملوں میں عطف کے کیا معنے؟ جس نے مختصر معانی اور مطول کی بحث فصل وصل کو دیکھا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اگر وراثت سے وراثت علمی مراد نہ ہو بلکہ مالی ہو۔ تو پھر عطف کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ چہ جائیکہ موجب فصاحت و بلاغت ہو۔ اور ظاہر بھی تو ہے اس صورت میں ان دونوں تینوں جملوں میں عطف کا ہونا بعینہ ایسا ہے جیسا زاغ کے ساتھ طوطی کو ایک قفس میں بند کر دیجئے۔

اور جملہ ورث جو ما بین اپنے ماقبل اور مابعد کے داخل ہے اس کی یہ صورت ہوگی۔ جیسے کہا کرتے ہیں بیاہ میں بیچ کا لیکھا۔ ایسی غیر مربوط کلام دیوانوں کی ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ شانہ کی شانِ رفیع سے یہ بات محال ہے۔ کہ ایسی ناموزوں گفتگو کرے۔ ہاں اگر ایسے مواقع میں محاورات عرب میں لفظ وراثت نہ بولا کرتے تو البتہ فی الجملہ جائے تأمل تھی۔ خیر شیعوں کو شاید خبر نہ ہو پر حافظان کلام ربانی کو معلوم ہے۔ کہ محاورات ساکنان عرب تو در کنار خود کلامِ ربانی میں جو ارباب فصاحت و بلاغت کے نزدیک عربی زبان میں کوئی کتاب یا کوئی عبارت اُس کے ہم سنگ تو کیا پاسنگ بھی نہیں ہوسکتی۔ بہت مواقع میں وراثت سے وراثت علمی مراد ہے یہاں تک کہ وراثت مالی کا احتمال بھی نہیں ہوسکتا۔

کلام اللہ میں وراثت کو صرف علم کے لئے کثرت سے استعمال کیا ہے

ایک جا فرماتے ہیں ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا جس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا اپنے بندوں میں سے اُن لوگوں کو جن کو چھانٹ لیا۔ دوسری جا ارشاد ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ ؕ اس سے بھی وہی وراثت کتاب یعنی علم کتاب مراد ہے۔ مگر شاید خوش فہمان شیعہ کو یہاں یہ احتمال ہو کہ کتاب بھی تو مال ہے اور شاید وراثت مال ہی یہاں بھی مراد ہو۔ تو گو اس احتمال کے دفع کے لئے کاغذ کے سیاہ کرنے میں اپنی ہنسی کا اندیشہ ہے۔ مگر

بلحاظ قدر فہم شیعہ ناچار کچھ اشارہ ضروری ہوا۔

اس لئے معروض ہے کہ اول آیت میں تو بعد عِبَادِنَا کے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ الخ ہے اور دوسری آیت میں بعد کتاب کے يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى ہے سو تفریع فَمِنْهُمْ سے تو یوں ظاہر ہے کہ عطاء کتاب کے بعد باعتبار عمل کے ان کے تین حال ہوگئے۔ کوئی ظالم رہا۔ کوئی مقتصد کوئی سابق۔ سو عمل علم پر متفرع ہو سکے ہے نہ کہ اوراق اور جلد کتاب پر۔ اور يَاْخُذُوْنَ کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کتاب کیا ملی دنیا ہی کمانے لگے یعنی رشوت لیکر امراء کی مرضی کے موافق مسئلے غلط بتانے لگے چنانچہ قرینہ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اس بات پر شاہد ہے اور ظاہر ہے کہ رشوت لیکر غلط مسائل بتانے بے علم کے نہیں ہو سکتے۔ بہر حال اکثر مواقع میں لفظ وراثت سے وراثت علمی مراد ہے۔ سو اس استبعاد کی بھی گنجائش نہیں کہ میراث کو علم سے کیا علاقہ؟

کلام اللہ میں وارث بمعنی قائم مقام

ہاں شاید کسی عربی خواں عمامہ بند شیعی کے جی میں یہ کھٹکے کہ وراثت علمی وراثت مجازی ہے اور وراثت مالی وراثت حقیقی۔ پس وراثت کے معنی حقیقی چھوڑ کر بے ضرورت معنی مجازی لینے درست نہیں البتہ اگر ضرورت ہوتی تو مضائقہ بھی نہ تھا۔ اس لئے گزارش یہ ہے کہ معنی معروف وراثت کے معنی حقیقی ہونا اور علم میں مجازاً مستعمل ہونا ہی اول تو مسلم نہیں۔ علم میں بھی مثل مالی وراثت! اپنے معنی حقیقی پر ہی رہتی ہے۔ الغرض وراثت کے معنی حقیقی دونوں کو عام ہے اور بظاہر اس کے معنی قائم مقام ہونے کے قریب قریب ہیں بلکہ اگر بمعنی جا دی اور مسلط ہو جانے کے کہئے تو اور بھی انسب اور اولیٰ ہے۔ چنانچہ ظاہر ہو جائے گا۔ پر بسبب کثرت استعمال کے عرف فقہا میں معنی معروف میں خاص ہوگیا ہے۔ ورنہ حقیقت وراثت کا اطلاق وراثت علم اور وراثت منصب دونوں پر ویسا ہی صحیح اور درست ہے جیسا کہ وراثت مالی پر۔

اور دلیل اس بات کی کہ معنی خاص یعنی وراثت مال میں یہ لفظ معروف ہوگیا ہے

اور اصلی معنی قریب قریب قائم مقام ہونے یا حاوی اور مسلط ہو جانے کے ہیں۔ عام ہے کہ بطور معروف ہو یا بطور دیگر۔ یہ ہے کہ بعض ایسے موقع میں کلام اللہ میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے کہ وہاں وراثت علمی ہو سکے۔ کیونکہ جو چیز میراث میں ملی ہے وہ مال ہے۔ اور نہ میراث بطور معروف ہو سکے اس لئے کہ جن سے میراث پہنچی ان سے رشتہ داری تو کیا قرابت دینی بھی نہ تھی۔ بلکہ یہ مسلمان تو وہ کافر جن سے میراث بطور معروف پہنچتی بھی نہ پہنچے۔ ہاں اگر بمعنی قائم مقام ہونے اور نیابت منصب کے کہا جائے تو البتہ معنی بن جائیں دیکھئے فرماتے ہیں وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوْا یُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا جس کے معنی یہ ہیں۔ اور وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور تھے مشرق اور مغرب میں اس زمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی فقط" اب سنئے اس قصہ میں جن کو زمین دلائی وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور جن سے دلائی وہ فرعون اور قوم فرعون تھی۔ ان میں قرابت نسبی تو کیا رشتہ داری اسلام و ایمان بھی نہ تھی۔ بلکہ یہ مسلمان تھے تو وہ کافر اگر بالفرض آپس میں ایسی رشتہ داری بھی ہوتی تب ظاہر یہ ہے کہ اس شریعت میں بھی مسلمانوں کو کافروں کی میراث نہ پہنچتی ہوگی۔ بجز اس کے کہ میراث سے مراد قائم مقام ہونا۔ اور وراثتِ منصب مراد ہو۔ اور کوئی صورت نہیں۔ سو اس صورت میں نہ وراثتِ علمی ہے جو معنی مجازی کہیے اور یوں کہئے کہ معنی حقیقی وراثت مالی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وراثت میں جو چیز ملی وہ زمین ہے جو اصل مال ہے اور نہ یوں کہہ بنے ہے کہ وراثت بمعنی معروف ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ یُوْرِثُهَا مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ میں بھی جس کے یہ معنی ہیں کہ بیشک زمین اللہ کی ہے وارث کر دے ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اور آخر بھلا ڈرنے والوں ہی کا ہے" وہی وراثت بمعنی قائم مقام ہونے کے ہے۔

وارث بمعنی حاوی و مسلط

الغرض ان مواقع میں تو وراثت ظاہر میں بمعنی قائم مقام

ہونے کے ہے۔ اور غور سے دیکھئے تو حاوی ہو جانا اور مسلط ہو جانا مراد ہے۔ کیونکہ آیت وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ٥ میں جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو پرہیزگار ہوگا فقط" بجز حاوی اور مسلط ہو جانے کے اور معنی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں قائم مقام ہونے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ جنت پہلے کسی اور کے قبضہ میں کب تھی۔ جو پرہیزگاروں کو ان کے قائم مقام کیا؟ اور جنت کو ان سے چھین لیا۔

اور مجازاً میراث حضرت آدم علیہ السلام کہئے تو قطع نظر اس کے کہ جبتک حقیقی معنی بن سکیں مجازی کیوں لیجئے؟ اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو خود جنت میں موجود ہوں گے۔ سو باپ کے ہوتے اولاد کے وارث ہونے کے کیا معنی؟ بہرحال ایسے معنی عام جو تمام مواقع میں برابر صحیح ہو جائیں یہی معنی معلوم ہوتے ہیں کہ وراثت سے حاوی ہو جانا اور مسلط ہو جانا مراد ہو۔ اور جب ایک معنی عام حقیقی بن سکیں جو سب مواقع میں صحیح ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے قائل ہوں کہ بعض مواقع میں معنی حقیقی کہئے اور بعض مواقع میں معنی مجازی؟ کیونکہ جیسا بے ضرورت معنی حقیقی چھوڑ کر معنی مجازی مراد لینے درست نہیں۔ ایسا ہی بے ضرورت اس کا قائل ہونا کب درست ہے کہ ایک جا معنے حقیقی لیں اور ایک جا معنی مجازی؟

ہاں اگر معنی عام کے حقیقی ہونے کی کوئی صورت نہ ہو تو یوں بھی ہوتا۔ معہذا قانون میراث لاریب قدیم سے قانون شریعت ہے۔ کیونکہ ہر نبی کی شریعت میں کچھ کچھ اس کے قواعد ہیں۔ اگر یہ بات رسوم دنیا میں سے ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی۔ لہذا اس صورت میں میراث مالی معنی شرعی ہوئے اور وضع لغت اصطلاح شریعت سے ہر قرن میں مقدم سمجھی جاتی ہے۔ خواہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو خواہ کسی اور نبی کا اور ظاہر ہے کہ اصطلاحات اقوام معنی حقیقی میں سے نہیں ہوتیں

بلکہ اقسام منقولات میں سے ہوتی ہیں۔ تو لاجرم معنی حقیقی اور ہی ہوں گے۔ سو اگر وہی ہوں جو میں نے عرض کئے تو فبہا ورنہ جو کچھ ہوں وہی سہی۔ ہمارا تو اتنا مطلب ہے کہ وراثت بمعنی معروف معنی حقیقی نہیں بمعنی اصطلاحی ہے۔

اب سنئے کہ باوجود اصطلاح کے پھر اصطلاح بھی ایسی غالب نہیں کہ معنی حقیقی پر ترجیح ہو۔ کیونکہ کلام اللہ میں اکثر مواقع میں معنی اصطلاحی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا بہت ہی کم ایسے مواقع ہیں کہ بظاہر وہاں معنی اصطلاحی کا احتمال ہو۔ اور تلاش کیجئے تو بجز ان آیتوں کے جو متمسک شیعہ ہیں اور کوئی آیت نہ نکلے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اُن آیتوں میں بھی احتمال ہی احتمال ہے۔ اور پھر احتمال بھی ایسا کہ غور سے دیکھئے تو وہ احتمال ہی محال ہے۔ چنانچہ بخوبی واضح ہو چکا۔ پھر کون سی ضرورت ہے کہ معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی منقول مراد لیجئے؟ ہاں اگر خدا تعالیٰ کی خود اصطلاح مقرر کی ہوئی ہوتی۔ اور مثل صوم وصلوٰۃ معنے اصلی مراد ہی نہ ہوا کرتے تو ایک بات بھی تھی۔ اس تقریر اخیر سے متحقق ہو گیا کہ وراثت علمی اور وراثت بمعنی معروف دونوں معنی مجازی ہیں یعنی معنی غیر حقیقی ہے۔

وراثت علمی اگر معنی مجازی ہی ہو تو مجاز متعارف ہے

اور سلمنا کہ وراثت بمعنی معروف وراثت حقیقی ہے اور وراثت علمی وراثتِ مجازی لیکن مجاز متعارف اور مجاز مشہور ہے خصوصاً استعمالات قرآن میں یہاں تک کہ حقیقت اور معنی حقیقی کی برابری کرتا ہے۔ چنانچہ دو آیتیں اس بات کی شاہد مذکور بھی ہو چکی ہیں ایک تو ثُمَّ اَوْرَثْنَا الکتاب الَّذِیْنَ الخ دوسری فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں وراثت علمی پر بے تکلف دلالت کرتی ہیں۔ کچھ تامل اور توقف کی نوبت نہیں پیش آتی۔ اور یہی مجاز متعارف کے معنی ہیں کہ ایسا مجاز حقیقت سے کم نہیں ہوتا۔ جو یوں کہا جائے کہ بے ضرورت معنی مجازی مراد لینے درست نہیں۔ اور ان سب سے قطع نظر کیجئے تب بھی بات ہاتھ سے کہیں نہیں گئی۔ اس لئے کہ اس میں تو کسی کو کلام نہیں

باوجود قرائن کے معنی مجازی کے مراد لینے میں کچھ دشواری نہیں بلکہ وقت قرائن دالہ معنی حقیقی کا چھوڑ دینا اور معنی مجازی کا مراد لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں تو پھر معنی مجازی کے استعمال کی کوئی صورت نہ ہو۔

سو اول تو حدیث کلینی سے بڑھ کر اور کونسی دلیل معنی حقیقی کے چھوڑنے اور معنی مجازی کے مراد لینے کی ہوگی علاوہ بریں اور بھی قرائن عقلیہ اور نقلیہ مذکور ہوئے پھر اب بھی اگر معنی مجازی ضروری نہ ہوں تو پھر کب ہوں گے؟

کلینی کی ایک روایت جس میں وراثت علمی کی صراحت ہے

اور با ایں ہمہ اور ایک ایسی دلیل ہے جس سے وراثت مالی کا آیت وَرِثَ میں بلکہ آیت وَهَبْ لِیْ الخ میں بھی مراد نہ ہونا اور وراثت علمی کا دونوں آیتوں میں مراد ہونا بتصریح ثابت ہو جائے اور شیعوں کو بھی اس کے انکار میں مجال دم زدن نہ ہو۔ ہمارے پاس موجود ہے یعنی سوائے آیت مذکور کے۔ ایک دوسری روایت کلینی ہی کی جس کو شیعوں کو بھی برسر وچشم ہی رکھنا پڑے۔ اور درباب مطلب مذکور روایت سابق سے زیادہ کافی ووافی ہے۔ اپنے پیش نظر ہے بغرض دندان شکنی شیعہ اس روایت کو زیب اوراق کرتا ہوں۔

روی مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوْبَ الرَّازِیُ فِي الْكَافِيْ عَنْ اَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرِثُوْا وَفِیْ نُسْخَةٍ لَمْ يَرِثُوْا دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَاِنَّمَا اَوْرَثُوا الْاَحَادِيْثَ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ فَمَنْ اَخَذَ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔

مطلب یہ ہے کہ محمد بن یعقوب رازی یعنی علامہ کلینی کافی میں ابوالبختری کے واسطے سے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انھوں نے فرمایا کہ بیشک علما انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس سبب سے کہ انبیاء نے میراث میں نہیں چھوڑا اور ایک نسخہ میں یوں ہے کہ میراث میں نہیں پایا کوئی درہم اور نہ کوئی دینار انھوں نے

جو میراث میں چھوڑا ہے تو چند باتیں ہی اپنی باتوں میں سے چھوڑ آئے ہیں۔ پس
جس نے کچھ باتوں میں سے لیا تو اس نے بڑا ہی کامل حصہ لیا فقط۔

اس روایت سے بتصریح معلوم ہوگیا کہ انبیا کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کے علم کے البتہ علماء وارث ہوتے ہیں۔ سو بعینہٖ یہی مطلب اس حدیث کا ہے جو اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں۔ اگر اس روایت کو مولوی عمار علی صاحب اور دیگر علماء شیعہ جھوٹا بتلاتے ہیں تو یہ روایت بدرجہ اولیٰ جھوٹی ہے مگر بایں لحاظ کہ وہ روایت صدیق ہے تو یہ روایت صادق ہے۔ اور جھوٹوں کو سچوں کی بات کب پسند آتی ہے؟ اس روایت کو بھی جھوٹا بتلانے لگیں تو کیا عجب؟ بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق سے بھی برگشتہ ہو جائیں! ور کلینی کو بھی تبرا کر کے اُن کے کردار کو پہنچائیں۔ لیکن اس بات میں ان کو جب مشکل ہو کہ دین سے غرض ہو اگر دین سے غرض ہوتی تو صدیق اکبر ہی سے کیوں بگاڑتے؟ بہر حال وہ تسلیم کریں یا نہ کریں حضرت امام ہمام امام جعفر صادق کا قول ہمارے نزدیک صادق ہے۔ اور ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پر۔

الحاصل بشہادت کلمہ اِنَّمَا جو باقرار شیعہ بھی مفید حصر ہے۔ چنانچہ آیت اِنَّمَا ولیکم اللہ سے بزعم خود اسی بھروسے لڑتے ہیں یہ بات ثابت ہوگئی کہ انبیاء نے سوائے علم اور احادیث کے کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑی۔ تو اس صورت میں لاجرم دونوں آیتوں میں میراث علمی ہی مراد ہوگی۔ باقی اس بات کا شیعوں کو اختیار ہے کہ اسے معنی حقیقی کہہ کے تعبیر کریں یا معنے مجازی اس کا نام رکھیں۔ اگر معنی حقیقی کہیں تو فبہا ورنہ مجاز کہیں اور مجاز بھی مجاز متعارف۔ تب بھی انھیں مرحبا۔ اور اگر ہماری ضد میں مجاز غیر مشہور و غیر متعارف کے قائل ہوں تب بھی کچھ اندیشہ نہیں چشم ما روشن دل ما شاد۔ اس لئے کہ باوجود اس قدر ہجوم قرائن صارفہ کے جو درباب مراد نہ ہونے وراثت مالی کے مذکور ہوئے۔ اور باوصف اس قدر کثرت وجوہ ارادہ وراثت علمی کے جو مسطور ہوئیں۔ اگر وراثت علمی مراد ہو تو گو وہ وراثت مجازی ہی سہی

تب بھی عین حق و صواب ہے۔

بلکہ اگر بالعکس ہو تو خطا فاحش اور غلط ہے اور قواعد دلالۃ کی رو سے غیر جائز بہر حال آیت وَوَرِثَ میں جیسے بقرائن و دلائل سابقہ وراثت مالی کا مراد نہ ہونا ثابت اور متحقق ہوگیا تھا۔ ویسے ہی اب بوجوہ و دلائل مذکورہ یہ بھی متحقق ہوگیا کہ وراثت علمی مراد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جیسے قرائن و دلائل مسطورہ بالا سے یہ تیقن ہوگیا تھا کہ آیت وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ میں وراثت مالی مراد نہیں۔ اب بشہادت روایت ثانی کلینی یہ تو ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوگیا کہ وراثت علمی مراد ہے چنانچہ ظاہر ہے۔ اور بعد ادائے شہادت اس روایت کے اس کی حاجت نہ رہی کہ کچھ قرائن اس بات کے بہم کر کئے جاویں کہ یہ آیت وهب لی میں بھی بدستور آیت وَوَرِثَ وراثت علمی ہی مراد ہے کیونکہ روایت مذکورہ سے بڑھ کر شیعوں کے حق میں اور کونسی دلیل دندان شکن ہوگی اس روایت کے ذکر کرنے میں شیعوں کی وہی مثل ہوگئی جیسے کہا کرتے ہیں۔ انھیں کی جوتی انھیں کا سر۔

سورۂ مریم میں حضرت زکریا صرف خلیفۂ نیک چاہتے تھے

مگر بنظر مزید تحقیق و خوشنودی اہل سنت و پشیمانی شیعہ کچھ قدرے قلیل اور بھی چھیڑ چھاڑ سہی۔ اس لئے عرض ہے اگر لفظ ولی اور جملہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا کو جو آیت فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ الخ سے متصل ہی پہلے واقع ہے بنظر غور دیکھا جائے تو عیاں ہو جائے کہ مقصود حضرت زکریا علیہ و علی نبینا الصلوٰۃ والسلام فقط طلب گاری جانشین اور خواستگاری خلیفۂ نیک آئین تھی۔ اس دعا کے وقت جس کا اس سورۂ مریم میں قصہ مذکور ہے۔ تمنائے عطائے فرزند نہ تھی گو کسی اور وقت میں یہ بھی دعا مانگی ہو۔ اس لئے کہ لفظ وَلِی باتفاق اہل لغت بمعنی فرزند ہرگز نہیں آتا۔ البتہ بمعنی ولیعہد اور جانشین آتا ہے۔ اور اس پر لفظ مَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي کا قرینہ خود اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کہ گو لفظ وَلِی مثل لفظ مولی بمعنیٰ متعدد

آتا ہو لیکن یہاں یہی معنی مراد نہیں۔ کیونکہ موالی کے ساتھ لفظ مِن وَرَائِی جو لگا ہوا ہے وہ بے اس کے کہ موالی سے معنی مذکور ہی مراد ہوں صحیح نہیں ہوسکتا۔ اطمینان کے لئے ترجمہ مرقوم ہے۔

"یعنی اپنے بنی اعمام اور اقرباء سے اندیشہ ہے یعنی یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ منصب خلافت نبوت کے لائق نہیں، اگر وہ لوگ میرے جانشین ہوئے تو اُن سے حمایت احکام خداوندی تو معلوم۔ الٹی تبدیل اور تحریف کا کھٹکا ہے۔ اور اپنی اولاد ہونے کی توقع نہیں۔ جو یہی امید ہو کہ شاید کوئی فرزند لائق فائق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ میری عورت بانجھ ہے۔ اس لئے یہ عرض ہے کہ مجھے ایک ایسا جانشین عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اور اس کو اپنی مرضی کے موافق کردے فقط"

ظاہر ہے کہ سیاق میں موالی کے معنی بجز قائمانِ مقام اور خلفاء کے اور کچھ نہیں ہوسکتے تو لاجرم ولی بھی جو اُسی مادہ سے مشتق ہے بمعنی ولیعہد اور جانشین ہی گا۔ اور اگر بفرض محال ولی بمعنی فرزند بھی ہو تو موالی بھی بمعنی فرزندان ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کے اول تو کوئی فرزند تھا ہی نہیں۔ دوسرے اگر تھا بھی تو پھر تمنائے فرزند کس لئے تھی۔۔ وراثت کے قابل سب ہی فرزند ہوتے ہیں نیک ہوں یا بد۔ باقی رہا مضمون پسندیدہ الٰہی ہونے کا۔ اگر بالفرض بفرض محال کوئی فرزند بداطوار ہی تھا؟ اور اسی لئے دوسرے فرزند نیک کی طلبگاری تھی۔ تو اُسی کے حق میں یہ دعا کیوں نہ فرمائی؟ اور موالی کے لئے جو دعا نہ فرمائی تو یہ وجہ ہے کہ تمام برادری بلکہ تمام کنبہ کے ساتھ آدمی کو ایسی محبت نہیں ہوتی جو اُن کے لئے خوامخواہ دعا ایسے تہ دل سے نکلے۔ یہ معاملہ اگر ہوتا ہے تو اپنی ہی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ اگر اُس کو بداطوار دیکھے تو خوامخواہ جی تڑپ جائے۔ اور اصلاح کی دعا بے اختیار دل سے نکلے لیکن شیعوں کو بھی اتنا تو یقیناً معلوم ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی استدعا کے وقت تک کوئی فرزند نہ تھا نیک و بد تو معلوم ہوا کہ موالی سے وہی لوگ مراد ہیں کہ بظاہر اُن کے جانشین ہونے کا

دھیان تھا کیونکہ یہ جملہ بظاہر غیر ہی کی طلب گاری کی علت ہے۔ کیونکہ حاصل معنی بظاہر یہ ہیں کہ میرے تو فرزند ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کوئی جانشین ہی سہی۔ اور جب جانشین کوئی غیر ہو تو پھر وراثت مندرجہ آیت بجز وراثت علمی اور وراثت منصبی کے صحیح نہ ہوگی۔

اور یہ بھی نہ سہی جب ولی بمعنی جانشین ہوا تو وراثت سے وراثت علمی ہی مراد ہوگی وہ اپنا ہو یا بیگانہ۔ اور یہ دعا کچھ مستبعد نہیں کیونکہ جیسے محبانِ دنیا اور اہل دنیا فرزند اور خلف رشید کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ارباب علم و فضل اور مرشدان صاحب کمال کو خلیفہ راشد اور جانشین کامل کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے تمنائے فرزند البتہ مستبعد ہے۔ اور یہ جو بعضے اور مواقع میں حضرت زکریا سے دعا میں۔ بجائے ولی لفظ ذُرِّيَّة جو بالفاق بمعنی اولاد ہے کلام اللہ میں منقول ہے تو اس سے یہ لازم نہیں کہ سورۂ مریم میں بھی اس دعا سے اولاد ہی مطلوب ہو۔ اس لئے کہ مکرر سہ کرر دعا کا اتفاق ہوا ہو۔ سورۂ مریم میں جس دعا کا ذکر ہے اس دعا کے وقت تک بسبب اس کے کہ اولاد کی طرف سے مایوس تھے۔ جانشین ہی کی تمنا ہو۔ مگر کچھ تو اس سبب سے کہ مایوس کو اسی چیز کی تمنا ہوتی ہے جس کی طرف سے مایوس ہو۔ نہیں تو مایوس ہی کیوں ہو۔ خداوند کریم ارحم الراحمین قاضی الحاجات مجیب الدعوات نے بوجہ خاطرداری حضرت زکریا ساری تمنا پوری کردی۔ کچھ اس وجہ سے مدنظر رحمت و قدرت خداوندی عطائے فرزند ہوا ہو۔ کہ اس دعا کے بعد قبل قبولیت جب حضرت مریم کو دیکھا ہو کہ بے موسم میوے خداوند کریم اُن کو پہنچاتا ہے۔ تو ان کو بھی امید ہوئی ہو کہ مجھے بھی بے موسم فرزند عنایت ہو جائے۔ تو ایسے ارحم الراحمین قدیر کی رحمت اور قدرت سے کیا بعید ہے؟ اس لئے اس وقت خاص فرزند ہی کی دعا کی ہو۔ اور خداوند مجیب الدعوات نے قبول فرمائی ہو۔ بہرحال مکرر دعاؤں کا اتفاق ہوا ہو۔ اول (بسبب نہ ہونے سامان تولد کے) فقط جانشین ہی کی دعا کی ہو۔ بعد میں یوں سمجھ کر کہ سامان کی خدا

کو ضرورت نہیں اس بات کی دعا کی ہو کہ جانشین بھی ملے تو فرزند ہی ملے۔
لیکن جس آیت میں کلام ہے اُس آیت میں ہم تسلیم نہیں کرتے کہ دعا فرزند ہی اس میں مقصود ہے۔ اور بایں ہمہ جس جگہ لفظ ذریت ہے وہاں بھی اگر اولاد معنوی یعنی خلیفہ راشد اور مرید کامل اور شاگرد رشید مراد ہو تو کیا قباحت ہے؟ آخر شاگردوں اور مریدوں کو فرزند بول ہی دیا کرتے ہیں۔ اور فرزند ناخلف کو کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں۔ بلکہ خود خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بوجہ ناخلفی یوں کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اور وجہ ایسی بیان فرمائی یعنی بداطوار ہونا جس سے یوں معلوم ہو جائے کہ جو نیک اطوار ہیں سو وہ سب بمنزلہ برادر اور فرزند ہیں۔ بلکہ سورۂ ہود میں جو حضرت نوح کا قصہ مذکور ہے تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب متبعان نوح علیہ السلام کو اہل نوح فرمایا۔ جس سے ایک دفعہ تو یوں سمجھ میں آئی کہ حضرت نوح کے کنبہ کے لوگ مراد ہیں۔ اس لئے کہ حضرت نوح کو یہ حکم ہوا تھا کہ جب طوفان کی آمد ہو تو تم کشتی میں سب قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا چڑھا لیجو۔ اور اپنے اہل کو چڑھا لیجو۔

اب ظاہر ہے کہ جانوروں کے اور اہل وعیال کے چڑھانے کو تو فرمایا۔ اور سوا ان کے اور مسلمانوں کے چڑھانے کو نہ فرمایا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ خداوند کریم سے منجملہ محالات ہے کہ جانوروں کے بچاؤ کی تدبیر تو کی جائے اور مسلمانوں کے بچاؤ کا سامان نہ کیا جائے۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب مسلمانوں کو اہل و عیال نوح علیہ السلام ہی میں شمار کر لیا ہے۔ القصہ جب متبع اور مرید داخل اہل وعیال ہوئے اور فرزند ناخلف اہل وعیال سے خارج ہوئے۔ تو ہو سکے ہے کہ ذریت سے مرید اور متبع ہی مراد ہو۔ چنانچہ عربیت کے محاورات میں اپنے زمرہ کے لوگوں کو آل اور ذریت کہدیا کرتے ہیں۔ مگر انصاف یوں ہی ہے کہ سورۂ آل عمران میں جو دعا زکریا علیہ السلام میں لفظ ذُرِّیَّۃ واقع ہے۔ تو وہاں اولاد ہی مراد ہے۔ پر اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سورہ مریم میں بھی لفظ ولی سے اولاد ہی

مراد ہو۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سوائے ایک بار کے اس باب میں حضرات زکریا علیہ السلام نے دعا ہی نہیں کی۔ تو البتہ ٹھکانے کی بات ہے۔

پر مغائرۃ الفاظ یعنے یہاں اور الفاظ کا ہونا اور وہاں اور۔ اس بات پر شاہد ہے کہ چند بار دعا کا اتفاق ہوا۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ولی کو فرزند پر محمول کیجئے۔ البتہ اگر بجز فرزند کے مراد لینے کے معنی صحیح نہ ہو سکیں تو ایک بات بھی ہے لیکن یہاں تو معاملہ بالعکس ہے۔ فرزند کے مراد لینے میں صحت معنی زائل ہو جائے۔ تو عجب نہیں۔ چنانچہ مرقوم ہو چکا کہ جملہ کَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا اسی طرف مشیر ہے، اور اگر یوں کہئے کہ اس سیاق سے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ غرض تھی کہ وجہ دعا معلوم ہو جائے اور اس بات کی باز پرس کا اندیشہ نہ رہے کہ اولاد موجب فتنہ ہے۔ اس جلالت قدر پر کیا مناسب تھا کہ ایسی تمنائے نازیبا کو زبان پر لائے دوئم جملہ کانت امراتی عاقرا سے مثل جملہ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا جو اپنے بڑھاپے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اپنا عجز اور بے سروسامانی ثابت ہو جائے۔ تاکہ باعث جوش رحمت اور موجب حرکت قدرت ہو۔ نہ یہ کہ بوجہ بے سروسامانی قطع امید مقصود ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ ہم نے جو معنی بیان کئے ان معنی سے عمدہ نہیں تو کم تو کسی طرح نہیں۔ اور ہم کو لانسلم کہنے کی اس سبب سے پھر بھی گنجائش ہے۔ اس سے تو بات ہاری ہی نہیں کہ ولی بمعنی فرزند تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ اس کا مصداق فرزند ہی کیوں نہ ہو۔

غرض بہر حال یہ لفظ بمعنی ولیعہد اور جانشین ہے۔ اور جب بمعنی ولیعہد اور جانشین ہوا تو وراثت سے وہی وراثت مقصود ہوگی جو ولیعہد اور جانشین کو سزاوار ہے۔ تاکہ لفظ ولی کے اختیار کرنے کا بھی فائدہ معلوم ہو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ یہی وراثت منصب دوراثت علم ہے۔ نہ وراثت مالی بطور معروف۔ جیسے بدلائل وقرائن مرقوم بالا آیت فھب لی الخ میں وراثت مالی کا مراد نہ ہونا معلوم ہو چکا تھا۔ اب بشہادت روایت کلینی وقرائن مذکورہ یہ بھی متحقق ہو گیا کہ وراثت

علی اور وراثت منصب ہی مقصود ہے۔ اور وہ خلجان جو دربارۂ تخالف ہر دو آیت مشار الیہا و حدیث ما ترکنا ہ صدقۃ فقط بہ بنیان حدیث و کلام اللہ کے دل میں کھٹکتا تھا بیخ و بنیاد سے اُکھڑ گیا۔ اور بہر نہج اطمینان کامل ہوگیا کہ حدیث مذکور کسی آیت کے مخالف ہی نہیں۔ جو اس وجہ سے اُس کو غلط کہا جائے۔ اور دشمنان صدیق اکبر کی بات بنے گو درصورت غلط ہونے حدیث مذکور کے بھی شیعوں کا اہل سنت پر کچھ دباؤ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ بحوالہ اشارہ آیۃ یوصیکم اللہ اور ہدایت آیۃ ما افاء اللہ مرقوم ہوچکا۔ بلکہ الٹے شیعوں کو اپنے دن نظر آئے کہ اس حدیث کے مصدق ان کی حدیثیں بھی نکلیں۔

حدیث لا نورث حضرت صدیق کے لئے متواتر سے بھی بڑھ کر تھی۔

اور نیز اب اس کی کسی طرح حاجت نہیں کہ جیسے اس حدیث کا مخالف نہ ہونا ثابت ہوگیا۔ ویسے ہی (قطع نظر مخالف ہونے کے) فی حد ذاتہ اس کا صحیح ہونا بھی صحیح ہوجائے۔ مگر بنظر اثبات و اظہار صدقِ صدیق اکبر کچھ اس بات میں بھی رقم طرازی ضروری ہے اس لئے اول تو یہ معروض ہے کہ اس جگہ یہ عذر ہی بیجا ہے کہ اس حدیث کا راوی ایک ہی شخص ہے۔ کیونکہ یہ بات تو وہاں دیکھی جاتی ہے کہ جہاں خود نہ سُنا ہو۔ اور درصورتیکہ کوئی شخص اپنے کانوں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لے۔ تو اس کے لئے وہ ایک اپنا سننا لاکھوں کی خبر دینے سے زیادہ ہوگا کیونکہ راویوں کی کثرت کی جو روایات میں ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہوتی ہے کہ جھوٹ ہونے کا وہم جاتا رہے۔ اور جب اپنے کانوں سے سُن لیا تو پھر جھوٹ کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ جو اس کے رفع دفع کی ضرورت ہو۔

بلکہ لاکھوں کے بیان سے گو یقین حاصل ہوجائے۔ پر ایسی تسلی اور اس قدر اطمینان نہیں ہوتا جس قدر دیکھنے سے ہوتا ہے۔ کلکتہ، دلی، لندن، مکہ مدینہ کے ہونے میں گو ہمیں اس وجہ سے شبہہ نہیں۔ کہ ہزاروں لاکھوں بیان کرتے ہیں لیکن دیکھنے میں جو بات ہے وہ سننے میں نہیں۔ اس لئے مثل مشہور ہے کہ

ع شنیدہ کے بود مانند دیدہ

جب دیکھنے کی چیزوں میں یہ حال ہے کہ اوروں کا کہا اگرچہ لکھو کھا کیوں نہ ہوں۔ اپنے دیکھنے کے برابر نہیں تو سننے کی باتوں میں بھی یہی سمجھنا چاہئے کہ اوروں کی خبر اور روایت اگرچہ لکھو کھا کیوں نہ ہوں۔ اپنے کان کے سننے کے برابر نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ اظہر من الشمس ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے کان سے ایک حکم سن چکے ہوں۔ تو ان پر یہ اعتراض کرنا کہ جس روایت پر انھوں نے عمل کیا بجز ان کے اس کا اور کوئی راوی نہیں۔ علماء شیعہ کی کمال سلامتِ عقل اور خوبیٔ فہم پر دلالت کرتا ہے۔ اتنی بات تو ہر ادنیٰ اعلیٰ جانتا ہے کہ حدیث نبوی اُس شخص کے حق میں جس نے بلا واسطہ اپنے آپ سُنی ہو یقین بلکہ عین الیقین ہے۔ اُس کو اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے کسی دوسرے سے سُنے یا نہ سُنے۔

روایت کے درجات ان کے لئے ہیں جنھیں آنحضرت سے سماع و رویت حاصل نہیں

اس لئے اجماع اصولیین شیعہ و سُنی اس بات پر ہے کہ خبر کا متواتر اور غیر متواتر اور واحد اور مشہور وغیرہ ہونا بہ نسبت اُنھیں لوگوں کے ہے جنھوں نے نبی کو نہ دیکھا نہ اپنے آپ اُن کی بات سُنی بلکہ اوروں کے واسطے سے اُن کی باتیں سنیں۔ نہ کہ اُن کے حق میں جنھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا اور بگوش خود اُن کے کلام سُنے۔ ایسے لوگوں کے حق میں جنھوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے کانوں سُن لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث متواتر سے بڑھ کر ہے۔ سو ابو بکر صدیق نے اپنے سننے کے موافق آپ عمل کیا تھا۔ کسی دوسرے کی گردن پر تو چھری نہیں رکھی۔ غرض یہ اعتراض تو بہرحال بے جا۔ ہاں بے اعتقادی کی وجہ سے اُن کی بات کا اعتبار نہ کرو تو یہ دوسری بات ہے۔ اُس کو اس اعتراض سے کیا علاقہ۔

روایت لا نورث کے راوی دس بارہ صحابی ہیں

معہذا بحکم کَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ۔ ہم بھی اُسی راہ چلتے ہیں جس راہ شیعہ چلیں۔ اگر راویوں کی کثرت ہی سے حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اپنے سننے سے نہیں ہوتی۔ تو سنئے جیسے روایات کے غلط ہونے

کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اُس کے راوی کذاب دمفتری ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس کے معنی مخالف عقل یا معارض نقل صحیح ہوں۔ ایسے ہی صحت روایات کی بھی دو ہی صورتیں سمجھنی چاہئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے راوی صادق ثقہ دیندار ہوں دوسرے یہ کہ قرآن یا احادیث صحیحہ اس کے معنوں کی موئید ہوں۔ اور عقل اس کے مدلول کے مساعد ہو۔ علیٰ ہذا القیاس جیسے راویوں کی قلت اور روایات صحیحہ کی مخالفت سے بقدر مخالفت اعتبار کی بھی قلت ہوتی ہے۔ چنانچہ سب جانتے ہیں ایسے ہی کثرت رواۃ وناقلان اخبار اور موافقت اخبار وروایات صحیحہ سے بقدر موافقت اعتبار کو بھی ترقی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس لئے دونوں قسم کے وجوہ صحت اور دونوں قسم کے وجوہ اعتبار کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

راویوں کی کثرت کا تو یہ حال ہے کہ ایک ابوبکر صدیق ہی اس کے راوی نہیں۔ کوئی دس بارہ راوی ہیں۔ اور وہ بھی ایسے ایسے کہ اُن کے ثانی آسمان وزمین نے بھی کمتر دیکھے سُنے ہوں گے۔ اور یہ جو علماء شیعہ فرماتے ہیں اور مولوی عمار علی صاحب بھی اُسے ہی گاتے ہیں۔ کہ ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو فدک سے فقط ایسی روایت کو سُنا کر جواب بتلایا۔ کہ اس کا راوی ایک آدمی کے سوا یعنی اپنے آپ کے اور کوئی نہ تھا۔ دروغ محض اور سراسر بہتان ہے۔ اس لئے کہ اہلِ سنت کی کتابوں میں یہ حدیث بروایت زبیر بن العوام وحذیفۃ بن الیمان والو درداء وابوہریرہ وعباس وعلی وعثمان وعبدالرحمٰن بن عوف۔ وسعد بن ابی وقاص وعائشہ ام المؤمنین وعمر بن الخطاب وابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین صحیح وثابت ہوئی ہے۔

اہل شیعہ کے نزدیک حضرات علی اور حذیفہ کا اعتبار لازمی ہے

اگر حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا اس باب میں شیعوں کو اعتبار نہ تھا۔ تو حضرت علی اور حضرت حذیفہ وغیرہم نے کیا تقصیر کی ہے؟ جو ان کا بھی اعتبار جاتا رہا۔ مگر شیعوں کے نزدیک اس سے زیادہ اور کیا خطا ہوگی کہ حق کہہ گذرے۔ اور وہ بھی ایسے مقدمہ

میں کہ جس میں کہنے سے مدعیان محبت شیعہ سراپا عداوت کی بات پھیکی پڑتی ہے۔ مگر بنظر خیر خواہی شیعہ باتباع آیت کلا نمد هؤلاء علماء شیعہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ سنیوں کی بدشگنی کے لئے اپنی ناک اپنے ہاتھ سے کیوں کاٹتے ہو۔ یہ بھی خبر ہے کہ معصوم کے قول کے نہ ماننے سے شیعہ بھی شیعہ نہیں رہتا بزعم خود کافر ہو جاتا ہے۔ درصورتیکہ حضرت علی کا اس روایت میں نام آگیا پھر تو جی چاہے یا نہ چاہے ماننا ہی چاہئے۔

علیٰ ہذا القیاس حضرت حذیفہ کی بات سمجھئے۔ کیونکہ اگر وہ معصوم نہ تھے تو در باب روایت معصوم ہی تھے۔ اس لئے کہ ملا عبداللہ شہیدی نے اظہار الحق میں انھیں حضرت حذیفہ کے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ مَاحَدَّثَکُمْ بِہٖ حُذَیْفَۃُ فَصَدِّقُوْہُ یعنی جو کچھ حذیفہ تم سے کہا کرے اُسے سچ ہی سمجھو اور سچ ہی کہو۔

بخاری شریف میں حدیث لانورث بروایت حضرت امیر

اور اگر کسی کو یہ تأمل ہو کہ اور ہوں تو ہوں حضرت علی اس کے راوی نہ ہوں گے۔ تو اپنی تصدیق کے لئے اصح الکتب اہل سنت سے وہ حدیث ناظرین کے پیش نظر کرتا ہوں جس سے بالخصوص حضرت علی کا بہ نسبت اس حدیث کے راوی ہونا ثابت ہو جائے۔

اخرج البخاری عن مالك بن اوس بن الحدثان النصری اِنَّ عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب قَالَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَۃِ فِیْھِمْ عَلِیٌّ وَالْعَبَّاسُ وَعُثْمَان وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزُبَیْرِ بْنُ الْعَوَّام وسعد بن ابی وقاص اُنْشِدُکُمْ بِاللّٰہِ الَّذِیْ بِاِذْنِہٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُوْرِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ قَالُوْا اَللّٰھُمَّ نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰی عَلِیٍّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ اُنْشِدُکُمَا بِاللّٰہِ ھَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِکَ قَالَا اَللّٰھُمَّ نَعَمْ۔

حاصل یہ ہے کہ امام بخاری نے مالک بن اوس بن الحدثان النصری کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ تحقیق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں جس حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے یوں فرمایا کہ میں تمھیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں۔ اور اس خدا کو یاد دلاکر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں. کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اُن سب نے کہا ہم خدا کے روبرو کہتے ہیں، کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ پھر حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ میں تم دونوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور خدا کو یاد دلاکر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے ؟ اُن دونوں صاحبوں نے فرمایا کہ ہم خدا کے روبرو کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے فقط۔

القصہ اس روایت سے صاف معلوم ہوگیا کہ حضرت علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور وہ بھی یوں نہیں بقسم روایت کیا ہے۔ سو اگر اس روایت کی تسلیم میں یہ عذر تھا کہ اس حدیث کے ایک ہی راوی ہیں خود ابوبکر صدیق۔ اور جس حدیث کا کل ایک ہی راوی ہو اور تسپر کلام اللہ کی بھی مخالف ہو تو اس پر عمل کرنا ہرگز درست نہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے کلام اللہ کو چھوڑ کر ایک اپنی ہی روایت پر عمل کیا۔ تو قطع نظر اس کے کہ جہاں علمائے شیعہ مخالفت سمجھتے ہیں وہاں مخالفت نہیں موافقت ہے۔ فقط اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ چنانچہ ظاہر ہوچکا اور پھر قطع نظر اس سے کہ یہ ایک کی روایت اور زیادہ کی روایت کا فرق وہاں ہے۔ جہاں اس روایت کو مروی عنہ سے اپنے کانوں سے نہ سنا ہو۔ اور در صورتیکہ اپنے کانوں سن لیا ہو۔ تو گویہ سننے والا ایک ہی ہو پر لاکھوں کے بیان سے

زیادہ ہے۔

بفضلہ تعالیٰ یہ عذر بھی مرتفع ہوگیا کیونکہ اس روایت کے اس قدر راوی ہیں کہ کمتر روایات کے اس قدر راوی ہوں گے اور پھر ان میں بھی اکثر وہ لوگ جو مبشر بالجنت ہیں اور پھر ان میں سے بھی ایک حضرت علی تو ایسے ہیں کہ اُن اکیلوں کی روایت لاکھوں کے برابر ہے خصوصاً شیعوں کے نزدیک. کہ اُن کے نزدیک اُن کی روایت کا غلط ہونا محال ہے۔ چہ جائیکہ موکد بالقسم ہو۔

بہرحال شیعوں کے طور پر تو اس روایت کی صحت اور اس روایت کا اعتبار کلام اللہ کی صحت اور اعتبار سے کم نہیں۔ پھر ابوبکر صدیق سے کب ہوسکے ہے کہ ایسی روایت پر عمل نہ کریں، اور اس کا اعتبار نہ کریں۔ اور اہل سنت کے طور پر خود ظاہر ہی ہے کہ اس کے سب راوی بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک کا کہنا بھی ہزاروں کے کہنے کے برابر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی اس درجہ کی صحیح اور معتبر ہے کہ قطعیت میں کلام اللہ کی برابری کرتی ہے۔

کیونکہ یہ جماعت کی جماعت جس کا مذکور ہوا قطع نظر اس کے کہ ایک جماعت کثیر ہے۔ ان میں ایک ایک ایسا ہے کہ اس کا کہا مفید یقین اور خبر متواتر کی برابری کرتا ہے۔ چہ جائیکہ جس کے مجموعہ کو لحاظ کیجیئے۔ القصہ بوجہ کثرت رواۃ صدق و دیانت راویان تو صحت و اعتبار حدیث ما ترکناہ صدقۃ کا یہ حال ہے۔ کہ اول تو اس روایت کے اس قدر راوی ہیں۔ کہ کمتر روایات کے اس قدر راوی ہوں گے اور پھر وہ بھی ایسے ایسے جلیل القدر صحابی۔ اور اگر بوجہ موافقت آیات و احادیث دیکھئے۔ تو آیات کا تو یہ حال ہے کہ خود آیت یوصیکم اللہ ہی جس کی مخالفت کے بھروسے علمائے شیعہ بہت کودتے تھے۔ اس کے موافق ہے مخالف نہیں۔ چنانچہ اس طرح سے مرقوم ہوچکا کہ ناظرین کو انشاء اللہ شبہ نہ رہے گا۔

اور اگر کسی کو اس پر بھی مخالفت معلوم ہوگی تو ایسے عقل کے اندھوں سے یہ ڈر ہے کہ جن احادیث سے

احادیث و آیات میں کوئی مخالفت نہیں ہے عقل سے کہیں وہم ہو جاتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ اور صدقات کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے اُن احادیث کو بدرجہ اولیٰ آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین کے مخالف سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا طعن کرنے لگیں کہ نعوذ باللہ خلاف کلام اللہ عمل کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے۔ اور تنہا یہ دعا کرنا کہ الٰہی مجکو جیتے جی اور مرتے دم تک مسکین ہی رکھ۔ اور قیامت کو زمرۂ مساکین ہی میں اٹھائیو۔ سب کو معلوم ہے۔ اور جب آپ فقیر و مسکین بلکہ فخر الفقراء و المساکین ہوئے تو آپ کو زکوٰۃ و صدقات کا لینا بدرجۂ اولیٰ درست ہوا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت انما الصدقات میں کوئی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کا نہیں پایا جاتا۔ بخلاف آیت یوصیکم اللہ کے کہ اس میں خطاب کا امت کے ساتھ مخصوص ہونا جو بقرینہ غیبت صیغہ یوصی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مرقوم ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے مخصوص ہونے پر شاہد کامل ہے۔

اور جب باتفاق فریقین وہ احادیث جو زکوٰۃ و صدقات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت انما الصدقات کی مخالف نہ ہوئیں۔ بلکہ موافق ہوئیں تو حدیث ما ترکناہ صدقۃ بدرجۂ اولیٰ موافق ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حکم میراث سے مخصوص ہونا سیاق سورۃ اعنی شروع سورت سے تو معلوم ہوتا ہی تھا چنانچہ مرقوم ہو چکا ہے۔ خود آیت یوصیکم اللہ سے بھی مفہوم و معلوم ہوتا ہے۔ بخلاف آیت انما الصدقات کے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا اُس کے حکم سے مخصوص ہونا اگر معلوم ہو تو بتکلف وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ سے جو اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ سے بفاصلہ چند آیت مقدم ہے معلوم ہو کیونکہ ماحصل اس کا یہ ہے۔ "کہ بعض منافقین میں سے وہ لوگ ہیں کہ اے پیغمبر تجھ پر زکوٰۃ بانٹنے میں طعن کرتے ہیں۔ اگر انھیں بھی مل جائے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو غصہ میں بھر جائیں"۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا منصب تقسیم زکوٰۃ تھا۔ پھر جو انما الصدقات فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ حق فقراء و مساکین ہے۔ منافقین کے باپ کا اس میں اجارہ نہیں۔

القصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تقسیم اور فقراء اور مساکین کے مصرف ہونے اور منافقین کے مستحق نہ ہونے کو لحاظ کیا جائے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے خارج ہیں اور یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شخص کسی مسکین کو کچھ دے کر یوں کہے کہ اس کو مساکین پر تقسیم کر دینا اغنیا کو نہ دینا تو گو وہ مسکین بھی جس کو وکیل تقسیم کیا ہے مسکین ہے لیکن بحکم شہادت فہم عرف وہ شخص اس حکم سے خارج ہے اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آیت واعلموا انما غنمتم من شئ میں اور آیت ما افاء اللہ میں فللرسول شمول کہنے کی ضرورت ہوئی القصہ آیت اِنَّمَا الصدقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ہونا فقط ایک آیت ومنھم من یلمزك فی الصدقات سے جو جملہ منفصل اور قرینہ خارجی ہے بدقت اور بتکلف سمجھ میں آتا ہے۔ اور آیت یوصیکم اللہ سے آپ کا مخصوص ہونا بے تکلف قرینہ داخلی خارجی دونوں سے سمجھ میں آتا ہے۔

تو اگر وہ احادیث جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے آیت انما الصدقات کے مخالف نہیں موافق ہیں۔ تو حدیث ما ترکناہ صدقۃ آیت یوصیکم اللہ سے زیادہ تر موافق ہوگی۔ علی ہذا القیاس آیت وورث سلیمان داؤد اور آیت فهب لی من لدنك سے بھی حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃ مخالف نہیں موافق ہے۔ کیوں کہ ان آیات میں میراث علمی و میراث منصبی مراد ہے، میراث مالی مراد نہیں۔ چنانچہ بدلائل واضحہ واضح ہو گیا اور حدیث ما ترکناہ صدقۃ میں میراث مالی مراد ہے میراث علمی مراد نہیں۔ باقی رہی احادیث سے موافقت سو اس کا حال یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک تو یہ حدیث ما ترکناہ صدقۃ اس درجہ کو صحیح ہے کہ اس کی صحت کے دریافت کرنے کے لئے کسی اور حدیث صحیح کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اور حدیثوں کے صحت کی میزان اور معیار

اس کو کہئے تو زیبا ہے۔ یا این ہمہ یہی حدیث کئی طریقوں سے یعنی سندوں سے مروی ہے۔ اور وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ اور یہی معنی ہیں احادیث صحیحہ کے موافق ہونے کے۔

کیونکہ حدیث کی صحت باعتبار سند صحت کے ہوتی ہے اور حدیث کا تعدد باعتبار تعدد سند کے ہوتا ہے۔ اگر متن یعنی ایک عبارت کئی سندوں سے مروی ہو تو اس حدیث کو پھر ایک حدیث نہیں کہتے ہیں۔ اُس کی تعداد بمقدار تعداد اسانید ہوگی۔ اور جب وہ ایک حدیث نہ ہوئی بلکہ متعدد ہوئیں تو بایں وجہ کہ متن ایک ہے ایک دوسرے کے موافق ہوگی۔ اور چونکہ حدیث ما ترکناہ صدقۃ کا یہی حال ہے بلکہ بعض بعض الفاظ متن میں بھی فرق ہے گو معنی باہم موافق ہی ہوں۔ تو بیشک اُن کو ایسی چند حدیثیں کہیں گے کہ ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اور پھر جب سب سندیں صحیح ہوئیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث احادیث صحیحہ اہل سنت کے موافق ہے۔

روایات شیعہ سے لانورث کی تائید

مگر اس سے کام نہیں چلتا کیونکہ اس کی صحت میں اگر شک ہو تو شیعوں کو ہو۔ اس لئے لازم یوں ہے کہ احادیث صحیحہ اور روایات معتبرہ شیعہ اس کی صحت پر شاہد لائیے۔ لہٰذا معروض خدمت علمائے شیعہ بلکہ عوام و خواص امامیہ یہ عرض ہے۔ کہ فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک کتاب کافی کلینی سے بڑھ کر کتب احادیث میں کوئی کتاب معتبر نہیں۔ سو وہ علامہ کلینی ہی کی روایت تھی جو بروایت ابوالبختری امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہوا ہے۔

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوْا اَحَادِيْثَ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَ حَظًّا وَافِرًا۔

اور چونکہ ترجمہ اس کا مرقوم ہو چکا ہے تو مکرر ترجمہ کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پر اتنا لکھنا ضروری ہے۔ کہ اس روایت میں بنسبت روایت صدیق کے کوئی بات کم نہیں بلکہ اتنی بات زیادہ ہے کہ اس روایت میں حضرت امام ہمام امام جعفر صادق نے

بنظر بدگمانی شیعہ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ انبیا کے علم کے تو وارث ہوتے ہیں اور ان کے مال کا کوئی وارث نہیں۔

سو در صورتیکہ نسخہ لَمْ يُوَرِّثُوْا صحیح ہو تب تو مطلب ظاہر ہے کیونکہ حاصل یہ ہوگا کہ انبیا کے جو فقط علما ہی وارث ہیں کوئی اُن کے اموال متروکہ کا وارث نہیں ہوتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو کسی سے کچھ درہم و دینار میراث میں نہیں لیا اور اگر نسخہ لَمْ يُوَرِّثُوْا صحیح ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ علما کے وارث الانبیاء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیا نے درم و دینا کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ جو اس میں میراث جاری ہو۔ انہوں نے فقط احادیث میراث میں چھوڑی ہیں۔ باقی رہا فدک وغیرہ سو فدک تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ملک میں ہی نہ تھا جو یوں کہیئے کہ فدک چھوڑ کر آپ اس جہان سے تشریف لے گئے چنانچہ بشہادت آیت ما افاء اللہ بخوبی روشن ہو چکا ہے۔

وصال کے وقت کوئی چیز آپ کی ملکیت نہ تھی

اور سوا اُس کے اور اشیا، مثل لباس مرکب مکان کے، سو مکان آپ کے پاس فقط حجرہائے ازواج مطہرات تھے۔ سو بگواہی کلام اللہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مملوک ازواج ہو چکے تھے۔ اس لئے کہ خداوند کریم یوں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ یعنی اے پیغمبر کی بی بیو اپنے گھروں میں ٹھیری رہو۔ اور یوں نہیں فرمایا وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِ النَّبِيِّ یعنی نبی کے گھروں میں ٹھیری رہو، تو معلوم ہوا کہ وہ حجرے ازواج کے ہو چکے تھے۔ بوجہ ہبہ مملوک ازواج ہوئے ہوں یا اور کسی وجہ سے، اور یہ احتمال کہ سکونت کے گھر کو تمام عالم رہنے والوں کا گھر کہا کرتے ہیں۔ اگرچہ مالک اس کا کوئی اور ہو۔ ادھر کرایہ کے مکان کو بھی اپنا کہا کرتے ہیں قطع نظر اسکے کہ یہ مجاز ہو، اور بے ضرورت مجازی معنے مراد لینے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس سے قطع نظر کیجئے کہ خدا کو کیا ضرورت ہوئی۔ کہ فی بیوت النبی نہ فرمایا؟ اور یہ فرمایا جو شیعوں کے لئے اور موجب دشواری ہے امام کی بات غلط ہو جائے گی۔ ہم کو تو ان معنی کی اپنے طور پر ضرورت نہیں کیونکہ تا عین حیات مملوک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بحکم حدیث لانورث الخ وہ صدقہ ہو گئے پھر ازواج کے تصرف میں ایسے تھے جیسے آمدنی فدک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

کے صرف میں آتی تھی۔ ہم کو تو ان معنے کے کہنے میں فقط تصدیق حدیث حضرت امام جعفر صادق مدنظر ہے۔

سو اگر آیت وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ کے وہ معنے نہیں جو ہم نے عرض کئے تو شیعوں ہی کو دشواری ہے۔ ہمیں کیا غرض؟ مکانات بھی وقت وفات آپ کے نہ تھے۔ ہاں البتہ لباس اور مرکب کے باب میں کھٹکا باقی رہا مگر قوت ایمان کی بات تو یوں ہے کہ حضرت امام کے اس حصر کو کہ انبیاء نے بجز احادیث کے میراث میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، صحیح سمجھ کر ہرگز متامل نہ ہوجیے اور یوں سمجھئے کہ گو بظاہر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اشیاء مذکورہ کو دنیا میں چھوڑا۔ لیکن شاید کسی کو اپنے جیتے جی دے گئے ہوں۔ اور پھر جو ان کے پاس موجود تھیں تو بوجہ عاریت ہوں۔

القصہ اپنی سمجھ میں نہ آنے کے باعث حضرت امام کی بات کی تکذیب نہ کیجئے، ہاں اپنی سمجھ اور عقل کی تغلیط کیجئے۔ لیکن اطمینان قلب مومنین کے لئے یہ اشارہ مرقوم ہے کہ لَمْ یُوَرِّثُوا کے یہ معنے نہیں کہ آپ دنیا میں کچھ چھوڑ ہی کر نہیں گئے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ میراث میں نہیں چھوڑ گئے۔ سو اس صورت میں بجز اس کے نہیں بن پڑتی کہ یہ روایت جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یعنی حدیث لَانُوْرِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ صحیح ہو، اور حضرت امام نے بوجہ واقفیت اس وصیت کو حصر کرکے یہ فرما دیا ہو، کہ انبیاء نے بجز احادیث کے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا۔ بہر حال روایت حضرت امام ہمام امام جعفر صادق روایت حضرت صدیق اکبر سے اس بات میں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا کچھ کم نہیں، بلکہ بہر ہیچ زیادہ ہے۔ اول تو آپ نے بطور حصر یوں فرما دیا کہ انبیاء نے بجز احادیث میراث کے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں،

صادق اور صدیق کی روایت کا فرق | حدیث ابوبکر صدیق میں یہ بات نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے۔ کہ حضرت امام کے حصر سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول تو یہ کہ یا تو انبیاء علیہم السلام نے کچھ چھوڑا ہی نہیں یا چھوڑا ہے تو وہ میراث کے قابل نہیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے میراث میں احادیث کو چھوڑا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی روایت سے فقط اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ

اموال متروکہ انبیاء قابل میراث نہیں۔ معہذا حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث میں اس دعوے کے ساتھ کہ متروکہ انبیاء قابل میراث نہیں کوئی دلیل نہیں۔ اور حضرت امام نے اس کی دلیل بھی فرما دی ہے، اور اپنے دعوی کو موجہ کر دیا۔ سو سنیوں کی طرف سے تو آپ کو اطمینان ہی تھا۔ اس وجہ کا طرہ جو ساتھ لگایا، تو اسی وجہ سے لگایا ہوگا۔ کہ حضرات شیعہ کی طرف سے آپ کی خاطر جمع نہ تھی، ان کے نفاق سے عیاں تھا کہ میری بات سیدھی انگلیوں حضرت شیعہ ماننے والے معلوم نہیں ہوتے اس لئے اپنے دعوے کو موجہ کرکے بیان فرما دیا تھا۔

لیکن آفرین ہے شیعوں کو کہ حضرت امام کی بات کے نہ ماننے سے گو ایمان ہی خاک میں رل گیا۔ مگر کیا امکان جو اپنیوں سے باز آجائیں، اپنی وہی مرغی کی ایک ٹانگ گائے جاتے ہیں۔ خیر خداوند کریم ہی ان کو سمجھے کہ نہ یہ پیر کے، نہ فقیر کے، نہ اصحاب کے، نہ اماموں کے۔۔۔ ۔۔۔ بالجملہ جائے شرم ہے کہ جن کی آڑ میں یہ اصحاب کرام پر طعن کرتے تھے۔ وہ خود ہمصفیر اصحاب ہیں۔ یہ وہی مثل ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست ۔ وائے بر حال شیعہ کہ اصحاب کو برا کہہ کے تو نور ایمان ہی کھویا تھا۔ پر ائمہ کی بات نہ ماننے سے ایمان ہی کھو دیا۔ کیونکہ بزعم شیعہ منکر قول ائمہ کا کافر ہے خصوصاً جب کہ ایسی معتبر کتابوں کے واسطے سے معلوم ہو جائے، جن کا نام کافی کلینی، القصہ حدیث ما ترکناہ بشہادت حدیث کلینی مذکور جو صحیح ہے اصح ہے۔

(کلینی کی دوسری مؤید حدیث) | معہذا ایک اور حدیث کلینی ہی اس کے مؤید ہے چنانچہ وہ بھی مرقوم ہو چکی، لیکن بنظر احتیاط اسے بھی مکرر لکھے دیتا ہوں۔ رَوَی الْکُلَیْنِیْ عَنْ اَبِیْ عَبْدُ اللّٰہ اِنَّ سُلَیْمَانَ وَرِثَ دَاؤُدَ وَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَرِثَ سُلَیْمَانَ۔ ترجمہ اس کا مرقوم ہو چکا، اس لئے یہاں اسی قدر مرقوم ہونا مناسب ہے۔ کہ اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیا کی میراث، میراث علم ہے، باقی رہا دلائل عقلیہ اور قرائن عقلیہ سے حدیث مذکور کا صحیح ہونا سو اس کا بیان بھی اوپر ہو چکا ہے مگر بطور یاد دہانی فقط اشارۃً یہ بات مرقوم ہے۔ کہ اول تو انبیا اپنی قبور میں زندہ موجود ہیں اور زندہ کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ اشیاء ان کے کام آمد نہ رہیں اور اس لئے

وہ ان اشیاء کو کسی موقع میں صرف کرنے کو کہیں۔ تو ان کے خدام کو لازم ہے کہ ان اشیاء کو اسی طرح صرف کر دیں۔ سو درصورتیکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جو باتفاق حیات النبی ہیں گوشۂ قبر میں زندہ موجود ہوں۔

اور پھر دلائل بھی اس پر شاہد ہوں۔ چنانچہ اوراق سابقہ میں مذکور ہوئے۔ تو میراث تو آپ کے متروکہ میں جاری نہ ہو گی۔ لیکن آپ کے خلیفہ کے ذمہ جو بمنزلہ کارکن نبویؐ ہے کیونکہ خلیفہ اُسے ہی کہتے ہیں، یہ بات لازم ہو گی کہ درباب اموال نبویؐ جویائے اشارات نبوی رہے سو چونکہ اشارہ نبوی حضرت ابوبکر صدیق کو جو خلیفہ راشد تھے اس باب میں بایں طور معلوم ہوا کہ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ہے تو انکے ذمہ اُس کی تعمیل لازم پڑی، اور کوئی ناقدر شناس باوجود دلائل مسطورہ سابقہ حیات نبوی کو نہ مانے تو ان کے لئے دوسری ہدایت عقلی موجود ہے، اگر ہدایت پر آنا ان کو منظور ہو، وہ یہ ہے کہ انبیاء خدا کے سامنے اپنے آپ کو مالک ہی نہیں سمجھتے۔ پھر وہ کیونکر نہ کہیں کہ ہمارے متروکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ ہماری ملک ہی نہیں خدا کی ملک ہے۔ ہمارے پاس فقط مستعار تھا۔ جب ہم ہی نہ رہے تو عاریت کہاں رہی؟ اب لازم یوں ہے کہ جیسے یہ خدا کا مال ہے۔ خدا ہی کی راہ میں صرف ہونا چاہیئے۔

مگر چونکہ یہ بات سابق میں مشرحاً بیان ہو چکی ہے تو یہاں اس قدر بھی بہت ہے علاوہ ازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فدک نہ دینا یا بوجہ ظلم و عناد ہو یا بوجہ حقانیت، مگر چونکہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا، اور علے ہذا القیاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں دیا۔ حالانکہ موافق قانون میراث یہ دونوں بیبیاں بھی وارث تھیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھیں، بلکہ ان سب میں معزز اور ممتاز، تو معلوم ہوا کہ یہ نہ دینا محض باتباع امر حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم تھا۔ بوجہ عناد و ظلم و فساد نہ تھا، ورنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی پر ظلم کرتے تو کرتے اپنی بیٹیوں پر نہ کرتے۔

تارک الدنیا اور زاہد غاصب نہیں ہو سکتا

معہذا جو لوگ غصب کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بندہ ہوا و ہوس ہوتے ہیں تارک الدنیا اور زاہد نہیں ہوتے۔ جو لوگوں کے اموال چھین تو لیں پر بوجہ زہد و تقوٰے و ترک دنیا اپنی خواہشات نفسانی کو مار کر بیٹھ رہیں، اور اسے ہاتھ نہ لگائیں، پھر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدک کو نہ چھوڑا، اور اسے ہاتھ نہ لگایا، نہ اپنے خرچ میں لائے، نہ اولاد کو نہ اہل و عیال کو دیا۔ تو کیا وجہ پیش آئی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فدک کا نہ دینا فقط اسی وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے اس کے باب میں ایک حکم ناطق سن چکے تھے۔ اور ان سب کو جانے دیجئے۔ ابوبکر صدیق کی نسبت تو شاید شیعان فریب باز بحکم المرء یقیس علی نفسہ فریب کا بھی احتمال کریں۔؟

ترکہ نبوی میں تمام اہلبیت کا عمل

حضرات ائمہ اور اہل بیت کی طرف تو یہ گمان نہ ہو گا سو ان کا حال سنیئے کہ حضرت امیر المومنین علیؓ سے لے کر آخر تک سب اس بات میں شریک ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جب ان کے ہاتھوں پڑا تو حضرت عباس اور ان کی اولاد کو اس میں دخل نہ دیا، ان سب کو نکال باہر کیا۔ اور ازواج مطہرات کا بھی حصہ نہ دیا۔ حالانکہ نصف ترکہ کے یہ دونوں فریق مالک ہوتے تھے۔ پس اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث جاری ہوتی تھی۔ تو بزرگان اہلبیت کیوں ابوبکر صدیق کی راہ ہو لئے؟ ابوبکر صدیق اگر مرتکب ظلم شنیع اور جور قبیح ہوئے تھے تو چنداں مستبعد نہ تھا۔ لیکن ان بزرگواروں کو جو شیعوں کے نزدیک معصوم اور اہلسنت کے نزدیک محفوظ ہیں کیا بلا پیش آئی کہ سب کے سب اپنے ظلم عظیم کے روادار ہوئے۔

اس لئے کہ باجماع اہل سیر و تواریخ و باتفاق علماء حدیث ثابت اور محقق ہے کہ متروکہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم خیبر اور فدک وغیرہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حضرت علیؓ اور حضرت عباس کے قبضہ میں تھا۔ لیکن حضرت علی نے انجام کار حضرت عباس کا قبضہ اٹھا دیا، فقط انہیں کا قبضہ رہا، پھر حضرت علی مرتضٰے کے بعد حضرت امام حسنؓ کے قبضہ میں رہا، ان کے بعد حضرت امام حسینؓ کے قبضہ میں رہا، بعد ازاں حضرت امام زین العابدین اور حضرت حسن بن حسن کے تحت تصرف رہا۔ دونوں اسے لیتے دیتے رہے

ان کے بعد حضرت زید بن حسن برادر حسن بن حسن کا اس پر تصرف ہوگیا، اس کے بعد مروان کے پنجوں میں پڑ گیا۔ پھر برابر مروانیوں کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بادشاہت کی نوبت آئی، چونکہ وہ خلیفہ عادل اور بادشاہ انصاف پرور تھے، انہوں نے کہا جو چیز رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو مانگنے پر بھی نہ دی ہو، میرا اس میں کیوں کر حق ہو سکے۔ اس لئے انھوں[1] نے پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی کو اس کا متولی کر دیا۔

پس ائمہ معصومین اور بزرگان اہلبیت کے عمل درآمد سے عیاں ہوگیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقف ہوتا ہے۔ اسلئے اولاد ائمہ معصومین ۔۔۔۔۔۔ نے ان لوگوں کو دخل نہ دیا۔ جو بقانون میراث وارث تھے، اور بالیقین متحقق ہوگیا کہ حدیث صدیق اکبر یعنے لَا نُوْرِثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ بلا غبار صحیح و درست ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت فاطمہ کو متروکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نہ دینا ایسا ہے۔ جیساکہ ائمہ اہلبیت نے ازواج مطہرات اور عم بزرگوار اور بنی عم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کی جانب دلائل حق پرستی زیادہ تر ہیں۔ کیونکہ ائمہ اہلبیت کی نسبت ازواج مطہرات اور بنی عم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے نہ دینے میں ظاہر بینان کم فہم کو مثل خوارج یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ نفع کی چیز دیکھ کر نہ دیا۔ کیونکہ فدک وغیرہ گو وقف تھا لیکن خرچ اہلبیت مقدم تھا۔ معہذا طعن و تشنیع کا بظاہر چنداں اندیشہ نہ تھا۔ کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثوں کے کچھ غیر نہ تھے۔ ایسی جگہ چیز کے پھنس جانے اور خرچ ہو جانے کو یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ گھی کہاں گیا کھچڑی میں۔

لیکن ابوبکر صدیق کی جانب نفع کا تو یہ حال ہے کہ قاعدہ کی رو سے ایک حبہ کی توقع نہ تھی کیونکہ نہ وارث ہو سکتے تھے منجملہ مصارف مندرجہ آیتہ ما افاء اللہ تھے کیونکہ آپ کچھ مسکین فقیر نہ تھے اور پھر ظاہر میں بھی باتفاق فریقین ایک حبہ تک کا تغلب اس میں نہیں

[1] یعنی ابوبکر صدیق

کیا۔ آئندہ سوائے مردمان فہمیدہ اور عاقلان سنجیدہ کے کسی سے کلمہ خیر کی توقع نہ تھی، بلکہ الٹا عقل کے دشمنوں سے یہ اندیشہ تھا کہ یوں کہیں گے۔ دیکھو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہوتے ہی یہ آنکھیں بدل لیں کہ حضرت فاطمہ کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ کا ترکہ دبا بیٹھے۔ چنانچہ بلا کم و کاست یہی ظہور میں آیا غرض کہ کسی طرح کی منفعت کی امید تھی، اگر تھی تو تمام عمر کی سوختگی کی امید تھی۔

القصہ گو حضرت صدیق اکبر نے بھی وارثان نبوی کو متروکہ نبوی بوجہ تعمیل ایمائے نبوی نہیں دیا۔ اور ائمہ اہلبیت نے بھی بوجہ مذکور متروکہ نبوی وارثان نبوی کو نہیں دیا۔ لیکن ابوبکر صدیق کا نہ دینا ایک مجاہدہ عظیم تھا۔ اور ائمہ اہلبیت کا نہ دینا فقط نہ دینا ہی تھا۔ خصوصاً جب کہ نیازمندی و اخلاص و محبت صدیق اکبر اور حقوق اہلبیت خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا کو لحاظ کیجئے۔ اور پھر اس پر حضرت فاطمہ کے ایک دفعہ بمقتضائے بشریت ناخوش ہو جانے کو دیکھئے تو رمز شناسان طریقہ پر واضح ہو جائے گا کہ ایسے وقت میں پابند حکم نبوی رہنا ایسے ہی کامل الایمان مستقیم العقل سراپا اتباع نبوی کا کام ہے جیسے ابوبکر صدیق رض، لیکن شیعوں کی عقل کی آنکھ پھوٹ گئی ہے حق و باطل کی تمیز کیونکر کریں گے مگر اس میں ابوبکر صدیق کا کیا قصور؟ ؎

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم ÷ چشمۂ آفتاب راچہ گناہ

جیسے اندھے کو اندھیرا لو اندھیرا نور بھی اندھیرا ہی نظر آتا ہے، ایسے ہی شیعوں کو بسبب عداوت کے اندھے ہو جانے کے باعث خوبیاں بھی برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ؎

چشم بداندیش کہ برکندہ باد ÷ عیب نماید ہنرش در نظر

الحاصل بقرائن عقلیہ واضح و لائح ہوگیا کہ حضرت صدیق اکبر کا نہ دینا فقط بوجہ اتباع امر نبوی تھا، اور یہ حدیث یعنی لَا نُوْرِثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ صحیح بلا غبار ہے۔ سوائے اتباع نبوی اور پیروئی حدیث مذکور کسی قسم کا احتمال ان کی جانب نہیں ہو سکتا اور سابقاً بجہت کثرت رواۃ اور صدق و دیانت جملہ راویان و ہجوم قرائن نقلیہ اس حدیث کا اعتبار اور اس کی صحت معلوم ہو چکی تھی۔ تو اب کسی کو درباره صحت حدیث مذکور کسی وجہ سے مجال

دم زدن باقی نہ رہی۔ اگر کسی کو کچھ حوصلہ ہو تو بسم اللہ، اور یہ بھی متحقق ہو گیا کہ مولوی عمار علی صاحب کا درباب صحت حدیث مذکور یوں رقم فرمانا کہ۔

"اول تو یہ روایت خلاف قرآن ہے۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثوں میں سے نہ بیٹی سے نہ اپنی بیبیوں سے کسی سے نہ کہا کہ میرا مال صدقہ ہے تم کو نہیں پہونچتا تم دعوے نہ کرنا۔ اور جو خدا کا حکم ان کے واسطے تھا۔ اس کو ان سے چھپا رکھا۔ اور ایک اجنبی شخص سے کہ اس کو کسی طرح کا دخل پیغمبر خدا کی وراثت میں نہ تھا۔ اس کے کان میں کہدیا۔ اور کسی دوسرے صحابی سے بھی نہ کہا،

ایک سخن ابلہ فریب یا گفتگوئے ابلہانہ ہے۔ کیونکہ جسے وہ خلاف [illegible] کہتے ہیں وہ حقیقت میں موافق قرآن ہے۔ چنانچہ مفصل معلوم ہو چکا [illegible] تو کسی کا کیا قصور ہے؟

مصرع۔ سخن شناس نہ دلبرا خطا اینجاست

اور جہاں وہ یوں کہتے ہیں کسی دوسرے صحابی سے بھی نہ [illegible] بارہ سے تو روایت موجود ہے، منجملہ رواۃ حضرت علی اور حضرت [illegible] حضرت عائشہ بھی ہیں، اور خدا جانے اور کتنوں نے سنا ہوگا کہ ان کو روایت کا اتفاق [illegible] مولوی صاحب کو خبر نہ ہو تو یہ ہمارا ذمہ نہیں کہ انہیں خبر کیوں نہ ہوئی [illegible] پڑے ہیں۔ یا دیدہ و دانستہ فریب کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ پیغمبر [illegible] صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثوں میں سے کسی سے نہ کہا، اگر [illegible] تو قابل تنبیہ ہے کہ کسی چیز کی اگر کسی کو خبر نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں [illegible] میں نہ ہوا کرے۔ مولوی صاحب کو موجودات اور واقعات [illegible] سے خصوصًا موجودات عالم غیب اور واقعات قرون گذشتہ کی [illegible] وجہ سے کہ وہ معلوم نہیں [illegible] کہلائی جائیں۔

[illegible] لا وجود الا ما شاهدت [illegible] نقش و قرطاس ہوا ہے تو اس کا جواب دکان سے فروشان پہ ملے گا۔ ہاں اگر حضرت عباس اور حضرت عائشہ

وارث نہ ہوتے تو یوں بھی کہنا جائز تھا کہ اپنے وارثوں میں سے کسی سے نہ کہا، اور حضرت علی ہر چند وارث نہ تھے۔ لیکن اول تو وارثوں سے زیادہ مقرب تھے دوسرے وہ حضرت فاطمہ کے جو وارث تھیں، وارث تھے یعنی ان کے خبر گیران اور ان کی طرف سے لینے دینے والے ہی تھے۔ سو بہ نسبت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے سنانے کے ان کا سنا دینا اور ان کا کہنا زیادہ تر مفید تھا، علاوہ بریں اس قسم کے مضمون جو موت کی خبر دیں اقربا کے حق میں موجب رنج ہوتے ہیں خصوصًا بیٹی کہ اس کو بہ نسبت فرزندوں اکثر اور اقربا کے والدین کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اگر جناب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم موافق رائے ناقص مولوی عمار علی صاحب حضرت فاطمہ زہرا رضہ سے یہ مضمون فرماتے، کہ تمہارے لئے حکم خداوندی یوں ہے کہ میری وفات کے بعد میرے ترکہ میں سے کچھ نہ لینا، تو کچھ فائدہ تو ہرگز نہ تھا۔

اس لئے کہ جو کچھ ان کے کہنے سے کام چلتا۔ اس سے زیادہ حضرت علی کے کہنے سے کام چلتا نظر آتا تھا، اور ان سے کہہ ہی چکے تھے۔ مگر چونکہ یہ مضمون متضمن خبر وحشت اثر وفات سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم تھا تو مفت موجب آزردگی خاطر مبارک حضرت زہرا رضہ ہوتا۔ سو ایسا کونسا حضرت زہرا رضہ کا آزردہ کرنا ثواب تھا یا جناب سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے دشمن تھے کہ بے وجہ اور بے سبب ان کو سب سے پہلے رنج و غم میں ڈال دیتے، آپ خود جانتے تھے کہ اگر بالفرض والتقدیر میری وفات کے بعد، حضرت زہرا رضہ بے اطلاع حضرت علی رضہ ابوبکر صدیق سے، جو آپ کے نزدیک بالیقین خلیفہ ہونے والے تھے، طالب میراث ہوں گی اول تو ابوبکر صدیق رضہ دین میں ایسے سست نہیں کہ کسی کے پاس لحاظ سے حق بات زبان پر نہ لائیں، اور پھر حضرت زہرا رضہ ایسی ناحق پرست نہیں کہ باوجود زبان صدیق صادق سے حدیث نبوی سن لینے کے ہٹ دھرمی کریں اور طلب میراث سے باز نہ آئیں

اور اگر بمقتضائے بشری (جیسے حضرت موسےٰؑ حضرت ہارونؑ پر بے خطا بوجہ غلط فہمی معترض ہوئے تھے۔ اور ان کو قصور وار سمجھا تھا) مقدمہ میراث میں حضرت زہرا رضہ کو ۱۵۵

حضرت صدیق اکبر پر کچھ اعتراض ہوگا؟ اوران کا یہ عذر کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ لَانُوْرِثُ مَاتَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ بوجہ غلط فہمی جو مرتبہ بشریت کو لازم ہے، اور انبیاء کبھی اس سے چھوٹے ہوئے نہیں پایۂ اعتبار سے ساقط ہوگا۔ تو حضرت علی موجود ہیں وہ اس حدیث کو سنا دینگے، القصہ مولوی صاحب کا یہ گانا، کہ کسی سے اپنے وارثوں میں سے نہ کہا، سراسر دروغ وبہتان ہے۔

آنحضرت نے سیدہ کو یہ حدیث نہ بتائی۔ کیونکہ وہ بزعم شیعہ علم غیب جانتی تھیں،

اور یہ جو اپنے نزدیک اس نہ کہنے کو خدا کے حکم کا چھپانا سمجھتے ہیں۔۔۔ اس کو بجز اس کے کہ دیوانوں کی بکواس کہیئے اور کیا کہیئے؟ اول تو حضرت فاطمہ زہرارضہ سے بظاہر چھپانے کی کوئی صورت ہی نہیں، اس لئے کہ وہ ائمہ اہلبیت سے کسی بات میں کم نہیں، جب ائمہ کو علم ماکان وعلم مایکون ہو تو حضرت فاطمہ رضہ کو بدرجۂ اولےٰ ہوگا۔ کیونکہ ان کا رتبہ اکثر ائمہ سے زیادہ ہے۔ کم نہیں۔ بلکہ یوں کہیئے تو زیبا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہنے کی حاجت ہی نہ دیکھی، کہیئے تو اس سے جیسے بے کہے معلوم نہ ہوسکے اور اگر ماکان ومایکون میں سے احکام کو مستثنٰی رکھیئے یا حضرت فاطمہ زہرا کو دربارۂ علم ائمہ سے کم کہیئے۔ تو اسے چھپانا نہیں کہتے، کہ ایک گروہ میں سے دو چار کو بتلادیا اور باقیوں کو نہ بتلایا، سب جانتے ہیں کہ جب بات دو چار کے کانوں میں پڑتی ہے۔ پھر چھپی نہیں رہتی۔ نقل مشہور ہے۔

ع۔ نہاں کے ماند آں رازے کزو سازند محفل ھا

خاص کر علم دین کی باتیں کیونکر درباب درس وتدریس وتبلیغ علم واحکام جو کچھ فضائل اور تاکیدیں منقول ہیں۔ سب کو معلوم ہیں۔ پھر کیا امکان جو ایسی بات چھپی رہے؟ آخر جو احکام خداوندی نازل ہوتے تھے۔ سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰت وعلی آلہ کون سے خانہ بخانہ ہر ہر فرد بشر کے کان میں کہتے پھرتے تھے؟ یہی ہوتا تھا کہ ایک دو سے آپ نے کہا۔ انہوں نے اوروں سے، اسی طرح آگے پیچھے سب کو خبر ہو جاتی تھی اور اب تک یونہی بتدریج اتیوں کو خبر ہوتی جاتی ہے۔

ہاں اگر آپ سب کو کہدیتے کہ دیکھو خبردار اور کسی کو اطلاع نہو، تو البتہ یوں کہہ سکتے کہ حکم خداوندی چھپا رکھا۔ علاوہ بریں عقل کی جو بات تھی، وہ آپ کر گذرے، یعنی حضرت صدیق اکبر سے جو کارکنِ خلافت تھے یہ بات واشگاف فرمادی' اور ظاہر ہے کہ دینا لینا دونوں ہی کا کام ہے، دینے والے کا بھی اور لینے والے کا بھی۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنے کام سے ہٹ بیٹھے۔ تو دوسرے سے کیا ہوسکتا ہے۔ دینے والا اگر دے نہیں تو لینے والا کیوں کرلے۔ اور لینے والا اگر لے نہیں تو دینے والا کس طرح دے۔ پھر لینے دینے والوں میں سے اگر ایک کو بھی روکدے تو جس چیز کا بدستور رکھنا منظور ہو وہ بدستور رہے گی، سو فقط ابوبکر صدیق کے دینے سے روکدینے میں مطلب حاصل تھا اس لئے حضرت فاطمہ سے کہنے کی کچھ ضرورت نہ ہوئی۔

صرف صدیق سے حدیث بیان کرنے کی حکمتیں

باقی رہی یہ بات کہ مطلب یوں بھی حاصل ہوسکتا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرؓ ہی کو یہ حدیث سنا دیتے' اور حضرت صدیق اکبر سے یہ بات نہ فرماتے۔ بلکہ حصول مقصود اس صورت میں بوجہ احسن ہوتا۔ کیونکہ اتنا جھگڑا ہی (جو ہوا) نہ ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حصول مقصود کی ایک یہ بھی صورت تھی لیکن اس صورت میں جو اب ظہور میں آئی۔ چند مصلحتیں ایسی ساتھ لگی ہوئی تھیں، کہ درصورت مرقومہ ہرگز نہ تھیں۔

پہلی حکمت

تفصیل اس کی یہ ہے کہ اول تو ایسی وصیتوں کے صدیق اکبر سے فرمانے میں صحت خلافت صدیق اکبر کی طرف اشارہ مدنظر تھا تاکہ حاضرین محفل سمجھ جائیں کہ یہ وصیتیں جو صدیق اکبر کو کی جاتی ہیں، تو انہیں اپنا جانشین کرنا اپنے مدنظر ہے۔ کسی مصلحت سے تصریح نہیں فرماتے تو کیا ہوا، اور یہ کچھ نیا ہی اشارہ نہیں ایسے ایسے بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت سے اشارے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام بلکہ خود کلام ربانی میں پائے جاتے ہیں۔

اور اس سے مولوی عمار علی صاحب کے اس سخن نامعقول کا بھی جواب نکل آیا، کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی شخص سے کہ اسے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی وراثت میں کچھ دخل نہ تھا۔ یہ فرمایا کہ لَا نُورِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ۔ اور حاصل جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے بعد سررشتۂ اختیار صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لئے جو امور ضروریۂ خلافت قابل وصیت ہیں۔ وہ انہیں سے کہنے چاہئیں، تاکہ اس کے موافق کاربند ہوکر انداز خلافت کو ہم رنگ نبوت کردیں دوسرے ایسی صورت میں فقط لینے والے کو منع کرنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ مبادا لطمع نفسانی حکم خداوندی کو چھپالے، گو بوجہ محفوظیت یا معصومیت حضرت زہراؓ سے اس موقع خاص میں یہ ڈر نہ ہو۔ مگر قواعد کلیہ شرعیہ میں خاص خاص امور کا اعتبار نہیں ہوتا اسی واسطے اگر کسی قضیہ میں کوئی ولی کامل کہ اس کی ولایت اور صدق و دیانت پر تمام عالم متفق ہو، تن تنہا ثبوتِ دعوائے مدعی کی گواہی دے، تو گو یہ یقین کامل ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ ہرگز قبول نہ ہوگی۔

اور اگر ایسے دو آدمی کہ بظاہر پیرایۂ عدالت رکھتے ہوں گو قاضی کے نزدیک بھی وہ دونوں مل کر صدق میں اس ایک کے برابر نہوں، بلا تامل مقبول ہوگی، وجہ اس کی یہی ہے کہ قواعدِ کلیہ شرعیہ کو بایں وجہ کہ جو ان قواعد کے لحاظ سے مقصود ہے۔ کسی خاص موقع میں ان کے لحاظ نہ کرنے میں وہ مقصود بوجہ احسن اور بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ الحاصل گو حضرت فاطمہ کو حدیث مذکور کے سنا دینے میں برعم شیعہ مقصود اصلی بہ نسبت اس کے زیادہ تر اچھی طرح سے حاصل ہوجاتا کہ صدیق اکبر سے فقط کہدیا لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ایسے موقع میں دینے والے کو روکا جائے نہ لینے والے کو۔ اور بایں ہمہ کہنا ہی غلط ہے۔ کہ اگر حضرت فاطمہ کو یہ حدیث سنادیتے تو جھگڑا نہ ہوتا۔ اور مقصود بوجہ احسن حاصل ہوجاتا کیونکہ اول تو جھگڑے کا ہونا ہی مسلم نہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ معلوم ہوجائے گا، یہ فقط شیعوں کی شرارت ہے۔ کہ افسانہائے بے اصل کو کوچہ و بازار میں گاتے پھرتے ہیں۔ حاشا وکلا جو یوں ہوا ہو۔

دوسری حکمت | دوسرے اگر کسی قسم کی نی الجملہ انقباض شکر رنجی دو چار روز کے لئے ہو بھی گئی۔ تو اسے جھگڑا نہیں کہتے۔ ایسے ایسے امور میں ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ

اور حضرت ہارون کا قصہ کس کس نے نہیں سنا، معہذا جو رنج کہ قریب ہی مبدل بصلح ہوجائے۔ اس کے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس کو عرف میں کَاَنْ لَّمْ یَکُنْ سمجھتے ہیں، ایسے رنجوں کا اگر کھٹکا بھی ہوتا ہے۔ تو پیش بندی نہیں کیا کرتے۔ سوا اس لحاظ گو نہ صدیق اکبر ایسے ناقدر شناس ہیں کہ حضرت زہرا کے سامنے عذر معذرت نہ کریں گے، نہ حضرت زہرا ایسی کج طبع ہیں کہ ہرگز سیدھی ہی نہ ہوں گی۔ اس کا پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے کچھ لحاظ نہ کیا ہو۔ مگر الحمد للہ کہ اسی طرح ظہور میں آیا۔ چنانچہ روایت مجاج السالکین جو انشاء اللہ اب قریب ہی مذکور ہوتی ہے۔ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے عذر کئے۔ اور حضرت زہرا نے قبول فرمائے، اور بدل و جان ان سے پھر بمنزلہ شیر و شکر مل گئیں۔

تیسری حکمت | تیسرے یوں کہنا کہ حضرت فاطمہ سے کہدیتے تو جھگڑا نہ ہوتا۔ جب زیبا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہوتے۔ بیسیوں آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام موجودات میں سے کسی کو علم غیب نہیں، قُلْ لَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ۔ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللہُ اول آیت سے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب نہ ہونا، اور دوسری سے بالعموم ملائکہ اور انبیاء اور جن و بشر کا عالم الغیب نہ ہونا ثابت ہے۔ جسے شک ہو ترجمہ کے کلام اللہ بہت موجود نہیں، نویں سیپارہ کے نصف و ثلث کے مابین اور بیسویں سیپارہ کے اول رکوع میں آیت مذکورہ کو تلاش کرکے اپنی تسلی کرے۔

اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے امور کا دھیان گمان بھی بسا اوقات نہیں آیا کرتا جو یوں کہیئے کہ عقل سے معلوم کرکے پیش بندی کرنی تھی۔ ہاں جو نسی مصلحتیں بیان کیں اور انشاء اللہ تعالےٰ کروں گا۔ وہ البتہ لحاظ عقلی کے قابل ہیں۔ چنانچہ عاقل سمجھتے ہیں اور جو لا یعقل نہ سمجھیں تو کیا کیجیئے۔

چوتھی حکمت | چوتھی مصلحت یہ ہے کہ جب یوں سمجھ کر کہ جتنا دونوں کے کہنے سے کام چلتا ہے

اتنا ہی ایک کے بھی؟ ایک ہی کے سنا دینے کی تجویز ٹھہری، تو پھر مناسب یوں ہے کہ ابو بکر صدیقؓ ہی کو رد کیجئے۔ کیونکہ فعل عطا نہیں سے ظہور میں آتا۔ باقی حضرت فاطمہؓ لینے والی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا لینے کی فرع ہے اور دینا اصل ہے اور اصل کے اکھاڑ دینے میں جو کچھ قلع وقمع فساد ہوتا ہے۔ وہ فرع اور شاخ کے قطع کرنے میں نہیں ہوتا

الحاصل جس فساد کی پیش بندی کے لئے اس حدیث کا سنا دینا مدنظر تھا اور صدیق اکبر کے کہنے میں تو اس کی بیخ و بنیاد کا اکھاڑ دینا تھا۔ اور حضرت فاطمہؓ کے کہہ دینے میں گویا شاخ کو قطع کر دیا، یا یوں کہیئے کہ پھل نہ لگا۔ سوائے اس کے اگر حسب گفتار سراپا نامعقول شیعہ کوئی اور فاد بیچ میں اتفاق سے کھڑا ہوتا نظر آئے تو اس کی مدافعت کے لئے اس کی مدافعت کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یعنی اس بات کا لحاظ مقدم ہے کہ مملوکہ نبوی دست برد وارثان نہ ہو جائے۔ اس بین ملاسے کسی قسم کا تنازع ہی کیوں نہ پیش آجائے۔

بہرحال قطع نظر اس کے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے کہنے میں سردست آزار خاطر مبارک حضرت زہرا نظر آتا تھا۔ اور مطلب ان کے نہ کہنے میں بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ اقتضا اصلی بھی یہی تھا کہ حضرت فاطمہ سے نہ کہیئے۔ اور حضرت صدیق اکبر ہی کے گوش گذار کر دیجئے۔ کیونکہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو پھر سررشتہ اختیار انہیں کے ہاتھ ہوگا۔ جب وہ متروکہ نبوی وارثوں کو نہ دیں گے۔ تو حضرت فاطمہ یا اور کسی وارث کے پاس آپ نہ جائے گا۔ جو وہ اس کو اپنا مملوک سمجھ کر تصرف ناجائز کر بیٹھیں، اور اس وجہ سے ان کو اطلاع کرنے کی ضرورت ہوتی۔

باقی رہی فقط طلب گاری تو اس میں تاوقتیکہ اس بات کی اطلاع نہ ہو کہ ہمارا حق نہیں کچھ گناہ نہیں جو اس پیش بندی کی ضرورت ہو، معہذا حضرت عباس اور حضرت عائشہ سے کہہ دینا کفایت کرتا تھا۔ اس لئے کہ اگر میراث تقسیم ہوتی تو یہ دونوں صاحب بھی کچھ کم نصف کے مالک ہوتے۔ سو اگر میراث تقسیم ہوتی تو سب ہی کو برابر تقسیم ہوتی پس لاجرم ان کو بھی اطلاع ہوتی۔ سو اگر حضرت فاطمہ کو پہلے سے معلوم نہ ہوتا۔ اور نہ

ابوبکر صدیق کو خبر ہوتی، تب بھی ان دونوں کا سننا کافی تھا۔ وقت ضرورت بیشک حال معلوم ہو جاتا۔ اور ان سب کو جانے دو۔ نہ ابوبکر صدیق کا ذکر کرو اور نہ حضرت عائشہ اور حضرت عباس کے معلوم ہونے کا کچھ خیال کرو، فقط حضرت علی سے فرما دینا ایسا ہی تھا۔ جیسا حضرت فاطمہ سے فرما دیا۔ کیونکہ ان کی طرف سے کارکن اور خبرگیران جب تک وہی تھے۔ دونوں صاحبزادے جب تک صغیر السّن ہی تھے۔

پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اول تو میراث کا لینا کچھ کلھیا میں گڑ پھوڑنا نہیں ہے۔ جو چپ چپاتے ہو جائے۔ پھر وہ بھی اس قدر مخفی کہ حضرت فاطمہؓ کے میراث لینے کی حضرت علی کو بھی خبر نہ ہو۔ بلکہ صدیق اکبر سے اگر بالفرض کچھ لیا بھی جائے گا۔ تو گو مطالبہ کرنے والی حضرت فاطمہ زہراؓ ہوں گی۔ پر لینے والے اور قبضہ کرنے والے حضرت علی ہی ہوں کے ادھر حضرت عائشہ اور حضرت عباس بھی بہ نسبت حضرت فاطمہ کے کوئی غیر نہ تھے۔ ایک بجائے والدہ دوسرا بجائے دادا، اور ظاہر ہے کہ ایسی قرابتوں میں بیشتر اتفاق ملاقات رہتا ہے اور اس سبب سے ایک دوسرے کو اس کے نفع و نقصان کی اگر کچھ اطلاع ہوتی ہے تو اطلاع کر دیتا ہے خصوصًا امر دینی کے نفع و نقصان کی باتیں۔ اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو دنیا کو طلاق دیئے بیٹھے ہوں۔ ایسے مواقع میں تو اگر بمقتضائے بشری کوئی رنج بھی فی مابین وقوع ہو جاتا ہے۔ تب بھی اس کے نفع و نقصان کی اطلاع کر دیا کرتے ہیں۔

کیونکہ ایسے مواقع اگر کچھ رنج بھی ہو جاتا ہے تو بوجہ محبت ہوتا ہے بوجہ عناد و بغض نہیں ہوتا۔ جو دوسرے کے نقصان کا روادار ہو۔ چونکہ رنج کے دو طرح کے ہونے کی تحقیق آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء کے ذیل میں گذر چکی۔ اس لئے فقط اسی پر اکتفا کر کے معروض کرتا ہوں۔ کہ حضرت عائشہ اور حضرت عباس کے سنا دینے میں بھی یہ نظر آتا تھا۔ کہ لاجرم ان کے وسیلہ سے فاطمہ اور نیز اور وارثوں کو یعنی ازواج باقیہ کو اطلاع ہو جائے گی۔ شروع میں نہیں تو وقت طلب یا وقت قبض و تصرف تو ضرور ہی یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسی باتیں کچھ راز کی تو ہیں ہی نہیں۔ جو کسی کو اطلاع نہ ہو

الحاصل اسے چھپانا نہیں کہتے کہ دس بارہ بلکہ شاید زیادہ کے سامنے ایک بات فرما دیں اور وہ بات بھی اس قسم کی کہ اس کی تعمیل اگر ہو سکے۔ تو جب تک طشت از بام افتادہ کا قصہ نہ ہو تب تک نہ ہو سکے۔ منجملہ اسرار کے نہیں جو چھپائی جائے۔ خاص کر حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت عائشہ سے، کہ دو تو ان میں سے وارث ہیں اور ایک وارث کے وارث یعنی ان کے خبر گیران پھر یوں کہنا کہ حکم خدا کو جو بہ نسبت وارثانِ نبوی تھا پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے وارثوں سے چھپا رکھا۔ جھک مارنا ہے کہ نہیں۔

حسب روایت شیعہ خدا کا حکم چھپانے کی ایک مثال

ہاں چھپا رکھنا اسے کہتے ہیں، کہ حضرت امام زین العابدین نے حسب روایاتِ کاذبہ شیعہ فرزند ارجمندِ خویش حضرت زید شہید سے حکم امامت امام محمد باقرؒ چھپا رکھا، اور پھر حیف تو یہ ہے کہ حکم بھی ایسا کہ جیسا اس کے نہ ماننے سے کفر عائد ہوتا ہے ویسا ہی اس کے نہ جاننے سے آدمی کافر رہتا ہے۔ چنانچہ بدستاویز حدیث مَنْ لَمْ یَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِہٖ فَقَدْ مَاتَ مِیْتَۃً جَاھِلِیَّۃً شیعوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنے شیعوں کے طور پر یہی ہو سکتے ہیں کہ جو امام وقت کو از دوازدہ ائمہ میں سے نہ جانے، یعنی اس کی امامت کی اسے خبر نہ ہو، تو وہ جاہلیت کا سا مرنا مرے گا یعنی جیسے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے پہلے اکثر جزیرۂ عرب کے لوگ بسبب جہالت کے عقائد باطلہ اس جہان سے لے گئے اور اس سبب سے جہنم رسید ہوئے۔ ایسے ہی امامت امام وقت سے جو جاہل رہے گا۔ وہ بھی اسی شمار قطار میں داخل ہو گا، الحاصل حضرت امام زین العابدین نے حضرت زید شہید سے ایسا مسئلہ جو رکن دین و ایمان تھا چھپا رکھا تھا، سو چھپانا اسے کہتے ہیں نہ کہ اس کو کہ ہر ہر وارث کے کان میں لَانُوْرَثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ کہہ دیا اور اگر سند مطلوب ہے تو لیجئے کلینی کی روایت موجود ہے۔ کسی ایسے ویسے رند بازاری کی نہیں۔

رَوَی الْکُلَیْنِی عَنْ اِبَانٍ قَالَ اَخْبَرَنِی الْاَحْوَلُ اِنَّ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ بَعَثَ اِلَیْہِ وَھُوَ مُخْتَفٍ قَالَ فَاَتَیْتُہٗ فَقَالَ یَا اَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُوْلُ اِنْ طَرَقَکَ طَارِقٌ مِنَّا اَتَخْرُجُ مَعَہٗ قَالَ فَقُلْتُ لَہٗ اِنْ کَانَ اَبَاکَ

اَوْ اَخَاکَ خَرَجْتُ مَعَہٗ فَقَالَ لِی اُرِیْدُ اَنْ اَخْرُجَ فَاُجَاھِدَ ھٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَاخْرُجْ مَعِی فَقُلْتُ لَا اَفْعَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ اَتَرْغَبُ بِنَفْسِکَ عَنْ نَفْسِی فَقُلْتُ اِنَّمَا ھِیَ نَفْسٌ وَاحِدَۃٌ فَاِنْ کَانَ لِلّٰہِ فِی الْاَرْضِ حُجَّۃٌ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْکَ وَالْخَارِجُ مَعَکَ سَوَاءٌ فَقَالَ یَا اَبَا جَعْفَرٍ کُنْتُ اَجْلِسُ مَعَ اَبِی فِی الْخِوَانِ فَیُلْقِمُنِی الْبِضْعَۃَ السَّمِیْنَۃَ وَیُبَرِّدُ لِیَ اللُّقْمَۃَ حَتّٰی تَبْرُدَ شَفَقَۃً عَلَیَّ وَلَمْ یُشْفِقْ عَلَیَّ حَرَّ النَّارِ اِذْ اَخْبَرَکَ وَلَمْ یُخْبِرْنِی قَالَ فَقُلْتُ خَافَ عَلَیْکَ اَنْ لَا تَقْبَلَ فَتَدْخُلَ النَّارَ وَاَخْبَرَنِی فَاِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ وَاِنْ لَمْ اَقْبَلْ لَمْ یُبَالِ اَنْ اَدْخُلَ النَّارَ

حاصلِ روایت یہ ہے کہ علامہ کلینی ابان سے یوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ احول نے مجھ سے یوں نقل کیا کہ حضرت زید بن امام زین العابدین نے جس وقت کہ وہ مخفی تھے، کسی کو میرے پاس بلانے کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے ابوجعفر (یہ لقب ہے احول کا) تیری اس میں کیا رائے ہے؟ اگر ہماری طرف سے اچانک کوئی بلانے والا تیرے پاس آئے (یعنی ہم اپنی مدد کے لئے تجھے بلوائیں) تو اس کے ساتھ ہمارے بلوانے سے ہو بھی لے گا کہ نہیں۔ احول نے کہا میں نے حضرت سے یوں عرض کیا کہ بلوانے والے تمہارے باپ یا تمہارے بھائی (یعنی امام محمد باقرؒ) ہوتے تو مضائقہ نہ تھا۔ میں بھی ساتھ ہو لیتا، انہوں نے پھر فرمایا میرا ارادہ یوں ہے کہ میں نکلوں، اور اُن لوگوں سے یعنی مروانیوں سے جہاد کروں، سو تو بھی میرے ساتھ چل۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ کے قربان جاؤں۔ مجھ سے ہرگز یہ کام نہ ہو گا۔ انہوں نے فرمایا کیا تو اپنے آپ کو ہم سے علحدہ ہو کر بچاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اور تم تو ایک ہی ہیں، پر درصورتیکہ روئے زمین پر کوئی خدا کی طرف سے حجت یعنی امام موجود ہو تو تمہارے ساتھ سے رہ جانے والا اور تمہارے ساتھ جانے والا دونوں برابر ہیں۔ یعنی امام کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ جہاد میں جانے کا کچھ فائدہ نہیں، انہوں نے کہا اے ابوجعفر میں اپنے باپ کے ساتھ خوان پر بیٹھا کرتا تھا وہ مجھے چھانٹ چھانٹ کے گوشت کی موٹی موٹی بوٹیاں دیتے تھے اور میرے لئے لقمے ٹھنڈے کرتے تھے یہاں تک کہ خوب ٹھنڈا کھانے کے قابل ہو جائے،

یہ سب قصہ محبت کے سبب سے تھا۔ سو بڑے تعجب اور کمال حیف کی بات ہے کہ یہاں کی آگ کا تو شفقت کرنے میں لحاظ کیا۔ اور دوزخ کی آگ سے بچانے میں انہیں مجھ پر کچھ محبت نہ آئی جو مجھے امام محمد باقر کی امامت کی خبر کر دی اور مجھے بالکل خبر نہ کی، احول کہتا ہے۔ میں نے کہا تم سے یہ خوف ہوا کہ مبادا تم نہ مانو، اور اس سبب سے دوزخ میں جاؤ، اور مجھے یوں سمجھ کے خبر کر دی کہ اگر میں نے قبول کیا تو فبہا۔ نجات پائی نہیں تو ان کی بلا سے دوزخ میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا۔ انتہی۔ "

ہر چند اس روایت سے بہت سے مضمون مفید مطلب اہلسنت برآمد ہوتے ہیں لیکن اول تو اس مقام میں ان سب کا ذکر کرنا بے موقع ہے۔ دوسرے فرصت اتنی کہاں اس لئے فقط اتنی گذارش ہے کہ اس روایت سے تصریح معلوم ہوا، کہ حضرت امام زین العابدین نے دیدۂ و دانستہ اپنے فرزند ارجمند زید شہید سے امامت حضرت امام محمد باقر کو چھپا لیا حالانکہ اس کا جاننا منجملہ ارکان ایمان تھا۔ چنانچہ اس روایت سے بھی ظاہر ہے، اب اہل انصاف سے یہ عرض ہے، کہ فدک کو جو منجملہ متاع دنیوی تھا امامتِ امام وقت کے برابر رکھئے، جس کا جاننا منجملہ ارکان ایمان ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین کے دیدہ و دانستہ چھپا لینے کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دس بارہ آدمیوں کے سامنے بغرض تبلیغ کہہ دینے کے مقابل کیجئے۔ اور پھر اس کا لحاظ کیجئے کہ بایں ہمہ حضرت امام زین العابدین نے جو حضرت امام محمد باقر رضی کی امامت کی حضرت زید شہید کو اطلاع نہ کی۔ تو اس میں کیا نقصان نکلا۔؟

اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ زہرا سے یا کسی اور وارث سے حدیث لَا نُوْرِثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ نہ کہا۔ اور بزعم شیعہ فقط صدیق اکبر ہی سے کہا تو کیا ضرر پیش آیا؟ ظاہر ہے کہ بہ نسبت امامتِ امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین کے لب کشا نہ ہونے میں انجام یہ نکلا بلکہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد حضرت زید شہید بوجہ جہل رکن ایمان یعنی امامتِ امام وقت چنانچہ روایت مسطورہ سے ظاہر ہے، مستوجب دوام عذاب اور داخل زمرۂ کفار ہوئے۔ اگر بذاتِ خود امام زین العابدین فرزند ارجمند

سے یہ بات فرما دیتے، تو امید قوی تھی کہ حضرت زید تسلیم ہی کر لیتے۔ اشتباہ در فرع احول دروغ گو جو فی الحال رہزن ایمان ہوا، اس صورت میں بیچ میں سے اٹھ جاتا، اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فقط ابوبکر صدیق ہی سے حدیث مذکور کو کہا تو کچھ خرابی نہ نکلی۔ کیونکہ جو کچھ مقصود تھا، وہ حاصل ہی ہو گیا ترکہ نبوی صدقہ ہی رہا۔ بہر حال، اس میں میراث جاری نہ ہونے پائی۔ بلکہ اگر بالفرض والتقدیر سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات اس حدیث کو بوجہ فراموشی مثلاً کسی سے نہ فرماتے، نہ صدیق اکبر سے، نہ کسی اور سے، تب بھی بیش بریں نیست کہ نادانستگی میں وارثان نبوی ترکۂ نبوی کو جو فی الحقیقت وقف تھا خورد برد فرماتے سو ہم علماء شیعہ ہی سے استفتا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نادانستگی میں مال وقف کو اپنا مال سمجھ کر کھا لے تو اس کے ذمہ کیا گناہ؟ بہر حال حضرت امام زین العابدین کے حکم خداوندی کے چھپا لینے سے جو کچھ نقصان نکلا، اس کو ایک طرف رکھئے۔ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اس نہ کہنے سے جو مطلب کے حصول میں کچھ خرج نہ ہوا اور درصورت اخفاء کلی جو کسی طرح کا وارثوں کا نقصان دینی یا دنیوی نہ تھا، اس کو دوسری طرف دھریئے، القصہ ادھر کے تمام لوازم کو ادھر کے تمام لوازم سے تولئے، اور پھر بولئے کہ کس طرف پلہ جھکتا ہے؟ اور اخفاء حکم کس طرف ہے۔ اور کس طرف نہیں؟

بہر حال ہر کس و ناکس پر ان تقریروں سے واضح ہو گیا کہ کسی طرح رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اخفاء حکم نہیں ہوا، اور بزعم شیعہ قطعًا اور یقینًا حضرت امام زین العابدین نے اخفا حکم خداوندی کیا لیکن آفرین ہے مولوی عمار علی صاحب کی فہم و فراست پر، کہ اسے تو اخفا سمجھتے ہیں اور اسے نہیں سمجھتے، بار خدایا انہیں کس نے کہا تھا کہ تم بھی دین مذہب کی باتوں میں دخل دیجو۔ اتنی عقل و فہم پر اہلسنت سے الجھتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب سے پوچھے۔ آپ نے کیوں اہلسنت سے دست و گریباں ہونے کا ارادہ کیا۔؟ شعر

الجھنے کو بلا ہیں آپ تو کچھ خیر ہے صاحب ٭ لگایا ہاتھ کس نے آپکی زلفِ پریشاں کو

علماء اہلسنت تو درکنار عوام اہلسنت بھی بمنزلہ دلاوران عالی نظر میدان مناظرہ میں ایسی سمجھ والوں کو بمنزلہ زنان بے ہتھیار سمجھ کر کچھ معترض نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں درصورتیکہ گریبان گیر ہی ہو جائیں۔ تب بضرورت و ناچاری ان کے ہاتھ پاؤں کی خبر لیتے ہیں۔

اس لئے اس ہیچمدان نے بھی جو کچھ کیا سو کیا۔ بہرحال معاف کیجئے گا۔ لیکن سچ تو یوں ہے آپ کو بری تو لگے گی۔ جیسی آپ کی باتیں ہیں۔ ایسے سخنہائے بے معنی سے تو گوز شتر بے مہار ہی بہتر ہے، وہ اگر اتفاق سے ناک تک پہنچ بھی جائے تو بیش برین نیست ناک ہی جلے گی۔ دل تو کسی عاقل کا نہ جلے گا۔ پر آپ کے حرف بے معنی اور سخن نامعقول ہیں طرفہ ستم یہ ہیں کہ بحکم مصرع ع۔ جواب جاہلاں باشد خموشی حقیقت میں قابل جواب تو ہوتے نہیں جو جواب دیا جائے۔ البتہ خاموش ہو کر جی جلانا پڑتا ہے پر اس ہیچمدان نے جب یہ جانا کہ جاہلوں کے جواب میں عالم البتہ نہیں بولا کرتے، مجھے اس ہیچمدانی پر کیا ہوا جو خاموش ہو کر بیٹھ رہوں، معہذا اسپر آنی ؎

دو چیز تیرۂ عقل است دم فروبستن ٭ بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

اس لئے اس قدر اوراق کو سیاہ کیا۔ اور آگے اور کرنے پڑے

سو منصفان بے روئے و ریا اور بھی سنیں، کہ بعدازیں مولوی عمار علی صاحب کچھ ایسا رقم فرماتے ہیں جس سے حضرت فاطمہ زہرا کا مکرر صدیق اکبر کے پاس جا کر میراث کا طلب کرنا، اور ان کا فدک کو حضرت فاطمہؓ کے نام لکھدینا اور پھر اتفاق سے حضرت عمر کا آجانا، اور ان کا اس کاغذ کو پھاڑ ڈالنا نکلتا ہے۔ سو اس کا جواب بحکم مثل مشہور ع۔ دروغ را جزا باشد دروغ ٭ موافق نقل ہندی ''گوہ کی دار دسوت'' یوں چاہیے تھا کہ حضرت فاطمہؓ ایک بار بھی میراث کی طلب کے لئے صدیق اکبر تک نہیں گئیں، چہ جائیکہ دوبارہ مطالبہ کی نوبت آئی ہو، اور حضرت صدیق اکبر نے ان کے ان کے نام جاگیر کا کاغذ لکھدیا ہو۔ اور حضرت عمر نے اسے پھاڑ ڈالا ہو، وہ شروع سے لب کشا ہی نہیں ہوئی تھیں، مگر چونکہ جھوٹ پھر جھوٹ ہے۔ ابتدا ہو یا دروغ کی

جزا ہیں، معہذا خداوند کریم جھوٹوں کو سینکڑوں طرح شرماتا ہے چنانچہ ابھی انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوا جاتا ہے، سچ ہی بولنا مناسب اور انسب نظر آیا۔ اس لئے گذارش یہ ہے یاد رہے کہ یہ محض دروغ بے فروغ ہے۔ طومار بندیوں سے سچوں کو جھوٹا نہیں کیا کرتے اہلسنت کا قول محکم ایسی پوچ باتوں سے خلل پذیر نہیں ہو سکتا۔

باقی یہ حوالہ دینا کہ سبط بن جوزی نے اس روایت کو اپنی سیرت میں تحریر کیا، اور واقدی محدث اہلسنت نے، اور برہان الدین حلبی شافعی نے اپنی سیر میں لکھا ہے، محض ایک سخن ابلہ فریب ہے۔ سادہ لوحانِ اہلسنت کے گمراہ کرنے کے لئے (بحکم اتباع پیشوایان خویش) مولوی صاحب بھی یہ چال چلتے ہیں۔ چونکہ درباب تنقیح روایات مفید مطلب شیعہ ایک بحث طویل مرقوم ہو چکی ہے اور اس کے مکرر بیان کرنے میں بجز دردسرِ تازہ کچھ سود نہیں۔ اس لئے مکلفِ ناظرین ہوں کہ چند اوراق پلٹ کر اس باب میں اپنی تسلی کر لیں۔

سیدہؓ کے سمجھانے پر فدک صدیقؓ نے واپس کردیا تھا

پر اتنا اشارہ یہاں بھی کئے دیتا ہوں۔ کہ اول بڑی دلیل اس بات کی کہ حضرت فاطمہ مکرر گئیں اور حضرت صدیق اکبر نے فدک کا جاگیرنامہ ان کے نام لکھدیا، اور حضرت عمر نے پھاڑ ڈالا سراسر دروغ اور بہتان بے اصل ہے۔ چنانچہ شیخ ابن مطہر حلی منہج الکرامت میں یوں رقم فرماتے ہیں لَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ اَبَابَکْرٍ فِیْ فَدَكَ کَتَبَ لَهَا کِتَابًا وَرَدَّهَا عَلَیْهَا یعنی حضرت فاطمہ نے جب ابوبکر کو فدک کے مقدمہ میں وعظ و پند کیا، تو ابوبکر نے حضرت فاطمہ کے نام اسے لکھدیا اور فدک کو ان کے حوالہ کردیا۔ انتہی۔'' اور ظاہر ہے کہ شیخ مطہر دشمنیٔ صدیق اکبر میں مولوی صاحب کے بھی افسر ہیں، اور یار غار کی عداوت میں ان سے بھی اول ہیں، مولوی صاحب نے بھی اگر یہ باتیں سیکھی ہیں تو انہیں بزرگوں کے بہکانے سے سیکھی ہیں۔ اگر کچھ بھی اس کی اصل ہوتی۔ وہ سیر کی من کر دیتے۔ اور سوئی کا بھالا بنا دیتے۔

آخر اتنا بھی تو اسی غرض سے لکھا ہے کہ صدیق اکبر (بوجہ دغابازی) فدک کو

دبانا چاہتے تھے۔ پر وعظ و پند کے باعث آخر کار ہاتھ سے چھوڑا، اگر اپنی بات میں سچے ہوتے۔ اور حدیث لانورث ماترکنا صدقۃ صحیح ہوتی غلط نہ ہوتی۔ تو وعظ سے متاثر ہونے کے کیا معنے تھے؟ الٹا وہی حضرت فاطمہ کو نصیحت کرتے۔ سو اگر پھاڑ ڈالنے کا قصہ کچھ بھی اصل رکھتا تو وہ کیا کیا زبان درازیاں نہ کرتے۔ بلکہ شیخ ابن مطہر علی نے تو اہل سنت کے لئے بہت تخفیف تصدیع کردی۔ یہاں تک کہ اہل انصاف کے نزدیک تو شیعوں کو لازم یوں ہے کہ مثل حُر بن یزید ریاحی صدیق اکبر کے بھی بدل وجان معتقد ہو جائیں، کیونکہ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَہٗ۔ خیر الحمد للہ کہ شیعوں کی ہی روایات سے دروغ (مولوی عمار علی صاحب) ثابت ہو گیا وَکَفَی اللّٰہُ الْمُؤْمِنِیْنَ الْقِتَالَ۔

بہر حال جو باتیں مولوی صاحب نے تراشی ہیں۔ مولوی صاحب کے بڑوں کو بھی نہ سوجھی تھیں۔ یہ تازہ الہام اب مولوی صاحب کو ہوا ہے، معہذا واقدی محدثین کے نزدیک منجملہ وضاعین ہے یعنی اس زمرہ میں معدود ہے۔ جو جھوٹی حدیثیں بنا کر بیان کیا کرتے ہیں، اور ابن جوزی کا حوالہ اس بات میں ہماری سر آنکھوں پر، کیونکہ انہوں نے دھوکہ بازوں کے فریب سے بچانے کے لئے امت محمدی کے لئے ایک کتاب خاص اسی فن میں تصنیف کی ہے۔ کہ فلانی فلانی حدیث موضوع ہے۔ تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے سو ان کی اس کتاب سے نقل کرنے میں اہلسنت کی بات کا اور پختہ کرنا ہے اور اگر بالفرض ایسے استدلال بھی مفید مطلب ہوا کریں اور اس پر نظر نہ ہو کہ خود مصنف کتاب اس بات کی نسبت جو اس کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے کیا کہتا ہے؟ تو کل کو ملحدان بے دین کی اس بات کا شیعہ کیا جواب دیں گے؟ کہ کلام اللہ میں اِنَّ اللّٰہَ فَقِیْرٌ موجود ہے، یعنی خدا محتاج ہے، تو معلوم ہوا کہ خدا محتاج ہے۔

اور اگر یوں کہیئے کہ خدا نے یہود کے اس قول کو بطور رد و تکذیب درج کلام اللہ کیا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے، تو یہی جواب سبط بن جوزی کی اس روایت کے درج کرنے کا معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال اس دغا بازی کا کیا ٹھکانا ہے کہ عوام اہلسنت کے سامنے

یا تو ان کتابوں کا نام لیتے ہیں جو غیر مقبول اور پایۂ اعتبار سے ساقط ہیں۔ یا بوجہ شرارت و چالاکی ایسی کتابوں کا حوالہ دے جاتے ہیں، کہ گو وہ کتابیں معتبر ہیں پر اس روایت کو جس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کتاب میں بنظر دفع شر و غبار اوان لکھ کر موضوع لکھدیا ہے، یہ فرقہ عوام کو دھوکہ دینے کے لئے انہیں روایات کو پیش نظر کر دیتے ہیں۔ اور اکثر موقع میں اس سے بڑھ کر یہ کرتے ہیں۔ کہ ایک بات اپنے جی سے تراش کر کسی کتاب غیر مشہور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ اول تو یہ کتابیں کہاں؟ پھر اتنی دردسری کس کو ضرورت؟ بہر حال مولوی صاحب کا یہ ارشاد کہ حضرت فاطمہ مکرر حضرت صدیق اکبر کے پاس طلب میراث کے لئے گئیں، شاید بایں غرض ہو کہ مکرر سکرر جانے میں اور غلط صحیح غل شور مچانے میں کچھ تو ہاتھ پلّے پڑ جائے گا۔ پھر مولوی صاحب کی ایک اور بیہودہ گفتار سنئے۔ مولوی صاحب کچھ ایسا رقم فرماتے ہیں۔

"کہ حضرت علی وغیرہ صحابہ ابوبکر کو اس بات میں سچا جانتے تھے۔ کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ سب صدقہ ہے۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ثانی کی خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کیوں دعوے کیا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے علیؓ اور عباس رضؓ کو کہا کہ تم دونوں ابوبکر کو کاذب اور خائن اور غادر اور آثم جانتے تھے اور مجھے بھی تم دونوں کاذب اور خائن اور غادر اور آثم جانتے ہو اور میں وہ ہی کروں گا۔ جو کہ ابوبکر کرتا تھا، یہ روایت صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے۔ کہ عثمانؓ کی خلافت میں عثمانؓ سے بھی دعوے کیا تھا پس اگر ابوبکر ان کے نزدیک سچا ہوتا تو ان کے زمانہ میں دعوے ہرگز نہ کرتے معلوم ہوا کہ ابوبکر اس روایت میں بالکل جھوٹا تھا۔ ازراہِ عداوت روایت بنا کر فاطمہ کا حق غصب کیا، اور عمر خود علی اور عباس سے اقرار کرتا ہے کہ تم ابوبکر کو کاذب اور خائن جانتے تھے۔ اور مجھے بھی تم کاذب اور خائن جانتے ہو، پس جس وقت کہ علی نے ان کو کاذب اور خائن جانا تو بیشک ہم بھی کاذب اور خائن ان کو جانیں گے۔ یہی مطلب غصب کا تھا۔"

یہاں تک مولوی صاحب کی خرافات لایعنی ہوئی، اس میں کوئی ایک دو لفظ کا فرق ہوگا، پر معنی میں تفاوت نہیں، اب ہماری بھی سنیئے کہ اس عبارت سے مولوی صاحب کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اگر حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سچا جانتے، تو حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر سے دعویٰ نہ کرتے، اور علیٰ ہذا القیاس حضرت عثمان کے زمانہ میں دعوے نہ کرتے، دوسرا یہ ہے۔ کہ جب باقرار حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کا ابوبکر صدیق کو کاذب آثم، غادر، خائن جاننا صحیح ہوا تو ہم بھی باتباع مرتضوی ابوبکر کو کاذب آثم غادر خائن سمجھیں گے

مسلم شریف کے حوالہ کی حقیقت

سو اول اعتراض کا تو جواب یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کی ایک نئی دغابازی ہے۔ عوام کے بہکانے کے لئے ایسی ابلہ فریبیاں کرتے ہیں پر حقیقت میں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ جو لوگ اصل روایات صحیح مسلم کو دیکھیں گے، وہ جان جائیں گے۔ کہ قصہ دگرگوں ہے۔ یعنے حضرت عمر کے زمانہ میں جس محفل میں یہ نوبت آئی ہے کہ حضرت عمر نے یوں کہا کہ تم ابوبکر صدیق کو کاذب آثم خائن سمجھتے تھے، اس محفل میں بسبت تولیت تکرار تھا نہ بہ نسبت وراثت۔ چنانچہ اس حدیث سے بھی جس کا مضمون کچھ کچھ مولوی صاحب نے درج رقیمہ کیا ۔ اور بروایت مالک بن اوس مروی ہے۔ اور نیز صحیح مسلم ہی کی اور حدیثوں سے یہ بات عیاں ہے لیکن مولوی صاحب نے یا تو بوجہ بلادت و غباوت نہ سمجھا ہو، اور یا باتباع پیشوایانِ قدیم دوسروں کے مطلب کی بات ہضم کر کے جس قدر دھوکا دے سکیں مذیب قرطاس کیا ہے۔

ہر چند جی یوں چاہتا تھا کہ احادیث مشار الیہا کو تمام لکھئے، لیکن احادیث مشار الیہا کے تمام لکھنے میں قصہ بہت دور پہنچتا ہے۔ خصوصاً حدیث مالک بن اوس مذکور کہ وہ ایک بہت ہی طویل و عریض ہے اور یاں ہمہ اکثر مواقع شرح طلب، اور ادھر فرصت قلیل، اس میں سب میں سے مختصر سا قصہ استنباط کر کے اور دو چار جملے بجنسہا لکھ کر مترددوں کا اطمینان کئے دیتا ہوں، حدیث عائشہ سے جو اس حدیث سے کچھ آگے

صحیح مسلم میں موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں مخلفہ ترکہ نبوی صلے اللہ علیہ وسلم فقط اس زمین کا جو مدینہ کے رقبہ میں اور قرب و جوار میں تھی حضرت علی اور حضرت عباس کو متولی کر دیا تھا خیبر اور فدک کو اپنی تولیت میں رکھا تھا۔ اس حدیث سے جس کا مولوی صاحب نے ذکر فرمایا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے خدا کا واسطہ دیکر حضرت علی اور حضرت عباس سے یہ عہد لے لیا تھا۔ کہ اس میں وہی کام کیجو۔ جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔

مگر حدیث عائشہ مذکور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عباس کا قبضہ اٹھا دیا، چنانچہ حدیث مذکور کے یہ الفاظ اس پر شاہد ہیں۔

فَاَمَّا صَدَقَتُهٗ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهٗ عَلَيْهَا عَلِيٌّ

جس کا یہ حاصل ہے کہ مدینہ میں جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ اس کو حضرت عمرؓ نے حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالے کر دیا، سو حضرت علی نے اس کو آباد کیا اور اپنا قبضہ کر لیا۔

یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو اب سنیئے کہ جب حضرت علی اس تمام زمین پر جو دونوں کی تفویض اور سپردگی میں تھی۔ قابض ہو گئے تو آپس میں دونوں صاحبوں میں جھگڑا پڑا اس کے رفع دفع کے لئے یہ صورت پیش آئی، کہ یہ دونوں صاحب خود حضرت عمرؓ کے پاس گئے، اور حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص کو بھی کچھ پہلے ان کے پاس بھیجا۔ تاکہ وہ بھی کچھ سہارا لگائیں اور خلیفہ سے کہہ سنکر کچھ صلح کرا دیں، اسی آنے کو مولوی صاحب دعویٰ میراث کے لئے آنا سمجھتے ہیں، اس لئے کہ حضرت عمر کا حضرت علی اور حضرت عباس کو یوں کہنا کہ تم ابوبکر کو کاذب وغیرہ سمجھتے تھے، اسی دفعہ میں پیش آیا ہے۔ چنانچہ ناظران حدیث مذکور پر پوشیدہ نہ رہے گا۔

الحاصل جب حضرت عمر کے پاس یہ چھیوں صاحب تشریف لائے۔ اور یہ مذکور ہوا۔ تو اول تو حضرت عمر نے ان چھیوں صاحبوں کو قسم دیکر یہ پوچھا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ

صدقہ اور ان سب صاحبوں نے اقرار کیا کہ بیشک فرمایا ہے، بعد ازاں بہت سی گفتگو کے بعد یہ فرمایا۔

ثم جئتنی انت وھذا وانتما جمیع وامرکما واحد فقلتما ادفعھا الینا فقلت ان شئتم دفعتھا الیکم علی ان علیکما عھد اللہ ان تعملا فیھا بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذتماھا بذالک قال اکذالک؟ قالا نعم قال ثم جئتما الی لاقضی بینکما ولا واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذالک حتی تقوم الساعۃ فان عجزتما عنھا فردا ھا الی۔

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ پھر تم اور یہ دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں باہم متفق تھے، اور تم دونوں کی بات ایک تھی، سو تم دونوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ترکہ ہمارے حوالہ کر دو، میں نے کہا کہیں منظور ہو تو اس شرط پر دیتا ہوں کہ خدا سے عہد کر لو۔ کہ اس میں وہی کیجو۔ جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سو تم دونوں نے ترکہ مذکور کو اس شرط پر لیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا یوں ہی بات ہے؟ ان دونوں صاحبوں نے کہا اسی طرح ہے۔ بعد ازاں حضرت عمر نے ان دونوں سے کہا۔ اب پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارا فیصلہ کر دوں۔ یعنی زمین کو بانٹ کر تم دونوں کو جدا جدا متولی کر دوں یوں نہیں اللہ کی قسم اس کے سوا قیامت تک میں کچھ اور حکم نہ دوں گا۔ اگر تم سے تولیت کا سرانجام نہ ہو سکے تو لاؤ مجھے ہٹا دو۔"

یہاں تک حاصل مطلب تھا۔ اب غور فرمایئے کہ مولوی صاحب کے فہم کا قصور ہے یا کسی اور کا؟ اگر مشرح سننا منظور ہے تو سنئے۔ کہ اگر حضرت علی اور حضرت عباس حضرت عمرؓ سے طالب میراث ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر نے ان کی طلب کے موافق ترکہ نبوی کو ان کے حوالہ کر دیا تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ باوجود معصوم ہونے کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت علیؓ نے حضرت عباس کا بھی حصہ دبا لیا۔ شیعوں کو یہ اعتقاد ہو گا کہ حضرت علی نعوذ باللہ

نقل کفر کفر نباشد" ایسے دغاباز ہیں کہ اپنا دیکھیں تھے نہ پرایا۔ جو مل گیا سو ہضم کر لیا۔ یا شاید معصوم ہونے کے شیعوں کے نزدیک یہی معنی ہوں کہ کتنا ہی ظلم و ستم کر بیٹھیں انکو سب مباح اور معاف ہے۔

امام کا حضرت عباس کو بے دخل کر دینا عدم وراثت پر کھلی دلیل ہو

انصاف سے دیکھئے۔ تو معتقدان مرتضوی کے لئے یہ حضرت علی کا قبضہ حضرت عباس سے اٹھا دینا اس بات کے لیئے گواہ عادل ہے، کہ اس ترکہ میں کسی کو میراث نہیں پہنچتی تھی، اور وہ ترکہ وقف تھا۔ سو درصورت وقف ہونے کے اگر متولی ہوں اور ایک دوسرے کا قبضہ اٹھا دیا، تو اس پر کچھ ظلم نہیں۔ بلکہ بسا اوقات قرین مصلحت یہی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ زمین و باغ جب تک کسی ایک طور پر نہیں ہوتے۔ تب تک تردد کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسی صورت میں اکثر زمین افتادہ پڑی رہتی ہے۔ سو افتادہ پڑے رہنے میں بجز اس کے اور کیا خوبی ہے کہ مساکین وغیرہ اہل مصرف کا حق مارا گیا۔ بظاہر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی کی رائے اور حضرت عباس کی رائے درباب تردد کچھ مخالف ہوئی ہو۔ حضرت علی نے دیکھا کہ اول تو حضرت عباس کی رائے پر رہیے تو نقصان اہل مصرف ہو۔

مثلاً جس مزارع کو حضرت عباس دینا چاہتے ہوں۔ وہ بہ نسبت اس مزارع کے جسے حضرت علی دینا چاہتے ہوں کم محصول اپنے ذمہ رکھتا ہو، یا نادہند دغاباز ہو، دوم اس مخالف رائے میں بند و بست معلوم، اس لئے بطور خود اس ترکہ کو برخلاف رائے حضرت عباس کسی کے حوالہ کر دیا ہو، اور یہ بات حضرت عباس کو گراں گذری ہو۔ اس لئے حضرت عمر سے اس بات کے خواستگار ہوئے ہوں کہ آدھوں آدھ بانٹ کر دونوں کو جدا جدا زمین کا متولی کر دیں۔ معہذا جو عبارت عربی میں مرقوم ہوئی ہے وہ خود اسی بات پر شاہد ہے کہ یہ جھگڑا فقط تولیت کا تھا، اس لئے کہ اول حضرت عمر کا اس بات پر عہد لے کر دینا کہ جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی کیجو، خود اسی کی دلیل ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس کو متولی کر کے دیا تھا۔ ورنہ اس شرط کے کیا معنے؟ اگر میراث میں دیا تھا تو میراث تو وارثوں کی ملک ہوتی ہے، اور مالک کو اپنی چیز کا اختیار

ہوتا ہے، ورنہ ہر شخص سے یہ نسبت اراضی مملوکہ کے یہی عہد لیا جایا کرتا۔

دوئم پھر حضرت عمر کا یوں فرمانا کہ قیامت تک اس کے خلاف حکم نہ دوں گا۔ خود اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت عمر نے ترکہ نبوی بطور تولیت حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالہ کر رکھا تھا۔ بطور میراث نہ دیا تھا۔ ورنہ مقصود حضرت عباس اور حضرت علی فقط تقسیم کر دینا تھا۔ سو اس میں حضرت عمر کا کیا نقصان تھا کہ ایک شئے مشترکہ کو فی مابین دو مالکوں کے تقسیم کر دیں؟ اگر بخل کرتے تو دینے ہی میں کرتے۔ جب دے چکے پھر تقسیم میں کیا مشکل تھی۔ ہاں درصورت تولیت یہ اندیشہ تھا کہ ایک بیٹی اور ایک چچا کا میراث میں آدھوں آدھ کا سا جھاؤ ہوتا ہے، سو اگر حضرت علی جو حضرت فاطمہ کی طرف سے وکیل تھے اور حضرت عباس کہ آدھوں آدھ بانٹ کر جدا جدا متولی کر دیجئے تو مبادا رفتہ رفتہ اگلے قرنوں میں اس تقسیم کو دیکھ کر دیکھنے برتنے والے یوں سمجھ جائیں کہ نصف حضرت فاطمہ کی اولاد کا مملوک ہے اور نصف حضرت عباس کی اولاد کا مملوک ہے۔

حضرت علی و عباس نے بقسم حدیث صدیق کی تصدیق کی۔

علاوہ بریں حضرت علی اور حضرت عباس کا قسم کھا کر اس بات کا اقرار کرنا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بیشک یوں ارشاد فرمایا ہے کہ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ اور پھر میراث کا طلب کرنا شیعوں ہی کی سمجھ میں آئے تو آئے۔ اور ان سب سے چڑھ کر یہ ہے کہ مولوی صاحب پہلے یوں رقم فرما چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے (بہ نسبت فدک کے معافی کا کاغذ لکھ دیا تھا حضرت عمر نے پھاڑ ڈالا۔ پر جب حضرت عمر ابوبکر کی خلافت میں یوں ہوں تو اپنی خلافت میں تو بدرجہ اولےٰ حاوی ہونے چاہئیں، پھر حضرت علی اور حضرت عباس نادان تھے؟ نعوذ باللہ کہ باوجود اس قصہ کے معلوم ہونے کے مفت خفیف اور رسوا بننے کے لئے ایسی لغو حرکت اور نامعقول بات کرتے؟ اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض بفرض محال یہ بات وقوع میں آئی بھی ہے؟ تو اول بار ہی حضرت علی اور حضرت عباس کا حضرت عمر کے پاس آنا جب کہ حضرت عمر نے ترکہ نبوی انکے حوالہ کیا تھا محض طلبگاری تولیت کے لئے ہو۔ طلب گاری میراث کے لئے نہ ہو۔

کیونکہ جب یہ بات آنکھوں دیکھ چکے ہوں۔ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا جو جگر گوشۂ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک شخص نے لحاظ نہ کیا، دوسروں کا لکھا لکھایا کاغذ پھاڑ ڈالا ہو۔ وہ ہمارا کیا لحاظ کریں گے؟ اور وہ بھی اپنی حکومت میں، ہم تو دوسرے ہی درجہ میں ہیں، خیر یہ بات تو غلط ہے۔ کہ ابوبکر صدیق نے کاغذ لکھدیا ہو اور حضرت عمر نے پھاڑ ڈالا، پر اتنی بات صحیح ہے کہ اول بار کا حضرت علی اور حضرت عباس کا آنا بھی محض طلب گاری تولیت کے لئے تھا۔ چنانچہ لفظ ادفعها الینا سے یہ بات خود ظاہر ہے، جو لوگ مذاق سخن شناسی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، باقی رہی یہ بات کہ طلب تولیت میں ان دونوں صاحبوں کو کیا فائدہ تھا۔ جو خلجان اپنے سر دھرنا تجویز کیا تو اس کا جواب یہ ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال کہ وقف نبوی منجملہ مصارف حق اقربائے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مقدم ہے۔ اس سے بچے تو اور کہیں صرف کیا جائے، خاص کرنے میں۔ تو اشارہ خداوندی بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس لئے ذی القربےٰ کو اوروں سے مقدم ذکر فرمایا، اور حدیثوں سے بھی اس قسم کے مضمون نکلتے ہیں۔

مگر خلیفہ کو اول تو تمام خلافت کا انتظام درپیش ہے۔ فقط اوقاف ہی کا انتظام ان کے ذمہ نہیں جو بہمتن اس کی طرف متوجہ ہو کر تردد کامل کرائیں، معہذا جن کو کچھ اوقاف سے توقع ہو جس قدر ان کے جی کو لگی ہوئی ہوگی۔ وہ دوسرے کے دل کو کاہے کو لگی ہوئی ہوگی؟ اس لئے حضرت علی اور حضرت عباس خواستگار تولیت ہوئے ہوں، اور حضرت عمر نے بھی بلحاظ وجوہ مذکورہ اور نیز یوں سمجھ کر کہ جو حال بنی ہاشم کہ فلانا محتاج ہے فلانا نہیں، فلانے کو اس قدر حاجت ہے فلانے کو اسقدر، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوگا۔ وہ مجھے کاہے کو معلوم ہوگا۔ اور یہ اندیشہ باقی ہی نہیں رہا کہ کوئی اس دینے کو میراث کا دینا سمجھے، کیونکہ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ کا گھر گھر غل پڑ گیا، یہ بات قبول فرمائی ہو، اور بانہمہ بنظر احتیاط تقسیم نہ فرمایا۔ تاکہ مبادا رفتہ رفتہ بہت زمانوں کے بعد کوئی جاہل یوں نہ سمجھ جائے کہ حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ کو مالک سمجھا تھا جب تقسیم کر دیا۔

مگر حضرت ابوبکر صدیق نے بطور تولیت بھی کسی کو دینا گوارا نہ کیا۔ کیونکہ حضرت فاطمہ کی طلب میراث کا تازہ قصہ تھا، اس قصہ سے سب کے کان پُر تھے۔ اس وقت اگر بطور تولیت ہی دیتے۔ ہر کوئی اس دینے کو بطور میراث ہی سمجھتا کہ فورث ماترکناہ صدقۃ اگر سنا بھی ہوتا تب کسے دھیان آتا۔؟

خائن وغادر مبالغۃً استعمال ہوئے۔ جیسا کہ محاورہ ہے

اور یہی وجہ فی الجملہ موجب گرانی خاطر حضرت علی اور حضرت عباس معلوم ہوتی ہے، جس کو حضرت عمر غصہ کے باعث بایں الفاظ تعبیر فرماتے ہیں کہ تم ابوبکر کو کاذب آثم غادر خائن سمجھتے تھے۔ کیونکہ تمام جہان کا دستور ہے اور نیز کلام اللہ اور احادیث سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کسی سے کسی موقع میں معاملہ قلبی کے برخلاف کوئی بات ظہور میں آتی ہے، تو بطور مبالغہ اس کے ساتھ معاملہ قلبی کی بھی نفی کر دیا کرتے ہیں۔ مثلاً فی مابین اقرباو احباب اگر کسی سے کسی قسم کی بے اعتنائی اور بے پرواہی کسی وجہ خارجی کے باعث ظاہر ہوتی ہے، تو مبالغۃً کہدیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب یا دوست کیوں ہوئے تھے یا یہ ہم کو اپنا قریب اور دوست ہی نہیں سمجھتے۔

سو قرابت اور رشتہ داری نسبی کا حال تو ظاہر ہے کہ وہ تو کسی طرح زائل ہو ہی نہیں سکتے۔ چہ جائیکہ بے اعتنائی اور بے پرواہی سے، اور دوستی کا حال بھی تو ظاہر ہے۔ کیونکہ بے اعتنائی اور بے پروائی کی جو احباب کو شکایت ہوتی ہے۔ تو بوجہ ثبوت محبت اور بقائے الفت ہوتی ہے۔ ورنہ اجنبیوں سے کون شکایت کرتا ہے، علی ہذا القیاس حضرت علی اور حضرت عباس کی جانب سے جو فی الجملہ کشیدگی اور گرانی خاطر حضرت صدیق اکبر سے (جس کا ابھی بیان تھا) ظہور میں آئی۔ تو یہ گرانی خاطر اور یہ کشیدگی جو بظاہر فی الجملہ اطمینان قلبی اور اعتبار دلی کے مخالف تھی۔ جو ان دونوں کو (بہ نسبت صدیق اکبر کے) حاصل تھی۔ کیونکہ اس سے نظر عوام میں بے اعتباری کی بو آتی تھی۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اس اعتبار کو جو ان کے دل میں مرکوز تھا نفی کر کے مبالغۃً ان کی طرف بے اعتباری کو منسوب کیا اور دلیل اس بات کی کہ یہ کلمہ مبالغۃً فرمایا تھا بیان حقیقت مدنظر نہ تھا،

خود ظاہر ہے کیونکہ حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃ کے خود مقر تھے۔ نہیں تو یوں ہی کہتے۔ کہ ان کے نزدیک صدیق اکبر نے متروکہ نبوی زبردستی سے دبا رکھا تھا۔ اور ان کے عقیدہ کے موافق وہ غادر خائن کاذب آثم تھے۔

حضرت عمر کا غصہ مبالغہ کی دلیل ہے

معہذا حضرت عمر کا قرینہ غضب خود اس کے ارادہ کے لئے مصحح ہے۔ لیکن آفرین ہے مولوی عمار علی صاحب کے فہم پر اور جن لے انہوں نے ایسی تعلیم پائی ان کے فہم پر۔ کہ ایسی بات کو جو تمام عالم میں مروج ہو۔ اس زمانہ میں بھی کہ پیشوا شیعہ ہو گذرے نہیں سمجھتے کوئی ان کا مداح بہت سے بہت توجیہہ کرے۔ تو یہ کرے کہ مولوی صاحب سمجھتے تو ہیں۔ لیکن ابلیس لعین کی روح کو خوش کرنے کے لئے دیدہ و دانستہ فریب سے تحریف معانی کرتے ہیں یہ سبب نہیں کہ حضرت عمر کا یہ کہنا تو انہیں یاد رہا کہ تم حضرت صدیق اکبر کو کاذب آثم غادر خائن سمجھتے تھے۔ اور یہ یاد نہ رہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اِنَّہٗ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ الْحَقَّ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ ابوبکر صدیق بیشک سچے نیک اطوار ہدایت پر حق کے تابع تھے۔ الحاصل مولوی صاحب کی کم فہمی یا فریب بازی ہے۔ جو ایسی بیہودہ باتیں فرماتے ہیں کہ کہیں کا سر کہیں کا پاؤں، ورنہ بمعنی مذکور عرف میں ایسے کلاموں کا مروج ہونا وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنکو عقل نہیں، چہ جائیکہ اہل عقل۔

مبالغہ کلام اللہ میں۔ بطور محاورہ

اور اگر اس پر بھی اس قسم کے محاورات کی تصحیح کے لئے کلام ربانی ہی کی سند مطلوب ہو تو اپنی پڑی کو ہم اس سے بھی درگذر نہیں کرتے اس لئے یہ آیت حَتّٰی اِذَا اسْتَیْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّھُمْ قَدْ کُذِبُوْا جَآءَھُمْ نَصْرُنَا جو سورہ یوسف کے رکوع آخر میں موجود ہے۔ گوش گذار ہے، اس کے بظاہر یہ معنی ہیں یہاں تک کہ جب رسولوں کو ناامیدی ہونے لگی، اور وہ یوں خیال کرنے لگے، کہ ان سے جو کچھ امداد کے باب میں خدا کی طرف سے وعدہ وعید تھے۔ سب جھوٹ تھے، ہماری مدد ان کے لئے آپہنچی فقط، مگر سب اہل اسلام جانتے ہیں کہ انبیاء کی شان سے بہت بعید ہے کہ خدا سے ناامید ہوں۔ اور کیوں کر ناامید ہوں۔ اس صورت میں اس رکوع سے پہلے

رکوع میں یہ جملہ بھی موجود ہے اِنَّہٗ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکٰفِرُوْنَ جس کا یہ مطلب ہے "بیشک ناامید نہیں اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں" پھر کسی مسلمان کے خیال میں آسکتا ہے کہ رسول اور ناامید ہو جائیں، سو اگر حضرت عمر کی صدق روایات کے بھروسے باتباع مرتضوی صدیق اکبر کو مولوی صاحب کاذب خائن وغیرہ سمجھتے ہیں، تو خداوند کریم تو حضرت عمر سے زیادہ ہی سچے ہیں۔ خدا کے فرمانے کی تصدیق کر کے رسولوں کو خدا کی امداد سے ناامید سمجھ کر حسب ایما آیت اِنَّہٗ لَا یَیْئَسُ الخ نعوذ باللہ کافر سمجھنے لگیں۔

علیٰ ہذا القیاس رسولوں کی نسبت جو اسی آیت میں مذکور ہے کہ دعائے خداوندی میں ان کو خیال دروغ ہوا تو اس میں بھی لازم ہے کہ مولوی صاحب رسولوں کی اتباع میں کمر چست باندھیں۔ سو اوّل تو اکثر محاورات کلام اللہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال باطل جو کسی وجہ سے جی میں جم جایا کرتا ہے۔ اور اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس کو ظن کہا کرتے ہیں چنانچہ سورہ جاثیہ میں کفار کے اس عقیدہ کی نسبت کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اٹھایا نہ جائے گا۔ اور لوگوں کا مارنے والا زمانہ ہے، یوں ارشاد ہے کہ اِنْ ھُمْ اِلَّا یَظُنُّوْنَ یعنی وہ یونہی اٹکلوں کی باتیں کرتے ہیں۔ الغرض کفار کو اپنے اس عقیدہ میں شک تھا مگر چونکہ ایک خیال غلط تھا جناب باری نے اس کو بلفظ ظن تعبیر فرمایا، ایسے ہی اس مضمون میں سورۂ انشقت میں اِنَّہٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ یَّحُوْرَ فرمایا۔ سو اس محاورہ کے موافق اگر ظَنُّوْٓا اَنَّھُمْ قَدْ کُذِبُوْا کے معنے لیجئے۔ تب تو مولوی صاحب کو لازم ہے کہ نعوذ باللہ بزعم خود باتباع پیغمبران برگزیدہ خداوند کریم کے وعدوں کو بایقین جھوٹا سمجھیں۔ اور اگر موافق مشہور ظن کے معنے گمان غالب یا شک سمجھتے تب مناسب یوں ہے، کہ رسولوں کو تو یوں سمجھیں کہ ان کو خدا کے کہے کا یقین نہ تھا۔ اور اس وجہ سے نعوذ باللہ انہیں کافر سمجھیں۔ اور اپنے آپ ان کا اتباع کر کے دین و ایمان کو برباد کریں۔

اور اگر یوں تاویل کیجئے کہ رسولوں کو جو ظنِ دروغ تھا بہ نسبت خداوند

صادق القول نہ تھا۔ بلکہ نصرت کے دیر ہونے سے یوں سمجھے کہ اگر وعدہ ہائے نصرت وعدہ ہائے خداوندی ہوتے، تو لاجرم ان وعدوں کا ظہور ہو لیتا اتنی دیر نہ لگتی، ہو نہ ہو یہ وساوس شیطانی تھے وعدہ ہائے خداوندی نہ تھے تو اس صورت میں اول تو ہمیں کچھ نقصان نہیں، جو کچھ بہ نسبت یاس مرقوم ہو چکا وہی کافی ہے، دوسرے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ انبیا کو وحی پر اطمینان نہ ہو، نعوذ باللہ، سو یہ تو ہم جانتے ہیں۔ شیعہ بھی تسلیم نہ کریں، کیونکہ جب انہیں ہی یقین نہیں تو پھر کس کو ہوگا؟ پھر چاہیئے کہ ایمان ایک معنی بے مصداق ہو جائے، کیونکہ ایمان کو یقین لازم ہے، پھر اگر اپنے اطمینان کے لئے معنی اس طرح کریں گے کہ ان کو بمقتضائے بشریت بے اختیار یہ خطرات دل میں گذرتے تھے۔ اس کو خداوند کریم نے بلفظ ظن (خواہ وہم اپنے معنے میں ہو یا بمعنے یقین) مبالغۃً تعبیر کر دیا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ سو حضرت عمر کی بات کو بھی ایسا ہی سمجھئے

مگر ہاں اگر یوں کہیئے۔ کہ نعوذ باللہ خدا کی طرف بوبہ بَدَا کذب کا احتمال ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی طرف یہ احتمال نہیں، تو البتہ ہمکو مشکل ہے مگر اس کے لئے بَدَا کے ابطال کی تقریر کی طرف مراجعت ضروری ہے۔ بہرحال انبیا کی نسبت خداوند کریم کا یہ فرمانا کہ وہ مایوس ہو گئے، یا ان کو خدا کی نسبت یا وحی کی نسبت احتمال دروغ ہوا، بجز اس کے صحیح نہیں ہو سکتا، کہ موقع تعریض و عتاب میں مبالغۃً فرمادیا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو عبث ہو، اور آپ ایسے خیالات میں نہ پڑ جائیں یا کسی اور وجہ سے مبالغۃً فرمادیا ہے، سو ایسے ہی حضرت عمر کے قول مذکور کو بھی سمجھئے۔ بہرحال یہ آیت ہمارے مطلب کے لئے ثبوت کامل ہے۔ اور اسی قسم کی اور بہت سی نظیریں اہل فہم کلام اللہ سے نکال سکتے ہیں، کہ اگر معنے ظاہری مراد لیجئے۔ اور قرائن صارفہ کا کچھ خیال نہ کیجئے۔ تو دین ایمان کی خیر نہیں، سو اگر مولوی صاحب کو کچھ ایمان کا درد ہے تو پھر خواہ مخواہ معنی ظاہری پر جو بے لحاظ قرائن خارجیہ کے متبادر الی الفہم ہیں کچھ لحاظ نہ کریں، بلکہ معنی مقصود ربانی پر نظر رکھیں۔

یعنی آیت حتیٰ اذا استیئس الرسل کے یہ معنی لیں کہ انبیاء کے تہ دل میں تو
یقین ہی تھا کہ وعدہائے الٰہی صادق ہیں۔ ایک نہ ایک روز بیشک امداد الٰہی آنے والی ہے
غرض دل سے کوئی صورت انقطاع امید اور ظن دروغ کی نہ تھی پر جیسے بمقتضائے بشریت
ہمارے تمہارے دل میں خداوند اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت خیالات فاسدہ
اوپر کے دل میں آجاتے ہیں۔ اور اس سے اعتقاد قلبی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ ایسے ہی
انبیاء کے دل میں بھی بمقتضائے بشریت بہ نسبت وعدہائے الٰہی خیالات فاسد بے اختیار
گذر جاتے تھے اور خدا نخواستہ اطمینان قلبی میں کچھ فتور نہ تھا، جو یوں کہیے، کہ وہ واقعی
ناامید ہو گئے تھے۔ اور یقین ہو گیا تھا کہ وعدہائے الٰہی محض دروغ تھے یا ان کے
صدق کا یقین نہ رہا تھا مگر چونکہ اس قسم کے خیالات کی وجہ سے (گو تہ دل میں نہ ہوں،
اور بے اختیار ہی آتے ہوں) ظاہر نظر میں یوں ہی کہتے ہیں کہ دل میں اعتقاد ہی نہیں
یہ بات بعد تامل ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ فقط اوپر کے خیالات ہیں،

تو خداوند کریم نے بھی برعایت ظاہر بطور مبالغہ متعارف ان خیالات کو بلفظ
ظن اور بے قراری اور بیتابی بشری کو جس کے لوازم میں سے یہ خیالات ہیں بلفظ یاس
تعبیر فرمایا، لیکن اسی طرح اگر حضرت علی اور حضرت عباس کی نسبت حضرت عمر کے اس
فرمانے کو کہ تم صدیق اکبر کو اور مجھکو کاذب خائن وغیرہ سمجھتے ہو، حضرت علی اور حضرت
عباس کی کشیدگی اور شکایت دلی پر (جو بمقتضائے بشریت برخلاف اعتقاد اور محبت
قلبی کے جو تہ دل میں جمی ہوئی تھی، اوپر کے دل میں گذرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی) محمول
کریں، تو اس سے زیادہ اور تو کچھ گناہ نہ ہوگا۔ کہ کلام اللہ کی ایک روش اختیار کی، اور یہ
بات تو حضرت علی اور حضرت عباس نے منہ سے نکالی بھی نہ تھی، احتمال ہے کہ حضرت
عمر ہی غلط سمجھ گئے ہوں، کہ دونوں صاحب کچھ اس قسم کا خیال تہ دل میں یا اوپر
کے دل میں رکھتے ہیں۔

حضرت عباسؓ نے وہی الفاظ حضرت علیؓ کے
لئے کہے جو حضرت عمرؓ نے ان کی نسبت کہے

ہم تو اس کے یہی معنی سمجھتے ہیں۔ جو حضرت عباس
نے حضرت علی کو بالمواجہ مجمع عام میں اسی جلسہ

میں بعینہٖ یہی الفاظ کہے ہیں، چنانچہ اسی حدیث میں جس کے حوالہ سے مولوی صاحب
حضرت عمر کا حضرت علی اور حضرت عباس کو یوں کہنا کہ تم صدیق اکبر کو کاذب اور خائن
وغیرہ سمجھتے ہو ثابت کرتے ہیں موجود ہے، مگر اس کو کاہے کو نقل کرتے، یہ تو صدیق
اکبر ہی سے ضد ہے، بہرحال سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ حق بات یہی ہے۔ جو میں نے عرض
کی، ورنہ حاشا و کلا جو حضرت علی اور حضرت عباس کے دل میں ذرہ برابر صدیق کی طرف
سے بدگمانی ہو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مولوی صاحب اپنی تیرہ درونی کے باعث حضرت
عمر بھی اگر لحاظ ظاہر یوں فرما دیں۔ کہ حضرت علی کے دل میں صدیق اکبر کی طرف سے
کچھ فرق ہے، تو بے تحقیق اعتبار کر لیں۔ اور حضرت خود اپنی زبان مبارک قسمیں کھا کھا
کر ایسے کمالات جو لگ بھگ مرتبہ نبوت کے ہیں۔ صدیق اکبر کی تعریف میں بیان
فرمائیں۔ اور علیٰ ہذا القیاس اور ائمہ نے چنانچہ سابقاً بحوالہ کتب معتبرہ شیعہ
مفصلاً مرقوم ہو چکا ہے۔

لیکن اس پر بھی کیا امکان جو مولوی صاحب کے اور سوا ان کے اور شیعوں
کے دل میں کا کفر ٹوٹے۔ سبحان اللہ کیا سمجھ ہے۔ صدیق اکبر کی ہجو کریں، تو حضرت عمر
بھی معتبر ہو جائیں، اور تعریف ہو تو پھر حضرت علی بھی کہے جائیں، کوئی نہیں سنتا، کسی
نے سچ کہا کُلُّ شَیْئٍ یَرْجِعُ اِلیٰ اَصْلِہٖ، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ پر شیعوں کے طور پر مولوی صاحب
کی وہی مثل ہے کہ حضرت موسےٰ کے سینکڑوں معجزوں پر بھی بنی اسرائیل سیدھے نہ ہوئے
اور سامری کے ایک طلسم پر دین ایمان کھو بیٹھے۔ اس تقریر کے بعد مولوی صاحب کو اپنے
اس چرپوز اعتراض کی قلعی کھل گئی ہو گی۔ اور اگر بایں ہمہ بوجہ بلادت نہ سمجھیں۔ اور
یہ دل نشین رہے کہ حضرت عمر نے جو کہا وہ واقعی تھا، نہ اس میں کچھ غلطی ہے نہ اس
کے سوائے ظاہری معنوں کے اور کوئی معنے۔

تو میری عرض یہ ہے کہ بیش بریں نیست حضرت علی اور حضرت عباس کے
دل میں بھی بات ایک دفعہ کو جم گئی ہو، کہ صدیق اکبر نے خیانت کی اور جھوٹ
بولدیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے لَا نُورِثُ مَا تَرَکْنَاہُ صَدَقَۃٌ فرمایا ہے،

لیکن مولوی صاحب فرمائیں تو سہی کہ اتنی بات سے ان کے کیا ہاتھ لگا؟ حضرت موسے اور حضرت ہارون علیہما السلام کے دست و گریباں ہونے کا قصہ مشہور و معروف ہے، اس کا سبب بجز اس کے اور بھی کچھ تھا کہ حضرت موسیٰ بایں وجہ کہ ان کی یہ خلقی بات تھی، کہ خلاف شریعت اور مخالف حکم الٰہی دیکھا نہیں۔ اور ان کے تن بدن میں آگ لگی نہیں، ذرہ برابر اگر کہیں خدا کی نافرمانی نظر پڑ جاتی تھی تو پھر تھامے نہیں تھمتے تھے، طور سے لوٹ کر جب بچھڑے کی پوجا پاٹ دیکھی۔ تو ایک دفعہ ہی یوں سمجھ گئے کہ بنی اسرائیل نے کیا تو کیا حضرت ہارون بھی ان کے شریک حال ہو گئے یا انہوں نے بنی اسرائیل کو نہ روکا۔ جو یہ فساد پھیل گیا۔ بہر حال ان کو شریک حال سمجھا یا یوں سمجھا کہ انہوں نے کسی کو روکا نہیں، لیکن اس سمجھنے میں اول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ شک نہیں رہا تھا۔ نہیں تو نوبت یہاں تک نہ آتی کہ ان کے سر بال اور ڈاڑھی پکڑ کر اپنی طرف کو کھینچتے، فقط شک اور تردد میں اتنی پیش قدمی تو کم عقل بھی نہیں کرتے چہ جائیکہ حضرت موسے جن کا کمال عقل بالیقین معلوم ہے۔

حضرت علی اور حضرت عباس خطاءً بدگمان ہوئے

دوسرے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت موسے علیہ السلام کی غلط فہمی تھی۔ جو یوں سمجھے حضرت ہارون علیہ السلام اول تو نبی معصوم تھے ایسے امور میں شریک ہونا یا منع نہ کرنا، ان سے منجملہ محالات ہے دوسرے اگر معصوم نہ ہوتے، تب واقع میں ان سے کچھ خطا نہ ہوئی تھی، بے تحقیق فقط ظاہر حال کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ حضرت ہارون سے درباب نہی عن المنکر تقصیر ہوئی یا خود ان کے شریک حال ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپے سے باہر نکل گئے۔ ورنہ حضرت ہارون بہر طور بے خطا تھے، شریک حال ہونا تو کجا؟ منع اور زجر و توبیخ میں انہوں نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی تھی، تقدیر سے بات راست نہ آئی

اب دیکھئے کہ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے اتنے بدظن ہو جاتے ہوں کہ نوبت ہشت مشت کی پہنچی۔ تو حضرت علی اگر فی الجملہ کچھ حضرت ابو بکر کی طرف سے بدگمان ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اور اہل سنت کو اس کی تسلیم میں کیا

دشواری ہے۔ نہ ابو بکر صدیق ان کے نزدیک معصوم! جو ان کے کذب و خیانت کے منسوب ہونے میں کسی رکن ایمان کا تھامنا مشکل پڑ جائے، نہ حضرت علی ان کے اعتقاد میں معصوم، کہ ان کی طرف غلط فہمی کی نسبت کرتے کچھ جی ڈرے اور پھر باینہمہ ہنوز یہ بھی متحقق نہیں کہ بالیقین حضرت علی کے جی میں صدیق اکبر کی طرف سے کچھ گمان فاسد ہو، فقط حضرت عمر نے اپنے عندیہ کے موافق وہ بھی مبالغۃً ایک بات کہدی ہے، ورنہ حضرت علی کا بہ نسبت حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃ اقرار کرنا۔ اور پھر حد سے بڑھ کر صدیق اکبر کی تعریفیں کرنا چنانچہ سابقاً مرقوم ہو چکا ہے، خود اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ دل مرتضوی لبریز حسن اعتقاد صدیق اکبر تھا

اس پر بھی اگر مولوی صاحب (بزعم خود) باتباع حضرت شیر خدا علی مرتضےٰ رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کو کاذب و خائن و غادر و آثم سمجھتے ہیں، تو بہ نسبت حضرت ہارون علیہ السلام تو دو قدم آگے بڑھ کر ان کے عصیان اور شراکت شرک کا چھاتی ٹھوک کر اقرار کریں گے، کیونکہ اول تو حضرت موسے علیہ السلام معصوم اور بزعم شیعہ معصوم غلط فہمی سے بھی معصوم، ورنہ اہل سنت پر یہ طعن کیوں ہوتا کہ ان کے امام ابو حنیفہ وغیرہ غلطی کھا سکتے ہیں، دوسرے حضرت موسے کا بہ نسبت حضرت ہارون علیہما السلام بالیقین خطا وار سمجھنا بالیقین معلوم ہے۔ تو اس صورت میں کوئی صورت مولوی صاحب کو اس عقیدہ میں کمی کرنے کی نہیں۔

امام کی اتباع میں شیعہ اگر صدیق کو برا کہیں تو حضرت عباس کے اتباع میں امام کو بھی کہیں

ادھر حضرت عباس حضرت علی کے بھی بزرگ ہیں دین کے نہیں۔ نسب ہی کے سہی۔ تھوڑا بہت کچھ ان کا بھی اتباع چاہیئے بہت نہیں۔ تھوڑا ہی سہی۔ معہذا حضرت عباس سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت تھی، چنانچہ بحوالہ قاضی نور اللہ شوستری مرقوم ہو لیا ہے تو ان کی بات باون تولہ پاؤ رتی کی نہیں، تو کچھ تو اعتبار رکھتی ہو گی خصوصاً جس سند سے مولوی صاحب کو صدیق اکبر کی نسبت حضرت علی کا کاذب سمجھنا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اسی روایت میں حضرت عباس کا حضرت علی مرتضیٰ کو بعینہٖ اسی طرح برا کہنا۔ اس سے بھی پہلے مذکور ہے

بلکہ شاید حضرت عمر نے بھی انہیں کی بات سے سمجھا ہو کہ ایسے ہی [illegible] ایک دوسرے کو کاذب وغیرہ سمجھتے ہیں۔ اسی قیاس پر انہوں نے کہدیا کہ تم صدیق اکبر کو ایسا سمجھتے ہو۔ سو بحکم محبوبیت پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم اور بزرگی حضرت علی حضرت عباس کا بھی اقتدا چاہیئے۔ اگر عذر بے اعتقادی ہے تو بہت نہیں تھوڑا ہی سہی، وہ کیا دین و کیا آئین ہے؟ جس مذہب کے ایسے دلائل ہیں وہ خود مذہب کیا ہوگا۔!

ع :- قیاس کن زگلستان من بہار مرا

اب ایک بات شرح طلب باقی رہی، مگر اس کے بیان میں متردد ہوں بایں خیال کہ وہ بات شاید کسی کے خیال میں آجائے تو یہ اندیشہ ہے کہ مبادا کسی متردد کو تردد پیدا ہو۔ یا کسی متعصب کو جائے انگشت نہادن ملے، اور جب یہ بھی خیال آتا ہے کہ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ روٹی نہ کھائیے۔ تو بھوکے مریئے، اور کھائیے تو ہیضہ میں جان سے گذریئے، ڈرتا ہوں کہ شاید کم فہم نہ سمجھیں۔ اور بیٹھے بٹھلائے گمراہ ہوں۔ میں اگر نہ لکھوں تو شاید خبر بھی نہ ہو۔ لیکن بایں خیال کہ روٹی کو خداوند کریم نے نفع ہی کے لئے بنایا ہے نقصان ہو جائے تو اتفاقی ہے۔ اس لئے ہیضہ کے اندیشہ سے کوئی کھانا نہیں چھوڑ دیتا میرا کلام تو کیا چیز ہے۔ خود کلام ربانی میں کلام ربانی کی نسبت یوں فرماتے ہیں۔

یُضِلُّ بِہٖ کَثِیْرًا وَّیَھْدِیْ بِہٖ کَثِیْرًا۔ گمراہ کرنا اول ہے ہدایت اس کے بعد پھر جب خداوند کریم نے اپنی بات کو کسی سے نہ چھپایا ہو۔ میں اپنے جی کی بات کیوں چھپاؤں۔

جیسے کلام ربانی اصل ہدایت کے لئے ہے، یوں کوئی اپنی کج فہمی سے بے راہ ہو تو ہو، ایسے ہی وہ باتیں جو کلام اللہ و حدیث سے مستنبط ہوتی ہیں، اصل میں وہ ہدایت ہی کے لئے ہیں۔ یوں کوئی بات کے مغز کو نہ سمجھے اور بہک جائے تو اپنا سر کھائے بہر حال لکھنا ہی مناسب سمجھ کر لکھتا ہوں۔

ترکہ نبوی کے میراث ہونے پر استدلال اور اس کے جوابات

حدیث مالک بن اوس مذکور میں جس کے بعض مضامین مولوی صاحب نے رقیمہ کریمہ میں درج فرمائے ہیں، اور

اس کو روایت صحیح مسلم کہا ہے، یوں مرقوم ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اسی جلسہ میں جس میں یہ دونوں صاحب جھگڑتے ہوئے آئے تھے۔ بغرض الزام یوں بھی فرمایا تھا۔

فَلَمَّا تُوُفِّیَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْبَکْرٍ اَنَا وَلِیُّ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِیْرَاثَکَ مِنِ ابْنِ اَخِیْکَ وَیَطْلُبُ ھٰذَا مِیْرَاثَ امْرَاَتِہٖ مِنْ اَبِیْھَا فَقَالَ اَبُوْبَکْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا نُوْرِثُ مَا تَرَکْنَا ہُ صَدَقَۃٌ۔ اس کے بعد یہ ہے فَرَاَیْتُمَاہُ کَاذِبًا اٰثِمًا غَادِرًا خَائِنًا

حاصل مطلب یہ ہے کہ ,, بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ہوں ساری باتوں کا ولی اور مولےٰ تو تم دونوں آئے تم تو اپنے بھتیجے کی میراث مانگتے تھے، اور یہ اپنی بیوی کی طرف سے ان کے باپ کی میراث مانگتے تھے، اس پر صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے لا نورث ما ترکناہ صدقۃً سو تم نے انہیں کاذب آثم غادر خائن سمجھا،، فقط

اس سے دو باتیں اہل سنت کے قول کے خلاف معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃً کو اہلسنت یوں کہتے ہیں کہ اس کے راوی حضرت علی اور حضرت عباس بھی ہیں، اور اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ورنہ اہلسنت کے اعتقاد کے موافق حضرت علی تو حضرت علی ہیں حضرت عباس کی طرف بھی یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ باوجودیکہ خود رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہو کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ پھر طلبگار میراث ہوں، دوسرے یہ بات ہے کہ لفظ میراثک اور لفظ میراث امراتہ اور نیز صدیق اکبر کا یہ جواب دینا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دونوں طالب میراث ہوئے پھر جب ان دونوں صاحبوں کو حدیث مذکور کی خبر ہی نہ ہوئی۔ تو اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا صدیق اکبر کو کاذب وغیرہ سمجھنا

اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ان کی میراث نہ دی۔

چنانچہ حضرت عمر نے بھی اس نہ دینے ہی کی تفریع میں یہ بیان فرمایا ہے۔

فرایتماہ کاذبًا الخ سو اس صورت میں یہ توجیہ ہی غلط ہو گی کہ حضرت علی کو صدیق اکبر سے بایں وجہ کچھ کشیدگی تھی کہ وہ ان کی تولیت تک کے روادار نہ ہوئے۔ اور اس کشیدگی ہی کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ تم صدیق اکبر کو کاذب سمجھتے تھے اور بایں ہمہ جب میراث کے نہ دینے کی وجہ سے ان دونوں صاحبوں نے صدیق اکبر کو کاذب خائن وغیرہ سمجھا، تو اب بجز اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ دل سے کاذب وغیرہ سمجھا ہو کیونکہ کسی کی میراث کا نہ دینے والا بالیقین خائن ہے۔ البتہ اگر اس حدیث میں یوں مذکور ہوتا، کہ ان دونوں صاحبوں نے صدیق اکبر سے بھی تولیت ہی مانگی، جیسا کہ حضرت عمر سے مانگی تھی پر صدیق اکبر نے تولیت سے بوجہ مذکورہ یا بوجہ دیگر انکار کیا۔ تو یوں بھی کہنے کی گنجائش تھی، کہ تولیت کے نہ دینے میں کچھ ستم نہیں، تولیت کسی کا حق نہیں، خلیفہ کو اختیار ہے، جسے چاہے اپنی سمجھ کے موافق متولی کرے۔

جواب اول | اب ان دونوں اعتراضوں کا جواب بگوش ہوش سنئے۔ اول تو اگر ہم فرض کریں کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے تولیت ہی صدیق اکبر سے طلب کی تھی تب ان الفاظ سے کچھ اس کے مخالف انشاء اللہ تعالے نہ نکلے گا۔ اور یہی الفاظ جو حدیث میں مذکور ہیں طلب تولیت پر محمول ہو جائیں گے، گو ظاہر میں طلب میراث ہی پر دلالت کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ سابق میں معنی میراث کی تحقیق میں گذر چکا ہے کہ میراث کے معنے حقیقی بھی قائم مقام ہونا ہے۔ پر اصطلاح فقہا میں میراث بمعنے مشہور میں مخصوص ہو گیا ہے۔

دوسرا جواب | اور اگر معنے حقیقی نہیں تب اس میں تو کلام ہی نہیں کہ مجاز متعارف ہے چنانچہ محاورات قرآنی میں بہت مواقع میں اسی معنی میں مستعمل ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ ــ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا

يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا ــ نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

اور سوا ان کے اور بھی آیات میں یہی معنی مراد ہیں، اول دو آیتوں کا ترجمہ تو گذر ہی چکا ہے۔ اور تیسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے ہم زمین کے وارث ہوں گے اور جو زمین پر رہنے والے ہیں ان کے بھی،، اور ظاہر ہے کہ بمعنے مشہور خداوند کریم کسی کا وارث نہیں، الحاصل ان آیات میں میراث سے میراث بمعنی قائم مقام ہونے کے مراد ہے۔ سو تولیت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ متولی وقف کرنے والے کا قائم مقام ہوتا ہے، اس صورت میں مِيْرَاثَكَ من ابن اخيك اور ميراث امراته من ابيها کے یا تو یہ معنے ہوں گے کہ تم تو اے عباس اپنے بھتیجے یعنی سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوت کے قائم مقام ہونے کے اور ان کے ترکہ کے متولی ہونے کے طلبگار تھے اور یہ یعنی حضرت علی اس ترکہ میں اپنے خسر یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کے خواستگار تھے۔

اس تقریر پر تو کلمہ من جو من ابن اخيك اور من ابيها میں ہے صلہ میراث ہو گا۔ اور مجموعہ صلہ اور موصول کا حاصل قائم مقام ہونا نکلے گا۔ اور یا یوں کہیئے۔ کہ قائم مقام ہونا فقط لفظ میراث کا مدلول ہے اور لفظ میراث کا صلہ اگر ہے تو محذوف ہے اور کلمہ من مذکور سببیہ ہے۔ اور حاصل مطلب یہ ہو کہ تم تو بھتیجے کی وجہ سے تولیت کے قائم مقام ہونے کے طالب ہوئے اور حضرت علی خسر کے طلبگار ہوئے یہ دو توجیہیں تو بایں نظر ہیں کہ میراث کے یہ معنے نہیں جواب معروف ہیں۔

تیسرا جواب | اور اگر بپاس خاطر شیعہ میراث کو باعتبار معنی حقیقی معنی معروف ہی میں منحصر رکھیں اور پھر اس کو کسی دوسرے معنے کی طرف منقول بھی نہ کہیں، یا اس جگہ بجز معنے معروف عوام کے اور معنے مستبعد معلوم ہوں۔ تب بھی یہ کلام معنی مذکور پر دلالت کرنے میں کمی نہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بطور تشبیہ حضرت عمر نے طلبگاری تولیت کو بوجہ استحقاق قرابت میراث فرما دیا ہو اور جو قرابت استحقاق جتا کر تولیت کے طلب کرنیکو

طلب میراث سے جسقدر مشابہت ہے، ظاہر ہے اور یہ توجیہ جب ہی بن پڑتی ہے جبکہ مادہ میراث کو معنی معروف میں منحصر نہ رکھئے، بلکہ بدستور معنی معروف غیر معروف میں عام سمجھئے۔ چنانچہ ظاہر ہے باقی اس صورت میں اگر کوئی طالب قرینہ صارفہ ہے جو ارادہ معنی حقیقی سے روکے، تو اس سے زیادہ اور کیا قرینہ ہوگا۔ کہ دو چار سطر ہی پہلے حضرت علی اور حضرت عباس کا اقرار گذرا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لانورث ماترکناہ صدقۃ

لیکن یہ بات قابل بیان باقی رہی، کہ ہم نے مانا یہ تینوں توجیہیں صحیح ہے اور حضرت علی اور حضرت عباس تولیت ہی کے طلبگار ہوئے تھے طالب میراث نہ ہوئے تھے۔ لیکن صدیق اکبر کے اس جواب کو کہ قَالَ رَسُولُ اللہ صلی اللہُ عَلَیْهِ وَسلم لانورث ماترکناہ صَدَقَۃٌ طلب تولیت سے کیا علاقہ؟ کیونکہ بالیقین اس حدیث میں میراث سے معنی معروف مراد ہیں، اس صورت میں اس سوال وجواب کا وہی حال ہوگا جیسا مشہور ہے "سوال از آسماں جواب از ریسماں" یا جیسے مثل مشہور ہے "زمین کی کہیں تو آسمان کی سنیں" اس لئے ہمیں اور بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ خیر

ع: برسرِ فرزند آدم ہرچہ آید بگذرد

اس تحریر کے مشغلہ کی کلفت بھی آخر انشاء اللہ ایک روز رفع ہونے والی ہے۔ سو بچشم انصاف اور بگوش ہوش دیکھئے اور سنئے کہ یہ جواب سوال مذکور کے کس طرح مطابق آتا ہے۔

جناب من جواب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مطابقی، دوسرا التزامی، مطابقی کے معنے تو یہ سمجھئے کہ اس کلام کے معنے مطابقی عین جواب ہو۔ اور جواب التزامی کے ہماری اصطلاح میں یہ معنے ہیں کہ اس کے معنے مطابقی کو اقرار یا انکار لازم ہو۔ اس جواب کو درصورتیکہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف سے طلب میراث بمعنے معروف ظہور میں آتی بمنزلہ جواب مطابقی سمجھنا چاہیئے۔ گو حقیقت میں التزامی ہے۔ کیونکہ ان الفاظ میں سے کسی کے معنے مطابقی یہ نہیں کہ میں دوں گا یا نہ دوں گا، مگر

چونکہ اس جواب سے انکار ایسا ہی ظاہر ہے، جیسے یوں کہدیتے ہیں کہ میں نہیں دیتا اس لئے اس جواب کو بمنزلہ جواب مطابقی سمجھئے۔ اور درصورتیکہ حضرت علی اور حضرت عباس طالب تولیت ہوئے ہوں تب اس جواب کو جواب التزامی سمجھئے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ تمہارے متولی کر دینے میں یہ اندیشہ ہے۔ مبادا حضرت فاطمہ کے طلب میراث کے قرینے سے خلائق کے یہ ذہن نشین نہ ہو جائے کہ تمہیں جو دیا ہے تو بطور میراث دیا ہے

اور پھر رفتہ رفتہ یہ بات منقول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے ہمارے بعد اس میں تصرفات مالکانہ ہونے لگیں۔ اور آگے جو پیدا ہونے والے ہیں اس کو میراث سمجھ کر بانٹ بونٹ برابر کریں، حالانکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ لانورث ماترکناہ صدقہ ہرچند بعد اس تقریر کے اس ایک جواب کے دو مختلف سوالوں پر مطابق آنے میں کسی بلید ہی کو تامل رہے تو رہے مگر بنظر احتیاط و مزید توضیح ایک مثال مرقوم ہے، اگر کوئی بادشاہ کسی امیر کی جاگیر اس کے انتقال کے بعد ضبط کر کے کسی افسر کو یوں حکم دے کہ تم بطور خود لوگوں کو نوکر چاکر رکھ کر اس کا انتظام کر لو تو اگر اس امیر کی اولاد جس کی جاگیر ضبط ہوتی ہے کسی وجہ سے یوں سمجھتے ہوں کہ یہ جاگیر دوام کے لئے تھی۔ اور اس افسر کے اچانک نظم ونسق کو دیکھ کر اس سے یوں کہیں۔ کہ یہ جائداد تو ہماری ہے، تم اسے کیوں دباتے ہو، لازم یوں ہے کہ اسے ہمارے حوالہ کر دو، تو اس کا یہ جواب کہ بادشاہ نے اس جاگیر کو ضبط کر لیا ہے تمہیں نہیں مل سکتی، جیسا صحیح ہے، ویسا ہی اس صورت میں بھی صحیح ہے۔ کہ اس امیر کی اولاد اپنی جاگیر کے ضبط ہونے سے مطلع ہوں، پر بضرورت طلب معیشت اس افسر سے اس بات کے ملتجی ہوں کہ تم آخر کسی نہ کسی کو اس کے انتظام کے لئے نوکر رکھو گے اگر ہمارے ہی ہاتھوں اس کا انتظام کراؤ، تو ہم اس کا استحقاق بھی رکھتے ہیں۔ امیر مذکور کی اولاد ہیں۔

مگر اس صورت میں اور اس صورت میں اتنا فرق ہوگا اپنی صورت

میں تو جواب مذکور کافی وافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بعض مقدمات جواب الزاماً سمجھے جاتے ہیں، اور حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جائداد منضبط ہو چکی ہے اگر ہم کو نوکر بھی رکھا جائے، تب یہ اندیشہ ہے کہ کوئی غماز بادشاہ کے کان میں کچھ جا جڑے اور بادشاہ کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ افسر نے امیرزادوں سے کچھ سازش کر کے جائداد کو بدستور رہنے دیا ہے، پھر نہ تمہاری خیر نہ میری خیر۔

حضرت علیؓ و عباسؓ نے بھول سے مطالبہ کیا۔ اور بھولنا عیب نہیں۔

دوسرا جواب حضرات شیعہ اپنے حسب دلخواہ لیں یعنی یہ ہی سہی کہ حضرت علی اور حضرت عباس طالب میراث ہی ہوئے تھے لیکن باوجود اس بات کے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، پھر اس طلب کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ آدمی تھے، بھول گئے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تب یاد آیا، سو اس بھول جانے میں حضرت علی کی شان میں کچھ فرق نہیں آتا بڑے بڑے رسول بھولے چوکے ہیں۔

حضرت آدم کی بھول

حضرت آدم کی شان میں خداوند کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ یعنے ہم نے حضرت آدم کو پہلے سے تقید تاکید سب کچھ کر دی تھی، پھر بھی بھول گئے، جب حضرت آدم پیغمبر ذیشان ہو کر خود خدا کی تقید و تاکید کو بھول جائیں، تو حضرت علی تو امام ہی تھے، وہ بھی پھر حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں اور بحکم اَلْوَلَدُ سِرٌّ لِأَبِيهِ ان کے نسیان کے وارث۔ و اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ایک عام بات کو بھول جائیں جس میں کسی قسم کی تاکید [illegible] نہ علی العموم نہ بالخصوص حضرت علی [illegible] تو ان پہ کیا قباحت [illegible]

حضرت موسے کی بھول

[illegible] حضرت خضر [illegible] علیہ السلام [illegible] حضرت خضر کے [illegible] حضرت موسے [illegible] کہ حضرت خضر علیہ السلام سے بغرض تعلیم علم ملازمت [illegible] حضرت خضر کو تاکید [illegible] یوں کہنا کہ تم [illegible] خیال [illegible] تم خواہ اعتراض [illegible] بیٹھو گے

پھر ان سب کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسے سے عہد لینا کہ اگر میری ہمراہی مدنظر ہے تو جب تک میں نہ بتاؤں تم کسی بات کو نہ پوچھیو، یہ سارا قصہ سورۂ کہف میں سولھویں سیپارہ کے شروع سے کچھ پہلے مذکور ہے، اس اعتقاد پر کہ خدا کے بھیجے ہوئے گئے۔ اور اس اہتمام پر کہ سفر دور دراز قطع کیا۔ اور پھر کیا کیا انکار اور اقرار ہوئے، حضرت خضر کی جلالت قدر اور ان کی باتوں کا معقول ہونا ایک لخت دل سے نکل گیا، اور اس پر اپنا عہد بھی بھول گئے۔

چنانچہ حضرت خضر کو مع حضرت موسے علیہ السلام جب ایک گھاٹ کے ملاحوں نے بوجہ اعتقاد بے لئے دیئے سوار کر لیا اور انہوں نے بیچ میں جا کر اس کشتی کا تختہ توڑ ڈالا۔ تو حضرت موسے علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ اور یہ کہہ اٹھے۔ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا یعنی اے خضر کیا تم نے اس کشتی کو اس لئے توڑ دیا کہ بیٹھنے والوں کو ڈبو دو، تم نے بھی عجیب کام کیا کہ کشتی والوں کے احسان کے بدلے یہ نقصان کیا۔ اس کے جواب میں جب حضرت خضر نے یوں فرمایا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا یعنی میں نے تم سے کہا تھا۔ کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسے علیہ السلام نے یہ عذر کیا لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ یعنی میں بھول گیا تھا تم مواخذہ نہ کرو"

الحاصل اس اہتمام اور اس تقید پر اتنی جلدی حضرت موسے بھول گئے ہوں تو پھر حضرت علی کا اتنی دیر کے بعد بھول جانا کچھ بات ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول، و اولو العزم، اور حضرت علی نہ رسول نہ نبی نہ اولو العزم۔۔۔ نہ غیر اولو العزم، باینہمہ وہاں اہتمام اور پیش بندی نہ تھی۔ فقط اتفاقاً رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ایک بات چلتی چال سن لی سو وہ بھی اس طور پر کہ علی العموم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ کچھ حضرت علی کے سنانے کی اس میں تخصیص نہ تھی اور حضرت موسے علیہ السلام کو بالخصوص یہ بات پیش آئی کہ خدا کے بھیجے ہوئے گئے۔ اور آگے جو کچھ گذرا سو گذرا،

سید الخلق کی بھول

اور اگر با انصاف ان شیعہ حضرت موسے اور حضرت آدم علیہما السلام

کے نسیان پر نہ فرمائیں تو خود سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو جناب باری تعالےٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یعنی یاد کر اپنے رب کو جب بھول جایا کرے، اس سے صاف امکانِ نسیان بہ نسبت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، بلکہ شانِ نزول اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ایک بات کا وعدہ کیا کہ کل بتاؤں گا، اتفاق سے انشاء اللہ کہنا بھول گئے، اس پر خدا کی طرف سے یہ نصیحت ہوئی۔

معتبر کتب صحاح شیعہ مثل کافی کلینی اور تہذیب ابو جعفر طوسی میں اسانید صحیحہ سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہوا، اور چار رکعت کی بجائے فقط دو ہی ادا کیں، پھر جب سرور مرسلین صلے اللہ علیہ وعلیہم اجمعین کو امور دینی میں سہو ہوتا ہو تو حضرت علی تو امتی ہی ہیں، الحاصل ظاہر الامکان یہ بات ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو باوجود حدیث مذکور کے اپنے کانوں سے سن لینے کے سہو واقع ہوا ہو، اور وقت پر یاد نہ رہا ہو، اور وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ میراث کا قصہ تو ایسا عام ہے کہ سارا جہان اس میں شریک، حسب عادت بنی نوع اگر طلب کر بیٹھے ہوں، تو کیا بعید ہے۔

لیکن جب صدیق اکبرؓ نے یاد دلایا، تب یاد آگیا اسی واسطے حضرت عمر نے جب دونوں کو متولی کر دیا۔ تو حضرت علی نے حضرت عباس کا قبضہ اٹھا دیا، ورنہ متروکہ نبوی میں حق میراث سمجھتے، تو گو حضرت عمرؓ نے متولی کر کے دیا تھا، حضرت عباس کے قبضہ کو اپنے قبضہ سے مقدم سمجھتے۔ اس لئے کہ وہ حقیقۃً وارث تھے اور حضرت علی خود وارث نہ تھے حضرت فاطمہ کی طرف سے وکیل تھے، پھر اپنی خلافت میں سب حقداروں کو ان کا حق پہونچاتے، ازواج مطہرات کو ازواج مطہرات کا حصہ بانٹ دیتے حضرت عباس کی اولاد کو ان کا حصہ الگ کر دیتے، چونکہ اپنی خلافت میں بھی بدستور سابق رہنے دیا، اور تقسیم نہ کیا، اور کسی کا حصہ نہ دیا۔ چنانچہ بحوالہ اجماع فریقین مرقوم ہو چکا ہے، تو پھر بجز اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے یاد دلانے سے بات یاد

آگئی۔ اور اس لئے حضرت عمر کے سامنے اقرار کیا۔

صدیق سے عمر وابن عمر کی بدگمانی کی وجہ بشریت ہے

باقی رہی یہ بات کہ اس صورت میں پھر صدیق اکبر کی طرف سے بدگمانی کی کوئی صورت نہیں، جو حضرت عمر نے یوں فرمایا کہ تم ابوبکر کو کاذب آثم وغیرہ سمجھتے تھے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ بمقتضائے بشریت چنانچہ مرقوم ہوا۔ اوپر کے دل میں گاہ وبیگاہ یہ خیال گذرا ہو کہ ہر چندیہ حدیث صحیح ہے لیکن پھر استحقاق تولیت ہمیں ہی تھا۔ بایں ہمہ جو صدیق اکبر نے قبضہ رکھا ہے تو ہو نہ ہو کچھ دال میں کالا ہے۔ اور یہ خیال پیرایۂ حال سے یا کسی قال سے حضرت عمر کو مترشح ہوا ہو۔ اس لئے انہوں نے بطور تنبیہ وشکایت ان کے منھ پر کہدیا، اور اس لئے انہوں نے بنظر انصاف سکوت فرما دیا، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

اس تقریر کے بعد امید یوں ہے، کہ جن کو خداوند کریم نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اگر کسی نابکار کی صحبت سے بے راہ بھی ہیں تو راہ پر آجائیں، اور جو نہ آئیں تو اپنا سر کھائیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اب الحمد للہ کہ جمیع امور متعلقہ حدیث صحیح مسلم کے بیان سے فراغت پائی، لازم یوں ہے کہ بقیہ خرافات خط مولوی صاحب کا بھی جواب دندان شکن جو مولوی عمار علی صاحب اور نیز دیگر پیشوایان شیعہ کے دانت کیا توڑے منھ ہی سی دیئے۔ انشاء اللہ بیان کر کے صفحہ قرطاس اور قلم و دوات کو ہاتھ سے دھر دیجئے۔ اس لئے التماس یوں ہے۔ کہ آگے مولوی عمار علی صاحب یوں رقم فرماتے ہیں

"اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جس وقت ابوبکر نے فدک کے دینے سے انکار کیا۔ فاطمہ زہرا اس پر غضبناک ہوئی اور تمام عمر پھر کبھی اس سے کلام نہ کیا۔ اور صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ نے وقت مرنے کے وصیت کی، کہ ابوبکر اور عمر میرے جنازہ پر نہ آنے پائیں انتہیٰ"

یہ خط کی آخری عبارت ہے۔ اور یہاں مولوی صاحب کی ترکی تمام ہو لی مگر اہل فہم پر پوشیدہ نہ رہے گا کہ بعد ثبوت مضامین مسطورہ بالا خصوصاً اشارہ آیت یوصیکم اللہ (در بارہ مستثنیٰ ہونے سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے حکم میراث سے) اور صراحتِ آیت مَا أَفَاءَ اللَّهُ (در بارہ وقف ہونے فدک وغیرہ اموال فیٔ کے)

صدیق اکبر پر بوجہ نہ دینے فدک کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا، ہاں الٹا بطور حضرات شیعہ خوارج ونواصب کو گنجائش لب کشائی ہے کہ حضرت فاطمہ باوجود معصوم ہونے کے۔ چنانچہ عقیدہ شیعہ یہی ہے، فدک وغیرہ اموال وقف میں سے کس لئے طلب گار میراث ہوئیں؟ اور پھر وہ بھی اسقدر کہ صدیق اکبر نے ایک حق بات کہدی تو الٹا غصہ کے مارے ملنا جلنا میل ملاقات سب ترک کر دی، مگر چونکہ سانچ کو آنچ نہیں، سچی بات ہر طرح در رہتی ہے، اہلسنت کو اس مقدمہ میں کچھ دشواری نہیں، جیسے وہ صدیق اکبر کو اس مقدمہ میں بے قصور سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا جگر گوشہ سید الوریٰ محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح مورد اعتراض نہیں سمجھتے۔ اور بایں ہمہ کوئی قاعدہ ان کے دین ومذہب کا منقوض نہیں ہوتا، اول تو عیاں راچہ بیان۔

قرآن فہمی میں آنحضرتؐ کے تمام اُمتی محتاج ہیں | دوسرے بات کچھ دور نہیں، کان درست کیجیے، اور سنیئے۔ حضرت فاطمہ زہرا ہر چند سیدۃ النسا، بلکہ ان کے خاکپا سرمہ اکابر اولیا، ان کے غلامان غلام مورد افضال کبریا، ان کی محبت جو محبت کے طور پر ہو باعث نجات اشقیا۔ ان کا اعتقاد جو اعتقاد کی طرح پر ہو باعث ترقی درجات اعلیٰ۔ لیکن پھر بھی اُمتی تھیں نبی نہ تھیں، فہم قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ حاجت تفسیر نبوی رکھتی تھیں۔ کیونکہ فقط زباندانی اور قوت فہم دقائق معانی سے اس جگہ کام نہیں چلتا۔ تفصیل اجمال کلام ربانی۔ اور شرح اشکال آیات فرقانی، بجز مورد وحی آسمانی اعنی سرور دوجہاں پیغمبر آخر الزمان صلے اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ وسلم کے متصور نہیں، چنانچہ خود خداوند کریم فرماتا ہے اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِّنْکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَکِّیْکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ ط یعنے بھیجا ہم نے تم میں رسول تمہیں میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، اور سنوارتا ہے تم کو، اور تعلیم کرتا ہے تم کو قرآن اور حق بات فقط،،

اب غور فرمایئے کہ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ کہ جس کے یہ معنی ہیں کہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، تعلیم الفاظ قرآنی پر دلالت کرتا ہے اور یُزَکِّیْکُمْ جس کے یہ معنی ہیں کہ سنوارتا ہے

اور پاک صاف کرتا ہے، تزکیہ باطن کی طرف مشیر ہے، بعد میں جو یُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ فرمایا۔ تو قطع نظر اس کے کہ تعلیم عرف عرب میں معانی ہی سے متعلق ہے بعد یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ کے یہ فرمانا اس بات پر دلیل کامل ہے کہ یہ تعلیم معانی کی تعلیم ہے، پھر جب یُعَلِّمُکُمْ میں خطاب تمام امت کی جانب ہو، خاص کر مسلمانان ملک عرب کی طرف جو صحبت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں مشرف باسلام ہو چکے تھے، چنانچہ لفظ منکم سے عیاں ہے، تو معلوم ہوا کہ اور سب علم معانی قرآن میں محتاج سرور دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور نیز یہ بھی متحقق ہو گیا کہ تعلیم معانی قرآنی کی قابلیت بھی ہر کسی میں نہیں جب تک تزکیہ تام نہ ہو، تب تک تعلیم معانی قرآنی بے موقع ہے۔ اسی واسطے یعلمکم کے بعد یزکیکم فرمایا اور شواہد اس دلیل کے قرآن میں بہت ہیں۔ حافظان علم پر مخفی نہ رہے گا۔ منجملہ ان کے ایک جگہ شان قرآن میں وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتٰبَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ ط فرماتے ہیں یعنی اتاری ہم نے تجھ پر کتاب۔ جس میں ہر چیز کی تفصیل اور بیان ہے

وَمَآ اُوْتِیْتُمْ سے سرور دو عالم مستثنےٰ ہیں | اور ایک جگہ علاوہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کے اوروں کو فرماتے ہیں وَمَآ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا یعنے نہیں دیئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا۔ اور پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے مستثنےٰ ہونے کی وجہ ظاہر ہے۔ کیونکہ [illegible] اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم [illegible] کے پہنچانے والے ہیں، داخل زمرہ مخاطبین نہیں، [illegible] وسلم بھی قرآن کے دقائق کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں [illegible] سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ القصہ [illegible] کے بہتیرے مضامین ملیں گے جن سے [illegible] کی حقیقت کے ان کے مؤید ہونے میں [illegible] رسولا الخ میں کچھ بندہ [illegible] نے عرض [illegible]

حضرت فاطمہ بھی فہم قرآن میں آنحضرت کی محتاج تھیں

خیر بہرحال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دربابِ فہم معانی قرآنی رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو محتاج ہونا کلام اللہ سے ثابت ہو نہ ہو، پر اہل سنت کے نزدیک تو یہ بات لاریب مسلم ہے، اور اس کے مخالف کسی دلیل عقلی یا نقلی سے آج تک کوئی بات ان کو ثبوت کے ساتھ نہیں پہونچی اور کیونکر پہونچے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دربارہ فہم قرآن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا اظہر من الشمس ہے، محتاج دلیل نہیں، اس کے خلاف کا غلط ہونا بھی ہم کسی کے نزدیک روشن، پھر اگر کسی آیت کے فہم میں بسبب اس کے کہ اس کی تفسیر زبان گوہر ریز آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو فی الجملہ غلطی ہو جائے اور اسکے کسی اشارہ مخفی کو نہ سمجھیں تو اہل انصاف فرمائیں کہ اسمیں کیا محال ہے؟

علی ہذا القیاس اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلکہ آج کل کوئی شخص اہل فہم میں سے اس اشارہ مخفی کو، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے رہ گیا ہو، (بہ تنبیہ ونسبت وتفسیر نبوی) سمجھ جائے تو کیا قباحت ہے؟ نہ اس بات سے کچھ کسر شان حضرت زہرا رضی اللہ عنہا لازم آتی ہے۔ اور نہ اس وجہ سے دوسروں کو ان پر فوقیت ہو سکتی ہے۔

اگر کسی ایک بات کے جاننے سے کسی کو فضیلت ہو تو حضرت خضر حضرت موسےٰ سے افضل ہوتے

اگر ایک بات کے سمجھ لینے سے سمجھنے والوں کو نہ سمجھنے والوں پر فوقیت ہوا کرتی، تو حضرت خضر کو حضرت موسےٰ علیہ السلام پر فوقیت ہوتی۔ کیونکہ کشتی کے توڑنے اور لڑکے کے قتل کرنے کی وجہ باوجودیکہ یہ سب حضرت خضر نے بامر خداوندی کیا تھا، حضرت موسےٰ علیہ السلام نہ سمجھے، اور حضرت خضر ان سب کے وجوہ جانتے تھے، چنانچہ واقفان کلام ربانی جانتے ہیں حالانکہ مذہب صحیح یہی ہے کہ حضرت خضر نبی نہ تھے اور اگر تھے بھی تو باجماع امت حضرت موسےٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔

ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کا کھیتی کے مقدمہ میں غلطی کھانا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم خداوندی کا سمجھ جانا معروف ومشہور ہے، اور قرآن میں مذکور حالانکہ

جس وقت یہ قصہ پیش آیا۔ اس وقت حضرت داؤد پیغمبر وقت تھے، اور پیغمبر بھی کیسے اولوالعزم، اور حضرت سلیمان جب تک نہ نبی ہوئے تھے اور نہ امام تھے۔ اور باینہمہ صغیر السن، کیونکہ وقت وفات حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل بارہ برس کی تھی جب یہ قصہ پیش آیا۔ جب تو اور بھی چھوٹی عمر ہوگی۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام (حالانکہ نبی وقت اور رسول اولوالعزم تھے)، ایک مسئلہ میں غلطی کریں اور ایک لڑکا نو عمر بات صحیح کہدے،

تو اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اگر ایک اشارہ بے تعلیم نہ سمجھیں وہ بھی آیت یوصیکم اللہ کا اشارہ، جو مجملہ آیات قرآن مجید ہے، جس کا فہم کامل بجز تفہیم وتعلیم سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں، چنانچہ معلوم ہو چکا، اور حضرت صدیق اکبر بلکہ آج کل کے پڑھنے لکھنے والے جو کسی طرح حضرت فاطمہ بلکہ ان کے خاکپا اور ان کے سگ در کے برابر نہیں ہو سکتے، بوجہ تعلیم نبوی سمجھ جائیں تو کچھ حرج نہیں، علی ہذا القیاس ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اول فدک کا فیٔ ہونا نہ معلوم ہو کیونکہ ایسے قصے اکثر مجاہدین اور غانمیں کو معلوم ہوتے ہیں، اور با ایں ہمہ آیت ما افاء اللہ سے بھی اراضی فیٔ کا غیر مملوک ہونا بتامل ہی نکلتا ہے، چنانچہ ناظرین وجوہ مسطورہ بالا پر (جو دربارہ تحقیق غیر مملوک ہونے اراضی فیٔ لکھے گئے ہیں) پوشیدہ نہ رہیگا۔

اور اس نہ سمجھنے اور اس بے علمی کے باعث بعد وفات سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات واکمل التحیات حضرت صدیق اکبر سے طالب میراث ہوئیں۔ کیونکہ جب تک اشارہ ووجوہ اراضی فیٔ یوصی اور اشارات مذکورہ پر اور علی ہذا القیاس وجوہ غیر مملوک ہونے اراضی فیٔ پر جو آیت ما افاء اللہ کے پس وپیش سے مستنبط ہیں نظر نہ ہو تب تک ظاہر آیت یوصیکم اسی طرف ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلے اللہ علیہ وسلم بھی حکم میراث میں شریک امت ہیں۔

سیدہؓ نے سماع حدیث کے بعد ندامت کے سبب بات چیت بند کی)

مگر جب صدیق اکبر نے حدیث پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم سنادی ہو تب اس طلب گاری سے ایک گونہ ندامت اور رنج حاصل

ہوا ہو، کیونکہ انبیاء اور مرسلین اور صدیقین اور کاملین کو لازم ہے، کہ اگر کوئی بے اعتدالی ان سے ظہور میں آئے تو بعد اطلاع اس پر ندامت ہوا کرے، چنانچہ حضرت آدم کا گیہوں کھا لینے پر نادم ہونا، اور علیٰ ہذا القیاس حضرت نوح علیہ السلام کا دعائے نجاتِ فرزند سے نادم اور پشیمان ہونا، اور حضرت موسےٰ علیہ السلام کا قتل قبطی سے شرمندہ ہونا، خود قرآن میں موجود ہے۔

اور اس ندامت کے باعث حضرت صدیق اکبر سے ربط و ضبط میں فرق آگیا ہو، اور ملنا جلنا بدستور سابق نہ رہا ہو۔ نہ یہ کہ ملنے پر بھی کلام و سلام کی نوبت نہ آتی ہو، کیونکہ اس طرح کی متارکت تین دن سے زیادہ حرام ہے۔ چہ جائیکہ تمام عمر؟ وہ بھی ایسے مسلمانوں میں، بہر حال ترک کلام میں جو بعض روایات میں ہے، اہلسنت کے نزدیک حضرت فاطمہ کی طرف کچھ حرف نہیں۔

سماعِ حدیث کے بعد سیدہ کو کلام کی حاجت ہی نہ رہی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کلام نہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ جب حدیث لانورث سن لی، تو پھر فدک کے مقدمہ میں کچھ چون و چرا نہیں کی، اور صدیق اکبر کے چھوڑ دینے سے یہ مراد ہے کہ چپکے ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہیں۔ اور حدیث مذکورہ سن لینے کے بعد پھر ان کا پیچھا نہیں لیا، اور کیونکر لیں؟ اگر ایسا ہو تو حضرت فاطمہ رض اور دنیاداروں میں کیا فرق رہا مگر حضرت صدیق اکبر بتقاضائے محبت و اعتقاد و نیازمندی و انقیاد اس نہ ملنے کو غصہ پر محمول کر کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے در دولت پر حاضر ہوئے ہوں، اور علےٰ ہذا القیاس اور لوگ بھی اسے غصہ ہی سمجھتے ہوں، اور اس لئے صدیق اکبر رض نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سفارش کے لئے اندر بھیجا ہو، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے تسکین صدیق اکبر کے لئے اظہار رضا اور خوشی کر دیا ہو۔

وَجَدَتْ کے لفظ کی تشریح باقی کسی کے دل میں یہ خلجان رہے کہ روایات میں بتصریح مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر سے غصہ ہو گئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو روایات صحیحہ مثل روایات مسلم و بخاری میں فَوَجَدَتْ فَاطِمَۃُ واقع ہے

اور وَجَدَتْ جیسا بمعنے غَضِبَتْ ہے جو غصہ پر دلالت کرتا ہے ویسا ہی بمعنے حَزِنَتْ بھی ہے جو حزن و غم پر دلالت کرے۔ چنانچہ قاموس وغیرہ کتب لغت نایاب نہیں، جسے تامل ہو دیکھ لے۔ پھر کونسی ضرورت ہے کہ وَجَدَتْ بمعنے غَضِبَتْ ہی لیجئے۔ اور خواہی نخواہی حضرت فاطمہ رض کا غصہ ثابت کیجئے

وَجَدَتْ کے صلہ پر بحث اور اگر کوئی یہی یوں تکرار کرے کہ ہم نے مانا وَجَدَتْ دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کلمہ علی ہوتا ہے تو غصہ ہی کے معنی ہوتے ہیں، ہاں اگر اس کے صلہ میں حرف با واقع ہو تو پھر معنے حزن کی گنجائش ہے مگر اس مقام میں بعد وَجَدَتْ کے صحیح مسلم میں فقط علی ابی بکر ہی واقع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وجدت بمعنی غَضِبَتْ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عندیہ کے موافق دوسرے کے کلام کے معنے سمجھتا ہے، اسی واسطے روایت بالمعنے، اول تو ہر کسی کی مقبول نہیں، اور مقبول بھی ہو تو ہم پایۂ روایت باللفظ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ حقیقت الامر کچھ اور ہو، اور راوی کچھ اور سمجھ گیا ہو۔

آخر حضرت موسےٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اور اپنے معاملات میں اگر آدمی تامل کرے تو اکثر ایسے قصے پیش آتے ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کہنے والے نے فقط وَجَدَتْ فاطمہ کہا ہو۔ اور سننے والے نے بایں خیال کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی کبیدگی کو جو در حقیقت بوجہ ندامت تھی، بوجہ غضب سمجھ رہا تھا، وَجَدَتْ کو بمعنے غَضِبَتْ محمول کر کے روایت کے وقت روایت بالمعنی کی ہو۔ اور اپنی سمجھ کے موافق لفظ علی ابی بکر بھی زیادہ کر دیا ہو بہر حال جب تک احتمالات صحیحہ پیدا ہو سکیں تب تک اہل عقل کو لازم یہی ہے کہ اہل کمال کی طرف سے بد گمان نہ ہوا کریں۔

اہل کمال کے کلام کا وہ محمل تلاش کیا جائے۔ جس سے حسن ظن قائم رہے۔ جناب باری تعالےٰ نے جو حضرت موسےٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں بیان کیا ہے جس میں حضرت خضر کا ان ملاحوں کی کشتی کا توڑنا جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ اور

بے لئے دیئے ان کو پار اتار دیا، اور بے گناہ صغیر السن لڑکے کو قتل کر دینا۔ اور حضرت موسےٰ علیہ السلام کا ان دونوں پر اعتراض کرنا مذکور ہے۔ اس کے بیان کرنے میں ایک یہی حکمت ہے کہ مردمان کوتاہ بین کو اگر بزرگان دین کا کوئی امر خلافِ عقل یا نقل نظر آئے تو اپنی نظر کا قصور سمجھیں اور ان کی نسبت گمان فاسد نہ کریں۔

علیٰ ہٰذا القیاس پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے ظُنُّوا الْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا فرمایا ہے تو اس سے بھی غرض یہی ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کسی مومن کامل کا کوئی کام خلاف شرع نظر آئے، تو گو ظاہر میں روک ٹوک کرو۔ تاکہ اگر واقع میں برا ہو تو اس کا انسداد ہو جائے پر دل سے بدگمان نہ ہو، اپنی طرف سے نیک ہی گمان کرتے رہو، نہ یہ کہ اچھے کاموں کو اچھا سمجھو، کیونکہ اچھے کاموں کو ہر کوئی خود بخود اچھا سمجھتا ہے۔ حکم کی کیا حاجت تھی؟ اس تقریر سے اگر کسی کے جی میں یہ روگ بھی ہوگا، کہ ان احتمالات سے کیا کام چلتا ہے۔ ظاہر میں جو کچھ سمجھ میں آوے۔ ہم تو جانیں وہی بات ٹھیک ہوگی، تو انشاء اللہ مرتفع ہو جائے گا، بہرحال گو یہ احتمال بہت سے نظر آتے ہیں مگر عقل سلیم ہو تو پایہ تحقیق سے کم نہیں۔ کیونکہ مناسب حال حضرت فاطمہ اور حضرت صدیق اکبر یہی ہے۔ معہذا منصب دعوائے منکران صدیق اکبر کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ دلیل مدعی جب ہی مفید مطلوب ہوتی ہے کہ کوئی احتمال خلاف مطلوب نہ بن سکے، ورنہ مدعا علیہ کی فقط ایک لانسلم میں شیخ چلی کا گھر بنا بنایا ڈھ جائے گا۔ سو اگر دشمنان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ منظور ہو کہ لفظ وجدت اور قصہ مندرجہ روایات سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا غصہ ہونا ثابت کریں، تو اول ان احتمالات کو باطل کریں۔ جب اس طریق سے اپنی عاقبت خراب کرنے کا ارادہ کریں۔

سیدہؓ صدیقؓ سے بوجہ غلطی آزردہ ہوئیں

اور ہم نے مانا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس مقدمہ میں حضرت صدیق اکبر سے آزردہ خاطر ہوئیں لیکن اس سے حضرت صدیق اکبر کا قصوروار ہونا کہاں سے ثابت ہوا۔ نہایت سے نہایت ثابت ہو تو یہ ہو، کہ حضرت فاطمہ زہراؓ بوجہ غلطی صدیق اکبر کو قصوروار سمجھ کر ان پر غضبناک ہوئی ہوں سو ایسا بسا

اوقات انبیا و مرسلین کو بھی باہم پیش آتا ہے۔ حالانکہ وہ بالیقین معصوم ہیں، چہ جائیکہ صدیق؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا بچھڑے کو پوجنے کے مقدمہ میں بے قصور ہونا کلام اللہ سے ثابت ہے۔ اور پھر بایں ہمہ حضرت موسےٰ علیہ السلام کا ان پر غصہ ہونا، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے تک کی نوبت آئی خود کلام اللہ ہی میں موجود ہے۔ سو جیسا حضرت ہارون تو یوں بے قصور کہ وہ بے قصور تھے ہی، اور حضرت موسےٰ علیہ السلام کو یوں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اپنے عندیہ میں بے جا غصہ نہیں ہوئے تھے۔

حضرت موسےٰ غلطی سے حضرت ہارون پر ناراض ہوئے

بلکہ باین نظر کہ ان کا بڑے بھائی پر غصہ ہونے کا کوئی منصب نہ تھا۔ اگر خدا واسطے کی بات نہ ہوتی تو حضرت ہارون ان کا خون بھی کر دیتے تو دم نہ مارتے۔ چہ جائیکہ یوں دست و گریباں ہونے کی نوبت آئی، پر مسلمان کو یقین ہے کہ حضرت موسےٰ علیہ السلام کو اس غیظ و غضب میں اجر عظیم ملے، اب لازم یوں ہے کہ اسی طرح حضرت فاطمہ سیدۃ النساء، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی باہم رنجش اور چپقلش کو سمجھئے، اور دونوں کو اس مقدمہ میں بے قصور اور دونوں کو ماجور سمجھئے، اور ہم نے اسی دن کے لئے اس کی تحقیق آیت محمد رسول اللہ الخ کے ذیل میں بخوبی کی ہے، اگر کسی کو زیادہ تر تسکین مدنظر ہو تو پلٹ کر دیکھ لے۔

بالفرض اگر صدیق ہی کی غلطی تھی تو توبہ کر لی (کتب شیعہ)

اور اس سے بھی در گذر کیجئے، ہم کہتے ہیں شیعہ ہی سچ فرماتے ہیں صدیق اکبر ہی قصوروار تھے۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر کیا گناہ باقی رہ گیا؟ جو شیعوں کی زبان نہیں تھمتی مشہور ہے اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ ہاں توبہ کرنے کا ثبوت اگر مدنظر ہو تو یہ بات معقول۔ لیکن ہم سند بھی ایسی رکھتے ہیں، جسے شیعہ سلمنا سلمنا کہتے کہتے تھک جائیں۔ اور بر سر و چشم رکھتے رکھتے مر جائیں۔ شیخ ابن مطہر حلی۔ نہج الکرامت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں لَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ اَبَابَكْرٍ فِيْ فَدَكٍ كَتَبَ لَهَا كِتَابًا وَرَدَّهَا عَلَيْهَا یعنی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صدیق اکبر کو فدک کے مقدمہ میں وعظ و پند کیا تو انہوں

چنانچہ حضرت مولوی صاحب نے بھی اس بات کو نامرا بھی میر ناد رملی میں کہ
اپنا نامہ سیاہ کیا ہے محض بیجا اور بے موقع ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر
نے فدک کی آمدنی میں سے ایک حبّہ تک نہیں چھوا، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ
عنہا کے خرچ سے جو کچھ بچا، فقراء وغیرہم کو دے دلا دیا۔
سو معلوم ہوا کہ فدک کے نہ دینے میں کوئی غرض دنیاوی نہ تھی، ہونہ ہو رسول اللہ
صلے اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بیشک کچھ سن لیا تھا، جو باوجود اس بے غرضی اور
بے طمعی کے حضرت فاطمہ زہرا رض کو نہ دیا۔ ان دونوں فائدوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ام ایمن
اور حضرت علی کی گواہی کا قصہ شیعوں کا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ گواہوں کا مطالبہ
تو جب ہی ہوتا ہے۔ کہ مدعی کی طرف دروغ کا احتمال ہو۔ ہاں اگر اپنے آپ خورد برد کرنا
مدنظر ہوتا تو یوں بھی کہنے کی گنجائش تھی کہ یہ فقط ٹال ٹلاؤ تھی، مگر بدگمانوں کو اب بھی
شاید یہ گمان ہو کہ اول نہ دینا ہی مدنظر ہوگا۔ اور اس وقت گواہ بھی طلب کئے ہوں
انجام کار رضائے تعالیٰ یا اندیشہ ملامت خلق سے حضرت زہرا رض کے پاس آکر اپنی بات کے
بنانے کے لئے یہ حیلہ برپا کیا ہو۔ سو اس کا جواب اول تو یہی ہے کہ

ع:۔ بدگمان وہم کی دارو نہیں لقمان کے پاس

دوسرے ہم نے تسلیم کیا یونہی تھا لیکن غصب فدک اگر برا تھا تو حضرت زہرا
رضی اللہ عنہا کی ناخوشی کی وجہ سے برا تھا جب وہ راضی ہو گئیں تو شیعوں کو رنج کیوں
ہے؟ مگر اس صورت میں بوجہ مخالفت حضرت زہرا کچھ انھیں پر وبال پڑے تو پڑے،
حضرت صدیق کو تو خدا نے بچا ہی لیا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فدک تا حین حیات سرور
کائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و اکمل التحیات ہی کے قبضہ و تصرف میں رہا حضرت
فاطمہ زہرا رض قابض اور دخیل ہوئی تھیں، ورنہ صدیق اکبر کی اس بات کے جواب
میں کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھا ہے کہ تمہیں تمہارا خرچ اور مصلوں
کی محصلی دیکر فقراء وغیرہم کو بانٹ دیا کرتے تھے، یوں نہ فرماتیں کہ اچھا یوں ہی کیا کرو، بلکہ
اپنا قبضہ جتاتیں، جہاں سو، وہاں سوائے ر

جب ہبہ کا دعوے کیا، حالانکہ یہ ایک مخفی بات ہے ہر کوئی اسے نہیں جان سکتا
تو قبضہ تو کھلی بات ہے، اس کے دعوے میں کیا دشواری ہے۔ ہبہ کے دو تین ہی گواہ
تھے، اس کے تو ہزاروں نکل آتے۔ چہ تھا یہ کہ صدیق اکبر رض تہ دل سے یہی چاہتے تھے
کہ فدک سیدۃ النساء رض کے پاس چلا جائے۔ اور ان کی خاطر مبارک پر کسی طرح میل
نہ آئے۔ ورنہ ان کو ان کے ناخوش ہونے میں کیا دشواری تھی؟ اور ان کے خوش کرنے
کی کیا ضرورت ہوتی؟ اور یہ پہلے آیت محمد رسول اللہ کے ذیل میں ثابت ہو چکا ہے۔ کہ
طالب رضا بجز محب اور کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یوں خیال کرے کہ یہ سارا تملق
اور ظاہرداری فقط دفع بدنامی کے لئے تھا۔ تو اول تو لفظ کبر ذالک علیہ فاراد
استرضاءھا، جس کے یہ معنے ہوئے کہ حضرت فاطمہ کا ناخوش ہو جانا انہیں بھاری
پڑا، اور ان کے راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ خود اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی ابوبکر
کو یہ بات بہت شاق تھی، اور اسی واسطے ان کے راضی کرنے کی فکر میں تھے۔
دوسرے اگر بدنامی کا اندیشہ تھا تو مخالفین سے تھا موافقین تو بہرحال
ان کی طرف سے مطمئن ہی ہیں۔ کیونکہ جانتے ہیں۔ کہ اول تو فدک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم
کا مملوک نہ تھا۔ پھر ترکہ نبوی میں میراث نہیں چلتی مگر مخالفین نے اب کونسی کمی کی؟
جو راضی کر کے ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے۔ سو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ جب اپنے
آپ لینا مدنظر نہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیتے، اس عقل و
دانائی پر کہ موافق مخالف ہندو، مسلمان یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں۔ ایسی حرکت
ان سے تصور میں نہیں آتی شیعوں جیسے کم عقل ہوں تو مضائقہ بھی نہ تھا بلکہ نقل
سلیم اس روایت کو دیکھ کر صدیق اکبر کے صدق و دیانت پر شاہد ہے۔ اور بالیقین ان
کو اس مقدمہ میں بری الذمہ سمجھ کر ان کی طرف سے معتذر رہے۔ کہ درصورت صحت روایت
ہبہ فدک بلکہ بہرصورت جو صدیق اکبر نے فدک دینے میں آمادگی کی۔ حالانکہ حضرت سیدۃ
النساء کا یہ منصب نہ تھا کہ کسی طرف ان کا گوشہ خاطر مائل ہو۔ اور پھر اس کے موافق
نہ ہو۔ تو یہ وجہ نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر کو ان کی رضا کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ورنہ اس کے

کیا سمجھتے تھے۔ کہ دنیا دار صاحب اختیار ہو کر حضرت فاطمہ کی ناخوشی سے کچھ دلگیر ہو؟ یا ان کا رنجیدہ ہو جانا۔ ان پر شاق ہو؟ بلکہ تہ دل سے ان کی رضا کے خواہان تھے۔ پھر باایں ہمہ جو فدک نہ دیا۔ حالانکہ اپنے لئے بھی نہ رکھا تو بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ کسی حکم خداوندی کی پابندی اور تابعداری پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کی ناچاری تھی اور مصلحتہائے دینی و دنیوی کی رعایت تھی۔

سو پابندی خداوندی کا تو یہ حال ہے کہ آیت یوصیکم اللہ اور آیت ما افاء اللہ خود اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ معلوم ہو چکا اور اطاعت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے۔ سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے لا نورث ما ترکناہ صدقۃ فرمایا ہوا اور زیادہ اس کی تصدیق کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مصدق اور اس کے موافق روایتیں شیعوں کی معتبر کتابوں سے نقل بھی ہوئی ہیں۔ اور مصلحتوں کی یہ صورت ہے کہ اول تو احکام خدا اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سراپا حکمت اور مصلحت ہی ہوتے ہیں۔ ماسوا اس کے اگر صدیق اکبر بپاس خاطر حضرت زہرا رضہ فدک ان کے حوالہ کر دیتے۔ اور درصورت صحت روایات ہبہ فدک اس بات کی رعایت نہ کرتے کہ ہنوز دعوی ہے، کوئی دستاویز کامل نہیں، کیونکہ حضرت علی اور حضرت ام ایمن بلکہ ان کے ساتھ حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی گواہی موافق قانون خداوندی قابل اعتبار نہیں۔

تو اول تو عام و خاص کے دل میں یہ بات تہ نشین ہو جاتی کہ خلیفہ سب مستغیثوں کو برابر نہیں سمجھتے۔ رو داروں کو بے ثبوت بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ اور سوا ان کے اوروں سے قرار واقعی حجتیں طلب کرتا ہے۔ اور واقعی یہ بات شیوہ انصاف سے بہت بعید ہے۔ معہذا باعث تنفر خلائق اور درہمی امور خلافت جو موجب انتظام دین ہے۔ ہو جاتا، اور پھر یہ آگ ہرگز بجھائے نہ بجھتی، اور اگر بالفرض استحکام خلافت میں کچھ فرق نہ تھا۔ تو یہ وبال کس کی گردن پر رہتا، کہ قیامت تک حکام اسلام یہی شیوہ

برتتے۔ اور ان کے لئے یہ حجت اور دستاویز ہو جاتی، کہ خلیفہ راشد نے جب ایسا کیا۔ تو ہم بھی ایسا کرینگے، رو داروں کو منہ مانگے موتی دینگے غیروں کی نہ سنیں گے۔

دوسرے اس صورت میں لازم آتا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مصداق ہو جائیں اَلْعَائِدُ فِیْ صَدَقَتِہٖ کَالْکَلْبِ یَعُوْدُ فِیْ قَیْئِہٖ یعنی کسی چیز کو کسی کو للہ دے کر پھر اس سے لوٹانے والا ایسا ہے۔ جیسا کتا قے کر کے پھر چاٹ لیوے،، اور وجہ اس کی یہ ہے، کہ جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہوں لا نورث ما ترکناہ صدقۃ تو جو جو چیزیں وقت وفات آپ کے ملک میں تھی۔ سب صدقہ ہو گئی، اور یہ بات باتفاق فریقین ثابت ہے۔ کہ ہبہ بے قبض موجب ملک نہیں ہوتا اور اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ کہ تا دم وفات فدک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہی کے قبض و تصرف میں رہا، تو اگر ہبہ بھی کیا۔ تب بھی قبضہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نہ ہونے پایا تھا۔ رسول اللہ صلے اللہ وسلم ہی کا ہمیشہ قبضہ رہا، تو یہ ہبہ باتفاق فریقین موجب ملک سیدۃ النساء نہ ہوا بلکہ ہمیشہ دم وفات تک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہا۔ تو بیشک یہ بھی صدقہ ہو گیا۔

سو درصورتیکہ دعوائے ہبہ کے قبول نہ ہونے کے بعد بزعم شیعہ دعوے میراث کیا ہو۔ تو جیسے ہبہ کی صورت میں صدیق لغرض پاس خاطر سیدۃ النساء بوجہ مذکور نہ دے سکے میراث کی صورت میں اس وجہ سے نہ دے سکے، کیونکہ وارث کی ملک نائب ملک مورث ہوتی ہے۔ جب یہ متحقق ہو تو وہ پہلے متحقق ہو۔ سو یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز بقول لا نورث ما ترکناہ صدقۃ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ ہو چکی ہے۔ اور ملک سے نکل گئی تھی، پھر ملک نبوی میں آئے، ورنہ جو چیز خارج از ملک مورث ہو۔ اس میں میراث کا جاری ہونا محال ہی، سو ایسی حرکت لغو صدیق اکبر سے کب ہو سکتی تھی؟ جس سے ایسا حرف بیجا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہو۔ معہذا لا نورث، اور صدقۃ ہونا جب صحیح ہو

کہ قابل ملک وارث نہ ہے۔ پھر بھی اگر ملک وارث اس میں جاری ہو تو اجتماع نقیضین لازم لائے۔

علاوہ بریں لانورث ماترکناہ صدقۃ سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ رضائے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وارثوں کو نہ دیا جائے۔ اور رضا حضرت زہراؓ اس طرف تھی۔ کہ ان کو دیا جائے، ناچار ہو کر صدیق اکبر نے رضائے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کو مقدم سمجھ کر اوّل تو ان کے فرمانے کے موافق عمل کیا اور پھر باینہمہ جس طرح سے بن پڑا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی راضی کیا۔ چنانچہ اس حدیث میں مصرح ہے۔ سو یہ کمال انقیاد اور اطاعت صدیق اکبر پر دلالت کرتا ہے۔ کہ بایں ہمہ رضائے سیدۃ النساء کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اور نہ رضائے نبوی کو۔ درصورتیکہ موافق رضائے نبوی کرتا ان کی ناخوشی کا باعث ہوا ہو، تو عقلاً اور نقلاً ان کے ذمہ حضرت فاطمہ کا راضی کرنا لازم نہ تھا چنانچہ ظاہر ہے۔

تیسری مصلحت دنیوی اس میں یہ تھی۔ کہ اگر آپ حضرت فاطمہ زہراؓ کو کچھ بھی حوالہ کرتے، تو پھر حضرت عباس اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین جدا جدا ہر کوئی اپنی جاگیر کے گاؤں مانگتا۔ سو اول تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لغو ہی جاتا۔ کیونکہ متروکہ نبوی اس قدر نہ تھا، جو اس بات کو وفا کرتے، کہ ہر کسی کو اس اس قدر دیجئے۔ دوسرے پھر خلافت ہی کیا ہوئی کہ جو بیت المال کو اس طرح لٹا دیا، اور مستحق غیر مستحق کو نہ دیکھا، پانچواں فائدہ حدیث مجاج السالکین سے یہ ثابت ہوا۔ کہ گو حضرت فاطمہ زہراؓ ایک بار ناخوش ہو گئی تھیں، پر حضرت صدیق اکبر نے عذر معقول کیے۔ اور اسی سبب حضرت فاطمہ زہرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئیں اور خاتمہ بالخیر ہوا۔ اور اسی فائدہ کی غرض سے آج تک اس حدیث کو رکھ چھوڑا تھا۔ اظہر ہے کہ جب رنج مبدل بخوشی ہو جائے۔ تو پھر اس رنج کا زبان پر لانا اہل فہم کے نزدیک نازیبا ہے، خیر الحمد للہ کہ امامیوں ہی کی روایت سے حضرت سیدۃ النساء کا صدیق اکبر سے راضی ہو جانا ثابت ہو گیا۔ اور پھر روایت بھی کیسی؟ معتبر کتابوں کی۔ اور وہ

بھی ایک کتاب کی روایت نہیں۔ بلکہ سوائے مجاج السالکین کے اور کتابوں میں بھی مروی ہے۔

روایات اہل سنت میں سیدہ کی خوشنودی کا بیان موجود ہے

باقی رہیں روایات اہلسنت، سو مدارج النبوۃ اور کتاب الوفا بیہقی اور شرح مشکوۃ میں یہ بات موجود ہے۔ کہ حضرت فاطمہ زہراؓ کا ناخوش ہو جانا جو بظاہر کبیدگی ظاہر سے معلوم ہوتا تھا، ابوبکر صدیق پر شاق ہوا۔ حضرت فاطمہ کے در دولت پر حاضر ہوئے۔ اور حضرت علی سے سفارش کرائی، یہاں تک کہ حضرت زہرا ان سے خوشنود ہو گئیں۔ بلکہ شیخ عبدالحق نے شرح مشکواۃ میں لکھا ہے، کہ اس قضیہ کے بعد صدیق اکبر حضرت زہراؓ کے گھر گئے اور دھوپ میں دروازہ پر کھڑے رہے اور عذر معذرت کی۔ اور حضرت زہراؓ ان سے خوش ہو گئیں۔ اور ریاض النضرۃ میں یہ قصہ بتفصیل مذکور ہے اور فصل الخطاب میں میں بروایت بیہقی شعبی سے یہ قصہ مروی ہے۔

اور ابن سمان نے کتاب الموافقت میں اوزاعی سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر گرمی کے دن حضرت فاطمہ زہراؓ کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور یہ عرض کی کہ میں یہاں سے کبھی نہ ٹلوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ زہرا کو قسم دی کہ تم راضی ہی ہو جاؤ۔ سو وہ راضی ہو گئیں۔ علی ہذا القیاس شیعوں میں سے زیدیوں کی روایتیں بھی بعینہٖ اہل سنت کی روایات کے مطابق اور موافق ہیں۔

ان روایات کے ملاحظہ سے اہل انصاف کو تامل نہ رہے گا کہ صدیق اکبر کے دل میں عداوت خاندان نبوی ذرہ برابر نہ تھی۔ بلکہ ان کی محبت اور اعتقاد اور انکی تعظیم و تکریم میں ایسے فنا تھے کہ باوجود عروج خلافت اور شوکت سلطنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنے آپ کو مثل غلامان غلام اور کمترین خدام سمجھتے تھے۔ سو یہ بات بجز اس کے متصور نہیں کہ مرتبہ کمال صدق و صفا کو پہنچے ہوئے تھے، ورنہ اگر دنیاداری کی

ہوتی۔ تو ایسے امور ان سے ہرگز ظہور میں نہ آتے۔ ان کی بلا کو غرض پڑی تھی۔ کہ اس خان وشوکت پر اتنی منتیں سماجتیں کرتے؟ بلکہ خود سیدۃ النساء کا ان سے روٹھ جانا اس بات پر دلیل کامل ہے۔ کہ حضرت سیدۃ النساء کو صدیق اکبر پر کمال ہی بھروسہ تھا۔ ورنہ کس کے تصور میں آسکتا ہے کہ کوئی فقیر بادشاہان جبار کے سامنے ایسی باتیں کرے اور وہ بادشاہ ان کو ایسی ایسی منتوں سے منائے۔

جنازہ میں شرکت سے روکنے کا افسانہ اور بالبداہت اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اگر بالفرض والتقدیر حضرت فاطمہ زہرا نے مرتے دم اس بات کی وصیت بھی کی ہو کہ میرے جنازہ پر ابوبکر صدیق نہ آنے پائیں تو بہ سبب کمال حیا اور پردہ داری کو یہ وصیت کی ہوگی۔ اور ابوبکر صدیق کو روکنے کی تخصیص اس وجہ سے ہو کہ ان کو حضرت زہرا ایسا سمجھتی تھیں کہ یہ خواہ مخواہ حاضر ہی ہوں گے کیونکہ ان کو جس قدر تعظیم وتکریم اہل بیت رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم پیش نہاد خاطر ہے اوروں کو نہیں۔ معہذا ابوبکر ایک بارگی رنجش سے شرمائے ہوئے ہیں۔ اس کے تدارک کے لئے وہ کوئی موقع ایسا نہ چھوڑیں گے۔ جو اس میں غیر حاضری باعث اشتباہ اور موجب بدگمانی اہلبیت ہو، علاوہ بریں وہ خلیفہ وقت تھے۔ امامت نماز اور امامت جنازہ دونوں انہیں سے متعلق تھیں، اس لئے بالخصوص ان کا نام لے کر منع کیا ہو۔ غرض اگر تخصیص کہیں سے ثابت ہو بھی جائے تو اس کے یہ وجوہ ہیں

سیدہ کی وصیت میں عام ممانعت تھی تخصیص نہ تھی ورنہ علی العموم مردان نامحرم کے حاضر ہونے کی آپ روادار نہ تھیں، اس لئے یہ وصیت کی کہ مجھ کو شب کو دفن کر دینا۔ اور دلیل اس بات کی کہ بوجہ حیا، و پردہ داری علی العموم ممانعت تھی صدیق اکبر ہی کی کچھ تخصیص نہ تھی) یہ ہے، کہ بروایت صحیحہ یہ بات مروی ہے کہ حضرت سیدۃ النساء نے اپنے مرض موت میں فرمایا، کہ مجھے شرم آتی ہے۔ کہ بعد موت بے پردہ مردوں کے سامنے مجھکو لائیں۔ اور اس زمانہ کی عادت یہ تھی کہ عورتوں کو مثل مردوں کے بے پردہ یعنی بے گہوارہ دفنانے کو لے جایا کرتے تھے، اس پر اسماء بنت عمیس نے عرض کیا۔ کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ خرما کی شاخوں سے کجاوہ کی صورت کی نعش بناتے ہیں، حضرت زہرا نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بنا کر دکھلاؤ

حضرت اسماء نے بنا کر دکھلایا۔ تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور تبسم کیا اور ہرگز بعد وفات سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی کسی نے تبسم کرتے نہ دیکھا تھا۔

اس وجہ سے حضرت زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تو ہی مجھے غسل دیجو، اور حضرت علی تیرے ساتھ رہیں کسی دوسرے کو نہ آنے دیجو، اب غور کیجئے کہ غسل کے وقت صدیق اکبر کے آنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی، بلکہ کسی مرد کے آنے کی کوئی سبیل ہی نہیں۔ اس وقت جو اوروں کے آنے سے ممانعت ہوئی۔ تو یہ مطلب ہوا کہ عورتوں کو بھی نہ آنے دیجو۔ سو جیسے عورتوں سے اس قدر شرم ہو، کہ بعد مردن ننگے بدن ان کے سامنے ہونے سے شرمائے۔ وہ مردوں کے جنازہ پر آنے سے کیونکر نہ شرمائے۔ سو اس لئے حضرت علی نے ان کو رات ہی کو دفن کر دیا۔ اور کسی کو اطلاع نہ کی۔

القصہ بوجہ تستر وبباعث حیا حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اس بات کی روادار نہ ہوئیں کہ میرے جنازہ پر کوئی مرد حاضر ہو، ورنہ حضرت ابوبکر کی کوئی تخصیص نہ تھی، اور ہرگز کسی روایت میں اہل سنت کی روایات میں سے یہ بات نہیں، کہ بالخصوص حضرت صدیق اکبر کے نام سے ممانعت ہوئی ہو۔ علی العموم ممانعت ہوئی تھی۔ یہ شیعوں کی شرارت ہے۔ کہ ممانعت ان کے نام لگا دی۔ اور پھر دلاوری یہ کہ عوام اہلسنت کے سامنے ان کی کتابوں کا حوالہ بتا دیتے ہیں، اس پر مولوی عمار علی صاحب نے تو یہ طوفان جوڑے، کہ شرم کی آنکھیں پھوڑ کر صحیح مسلم کا نام لے دیا۔ کہ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا نے وقت وفات یہ وصیت کی تھی۔ کہ ابوبکر اور عمر میرے جنازہ پر نہ آئیں۔ خدا جانے یہ بے حیائی کہاں سے اڑائی ہے، یا ایجاد فقیر ہے؟ کہ اعلاً و مطلقاً جھوٹ بولنے سے شرم نہیں آتی۔ صحیح مسلم کوئی نایاب کتاب نہیں۔ ہزاروں نسخے اس کے موجود ہیں حذف کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر یہ روایت ہو تو کوئی کہیں سے نکالدے۔ فقط اس میں اتنی بات ہے۔

دو کہ جب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ تو حضرت علیؓ نے ان کو شب ہی کو دفن کر دیا۔ اور صدیق اکبر کو اطلاع نہ کی۔ اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔

چنانچہ تسکین خاطر ناظرین کے لئے عبارت روایت صحیح مسلم منقول ہے۔ اس کا ترجمہ بلا کم و کاست یہی ہے۔ جو میں نے عرض کیا، وہ عبارت یہ ہے۔

فَلَمَّا تُوُفِّیَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِیُّ ابْنُ اَبِیْ طَالِبٍ لَیْلًا وَلَمْ یُؤْذِنْ بِهَا اَبَابَکْرٍ وَصَلّٰی عَلَیْهَا عَلِیٌّ

اور اس عبارت سے آگے نہ پیچھے کہیں وصیت کا ذکر نہیں، خدا جانے مولوی صاحب نے اس عبارت میں سے یہ معنے کہ حضرت زہرا نے صدیق اکبر اور حضرت عمر کے نہ آنے دینے کی وصیت کی تھی کون سی لغت اور کونسی زبان اور کون سے محاورہ کے موافق نکال لئے ہیں۔ سبحان اللہ علماء شیعہ کی یہ امانت و دیانت اور صدق گفتار ہے کہ دیدہ و دانستہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، غرض صحیح مسلم میں تو فقط اتنی بات ہے کہ حضرت علی نے حضرت سیدۃ النساء، کو شب کو دفن کر دیا، اور صدیق اکبر کو اطلاع نہ کی، اور اپنے آپ نماز جنازہ پڑھی۔ اور یوں بھی ایک قول ہے۔ کہ حضرت عباس نے چند اہل بیت کے ساتھ نماز پڑھ کے رات ہی کو دفن کر دیا، مگر بہر حال صحیح مسلم میں وصیت کا ذکر معلوم نہیں ہوتا۔

اور اگر بالفرض کسی روایت میں اس باب میں کوئی وصیت بھی ہو تو اس بات کی وصیت ہوگی کہ مردوں میں سے میرے جنازہ پر کوئی نہ آئے، چنانچہ بعضی روایات میں آیا ہے کہ دوسرے دن جو حضرت صدیق اور حضرت عمر اور سوا ان کے اور اصحاب رضی اللہ عنہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تعزیت کے لئے حاضر ہوئے تو شکایت کی کہ ہمیں آپ نے خبر نہ کی، ہمیں بھی شرف نماز اور شرف حضور میسر آجاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو مجھے رات ہی کو دفن کر دینا تاکہ میرے جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ سو میں نے ان کی وصیت کے موافق عمل کیا ہے۔ غرض اس روایت سے اور یہی روایت مشہور ہے۔

علی العموم نامحرموں کے آنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تخصیص کا اشارہ بھی نہیں۔

مگر شیعوں کی بدگمانی کا یہ حال ہے۔ کہ اہل بیت کی تمام حرکات سکنات گو مطابق میعٹیں یا نہ بیٹھیں، صدیق اکبر کی عداوت پر محمول کرتے ہیں اور حمل و نقل کا کچھ لحاظ نہیں کرتے، ان کی وہی مثل ہے۔ جیسے مشہور ہے سنا ہوگا۔

شعر[۱] سگے را چوں کلوخے بر سر آید — ز شادی بر جہد کیں استخواں است

وگر نعشی دو کس بر دوش دارند — لئیم الطبع پندارد کہ خوان است

القصہ ابوبکر صدیق کی ممانعت کی یا حضرت عمر کی ممانعت کی کہیں تخصیص و تصریح نہیں۔

سیدہ کا جنازہ صدیق ہی نے پڑھایا بلکہ فصل الخطاب کی روایت سے تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ دگرگوں ہے۔ اس لئے کہ اس میں یوں مذکور ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشا کی نماز کے وقت حاضر ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رحلت مغرب عشاء کے بیچ منگل کے دن رمضان شریف کی تیسری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے چھ مہینہ بعد ہوئی تھی اور آپ کی عمر شریف اٹھائیس برس کی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بموجب فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیش امام ہوئے، چار تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی، اس روایت سے تو قدر شناسا علی رضی اللہ عنہ کو بھی متحقق ہوتا ہے کہ حضرت سیدۃ النساء نے ہرگز صدیق اکبر کے نہ آنے دینے وصیت نہ کی تھی۔ کیونکہ جب حضرت امام حسین یہ عزم رکھتے ہوں کہ سعید بن العاص کو (حالانکہ وہ کچھ مودب نہ تھا) امام نہ ہونے دیں، تو حضرت علی تو حضرت علی ہیں۔

ادھر صدیق اکبر کا یہ ادب کہ تھوڑے ہی دنوں پہلے کیا کیا تاک رگڑا چکے تھے

[۱] کتے کے سر پر جب پتھر آ کر لگتا ہے — تو اس کو ہڈی سمجھ کر خوشی سے اچھلتا ہے

اور اگر دو شخص کو نعش اٹھائے ہوئے جاتے دیکھے — تو یہ بد طینت اسکو دسترخوان سمجھتا ہے

سو اگر حضرت فاطمہ وصیت کرتیں، تو اول تو صدیق اکبر کو دے دلوا دیتے، ورنہ نماز کا تو کیا ذکر؟ کیونکہ اپنی شجاعت اور صدیق اکبر کے ادب کے باعث کوئی وجہ تقیہ کی بھی نہ تھی۔ القصہ صدیق اکبر کی ممانعت کی کوئی روایت نہیں، ہاں ایسی روایتیں ہیں جن سے عموم ممانعت ثابت ہے، اور اگر بالفرض تخصیص کر کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا نام بھی ہو تو حضرت ابوبکر کے منع کی وجوہ تو مذکور ہو لیں، باقی رہے حضرت عمر سو اول وجہ میں تو وہ صدیق اکبر کے شریک ہی ہیں۔ اور علی ہذا القیاس دوسری وجہ میں بھی۔ کیونکہ یہ صدیق اکبر کے سامنے بمنزلہ وزیر مشیر تھے۔ سو صدیق اکبر کے سب کام انہیں کے مشورہ سے ہوتے تھے، سو اگر حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کو (بوجہ نہ دینے فدک کے) کچھ صدیق اکبر سے رنج تھا، اور اس سبب سے وہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا سے شرمائے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر سے پہلے تھا، اور یہ ان سے پہلے شرمائے ہوئے تھے۔

باقی رہی تیسری وجہ اس میں بھی حضرت عمر صدیق اکبر کے ایک وجہ سے شریک ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر بمنزلہ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن نہ تھا کہ صدیق اکبر بلائے جائیں، اور حضرت عمر کو خبر نہ ہو۔ سو اگر بالفرض والتقدیر کسی روایت میں (اہلسنت کی) ممانعت تخصیص نام ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی نکل آئے۔ تو ان کے وجوہ یہ ہیں جو میں نے عرض کئے۔ عداوت اور بغض صدیق اکبرؓ یا حضرت عمر نہ تھا۔ اور دلیل عقلی اس بات کی کہ حضرت صدیق اکبر کا حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ پر نہ بلوانا۔ بوجہ حیاء سیدۃ النساء اور بباعث پردہ داری حضرت زہرا رضی اللہ عنہا تھا، نہ بوجہ کدورت اور ناخوشی) یہ ہے کہ اگر بوجہ کدورت اور ناخوشی ہوتا تو اس وجہ سے ہوتا کہ مبادا صدیق اکبرؓ ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھائیں۔ کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ امامت نماز پنجگانہ اور امامت نماز جنازہ انہی سے متعلق تھا۔ سو یہ بات کسی وجہ سے درست نہیں ہو سکتی۔

اس لئے کہ باجماع مورخین طرفین شیعہ سنی جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ باہر لائے۔ امام حسینؓ نے سعید بن العاص کو جو امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا امیر تھا۔ نماز پڑھانے کے لئے اشارہ کیا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلے اللہ

علیہ وسلم کی سنت یوں نہ ہوتی، کہ کہ امام جنازہ امیر ہوا کرے۔ تو تجھے ہرگز آگے نہ بڑھاتا سو معلوم ہوا کہ حضرت سیدۃ النساء نے حضرت ابوبکر کی نماز پڑھانے کے اندیشہ سے یہ وصیت نہ فرمائی تھی۔ ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرح حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے خلاف کرتے، اور ظاہر ہے کہ سعید بن العاص ہزاروں مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کمتر تھے۔ خاص کر لیاقت نماز میں۔

کیونکہ کوئی چھ ہی مہینہ گذرے تھے۔ جو سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام نماز تمام مہاجر و انصار کا کیا تھا۔ اور اس باب میں کمال ہی تاکید فرمائی تھی۔ پھر کیونکر احتمال ہو کہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اس تھوڑی سی مدت میں یہ تمام واقعات بھول گئی ہوں، الحاصل دلائل نقلیہ و عقلیہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ شیعوں کا یہ وہم کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کو جنازہ پر آنے دینے کی روادار نہ تھیں، عقل کے نہ ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور ان وجوہ کو بھی جانے دو، ہمیں فقط روایت مجاج السالکین جو ابھی مرقوم ہوئی ہے کافی ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا اگر صدیق اکبرؓ کے (بالخصوص) جنازہ پر آنے کی روادار نہ ہوتیں، تو بوجہ رنج روادار نہ ہوتیں۔ سو اس روایت سے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے دل مبارک میں اگر بالفرض رنج تھا بھی تو وہ زائل ہو گیا تھا، اور دونوں باہم راضی خوشی ہو گئے تھے۔

مگر کوئی شیعہ منافق پیشہ حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو بھی نعوذ باللہ منافق سمجھے، اور یوں کہے کہ یہ راضی ہو جانا فقط ظاہر داری کے لئے ہو گا۔ تو یہ بات علیحدہ ہے، پر یہ بات شیعوں ہی کے سمجھنے کی ہے، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ جیسے وہ خود ہیں ایسے ہی بزرگان دین کو سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے۔

؎ کار پاکان را قیاس از خود مگیر ❊ گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

اور بایں ہمہ پھر کیا ہوتا ہے۔ شیعوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ ممکن نہیں۔

خدا و رسول راضی ہیں تو سیدہ کی ناراضی سے کچھ نقصان نہیں

اگر بالفرض والتقدیر بزعم شیعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر سے اس جہان سے ناخوش ہی گئی ہوں۔ تو درصورتیکہ خدا و رسول خوش ہوں۔ کچھ نقصان نہیں، اور جو کچھ نقصان تھا بھی۔ تو اس کی تدبیر اور اس کا بندوبست خود خداوند کریم نے لکھو کھا برس پہلے کر دیا۔ سورہ حجر میں فرماتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ہ اس آیت میں متقیوں کے جنت میں داخل ہونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے "اور نکال ڈالی ہم نے جو کچھ ان کے دلوں میں خفگیاں تھیں، وہ بھائی ہو گئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ متقیوں اور پرہیزگاروں میں آپس میں رنج بھی ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ رنج انکو کچھ مضر نہیں ہوتے۔ بعنایت خداوندی جنت میں جانے کے حارج نہیں ہوتے، بلکہ جنتی ہونے کی وجہ سے وہ رنج خود ہی زائل ہو جاتے ہیں۔

سو اگر بالفرض بزعم شیعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر سے رنجیدہ ہی اس جہان سے گئیں ہوں، تب اس آیت بشارت آمیز نے صدیق اکبر اور ان کے ہواخواہوں کی تسلی کر دی۔ اور شیعوں کی آنکھوں میں خاک ڈال دی، مگر شاید کوئی شیعی چرب زبان میں سے تکرار کرے۔ کہ ہر چند اس آیت میں یہ بشارت ہے۔ جو مذکور ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اوروں ہی کے لئے یہ بشارت ہے جن سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ناخوش ہوں۔ ان کے لئے اس بشارت میں حصہ نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شان میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ طرفین ہے۔ اَلَا اِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِّنِّي يُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا وَيُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ یعنی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے "کہ یاد رہے یہ بات کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ جس سے اسے تکلیف ہو۔ اس سے مجھے بھی تکلیف ہو جس بات سے وہ گھبرائے۔ اس سے میں بھی گھبراتا ہوں۔ سو جو شخص اسے غصہ کرے گا۔ وہ مجھے غصہ کرے گا۔ فقط" اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ

وسلم کے غصہ کرنے والا کون ہوتا ہے۔

بضعۃ منی سے اشکال اور اس کے جوابات

سو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلے ہی رعایت کر گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو اسے غصہ کریگا۔ وہ مجھکو غصہ کرے گا، اور یوں نہیں فرمایا مَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ غَضِبْتُ عَلَيْهِ یعنی جس پر وہ غصہ ہوں گی اس پر میں بھی غصہ ہوں گا۔ ظاہر ہے کہ کسی کو غصہ کر دینے کی یہ صورت ہے کہ دیدہ و دانستہ کسی بات یا کلام سے کوئی شخص اسے غصہ لانے کا ارادہ کرے، سو کمال نادانی کی بات ہے کہ کوئی شخص صدیق اکبر کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ انہوں نے بالقصد حضرت فاطمہ کو غصہ دلایا تھا، جو جانتے تھے، وہ تو جانتے ہی تھے۔ پر وہ جو نہ جانتے تھے، اب تو ان پر بھی واضح ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس قصہ میں معذور تھے، اور باینہمہ پھر عذر معذرت کیا کیا کچھ نہ کیا۔

روایات کو ٹٹولئے تو معلوم ہو جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکرر یوں عرض کیا کہ وَاللّٰهِ يَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّ قَرَابَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ۔ یعنی اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ کرنا، اور ان کی خدمت کرنا بہت ہی زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اپنے قرابتیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے" اور جب ان کی طرف سے اغضاب ہی نہ ہوا یعنی انہوں نے بالقصد ان کو غصہ نہ دلایا۔ بلکہ حتی المقدور اس کا بچاؤ ہی کیا ہو، تو وہ پھر کس طرح اس وعید میں داخل ہوں گے اگر بالفرض کچھ ہوا بھی ہو تو اتنا ہوا ہو کہ حضرت فاطمہ بمقتضائے بشریت غصہ ہو گئی ہوں اس کو اگر ہم مان لیں۔ اور ان توجیہات کا جو مذکور ہو لیں۔ کچھ خیال نہ کریں، تو بیش بریں نیست کہ موافق وعدہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ قیامت کو سینہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا سے وہ رنج نکالا جائے۔ اور دونوں میں سے کسی کو وہ آپس کی شکر رنجی مضر نہ ہو۔

بضعۃ منی کا شان ورود۔ اور حضرت علی کا سیدہ کو بارہا غضبناک کرنا

اور اگر قطع نظر غصہ کرنے سے حضرت

فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا خود بخود غصہ ہو جانا بھی اس وعید میں داخل کر دیں تو شیعوں کو ہم سے زیادہ مشکل پڑے گی کیونکہ ابوبکر صدیق تو معصوم نہیں۔ اگر ان سے کوئی حرکت بیجا ہو جائے اور اس سبب سے کسی وعید میں شامل ہو جائیں۔ تو کچھ بعید نہیں، پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ تو شیعوں کے نزدیک معصوم تھے، ان سے جو بارہا مقدمات خانگی میں حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کو رنج ہو گیا ہے۔ تو اس کا کیا سبب؟ بلکہ اس فرمانے کا الا ان فاطمہ بضعۃ منی یوذینی الخ سبب بھی ہوا تھا کہ حضرت زہراؓ اور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اس وجہ سے فی الجملہ ناچاقی ہو گئی تھی کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا پیام بھیجا تھا، اس میں حضرت زہرا رضی اللہ عنہا روتی ہوئیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس تقریب سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بطور خطبہ یہ ارشاد فرمایا الا ان فاطمۃ بضعۃ الخ۔ سو اگر فقط حضرت فاطمہ زہرا کے غصہ ہو جانے کے باعث صدیق اکبر وعید مذکور میں داخل ہو جائیں، تو حضرت امیر پہلے داخل ہوں گے۔ کیونکہ اول تو خطبہ انہیں کے سمجھانے سنانے کو فرمایا تھا، دوسرے حضرت صدیق اکبر تو بوجہ ارشادات خداوندی اور ارشاد پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم فدک کے نہ دینے میں معذور تھے۔ اور پھر باینہمہ باشارہ حدیث مجاج یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکم خداوندی نہ ہوتا، تب بھی ان کے دل میں یہی تمنا تھی، کہ فدک حضرت فاطمہؓ ہی کے پاس رہے لیکن حضرت علی نے جو ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو انکو کیا دشواری تھی؟ اور پھر یہ ہی نہیں کہ تہ دل سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی کے موافق ہوں۔

علی ہذا القیاس ایک بار حضرت امیر حضرت زہرا رضی اللہ عنہا سے رنجیدہ ہو کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور مسجد میں زمین ہی پر بدون تکیہ بچھونے کے سو گئے۔ جب پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو اس قصہ کی خبر ہوئی، آپ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تیرے چچا کا بیٹا یعنی علی مرتضےٰ کہاں ہیں؟ عرب میں ایسے موقع میں اکثر ایک دوسرے کو چچا کا بیٹا بولتے ہیں، خیر حضرت زہرا نے عرض کیا کہ مجھ سے

لڑ کے نکل گئے اور دوپہر کو بھی یہاں نہیں سوئے، اور یہ دونوں روایتیں کچھ شیعوں ہی کی کتابوں میں نہیں شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں

پیغام نکاح کوئی گناہ نہ تھا مگر سیدہ کو بشریت کی وجہ سے غصہ آیا۔

باقی روایت اول سے سوائے مطلب پیش آمدہ کے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آخر بشر تھیں بمقتضائے بشریت غصہ آجاتا تھا۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے موافق حکم خدا و رسول صلے اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ یا کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا۔ پھر اب غصہ کی وجہ بجز مقتضائے بشریت اور کچھ نہیں۔ بلکہ دونوں روایتوں سے اتنی بات نکلتی ہے کہ معصوم کو بمقتضائے بشریت غصہ آجانا محال نہیں بلکہ بسا اوقات پیش آجاتا ہے۔ کیونکہ حضرت علی اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہما دونوں ہی معصوم تھے، پھر جو آپس میں رنج ہو جاتا تھا، تو قصوروار کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ بجز اس کے کہ بمقتضائے بشریت ایک کو دوسرے کی نسبت کچھ خیال فاسد دل میں آجائے۔ اور اس سبب سے بے اختیار غصہ چڑھ جائے، اور اس غصہ میں دوسرے کی معصومیت کا بھی لحاظ نہ رہے۔ اور کوئی صورت نہیں۔ سو اسے ہی ہم بمقتضائے بشریت کہتے ہیں۔

اسی طرح اگر حضرت فاطمہ کو صدیق اکبر پر بھی بمقتضائے بشریت غصہ آجائے اور ان کا کچھ قصور نہ ہو تو کیا دشواری ہے؟ اور کیوں انکار ہے۔ القصہ فقط بمقتضائے بشریت حضرت فاطمہ کے غصہ ہو جانے سے، بے اس کے کہ کوئی دیدہ و دانستہ بے وجہ ان کو غصہ دلائے، آدمی وعید مذکور میں داخل نہیں ہو سکتا، علاوہ بریں سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشریت کی وجہ سے حضرت ہارون پر جو ان کے بڑے بھائی تھے اور نبی مقرب تھے غصہ ہوئے یہاں تک کہ سر اور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر کھینچنے کی نوبت آئی اور یہ سب کو یقین ہے کہ حضرت ہارون علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام نے کچھ حضرت موسےٰ علیہ السلام کے غصہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کیونکہ نبی کا بالقصد غصہ دلانا کفر ہے۔ مگر تاہم حضرت موسےٰ علیہ السلام کے غصہ ہونے میں کچھ شک نہیں، پس اگر اتنے غصہ ہو جانے

کو بول گیئے کہ یہ بھی اغضاب ہے یعنی انہیں کی طرف سے ہے تو نعوذ باللہ حضرت ہارون کو یوں کہنا پڑے کہ اس وقت کافر تھے

اس سے انصافاً معلوم ہو گیا کہ فقط بمقتضائے بشریت کوئی شخص کسی پر غضبناک ہو جائے۔ تو اسے اغضاب نہیں کہتے، اور یہی قضیہ بعینہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا ہے کہ صدیق اکبر کی طرف سے اغضاب نہیں۔ فقط حضرت فاطمہ کی طرف سے اگر تھا تو غضب تھا۔ ہاں ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اغضاب ہوا ہے، تو بظاہر حضرت علی سے ہوا ہوگا کیونکہ وہ خاوند تھے ان کو اتنا ادب نہ ہوگا جتنا ابوبکر صدیق کو ہوگا۔ علاوہ بریں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو بوجہ معلوم سنا کر خطبہ کا پڑھنا جس میں لفظ اَغْضَبَهَا اس بات پر گو نہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اغضاب پیش آیا ہو اور جب صدیق اکبر کی طرف سے اغضاب ہی نہیں۔ تو پھر ان کو وعید فمن اغضبها اغضبنی میں داخل سمجھنا اپنے آپ اس میں داخل ہونا ہے۔

کیونکہ عقیدہ باطل سے حضرت فاطمہ اور خود بدولت جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ وسلم بھی بیشک ناخوش اور غصہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں رسول اللہ صلے اللہ وسلم کو دو وجہ سے رنج اور غصہ ہوگا، ایک اپنے آپ؟ دوسرا حضرت فاطمہ کے سبب سے، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ یہ اغضاب ہے، فقط بمقتضائے بشریت ہی نہیں۔ اس سبب سے بالیقین معلوم ہوتا ہے کہ بدگویان صدیق اکبر بانیطور کہ وہ وعید فمن اغضبها میں داخل ہیں، آپ اس وعید میں داخل ہوتے ہیں۔ سو جو لوگ بدگویان مذکور میں سے اس دار دنیا سے چل دیئے، وہ تو چل دیئے، پر مولوی عمار علی صاحب وغیرہ باقیان شیعہ تو اپنا فکر کریں۔ اور اس عقیدہ بد سے باز آکر توبہ و استغفار سے تدارک فات کریں آئندہ نہ مانیں تو وہ جانیں۔

ما نصیحت بجائے خود کردیم ٭ روزگارے درین بسر بردیم
در نیارد بگوش اندرکس ٭ بر رسولاں بلاغ باشد وبس

اب لازم یوں ہے کہ بس کیجئے کیونکہ کوئی بات مولوی صاحب کی خرافات میں

سے باقی نہیں رہی جس کا جواب شافی بفضلہ تعالےٰ اس رسالہ میں درج نہیں ہوا اس لئے ان کلمات طیبات پر ختم کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سید المرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔

والمرجو منک یا ارحم الراحمین ان تتقبل ھذا الرسالۃ منی وتجعلہ وسیلۃ لی الی رضائک ورضاء رسولک صلی اللہ علیہ وسلم ورضاء اھل بیتہ ورضاء صاحبہ فی الغار سیدنا ابی بکر الصدیق رض ومن سواہ من اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین وان تغفرلی وترحمنی بھذہ الاوراق فی الدنیا والآخرۃ مغفرۃ ورحمۃ تحیط بھا والدی وآبائی الماضیین وذریتی واقاربی واحبابی خصوصاً من امرنی بالقیام لھذا الامر العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ط

خلاصہ جواب طعن فدک

جو صاحب مذہب تشیع کی حمایت کریں اور بوجہ ہبہ فدک یا میراث فدک اول الخلفاء کی شکایت کریں۔ تو ان کو درصورت دعوے ہبہ یہی تین مقدموں کا اثبات لازم ہے۔ اور درصورت ادعائے میراث بھی تین باتوں کی تحقیق واجب، ہبہ کی صورت میں تو اول مملوک نبوی ہونا فدک کا، دوسرے وقوعہ ہبہ۔ تیسرے۔۔۔ حصول قبض، علےٰ ہذا القیاس درصورت میراث اول مملوک نبوی ہونا فدک کا۔ دوسرے زوال حیات سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم اور انقطاع تعلق روح پر فتوح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو جسم اطہر سے حاصل تھا تیسرے عموم خطاب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم بھی داخل زمرہ مخاطبین ہوں، اور یہ خطاب مثل دیگر اشخاص مومنین امت آپکو بھی شامل ہو لیکن واقفان فن مناظرہ اور دانشوران فنون دانشمندی پر واضح ہوگا کہ اہل سنت کو جو اس مقدمہ میں مدعا علیہ ہیں قبل استماع دلیل دعوے فقط لانسلم اعنی محض انکار اور عدم تسلیم ہی کافی ہے۔ دونوں دعوؤں کے تینوں مقدموں میں سے

اگر ایک مقدمہ کو بھی تسلیم نہ کریں، تو نہ خود مورد طعن ہو سکیں، اور نہ طعن مذکور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر واقع ہو سکے۔ چہ جائیکہ تینوں مقدموں کو نہ مانیں؟ اور اگر مقدمات ثلثہ مذکورہ کو بدلائل واضحہ باطل کر دیں، یا ان کے نقائض کو بدلائل قوی ثابت کر دیں، تو پھر تو میدان ان سے کون لے سکتا ہے؟

ناظران ہدیۃ الشیعہ پر مخفی نہ رہے گا۔ کہ ہبہ کے تین مقدموں میں سے آخر کے دو مقدمے تاہنوز اہل تشیع سے ثابت نہ ہوئے، بلکہ موافق اصول اہلسنت ان کی نقیض ثابت ہے، اور میراث کے دعوے کے لئے جو تین مقدمے موقوف علیہ ہیں ان میں سے دوسرے مقدمہ کا ابطال اگرچہ بظاہر دشوار ہے، پر اس ہیچمدان نے اس باب خاص میں ایک رسالہ مسمی بآب حیات لکھا ہے۔ جس کی ضخامت پانچ چھ جز سے کم نہ ہو گی، اور انشاء اللہ اگر منشی محمد حیات صاحب کی عنایت ہے، تو وہ بھی قریب ہی مطبوع ہو کر مطبوع طبائع ہوتا ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد امید خدا سے یوں ہے کہ شیعوں میں سے بھی جو صاحب انصاف پرست ہوں۔ حق بول اٹھیں، ورنہ اہل حق یعنی اہل سنت کا تو کام یہی ہے کہ حق کو حق مانیں۔ اور باطل کو باطل جانیں۔

رہا اول مقدمہ ہبہ اور میراث کا، اور تیسرا مقدمہ میراث کا، ان کا ابطال اور ان کی نقیضوں کا اثبات رسالہ ہدیۃ الشیعہ میں تبفصیل تمام مرقوم ہے، خصوصًا مقدمہ اولیٰ ہبہ و میراث کا ابطلان تو ایسا واضح ہے کہ بجز تیرہ دروں کور باطن اسمیں ادنےٰ کوئی متامل نہ ہو گا، یہی وجہ ہوئی کہ ۱۲ھ میں جو مرکز دائرہ تشیع نصیر الدین طوسی ثانی نور اللہ شوستری مکانی مفتی محمد قلی کے قرۃ العین مولوی حامد حسین جو اثنا سفر لدھیانہ وارد میرٹھ ہوئے اور میر مہدی علی فرزند ارجمند عمر دراز علی خان کے مکان پر تشریف لائے، اور یہ پریشان روزگار جو بوجہ پابندی علاقہ مطبع مجتبائی وہاں ان دنوں شب و روز گذار رہا تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کچھ اس قسم کا مذکور آیا، تو مولوی صاحب موصوف کو کچھ جواب نہ آیا۔ واللہ لا یھدی القوم الظلمین۔ فقط

تمت

۵۰۱

بارھویں صدی ہجری کی لاجواب و نادر روزگار تالیف

ہدیہ مجیدیہ ترجمہ تحفۂ اثنا عشریہ

مؤلفہ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ابن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

ترجمہ۔ مولانا محمد عبدالمجید خاںؒ

پیدائش و تاریخ مذہب شیعہ۔ ان کی مختلف شاخیں۔ ان کے اسلاف علماء اور کتب کا بیان، الوہیت، نبوت، امامت اور معاد کے بارے میں ان کے عقائد۔ ان کے مخفی مسائل فقیہہ۔ صحابہ کرام ازواج مطہرات اور اہل بیت کے حق میں ان کے اقوال و افعال اور مطاعن۔ مکائد شیعہ کی تفصیل۔ ان کے اوہام تعصبات ہفوات کا بیان تولا اور تبرا کی حقیقت۔ یہ سب باتیں مذہب شیعہ کی معتبر کتب سے نقل کی گئی ہیں۔ نیز ان امور کا احاطہ۔ کمال تہذیب کے ساتھ ان پر سیر حاصل بحث بشمار غلط فہمیوں کا ازالہ اور مدلل جوابات اس عجیب و غریب پیرایہ میں قلمبند کئے گئے ہیں جو فی الحقیقت شاہ صاحب ہی کا حق تھا۔ اس تالیف سے ہزارہا بندگان خدا کے شکوک مٹ گئے اور عقائد درست ہو گئے یہ کتاب متلاشیان حق کے لئے مشعل راہ ہے۔ قیمت مجلد اڑتالیس روپے ۔/۴۸

ملنے کا پتہ:

نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ

ازالۃ الخفاء
عن
خلافۃ الخلفاء

تالیف

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

مع ترجمہ

مولانا اشتیاق احمد، مولانا محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کتاب کے مقدمہ میں فرمایا ہے، کہ اس زمانہ میں بدعت تشیع آشکار ہوگئی ہے اور عام لوگوں کے دل اُن کے (پیدا کردہ) شبہات سے متاثر ہوگئے ہیں اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفاء راشدینؓ کی خلافت کے ثبوت میں شک کرنے لگے ہیں۔ (حالانکہ) ان بزرگوں کی خلافت اصولِ دین میں سے ایک اصل ہے۔ جب تک لوگ اس اصل کو مضبوط نہ پکڑیں گے کوئی مسئلہ مسائلِ شریعت سے مضبوط نہ ہوگا۔ جو شخص اس اصل کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ فی الحقیقت تمام فنونِ دینیہ کو مٹانا چاہتا ہے۔"

اس کتاب میں مقامِ خلافت، خلفائے راشدینؓ کے فضائل و مناقب، تفضیل حضرات شیخینؓ، صحابہ کرامؓ کے مراتب، خلفاء راشدینؓ کے کارنامے، نیز امورِ خلافت سے متعلق تمام اہم اور معرکۃ الآراء مسائل پر مدلل بحث ہے۔

یہ کتاب حضرات خلفائے راشدینؓ کی بہترین سیرت اور بہترین تاریخ ہونے کے علاوہ بہت سے دینی علوم و معارف کا خزانہ ہے، اور اپنے موضوع میں بے نظیر ہے۔

ادارہ نے اس کتاب کے شایانِ شان معیاری کتابت و طباعت کا اہتمام کیا ہے۔ ایک کالم میں اصل متن فارسی اور اس کے مقابل اردو ترجمہ درج ہے۔

۴ حصوں میں۔ قیمت مکمل سیٹ ۱۶۰ روپے

ملنے کا پتہ: نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
یا مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ

آفتابِ ہدایت
ردّ
رفض و بدعت

مؤلفہ

شیر اسلام رئیس المناظرین ابوالفضل

مولانا محمد کرم الدین صاحب دبیر

آٹھویں بار چھپ کر منظرِ عام پر آ گئی

ردّ شیعیت میں
لاجواب کتاب

رنگین ٹائیٹل • کاغذ سفید • صفحات ۳۸۴۔

قیمت اٹھارہ روپے۔/۱۸

ملنے کا پتہ: نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
یا مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ

تاریخ مذہب شیعہ

حسب ایما و پسند فرمودہ مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنوی

اس کتاب میں مذہب شیعہ کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے اور مذہب شیعہ کے بانی ابن سبا یہودی کے حالات پوری تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں کہ اس منافق نے کس طرح از راہ نفاق اسلام قبول کیا اور پھر مسلمانوں میں افتراق و انتشار ڈالنے میں اسلام میں نئے مذہب کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا یہ کتاب متلاشیان حق کے لئے ایک عظیم تحفہ ہے۔ عکسی طباعت سفید کاغذ بکس بورڈ جلد سائز ۲۰×۳۰/۸ صفحات ۲۵۶۔ قیمت :- ۶/۷۵ روپے۔

ھدایۃ الشیعہ

از حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ

جس میں مسئلہ خلافت کی تفصیلی بحث۔ تقیہ کا پس منظر، کتاب اللہ میں صاحب مقام اور مشاجرات صحابہ کی بحثیں، فدک اور وراثت انبیاء اور ایسے ہی دوسرے بے شمار موضوعات پر سیر حاصل تبصرہ اور شیعوں کی طرف سے کئے گئے دس سوالوں کے شافی و ممسک جواب۔ یہ کتاب عرصہ سے نایاب تھی اب تیار ہے عکسی طباعت سفید کاغذ سائز ۲۳×۸/۸ صفحات ۱۲۰ بکس بورڈ جلد قیمت ۶/- روپے

ملنے کا پتہ

نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور

مکتبہ نعمانیہ: اردو بازار: گوجرانوالہ

ایک اہم کتاب

تہذیب النسواں

جس کا مطالعہ:-

ہر مسلمان خاتون کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ • اپنے کردار کو ارفع و اعلےٰ • اپنے اخلاق کو بلند و پاکیزہ • اپنی زندگی کو روشن و تابناک اور رضائے الٰہی کے مطابق بنا سکے اور خدا پرستی اور دینداری و حق پسندی کا سبق پڑھ سکے۔ مجلد اعلیٰ کاغذ قیمت ۱۸/-

آخرت کی فکر پیدا کرنے والی

کتابیں

مرنے کے بعد کیا ہوگا مع موت کا منظر مولانا عاشق الٰہی	۱۲ — ۰۰		
مسلمان کا سفر آخرت	۱۵ — ۰۰	دوزخ کا کھٹکا	۵ — ۰۰
عالم عقبے	۱۵ — ۰۰	جنت کی کنجی	۶ — ۰۰
موت کا کھٹکا	۱۳ — ۰۰	جنت کی ضمانت	۲ — ۲۵
موت کی یاد	۳ — ۰۰	جنت کا منظر	۲۵ — ۰۰

ملنے کا پتہ

نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار۔ لاہور

مکتبہ نعمانیہ۔ اردو بازار۔ گوجرانوالہ

آیاتِ بیّنات

کامل دو جلد چار حصّے

محسن الملک سیّد محمد مہدی علی خان کی تردید شیعہ میں وہ ضخیم اور سنجیدہ تحقیقی کتاب جس کا صحیح جواب آج تک علمائے شیعہ نہ دے سکے اور جس نے ہزارہا انسانوں کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خود شیعہ مذہب کی کتب اور ان کے علماء کے اقوال سے ہی ان کا ردّ لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب عرصے سے نایاب تھی اب ہمارے یہاں اس کے چاروں حصّے دو جلدوں میں تیار ہو گئے ہیں۔ سفید کاغذ۔ جلد اول ۱۸/۔ جلد دوم ۱۸/۔ کامل دو جلد ۳۶/۔

تاج کمپنی کے قرآن مجید

عربی۔ فارسی۔ اُردو۔ اسلامی۔ مذہبی۔ تاریخی ادبی۔ اصلاحی کتب کے علاوہ مدارسِ عربیہ کی درسی کتابیں اور قاعدے سیپارے تھوک و پرچون نرخوں پر حاصل کریں۔

ملنے کا پتہ:

ملنے کا پتہ: نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
مکتبہ نعمانیہ۔ اردو بازار گوجرانوالہ

نے فدک کو ان کے نام لکھ کر فدک کو ان کے حوالہ کر دیا۔

یہ روایت ہر چند، چند بار گذر چکی ہے۔ لیکن بحکم نقل مشہور هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ یعنی مشک کو جتنا گھسو، یا جتنی بار لگاؤ زیادہ ہی زیادہ خوشبو دے گا، بار بار اس روایت کے نقل کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ بھی ایک حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کی کرامت ہے کہ حق نے تہمت رنج ناحق سے شیعوں ہی کے منہ سے ان کو بری کر دیا اودھر صدیق اکبر کی نیک نیتی کو ماننا چاہیئے، کہ کیسے طوفان سے ان کو بچالیا۔ اور شیعوں ہی کے منہ سے ان کے سب اعتراضوں کا جواب دلوا دیا۔ اب کسی شیعہ مذہب کا منہ نہیں، کہ بہ نسبت صدیق اکبر بوجہ غصب فدک اہلسنت سے نالشی ہو۔ اس روایت نے شیعوں کے سب دعوؤں کو ڈھس مس کر دیا، ہبہ کا ہو، یا میراث کا، وصیت کا یا کسی اور وجہ کا، بہر حال خداوند ذوالجلال نے شان وکفی اللہ المومنین القتال دکھادی۔

اور اگر بالفرض بفرض محال یہ روایت شیعوں کی ایسی معتبر کتابوں میں نہ ہوتی۔ تب دوسری دستاویز حضرت صدیق اکبر کے بری الذمہ ہونے کی موجود ہے۔

محاج السالکین میں جو عمدہ کتب فرقہ امامیہ ہے۔ اور نیز اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی کے لکھنے کا وعدہ بہت دور سے ہم کرتے چلے آتے ہیں، سو آج بفضلہ تعالےٰ اس کا وقت آپہنچا كُلُّ أَمْرٍ مَرْهُونٌ بِوَقْتِهٖ خیر یہ روایت قابل مطالعہ ہے۔

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا رَأَى إِنَّ فَاطِمَةَ انْقَبَضَتْ عَنْهُ وَهَجَرَتْهُ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي أَمْرِ فَدَكَ كَبُرَ ذٰلِكَ عِنْدَهُ فَأَرَادَ اسْتِرْضَاءَهَا فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا صَدَقْتِ يَا ابْنَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ادَّعَيْتِ وَلٰكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهَا فَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيَ مِنْهَا قُوْتَكُمْ وَالصَّانِعِيْنَ بِهَا فَقَالَتْ افْعَلْ فِيْهَا كَمَا كَانَ أَبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِيْهَا فَقَالَ ذٰلِكِ اللّٰهُ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ مَا كَانَ يَفْعَلُ أَبُوْكِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَتَفْعَلَنَّ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ ذٰلِكَ فَقَالَتْ

اللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَرَضِيَتْ بِذٰلِكَ وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ وَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ يُعْطِيْهِمْ مِنْهَا قُوْتَهُمْ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيْ فَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ۔

حاصل اس روایت کا یہ ہے۔ وہ کہ جب ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ان سے کشیدہ خاطر ہو گئیں، اور ان کو چھوڑ بیٹھیں اور پھر فدک کے مقابلہ میں کچھ گفتگو نہ کی، تو یہ بات انہیں دشوار معلوم ہوئی۔ سو ان کے راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کیا۔ کہ اے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تم اپنے دعوے میں سچی ہو، تم کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا ہوگا۔ مگر میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں دیکھا ہے کہ اس کی آمدنی کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور تمہارے کھانے پینے کا خرچ اور محصلوں کی مزدوری دیکر جو کچھ بچتا تھا۔ فقیروں مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اچھا تم بھی وہی کیے جاؤ جس طرح میرے والد بزرگوار سید الابرار محمد مختار صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اس بات پر تم مجھ سے قسم لے لو میں وہی کرتا رہوں گا جو تمہارے والد بزرگوار رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے قسم سے پوچھا۔ کیا تم سچ ہی اس طرح کرو گے؟ صدیق اکبر نے قسم کھا کر عرض کی، ہاں یہی کروں گا۔ جواب ٹھہرا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ نے یوں کہا کہ الٰہی تو گواہ رہیو۔ سو اس بات پر راضی ہو گئیں۔ اور صدیق اکبر سے عہد لے لیا۔ سو صدیق اکبر انہیں اس میں سے ان کے کھانے پینے کا خرچ دیکر باقی کو فقراء اور مساکین اور مسافروں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ (انتہی)،،

بسلسلہ برات صدیق روایت کے چند فائدے اس روایت سے چند فائدے ہوئے ایک تو یہ کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کو دعوے ہبہ میں جھوٹا نہیں سمجھا، پر یوں سمجھ کر کہ ہبہ بے قبض موجب ملک نہیں ہوتا چنانچہ متفق علیہ شیعہ و سنی ہے؛ اور اس کی تحقیق سابقاً گذر چکی ہے، دینے سے عذر کیا۔ سو اگر بالفرض والتقدیر روایت ہبہ صحیح بھی ہو جائے تو شیعوں کا یہ تاسف کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو جھوٹا سمجھا